


یادگارِ دربار

یعنی

تاریخ دربار ہائے تاج پوشی شہنشاہ معظم ایڈورڈ ہفتم

مؤلفہ و مرتبہ

مولوی فیروز الدین صاحب مالک اخبار مشیر ہند

مؤلف یادگارِ وکٹوریہ و یادگارِ سعدی وغیرہ کتب متعدد

جس میں

ملک معظم کی سوانح عمری و دربار ہائے تخت نشینی و تاجپوشی انگلستان و ہندوستان کی مفصل کیفیت معہ مشاہیر گورنمنٹ اور والیان ریاست ہائے ہند کے ضروری حالات و تصاویر کے سب سے پہلے زبان اردو میں بڑی محنت سے جمع کی گئی ہے

مطبوعہ

...ین کی شادی خانہ آبادی

وقت ولادت ....

نام رکھنے کی رسوم ...

فہرست مضامین

یادگار دربار

یعنی

تاریخ دربار تاجپوشی شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم دام اقبالہم

فرمانروائے ہند وانگلینڈ وسلطنت ہائے ماورا البحر

خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ	خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ
دیباچہ		علم تاریخ وسیر کی مقبولیت	۵
حمد الٰہی	۳	سبب تالیف کتاب	۶
نعت مصطفائی	۴	ترتیب کتاب	۸

حصہ اول

شہنشاہ ذیجاہ کے حالات زندگی و تاجپوشی لندن

خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ	خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ
باب اول		ولیعہدی سلطنت کا اعلان	۱۳
ملک معظم شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم کی مختصر سوانح عمری		شہنشاہ کی تعلیم و تربیت	۱۴
فصل اول		گلشن تربیت	۱۵
پیدائیش سے سن بلوغ تک کے حالات		شہنشاہ کی تعلیم پر ایک پمفلٹ کا شیوع	۱۶
		مردانہ وضع اشغال کا شوق	۱۸
خاندان	۹	زباندانی	۱۸
شہنشاہ کے والدین کی شادی خانہ آبادی	۱۰	شہنشاہ کے استاد	۱۸
شہنشاہ کی ولادت باسعادت	۱۱	حافظ حقیقی کی محافظت	۱۹
اصطباغ اور نام رکھنے کی رسوم ...	۱۲		

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
فصل دوم	
شہنشاہ کی بلوغت اور خود مختار زندگی	
شہنشاہ کا زمانہ بلوغت اور آرڈر آف گارٹر کے معزز تمغہ کا اعطا۔	۲۰
ملکہ معظمہ کی ایک ناصحانہ چٹھی۔.....	۲۱
شہنشاہ کی نانی کی وفات......	۲۳
شہنشاہ کی علالت اوّل........	۲۴
شہنشاہ کے والد کی وفات.....	۲۴
فصل سوم	
شہنشاہ کی شادی خانہ آبادی....	۲۶
شاہی اولاد اوّل۔ دوم۔ سوم۔ چہارم۔ پنجم۔ ششم۔........	۲۹ و ۳۰
فصل چہارم	
شہنشاہ کی سیر و سیاحت.......	۳۱
شہنشاہ جرمن کا آپ کو آرڈر آف دی بلیک ایگل کا خطاب و تمغہ عطا فرمانا	۳۲
اٹلی کی سیاحت.........	۳۲
کینیڈا کی سیاحت میں دریائے مانٹریل کے ریلوے پل کا افتتاح اور کینیڈا کی پارلیمنٹ کا بنیادی پتھر رکھنا.........	۳۳
امریکہ کی سیاحت اور واشنگٹن کے مقبرہ کی زیارت........	۳۷
یروشلم (بیت المقدس) کا سفر.......	۴۰
قسطنطنیہ میں ورود.........	۴۲
براعظم یوروپ کی سیاحت اور شہنشاہ نپولین سوم کی مہمانداری........	۴۳
فری میسن لاج کی شمولیت........	۴۴
مصر کی سیاحت.........	۴۴
قسطنطنیہ کی دوبارہ سیر.........	۴۵
رومعنا بحیری کا سفر دوم.......	۴۶
سینٹ پیٹرسبرگ و بلجیم......	۴۷
ہندوستان کا سفر........	۴۷
مہاراجہ صاحب کشمیر کی مہمانداری	۵۲
دریائے چناب کے پل کا افتتاح	۵۳
مراجعت انگلستان.........	۵۵

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
جرمنی پیرس اور آئرلینڈ کے اسفار	۵۵ و ۵۶
فصل پنجم	
شہنشاہ کے اشغال و خصائل	
تقسیم اوقات..........	۵۸
شکار کا شوق..........	۶۰
شہنشاہ کو بائسکل کی سواری مرغوب ہے	۶۰
تربیت اولاد.........	۶۱
غریبوں کی امداد و دلدہی کی مثالیں۔	۶۱
لطائف.........	۶۲
اخبارات و کتب کے شوق......	۶۳
شہنشاہ فیشن کے موجد ہیں....	۶۳
باموقع ظرافت.......	۶۴
بے نمایش پھرنے کی عادت....	۶۵
تجارت کی نسبت شاہی خیالات	۶۵
گھوڑوں کشتیوں کی دوڑ سے دلچسپی	۶۶
شہنشاہ کی طویل ولیعہدی......	۶۶
شہنشاہ کی آواز.........	۶۶
شہنشاہ کی تقریروں کا ڈھنگ...	۶۷
چٹھیات کا کاغذ..........	۶۷
دستخط..........	۶۷
قدامت پسندی........	۶۷
اتوار منانے کا شوق......	۶۷
فصل ششم	
شہنشاہ کے بڑے بڑے واقعات زندگی	
آپ کی ولیعہدی کی نقرئی و طلائی جوبلی اور شادی کی نقرئی جوبلی۔	۶۸
وجع المفاصل کی بیماری و شفایابی۔	۶۸
شہزادی لوئسا کی شادی اور پرنس الگزنڈر کی وفات کے بعد آپ کا سیر و سفر میں جانا اور تپ محرقہ میں مبتلا ہونا	۶۹
شہنشاہ کی صحت پر شکرانہ الہٰی کا اہتمام..........	۷۱
اٹلی کا سفر..........	۷۲
انگلستان میں شاہِ کجکلاہِ ایران کی آمد اور شہنشاہ کی میزبانی......	۷۲
وائنا کی عالمگیر نمائش میں شہنشاہ کا پریذیڈنٹ ہونا اور اس کی کامیابی......	۷۲

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
شہنشاہ روس کا انگلستان میں آنا اور شہنشاہ کی مہمانداری	۷۳
رائل کونیل انسٹیٹیوٹ کی پریزیڈنٹی اور مختلف مدرسوں- شفاخانوں ہسپتالوں کا افتتاح	۷۳
صنعتی نمایش کا افتتاح	۷۳
رائل کالج آف میوزک کا قیام	۷۴
پرنس وکٹر کی تعلیم	۷۴
رائل کمیشن کی ممبری	۷۴
شاہی جاگیرات میں غربا کے مکانات کا انتظام	۷۵
پرنس البرٹ وکٹر کا انتقال پُرملال	۷۵
بیرن فرڈی نینڈ روتھ شیلڈ کی دعوت میں آپ کا تشریف لیجانا-	۷۶
شاہی کلب کی بنیاد	۷۶
آپ کا باضابطہ شہنشاہ ہونا اور چند بڑے بڑے کام	۷۷ تا ۷۸
باب دوم	
شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم کی تخت نشینی و تاجپوشی انگلستان	
فصل اوّل	
مراسم و لوازم جانشینی پر سرسری نظر	
مراسم جانشینی کی قدامت	۷۹
انگلستان کی مراسم تخت نشینی و تاجپوشی	۸۰
حلف کا التزام	۸۲
تخت (کیا چیز ہے)	۸۳
تخت جلوس شاہی	۸۴
کرسی امتیاز	۸۵
کرسی لطانیہ	۸۵ و ۸۶
تاجپوشی کی کرسی جس میں خوش نصیبی کا پتھر نصب ہے	۸۶
نقل فرمان ایڈورڈ سوم	۸۷
تاج (کیا چیز ہے)	۸۹
شاہان انگلستان کے تاج-	۹۰
شاہان یورپ کے بعض مشہور تاج	۹۲

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
ملک معظم ایڈورڈ ہفتم کے خاص تاج کا تذکرہ	۹۳
ملکہ الگزنڈرا کا تاج	۹۴
پرنس آف ویلز کا تاج	۹۶
مختلف تاج	۹۶
فصل دوم	
ملک معظم کی تخت نشینی	
ملکہ معظمہ کی موت	۹۷
شہنشاہ کی باضابطہ جانشینی	۹۸
اعلان منجانب عمائد دینی و دنیوی	۹۹
شہنشاہ کے ہم نام شاہان سابق کا مختصر تذکرہ	حاشیہ ۹۹
ملک معظم کی پہلی تقریر جس میں تبدیل نام کا اعلان کیا گیا ہے	۱۰۱
حلف شاہی	۱۰۲
پارلیمنٹ میں اطلاع	۱۰۳
اصلاح دعا	۱۰۳
پیام شاہی	۱۰۴
افتتاح پارلیمنٹ	۱۰۵
شاہی تقریر	۱۰۵
شاہی گاڑی	۱۰۷
حلف شاہی میں عشائے ربانی کے وقت مقررہ فقرات کی نسبت فرقہ رومن کیتھلک کی طرف سے اصلاح کی عرضداشت	۱۰۷
اقتدار (شاہی)	۱۱۰
اختیار (شاہی)	۱۱۱
ملک معظم کا سالانہ وظیفہ	۱۱۲
شاہی القاب و خطاب	۱۱۵
شہزادہ ولیعہد بہادر کے القاب و خطاب	۱۱۷
سکہ جات سلطنت	۱۱۸
فصل سوم	
تاجپوشی شاہی کی طیاریاں	
تخت نشینی سے تاجپوشی کا فاصلہ	۱۱۹
تاریخ تاجپوشی کا تعین	۱۲۰
اخراجات تاجپوشی	۱۲۰
باضابطہ تجاویز- روشنی- آتشبازی	

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
جلوس - فوجی ریویو	۱۲۱
مہمانان تاجپوشی ہند کے اسماء مع ان کے ہمراہیوں اور جائے قیام وغیرہ کے	۱۲۲
ہندی فوج	۱۲۶
نوآبادیوں کی فوج	۱۲۸
لنڈن کی آرائش وزیبائش وطیاریاں	۱۲۹
مہمانان تاجپوشی کا ورود	۱۳۰
مہاراجہ صاحب میسور کا خاص اہتمام	۱۳۱
ودیگر والیان ریاست اور ہندی قائم مقامان کی مہمانی	۱۳۱
ہزہائینس سر سلطان آغا خان	۱۳۲
ہندی مہمانوں کی مشغولیت پر سرڈیسے ٹریور کے خیالات	۱۳۳
کیمبرج یونیورسٹی کی ڈگریاں	۱۳۳
ملک معظم کی سالگرہ	۱۳۴
مہاراجہ اندر کو خطاب	۱۳۴
آخری نقلی جلوس	۱۳۴
چرچ پریڈ	۱۳۴
لارڈ انسلو کی دعوت	۱۳۵
رائل ایشیاٹک سوسائٹی کی دعوت	۱۳۵
ڈیوک اوف کناٹ کی تقریر ..	۱۳۶
مہاراجہ گوالیار کی تقریر	۱۳۷
لارڈ رابرٹس کی تقریر	۱۳۹
ونچسٹر کی دعوت	۱۴۰
متعدد دعوتیں	۱۴۱
لطیفہ	۱۴۲
ہندی فوج کا قیام لنڈن اور تماشائیوں کا ہجوم	۱۴۲
لطیفہ	۱۴۵
ڈیوک اوف کناٹ کا معائنہ فوجی -	۱۴۵
لارڈ رابرٹس کا ملاحظہ	۱۴۶
بیرن ہیاشی کی تشریف آوری -	۱۴۶
امتحان روشنی	۱۴۷
فلہم پیلس کی رہائش فوج	۱۴۷
فصل چہارم	
ناگہانی بیماری کے باعث التوا و پیشتر ملک معظم کی بیماری	۱۴۸
عمل جراحی	۱۵۰
ہندی امرا ورؤسا وافواج کی دعاگوئی	۱۵۰
ہندی فوج اور شہنشاہ کی علالت	۱۵۲
افسران فوج کی وزیر ہند سے ملاقات	۱۵۳
ہندی فوج کی بحری سیر	۱۵۳
مجوزہ پروگرام کی تکمیل ...	۱۵۴
فہرست اعزازیافتگان تاجپوشی لنڈن	۱۵۴
ہندوستانی فہرست خطابات	۱۵۵
جی سی آئی ای	۱۵۵
کے سی - ایس - آئی	۱۵۵
سی - ایس - آئی	۱۵۵
کے - سی - آئی - ای	۱۵۵
اعزازی کے - سی - آئی - ای -	۱۵۵
سی - آئی ای -	۱۵۶
مہامہوپدھیایا	۱۵۶
دیوان بہادر	۱۵۶
خان بہادر	۱۵۶
راؤ بہادر	۱۵۷
رائے بہادر	۱۵۷
خان صاحب	۱۵۷
راؤ صاحب	۱۵۷
رائے صاحب	۱۵۸
سردار	۱۵۸
برہما کا خطاب درجہ اوّل	۱۵۸
برہما کا خطاب درجہ دوم	۱۵۸
برہما کا خطاب درجہ سوم	۱۵۸
تمغہ قیصر ہند درجہ اوّل	۱۵۸
تمغہ قیصر ہند درجہ دوم	۱۵۹
۳۰ جون کی روشنی	۱۵۹
کالونیل کنٹنجنٹ کا ریویو ...	۱۶۰
ہندی فوج کا ریویو	۱۶۱
لارڈ لینسڈون کی دعوت	۱۶۲
پرنس آف ویلز بہادر کا دربار لیوی	۱۶۲
لارڈ جارج ہملٹن کی چٹھی کرنل سنکلیر کمانڈنگ فوج ہند کے نام	۱۶۵
مسٹر آرتھر بگ پرائیویٹ سکریٹری پرنس اوف ویلز کی [illegible] لارڈ جارج ہملٹن کے نام	۱۶۵

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
شاہی دعوت	۱۶۶
ملک معظم کی صحت	۱۶۷
وائسرائے ہند کی تار بحضور ملک معظم	۱۶۸
شہنشاہ کا جواب بر سوبہ وائسرائے ہند	۱۶۸
پرنس اوف ویلز کی ملاقات -	۱۶۸
مہمانانِ تاجپوشی کی دعوت -	۱۶۸
لنڈن کارپوریشن کی دعوت -	۱۶۹
مہمانانِ تاجپوشی کا سیر و سیاحت کو جانا	۱۶۹

فصل پنجم
جشن تاجپوشی کی تکمیل

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
دوبارہ تیاریاں	۱۷۰
تغیراتِ زمانہ	۱۷۱
شاہ عالم پناہ کی مراجعتِ لنڈن	۱۷۲
نواب وزیر ہند کا دربار	۱۷۳
ایبی کی وجہ تسمیہ	۱۷۴
گیلڈی کا طریق	۱۷۵
ایبی کا بیرونی نظارہ	۱۸۰
پرنس اوف ویلز بہادر کا یتیم اور غریب لڑکے لڑکیوں کو مدعو فرمانا -	۱۸۱
تماشائیانِ جلوس کا اژدہام اور سرکاری انتظام	۱۸۱
شاہی باجوں کا مختلف مقاماتِ لنڈن میں تعین	۱۸۲

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
درباریوں کی سواریاں	۱۸۳
ممبرانِ خاندان شاہی کی سواری -	۱۸۳
شہزادہ ولیعہد کی سواری	۱۸۳
شاہ عالم پناہ کی سواری	۱۸۵
تاجپوشی کا نظارہ	۱۸۷
تاجپوشی کے مراسم و لوازم و مناظر	۱۸۷
پہلے دوسرے - تیسرے	۱۸۸
چوتھے پانچویں - چھٹے - ساتویں - آٹھویں	۱۹۱
نویں	۱۹۲
دسویں - گیارھویں	۱۹۳
بارھویں - تیرھویں	۱۹۴
چودھویں - پندرھویں - سولھویں -	۱۹۵
سترھویں - اٹھارھویں	۱۹۷
انیسویں	۱۹۸
شہنشاہ کا مراجعتی جلوس	۱۹۹
ہندوستان کیطرف سے اظہارِ وفاداری	۲۰۰
شاہی چہرے کے ٹکٹ	۲۰۱
روشنی کی بہار	۲۰۱
پیامِ شاہی	۲۰۲
بوئیر جنرلوں کو اعزازِ نیاز	۲۰۲
قصرِ آسبورن کا قوم کو عطا ہونا -	۲۰۳
سترہ لاکھ کا تحفہ	۲۰۳
نئی وزارت کا تقرر	۲۰۴
ہندی فوج کا سلام شاہی	۲۰۵
ملکہ متوفیہ کی یادگار	۲۰۶
بحری ریویو	۲۰۶

حصۂ دوم
دربار تاجپوشی ہندوستان

باب اوّل
دربار ہند کی اہمیت اور ابتدائی تجاویز
فصل اوّل
تمہیدی کارروائیاں

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
ہندوستان میں انعقادِ دربار کیغرض [illegible]	۲۰۹
دربار کے لئے دہلی کا انتخاب	۲۱۵
تاریخ دربار کا تقرر	۲۱۶
دربار کمیٹی کے ارکان	۲۱۷
دربار کا اعلان	۲۱۸
دربار کا خاکہ	۲۲۰

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
دربار ہال کی جگہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۰
حضور وائسرائے کا دائرہ دولت ۔	۲۲۰
والیانِ ریاست کے کیمپ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۰
امرائے ہند کا انتظام قیام اور مہمانوں کے اقسام ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۱
ڈاک خانوں اور تارگھروں کا انتظام	۲۲۲
سواریوں کا انتظام ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۲
ریلوے (انتظام) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۳
لائیٹ دربار ریلوے ۔ سامان خورد و نوش ۔	۲۲۴
درباری تقریبات کی تقسیم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۴
جلوس سواری شاہانہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۴
روشنی و آتشبازی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۵
فوجی ریویو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۵
امپیریل سروس ٹروپس ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۵
دیسی رئیسوں کے جلوس اور دل کا دستہ	۲۲۵
ستارہ ہند کے بال اور دربار ۔	۲۲۵
پولو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۶
نمائش صنعت و حرفت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۶
کمیٹی تشخیص کے ارکان ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۷
کمیٹی انعامی کے ارکان ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۷
عام درباروں کا انعقاد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۲۸
رزولیوشن گورنمنٹ ہند صیغہ ہوم	۲۲۸
نمونہ فارم سرٹیفکیٹ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۳۳
اخراجات دربار کا تخمینہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۳۳
تقریر حضور وائسرائے جس میں کل اعتراضوں کا جواب ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۳۴

فصل دوم

ملیٹاری دربار

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
مہمانانِ دربار کو بلاوا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۱
بہادرانِ غدر کی یاد فرمائی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۲
اینگلو انڈین اخبارات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۲
جاگیردار ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۳
دربار لائیٹ ریلوے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۴
عام انتظامات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۴
مشقی جلوس ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۴
آفیشیل ڈائرکٹری ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۵
عارضی ہسپتال ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۶
گورے سپاہیوں کو داخلہ شہر کی ممانعت	۲۵۶
پولیس ایکٹ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۵۶
دہلی کی رونق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۶۵
تجارتی سامان ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۶۵
مسافروں کی آمد آمد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۶۶
کرایہ مکانات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۶۶
والیانِ ریاست کی ملاقات بازدید کا فیصلہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۶۸

فصل سوم

درباری عارضی شہر کا نظارہ

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
عمارات متعلقہ دربار ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۶۹
سنٹرل کیمپ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۶۹
کیمپ حضور وائسرائے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۷۰
ڈیوک آف کناٹ کا کیمپ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۷۰
لارڈ کچنر کا کیمپ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۷۱
لفٹننٹ گورنر پنجاب کا کیمپ ۔ ۔ ۔	۲۷۱
مدراس کیمپ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۷۲
لفٹننٹ گورنر برہما کا کیمپ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۷۳
چھڑکاؤ اور صفائی کا انتظام ۔ ۔ ۔	۲۷۳
روشنی کا انتظام ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۷۳
شدتِ سرما کی شکایت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۷۳
ایک نجومی کی پیشین گوئی کی تکذیب	۲۷۴
دربار ہال کی کیفیت ۔ ۔ ۔ ۔	۲۷۵
نمائش گاہ کی عمارت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۸۱
والیانِ ریاست کے کیمپ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	۲۸۲
حضور نظام خلد اللہ ملکہ کا کیمپ ۔	۲۸۳
مہاراجہ صاحب بڑودہ کا کیمپ ۔	۲۸۴
مہاراجہ صاحب کشمیر کا کیمپ ۔	۲۸۵
نواب صاحب بہاولپور کا کیمپ ۔	۲۸۶
ریاستہائے بھلکیاں کے کیمپ ۔	۲۸۷
روساے راجپوتانہ و سنٹرل انڈیا کے کیمپ	۲۸۷

باب دوم

تقریبات دربار

فصل اول

داخلہ شاہی اور جلوس سواری

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
جلوس دیکھنے کا سرکاری انتظام	۲۸۹

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
عام تماشائیوں کا انتظام نظارہ۔	۲۹۰
شرح ٹکٹ و شائقین کا اژدہام۔	۲۹۱
شہر کی آرائش	۲۹۲
حضور وائسرائے کا داخلہ دہلی میں	۲۹۴
والیان ریاست و حکام اور عمائدین اعلےٰ کا استقبال کرنا	۲۹۵
وائسرائے صاحب کی اسپیشل ٹرین کی آمد	۲۹۶
ڈیوک آف کناٹ کی اسپیشل ٹرین کی آمد	۲۹۶
اسٹیشن سے روانگی	۲۹۷
جامع مسجد سے جلوس سواری کا نظارہ	۲۹۸
ترتیب جلوس	۲۹۹

فصل دوم

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
افتتاح نمائش صنعت و حرفت	
افتتاحی جلسہ کی کیفیت	۳۰۸
حضور وائسرائے کی تشریف آوری	۳۱۰
حضور وائسرائے کی افتتاحی تقریر	۳۱۲
حضور وائسرائے کی سیر نمائش۔	۳۱۸
اشیاء نمائش کی ترتیب	۳۱۹
والیان ریاست کی طرف سے امداد نمائش	۳۲۱
نمائش گاہ کے ڈویژنوں اور کلاسوں کا ذکر	۳۲۲
نمائش گاہ کے تمغے	۳۲۳
طلائی تمغہ جات کی تقسیم	۳۲۴
نقرئی اور برنجی تمغے اور سارٹیفکیٹوں کی تفصیل دھات کی اشیاء کے سلسلہ میں	۳۲۵
قلعی دار و رنگین لاکھی اشیاء کے سلسلہ میں۔	۳۲۵
مجموعہ بدری اشیاء کے لئے	۳۲۵
مینا کار کے سلسلہ میں	۳۲۵
نقرئی و مینا کاری کے لئے ...	۳۲۵
مسی و برنجی مینا کے لئے	۳۲۵
ظروف طلائی و نقرئی	۳۲۶
کوفت گری و پچی کاری	۳۲۶
اشیاء بدر و پچی کاری کی اشیاء	۳۲۶
برنجی اشیاء	۳۲۶
نیپالی و کشمیری برنجی اشیاء	۳۲۷
عماری	۳۲۷

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
حکاکی	۳۲۷
ظروف گلی	۳۲۷
ظروف شیشہ و گلی پر پچی کاری۔	۳۲۸
پلاسٹر آف پیرس اور سیمنٹ کے کام۔	۳۲۸
چوبی منبت کاری و پچی کاری۔	۳۲۸
چوب صندل اور منبت کاری۔	۳۲۸
منبت کاری باریک لکڑی کے ٹکڑوں پر	۳۲۹
چوبی رنگین اشیاء اور پیپر ماشی	۳۲۹
چوبی کام کے نمونے کھلونے وغیرہ	۳۲۹

فصل سوم

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
دربار تاجپوشی شہنشاہ معظم نوروز سن عیسوی عید الفطر اور دربار کا اجتماع	۳۳۰
درباریوں کی تیاریاں	۳۳۱
گارڈیوں کا انتظام	۳۳۲
دربار لائٹ ریلوے کا انتظام ...	۳۳۲
درباریوں کا ورود	۳۳۲
نشست کی ترتیب	۳۳۳
والیان ریاست کی پیشکشیں۔	۳۳۴
دربار کا مقررہ وقت اور اس میں تعینہ	۳۳۶
فوج کی صف بستگی	۳۳۶
ڈیوک آف کناٹ کی آمد	۳۳۶
حضور وائسرائے کی تشریف آوری معہ تفصیل جلوس	۳۳۷
افتتاح دربار اور کیپٹن سیکول کا اعلان شاہی پڑھ کر سنانا	۳۳۸
اعلان پڑھے جانے کے بعد کی کارروائی اور تقریر حضور وائسرائے	۳۳۹
پیغام شاہی کے لئے اردو کا انتخاب	۳۴۰
تقریر حضور وائسرائے	۳۴۱
ملک معظم کا پیغام	۳۴۵
بقیہ تقریر حضور وائسرائے	۳۴۸
والیان ریاست کا اظہار اطاعت اور حضور نظام کا پیغام وفاداری	۳۵۲
دوسرے رؤساء اور سرداران سرحد کا سلام و پیام	۳۵۳
برخاستگی دربار	۳۵۴

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
فصل چہارم	
سرکاری دعوت	
جلسۂ دعوت کا انتظام	۳۵۵
تقریر حضور وائسرائے بہادر۔	۳۵۶
حضور وائسرائے کی تقریر ڈیوک صاحب کے جام صحت کی تحریک میں۔	۳۵۹
تقریر ڈیوک آف کیناٹ بہادر	۳۶۱
فصل پنجم	
اعزازی جشن تاجپوشی	
القاب سلامی میں اضافہ	
آرڈر آف دی باتھ	۳۶۴
(سٹار آف انڈیا)	
جی۔ سی۔ ایس۔ آئی	۳۶۴
کے سی۔ ایس۔ آئی	۳۶۵
سی۔ ایس۔ آئی	۳۶۵
(انڈین ایمپائر)	
جی۔ سی۔ آئی۔ ای	۳۶۶
کے سی۔ آئی۔ ای	۳۶۶
سی۔ آئی۔ ای	۳۶۷
نایٹ ہڈ	۳۶۹
تمغۂ قیصر ہند درجہ اول	۳۷۰
تمغۂ قیصر ہند درجہ دویم	۳۷۰
مہاراج دھیراج	۳۷۱
مہاراجہ	۳۷۱
مہارانی	۳۷۱
نواب بہادر	۳۷۱
راجہ	۳۷۱
نواب	۳۷۲
نواب بیگم	۳۷۲
شمس العلماء	۳۷۲
مہامہو پادھیا	۳۷۲
دیوان بہادر	۳۷۲
سردار بہادر	۳۷۲
دیوان بہادر	۳۷۲
دیوان	۳۷۲
خان بہادر	۳۷۲

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
راؤ بہادر	۳۷۳
رائے بہادر	۳۷۴
خان صاحب	۳۷۴
رائے صاحب	۳۷۵
جاگیرات حین حیات	۳۷۶
فوجی اعزاز وانعام	۳۷۶
دربار کے دن قیدیوں کی رہائی۔	۳۸۰
فصل ششم	
دیسی رؤسا اور امراء کی گارڈن پارٹی اور انتظام جلسہ	۳۸۲
حضور وائسرائے اور ڈیوک صاحب کی ملاقات میں امرائے ہند کا پیش ہونا	۳۸۳
فصل ہفتم	
روشنی و آتشبازی دہلی میں	
برقی روشنی اور ولایتی آتشبازی کی فضیلت کی وجوہات	۳۸۵
درباریوں کا انتظام نشست	۳۸۶
فہرست آتشبازی	۳۸۷
فصل ہشتم	
بہادران غدر کی دعوت و ملاقات	
دعوت	۳۹۵
ملاقات	۳۹۶
اڈریس	۳۹۷
وائسرائے کا جواب	۳۹۷
کرنل میکنزی کا شکریہ	۳۹۸
وائسرائے و ڈیوک صاحب کی مہربانی۔	۳۹۸
فصل نہم	
اخبارات اور گورنمنٹ	
ہندوستانی اخبارات پر گورنمنٹ کو توجہ کرنا ضروری تھا	۳۹۹
انتخاب اخبارات بر دیسی پریس کا اعزاز	

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
اور اُس کا جواب	۳۹۹
دیسی پریس کے کیمپ میں حضور وائسرائے کی تشریف آوری	۴۰۰
دیسی پریس کا ایڈریس	۴۰۰
حضور وائسرائے کا جواب	۴۰۱
اخبارات سے حضور وائسرائے کی واقفیت	۴۰۲
انگریزی کیمپ میں حضور وائسرائے کی تشریف بری	۴۰۳
دیسی اخبارات کے ایڈریس پر ریمارک	۴۰۳

فصل دہم

دربار عطائے تمغہ جات

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
انتظام دربار	۴۰۴
ترتیب نشست اور قلعہ کی آرائش۔	۴۰۵
مہمانوں اور حضور وائسرائے کی تشریف آوری اور ترتیب جلوس۔	۴۰۷
تمغہ جات ستارہ ہند کا اعطا	۴۰۹
حضور وائسرائے ڈیوک صاحب کا تبدیل لباس کو جانا	۴۰۹
ترتیب جلوس	۴۰۹
حضور وائسرائے اور ڈیوک صاحب کا آرڈر آف انڈیا کی خلعت و نشانات پہن کر آنا۔	۴۱۰
تمغہ جات انڈین ایمپائر کا اعطاء۔	۴۱۰
جلسہ کا اختتام اور ممبران درجہ خطابی کے اسماء	۴۱۱
صاحبانِ سی آئی ای	۴۱۲
صاحبانِ سی ایس آئی	۴۱۴
صاحبانِ کے سی آئی ای	۴۱۵
صاحبانِ کے سی ایس آئی	۴۱۵
صاحبانِ جی سی آئی ای	۴۱۶
صاحبانِ جی سی ایس آئی	۴۱۶

فصل یازدہم

نماز و دعا

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
انتظام جلسہ	۴۱۷

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
مشہور پادریوں کی موجودگی اور پادری ڈاکٹر کاپلسٹن بشپ آف کلکتہ کا نماز پڑھانا	۴۱۸
ہندوستانی رؤسا اور شہزادوں کے لئے دعا	۴۱۹
اختتام جلسہ	۴۱۹
ہز ہائنس حضور نظام کی طرف سے گارڈن پارٹی	۴۲۰
والیانِ ریاست کی باہمی ملاقاتیں	۴۲۱

فصل دوازدہم

سٹیٹ بال (شاہی جلسۂ رقص اور دعوت)

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
اہتمام جلسہ	۴۲۲
شائقین کی شاندار ی	۴۲۳
وائسرائے اور ڈیوک صاحب کی تشریف آوری	۴۲۳
لیڈی کرزن۔ ڈچز آف کیناٹ ڈچز آف البرد کا تکلف	۴۲۳
شاہی رقص جو کہ ڈی اید وو سے معزز رقصی جوڑوں کی تفصیل	۴۲۴
حضور وائسرائے کی تشریف بری	۴۲۵

فصل سیزدہم

والیانِ ریاستہائے ہند کے جلوسوں کا علیحدہ

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
انتظام جلسہ	۴۲۶
مہمانوں اور حضور وائسرائے کی تشریف آوری	۴۲۷
دیسی ریاستوں کے جلوس کی کیفیت	۴۲۸

فصل چہاردہم

فوجی ورزشیں اور ریویو

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
فوجی فنون کی نمایش کیضرورت	۴۳۳
۳ جنوری کے فوجی کرتبوں کا ذکر۔	۴۳۳
۵ جنوری کی فوجی ورزش کی کیفیت	۴۳۴
گریٹ ریویو یا عالیہ فوجی تماشاہی۔	۴۳۴
عالیہ کی طیاریاں اور فوجی نظارہ۔	۴۳۵

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
ہزایکسیلنسی کمینڈر انچیف کا کمان کو اپنے دست خاص میں لینا۔	۴۳۶
حضور وائسرائے اور ڈیوک آف کناٹ کی تشریف آوری	۴۳۶
ہزایکسیلنسی کمینڈر انچیف کا معہ سٹاف فوجی سلام ادا کرنا۔	۴۳۷
ایسی توپخانہ کی بیٹریوں اور مختلف فوج سواران کی حاضری	۴۳۸
مہاراجہ جودھپور۔ مہاراجہ الور مہاراجہ گوالیار۔ مہاراجہ پٹیالہ کا اپنی افواج کی کمان کرنا۔ ...	۴۳۹
توپخانہ شاہی کی حاضری	۴۳۹
والنٹیروں کے دستوں کی حاضری	۴۴۰
مونٹڈ رائفلز اور بیکانیر کے شتر سواران کی حاضری مہاراجہ کی کمان میں	۴۴۱
فوج پیادگان	۴۴۱
امپیریل سروس افواج کی حاضری جس میں راجہ نابھہ اپنی فوج کی خود کمان کرتے تھے	۴۴۲
توپخانہ معہ سواران کی حاضری	۴۴۲
افواج پریڈ کی صحیح تعداد اور تفصیل	۴۴۳
خاتمہ ریویو	۴۴۴

فصل پانزدہم

رخصتانہ پارٹیاں

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
راجپوت ایٹ ہوم	۴۴۵
ٹیموں کو عطائے انعامات	۴۴۶
ایوننگ پارٹی	۴۴۷

فصل شانزدہم

اختتام دربار و شاہی روانگی

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
درباری خدمات کا شکریہ	۴۵۰
فوجی معائنہ پر اظہار پسندیدگی۔	۴۵۱
شاہی روانگی	۴۵۱
جشن کی کیفیت شایعت ...	۴۵۲
والیان ریاست و رؤسا و شمائیت کی رخصتگی	۴۵۳

فصل ہفدہم

قلمرو ہند کا عالمگیر جشن مسرت

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
ہر ایک ضلع۔ تحصیل اور قصبہ میں انعقاد جلسہ کا اہتمام	۴۵۴
جلسوں کے لئے روپیہ کی فراہمی اور مصارف	۴۵۵
میونسپلٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں کی مفصل کیفیت دینے کا منشاء اور اس میں ناکامی	۴۵۵
ملکی جلسوں کے محاصل و مصارف کی عمدگی	۴۵۶
دیسی ریاستوں کے جلسے	۴۵۷
کلکتہ کا جشن تاجپوشی	۴۵۸
قصائد تہنیت	۴۵۹
ترکیب بند در تہنیت جلوس از چودھری خوشی محمد صاحب۔	۴۶۰

فصل ہژدہم

نتائج دربار

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
تخمینہ اخراجات	۴۶۴
شائقین دربار کے اخراجات۔	۴۶۵
رعایا کے اخراجات	۴۶۶
نمائش کے نتائج	۴۶۷
ایک انگریزی کارخانہ کا لارڈ کرزن پر اعتراض اور ایک شاعر کا جواب۔	۴۶۸
فوجی اخراجات	۴۶۹
بحیثیت مجموعی دربار کا کامیاب ہونا	۴۶۹
شائقین دربار کا بخوشی شمول	۴۷۰
درباری تشغل کی تجویز	۴۷۱
والیان ریاست کی معافی سود کا ان کے اخراجات سے تعلق	۴۷۱
رعایا کے حق میں دربار کے اعلٰے نتائج	۴۷۲
فوجی اعزاز و انعام	۴۷۳
یادگار دربار میں ایک خاص انعام کی درخواست	۴۷۳
تقریر حضور وائسرائے	۴۷۴
انکم ٹیکس میں تخفیف	۴۷۴

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
نمک اور انکم ٹکس ...	۴۷۵
ہندوستان کی زندگی ...	۴۷۷
دربار کے بعد ٹکس کے اعلان کی وجوہات	۴۷۹
دربار دہلی ...	۴۸۰
صنعتی نمایش ...	۴۸۴

فصل نوزدہم

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
دربار تاجپوشی سنہ ۱۹۰۳ء اور دربار قیصری سنہ ۱۸۷۷ء پر ایک سرسری نظر	۴۸۵

فصل بستم

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
دربار انگلستان اور ہندوستان پر ایک سرسری نظر ...	۴۸۹

باب سوم

مشاہیر دربار

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
تمہیدی مضمون ...	۴۹۳
کتاب ہذا کی تصاویر کا اہتمام ...	۴۹۶

فصل اول

حکام عظام گورنمنٹ انگریزی جو سنٹرل کیمپ میں تشریف فرما تھے

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
الف - لارڈ کرزن بہادر کی سوانح عمری	۴۹۹
ب - لیڈی کرزن کے مختصر حالات	۵۰۴
ج - ڈیوک آف کناٹ کے مختصر حالات	۵۰۵
د - ڈچس آف کناٹ کے مختصر حالات	۵۰۶
ہ - لارڈ کچنر کے مختصر حالات -	۵۰۷
و - لفٹنٹ گورنر پنجاب کے مختصر حالات	۵۰۸
(الف) مسٹر ڈلیوبیل صاحب کا ضروری تذکرہ	۵۰۸
(ب) کمشنر صاحب لاہور کا ضروری تذکرہ	۵۰۸
(ج) صاحب ڈپٹی کمشنر لاہور کا ضروری تذکرہ	۵۰۸
ز - فہرست حکام اعلےٰ جنگی و ملکی	۵۰۹
ح - فہرست انڈین گورنمنٹ کو جن میں مندرجہ ذیل سات صاحبوں کے حالات ضروری بھی درج ہیں	۵۱۱
۱ - مہاراجہ صاحب بہادر اندور ...	۵۱۳
۲ و ۳ - مہاراجہ صاحب جودھپور و کشن گڑھ	۵۱۴
۴ - مہاراج رانا صاحب دھول پور	۵۱۵
۵ - مہاراجہ صاحب بہادر رتلام	"
۶ - نواب صاحب بہادر جاورہ	"
۷ - نواب محمد ولی الدین خان بہادر خلف میر نواب وقار الامراء بہادر مرحوم ...	۵۱۶
ط - فہرست تمام مقامات نو آبادی ہا و ڈیپوٹیشن ہائے دول غیر ...	۵۱۷
ی - فہرست افواج سرکاری جو دربار پر حاضر تھیں ...	۵۲۰
ک - فہرست بہادران غدر سنہ ۱۸۵۷ء	
۱ - یوروپین و یوریشین بہادران	۵۲۳
۲ - دیسی بہادران ...	۵۲۵

فصل دوم

فرمانروا و امرائے سلطنت آصفیہ کے مختصر حالات

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
الف - ہز ہائنس حضور نظام کے حالات	۵۳۲
ب - شہزادہ ولیعہد بہادر "	۵۴۰
ج - مہاراجہ سر کشن پرشاد بہادر مدار المہام کے حالات ...	۵۴۱
د - نواب فخر الملک بہادر ...	۵۴۲
ہ - نواب افسر الدولہ بہادر ...	۵۴۳
و - مسٹر فریدون جی بہادر ...	۵۴۴
ز - مہاراج آصف نواز ونت بہادر	۵۴۵
ح - مہاراج رائے رایان بہادر	۵۴۶
ط - نواب عماد الملک بہادر	۵۴۷
ی - نواب خانخانان بہادر	۵۴۸
ک - فہرست درباریان دکن جو ہمرکاب حضور تھے ...	الف
ل - درباریان برار کیمپ ...	ب

فصل سوم

فرمانروا و امرائے کشمیر کے مختصر حالات

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
الف - ہز ہائنس مہاراجہ صاحب کشمیر کے مختصر حالات	۵۴۹
ب - جنرل سر راجہ امر سنگھ صاحب "	۵۵۲
ج - راجہ بلدیو سنگھ صاحب والی پونچھ "	۵۵۳

خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ
د - مشیر مال کشمیر کے مختصر حالات -	۵۵۴
ہ - جوڈیشل ممبر کشمیر 〃	۵۵۵
و - پرائیوٹ سکرٹری 〃	۵۵۶
ز - درباریان موجودہ دربار کی فہرست	۵۵۷

فصل چہارم

رؤسا و امرائے ممالک متحدہ آگرہ و اودھ

خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ
الف - ہز ہائینس نواب صاحب رامپور کی مختصر حالات	۵۵۸
و - ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بنارس 〃	۵۵۹
ز - ہز ہائینس راجہ صاحب ٹیہری گڑھوال 〃	〃
ب - راجہ صاحب محمود آباد 〃	۵۶۰
ج - راجہ صاحب اجودھیا 〃	〃
د - مہاراجہ صاحب بلرامپور 〃	۵۶۱
ہ - راجہ صاحب پرتاب گڑھ 〃	〃
ح - ٹھاکر صاحب سرورڑہ 〃	۵۶۲
ط - تعلقدار معز الدین پور 〃	۵۶۳
ی - راجہ محمد کاظم حسین خان صاحب والی بھیرہ کے حالات	۵۶۴ 〃
ک - تعلقہ داران آگرہ و اودھ کی فہرست	۵۶۵

فصل پنجم

خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ
رؤسا و امرائے آسام	۵۶۹
افسران متعینہ آسام کیمپ	〃

فصل ششم

رؤسا و امرائے بلوچستان

خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ
الف - جام صاحب لس بیلہ	۵۷۰
ب - خان صاحب قلات	〃
ج - بلوچی سرداران	۵۷۱
د - افسران متعینہ کیمپ	۵۷۲

فصل ہفتم

رؤسا و امرائے علاقہ بمبئی

خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ
الف - ہز ہائینس گائیکواڑ بڑودہ کی مختصر حالات	۵۷۳
ب - سر سلطان آغا خان بالقابہ 〃	۵۷۴
ج - راجہ صاحب بانسدہ 〃	۵۷۵
د - ٹھاکر صاحب پالیتانہ کی مختصر حالات	۵۷۵
ہ - ٹھاکر صاحب بھاونگر 〃	〃
و - پینٹ سکو صاحب بہور 〃	۵۷۶
ز - رانا صاحب پوربندر 〃	〃
ح - راجہ صاحب بڑیہ 〃	〃
ط - نواب صاحب جوناگڈھ 〃	۵۷۷
ی - نواب صاحب جنجیرہ 〃	〃
ک - امیر صاحب ڈیتھالی 〃	〃
ل - نواب صاحب سچین 〃	۵۷۸
م - راؤ صاحب کچھ 〃	〃
ن - مہاراجہ صاحب کولاپور 〃	۵۷۹
س - ٹھاکر صاحب گونڈل 〃	〃
ع - سلطان صاحب لاہج 〃	۵۸۰
ف - ٹھاکر صاحب لیمڑی 〃	〃
ص - رئیس صاحب میراج 〃	〃
ق - ٹھاکر صاحب موروی 〃	〃
ر - سلطان صاحب شحر و مکلا 〃	〃
ش - میر صاحب خیرپور سندھ 〃	۵۸۱
ت - ولیعہدان علاقہ بمبئی	〃
ث - درباریان علاقہ بمبئی	۵۸۲
افسران کیمپ	۵۸۴

فصل ہشتم

رؤسا و امرائے بنگال و بہار

خلاصہ مضمون	نمبر صفحہ
الف - مہاراجہ صاحب بہادر بردوان کے مختصر حالات	۵۸۵
ب - راجہ بن بہاری صاحب رئیس بردوان کے مختصر حالات	〃
ج - مہاراجہ صاحب دربھنگہ کے مختصر حالات	۵۸۶
د - مہاراجہ صاحب کوچ بہار 〃	۵۸۷
ہ - راجہ صاحب موربھنج 〃	〃
و - مہاراجہ صاحب سکم 〃	〃
ز - راجہ صاحب ٹپیرہ 〃	〃
ح - نواب محمد مہدی حسن خان صاحب خلف بادشاہ و نواب پٹنہ کے مختصر حالات -	۵۸۸
ط - درباریان و امرائے علاقہ بنگال و بہار کے اسمائے	۵۸۹
ی - افسران متعینہ کیمپ کے اسمائے -	۵۹۱

نمبر صفحہ	خلاصۂ مضمون
	فصل نہم
۵۹۲	رؤسائے و امرائے برہما۔
	فصل دہم
	الف — والیان ریاست ہائے پنجاب
۵۹۳	الف۔ نواب صاحب بہاولپور کے مختصر حالات
۵۹۴	ب۔ مہاراجہ صاحب پٹیالہ "
۵۹۵	ج۔ راجہ صاحب جیند "
۵۹۶	د۔ راجہ صاحب نابھہ "
۵۹۶	ہ۔ نواب صاحب دوجانہ "
۵۹۷	و۔ راجہ صاحب کپورتھلہ "
۵۹۷	ز۔ راجہ صاحب کیونتھل "
۵۹۸	ح۔ سردار صاحب کلسیہ "
۵۹۸	ط۔ راجہ صاحب کہلور "
۵۹۸	ی۔ راجہ صاحب نادون "
۵۹۹	ک۔ نواب صاحب لوہارو "
۶۰۰	ل۔ نواب صاحب مالیرکوٹلہ "
۶۰۱	م۔ راجہ صاحب نالہ گڑھ " ن۔ راجہ صاحب ناہن " س۔ راجہ صاحب فرید کوٹ "
	ب — رؤسائے پنجاب
۶۰۲	الف۔ خان بہادر ڈپٹی برکت علی خان صاحب کے مختصر حالات
۶۰۳	ب۔ سردار پرتاپ سنگھ صاحب اہلووالیہ "
۶۰۴	ج۔ آنریبل بابو پرتول چندر صاحب چٹرجی "
۶۰۵	د۔ پنڈت جناردہن صاحب "
۶۰۶	ہ۔ لالہ رام سرن داس صاحب "
۶۰۷	و۔ نواب غلام محبوب سبحانی صاحب "
۶۰۸	ز۔ خواجہ محمد غلام صادق صاحب "
۶۰۹	ح۔ خواجہ غلام محی الدین صاحب "
۶۱۰	ط۔ آنریبل نواب فتح علی خان صاحب قزلباش "
۶۱۲	ی۔ دیوان نریندر ناتھ صاحب "
۶۱۳	ک۔ کنور نونہال سنگھ صاحب کے مختصر حالات
۶۱۴	ل۔ مرزا محمد علی صاحب مالک مغل حویلی "
۶۱۵	م۔ مولوی محمد فضل الدین صاحب "
۶۱۶	ن۔ منشی دین محمد صاحب منیجر کتب خانہ "
۶۱۷	س۔ فہرست درباریان و افسران کیمپ
	فصل یازدہم
	امرائے و رؤسائے سرحدی
۶۲۱	الف۔ فہرست درباریان ...... ب۔ فہرست افسرانِ کیمپ۔
	فصل دوازدہم
	رؤسائے و امرائے مدراس
۶۲۲	الف۔ راجہ صاحب پدوکوٹہ کے مختصر حالات ب۔ راجہ صاحب کوچین " ج۔ مہاراجہ صاحب ٹراونکور "
۶۲۳	د۔ مہاراجہ صاحب میسور "
۶۲۴	ہ۔ فہرست درباریان ..... و۔ فہرست افسران کیمپ ....
	فصل سیزدہم
	رؤسا و امرائے ممالکِ متوسط
۶۲۵	الف۔ مہاراجہ صاحب اندور کے مختصر حالات ب۔ مہاراجہ صاحب اورچھہ " ج۔ ٹھاکر صاحب پیلودہ " د۔ رانا صاحب بڑوانی "
۶۲۶	ہ۔ بیگم صاحبہ بھوپال " و۔ مہاراجہ صاحب دتیا "
۶۲۷	ز۔ راجہ صاحب دہار " ح۔ راجہ صاحب دیواس کلاں " ط۔ راجہ صاحب دیواس خورد "
۶۲۸	ی۔ نواب صاحب جاورہ "
۶۲۹	ک۔ راجہ صاحب [illegible] " ل۔ راجہ صاحب چھتر پور "
۶۳۰	م۔ مہاراجہ صاحب [illegible] " ن۔ مہاراجہ صاحب نرسنگھ گڑھ "

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
س - راجہ صاحب راجگڈھ کے مختصر حالات	۶۳۱
ع - راجہ صاحب ریوان 〃	
ف - راجہ صاحب سمتھر 〃	
ص - راجہ صاحب علی پورہ 〃	
ق - راجہ صاحب خیرا گڈھ 〃	۶۳۲
ر - راجہ صاحب راے گڈھ 〃	
ش - راجہ صاحب رائرہ خول 〃	
ت - راجہ صاحب سونپور 〃	
ث - مولوی ظہور الاسلام صاحب 〃	۶۳۳
خ - فہرست امرائے ممالک متوسط	۶۳۴
ذ - فہرست افسرانِ کیمپ ...	۶۳۵

فصل چہاردہم

رؤسا و امرائے راجپوتانہ

خلاصۂ مضمون	نمبر صفحہ
الف - مہارانا صاحب اودیپور کے مختصر حالات	۶۳۶
ب - مہاراجہ صاحب الور 〃	۶۳۷
ج - مہاراجہ صاحب بھرتپور 〃	
د - مہاراجہ صاحب بیکانیر 〃	۶۳۸
ہ - مہاراؤ راجہ صاحب بوندی 〃	
و - راج رانا صاحب جھالاوار 〃	۶۳۹
ز - مہاراجہ صاحب جیپور 〃	
ح - مہارادل صاحب جیسلمیر 〃	
ط - مہاراج رانا صاحب دھولپور 〃	۶۴۰
ی - مہارادل صاحب ڈونگرپور 〃	
ک - مہاراؤ صاحب کوٹہ 〃	۶۴۱
ل - مہاراؤ صاحب سروہی 〃	
م - مہاراجہ صاحب قرولی 〃	
ن - ٹھاکر صاحب لاوہ 〃	۶۴۲
س - راجہ و مہاراج صاحب شاہپورہ 〃	
ع - نواب صاحب ٹونک 〃	۶۴۳
ف - فہرست درباریانِ راجپوتانہ و اجمیر میرواڑہ	۶۴۴
ص - فہرست افسرانِ کیمپ -	۶۴۴

فہرست تصاویر و نقشجات

نام تصویر	مقابل نمبر صفحہ
سرورق اول جسمیں شاہی کرونا نامہ ہے -	
تصویر مؤلف	ت
سرورق دوم جسمیں شاہی تاج و مونوگرام اور شاہی نشانات دکھائے گئے ہیں -	
ایوان ونڈسر کیسل	۷۸
تخت جلوس شاہی	۸۴
کرسی امتیاز	۸۵
کرسی لطانیہ	۸۶
تاجپوشی کی کرسی	۸۸
ملک معظم کا تاج	۹۳
ملکہ الگزینڈرا کا تاج	۹۵
تاج پرنس آف ویلز بہادر ...	۹۶
تاج ڈیوک صاحبان	۹۶
تاج شہزادگان خاندان شاہی	۹۶
تاج ارل صاحبان	۹۶
تاج مارکوئیس صاحبان	۹۶
تاج برن صاحبان	۹۶
تاج کونٹ صاحبان	۹۶
نقشہ زمینی ویسٹ منسٹر ایبی حصہ	۱۷۶
نقشہ عمارتی ویسٹ منسٹر ایبی کی اندرونی	۱۷۷
ویسٹ منسٹر ایبی کا بیرونی خصہ -	۱۸۰
شاہی کرہ ارض و عصا وغیرہ -	۱۸۹
کرہ ارض	۱۹۰
عصائے شاہی	۱۹۰
انگشتری	۱۹۰
تلوار رحم	۱۹۰
شمشیر عدل	۱۹۰
تاجپوشی کے تیل رکھنے کا برتن -	۱۹۰
شہنشاہ معظم کی تصویر	۱۹۸
شہنشاہ بیگم کی تصویر	۱۹۹
نقشہ کیمپ ہائے دربار دہلی ...	۲۶۹
نقشہ سنٹرل کیمپ	۲۷۰
حضور وائسرائے کی کوٹھی دربار دہلی	۲۷۰
دربار ہال کا زمینی نقشہ	۲۷۷
حضور وائسرائے کے تخت کی تصویر	۲۸۰
دربار ہال کا عمارتی نقشہ	۲۸۰
حضور وائسرائے کا داخلہ دہلی ...	۲۹۴
جامع مسجد سے نظارہ جلوس	۲۹۸
افتتاح نمایش صنعت و حرفت کا نظارہ	۳۱۲
حضور وائسرائے کی تصویر	۴۹۹
لیڈی کرزن کی تصویر	۵۰۴

نام تصویر	مقابل نمبر صفحہ	نام تصویر	مقابل نمبر صفحہ
ڈیوک آف کناٹ کی تصویر	۵۰۵	نواب سید محمد مہدی حسن صاحب عرف	
ڈچس آف کناٹ ″	۵۰۶	بادشاہ نواب پٹنہ کی تصویر	۵۱۸
لارڈ کچنر کی تصویر	۵۰۷ الف	نواب صاحب بہادر بہاول پور کی تصویر	۵۹۳
مسٹر بیل صاحب ″	۵۰۸	راجہ صاحب بہادر جھیند ″	۵۹۵
ڈپٹی کمشنر صاحب ″	″	نواب صاحب بہادر دوجانہ ″	۵۹۶
شہزادگان امپیریل کیڈٹ کور ″	۵۱۲	مہاراجہ صاحب بہادر کپورتھلہ ″	۵۹۷
حضور نظام ″	۵۳۴	سردار صاحب بہادر کلسیہ ″	۵۹۸
ولیعہد صاحب دکن ″	۵۴۰	راجہ صاحب نادون ″	″
سر مہاراجہ کشن پرشاد بہادر مدار المہام		نواب صاحب بہادر لوہارو ″	۵۹۹
حضور نظام کی تصویر	۵۴۱	نواب بہادر مالیر کوٹلہ ″	۶۰۰
نواب فخر الملک بہادر ″	۵۴۲	سردار بچتر سنگھ صاحب اہلووالیہ ″	۶۰۳
نواب افسر الدولہ بہادر ″	۵۴۳	بابو پرتول چندر صاحب چیٹرجی ″	۶۰۴
مسٹر فریدون جی ″	۵۴۴	رائے صاحب پنڈت جیا ردھن صاحب ″	۶۰۵
مہاراجہ آصف نواز ونت ″	۵۴۵	لالہ رام سرنداس صاحب ″	۶۰۶
راجہ رائے رایان بہادر ″	۵۴۶	نواب غلام محبوب سبحانی صاحب ″	۶۰۷
نواب عماد الملک بہادر ″	۵۴۷	خواجہ غلام محمد صادق صاحب ″	۶۰۸
نواب خانخانان بہادر ″	۵۴۸	خواجہ غلام محی الدین صاحب ″	۶۰۹
مہاراجہ صاحب کشمیر ″	۵۴۹	نواب فتح علی خان صاحب قزلباش ″	۶۱۰
جنرل سر راجہ امر سنگھ صاحب ″	۵۵۲	دیوان نرائندر ناتھ صاحب ″	۶۱۲
راجہ بلدیو سنگھ صاحب والی پونچھ ″	۵۵۳	گورو نونہال سنگھ صاحب ″	۶۱۳
خان بہادر منشی غلام احمد خان ″	۵۵۴	مرزا محمد علی مالک مغل حویلی ″	۶۱۴
رائے بہادر نراین داس صاحب ″	۵۵۵	منشی دین محمد منیجر کتاب نما ″	۶۱۶
رائے صاحب دیوان دیاکشن صاحب ″	۵۵۶	مہاراجہ صاحب بہادر ترادنکور ″	۶۲۳
نواب صاحب بہادر رامپور ″	۵۵۸	مہاراجہ صاحب بہادر میسور ″	۶۲۶
مرحوم راجہ سر امیر حسن خان		نواب صاحب بہادر جاورہ ″	۶۲۸
صاحب محمود آباد کی تصویر	۵۶۰	مہاراجہ صاحب بہادر چرکھاری ″	۶۲۹
مہاراجہ صاحب بہادر بلرامپور ″	۵۶۱	مہاراجہ صاحب بہادر گوالیار ″	۶۳۰
تعلقہ دار صاحب سرڈرہ ″	۵۶۲	راجہ صاحب بہادر راجگڈھ ″	۶۳۱
تعلقہ دار صاحب معز الدین پور ″	۵۶۳	مہاراجہ صاحب بہادر اودے پور ″	۶۳۶
راجہ صاحب بلہرہ ″	۵۶۴	مہاراجہ صاحب سروہی ″	۶۴۱
مہاراجہ صاحب گائیکوار بڑودہ ″	۵۷۴	خان بہادر مرزا شجاعت علی صاحب	
مہاراجہ صاحب بردوان ″	۵۸۵	جنابہ عالیہ نواب بیگم مرشد آباد	
مہاراجہ صاحب بہادر دربھنگہ ″	۵۸۶	کی تصویر	۶۴۵

حالاتِ مؤلف

مؤلف اپنے حالات میں سوائے اسکے کیا لکھ سکتا ہے کہ وہ ۱۸۶۶ء کی پیدائش ہے اور مولوی جان محمد صاحب مرحوم مغفور کا فخرِ ولدیت رکھتا ہے۔ جو اپنے وقت میں مشاہیر علمائے پنجاب اور مردفتر صوفیائے مقام میں سے ہوئے ہیں اور جن کے حلقہ درس میں اکثر سرداروں اور شریفوں کے بچے تعلیم پایا کرتے تھے جن میں سے اسوقت بھی جتنے لوگ موجود ہیں بخوبی خوشحال اور فارغ البال ہیں۔ مثلاً مولوی محمد فضل الدین صاحب پلیڈر وائس پریذیڈنٹ میونسپلٹی لاہور و لالہ روشن لال صاحب پلیڈر۔ خان بہادر منشی دین محمد صاحب اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر۔ سردار ٹھاکر سنگھ صاحب سابق وزیر فریدکوٹ۔ سردار بخشیش سنگھ متوفی لیمبر خوانده شیر سنگھ صاحب بہادر والی پنجاب وغیرہ وغیرہ۔ ذات اور گوت کا اصول جو کچھ قرآن میں مذکور ہوا ہے وہ صرف قومی شناخت ہی جس کا اس زمانہ میں کوئی پرساں نہیں بہر حال مؤلف اچھوت قوم کی ٹھو کھر شاخ کا ایک ممبر ہے۔ جس کو والد مرحوم مغفور کی فضیلت و حلقہ درس و تدریس کی شہرت نے مولویت کے ساتھ مشہور کر دیا۔

مؤلف پہلے پہل اپنے والد مرحوم پھر برادر مغفور مولوی فتح الدین صاحب کسل کے جنہوں نے اس خاندان میں سب سے پہلے اخبار پنجاب پنچ اور مطبع قبلۃ المطابع پریس نکال کر اخبار نویسی کی بنیاد قائم کی) سے پڑھتا رہا۔ پھر دو ایک لائق استادوں سے تعلیم پاتا رہا اور کچھ عرصہ پنجاب یونیورسٹی کا بھی طالب علم رہا۔ لیکن خاندانی مولویت نے کبھی باقاعدہ کسی امتحان کی شرکت اور پاس فیل ہونے کی نوبت نہیں پہنچنے دی۔

برادر مرحوم کے انتقال پر ۱۸۸۱ء سے اخبار و مطبع کا اہتمام مؤلف کے متعلق ہوا اور آخر ۱۸۹۴ء میں ایک علیحدہ اخبار مشیر ہند کے نام سے جاری کیا جو اب تک بفضلِ الٰہی ایک حد تک کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔

تصنیف و تالیف سے بھی موجودہ زمانہ کی ہوا کے مطابق دماغ خالی نہیں رہا۔ چنانچہ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا مسدس مرقع اسلام کے نام سے لکھا گیا۔ پھر اسبوع شریف کا ترجمہ مع فضائل شائع کیا اور پھر حضرت داتا گنج بخش صاحب قدس سرہ العزیز بادشاہ اولیائے پنجاب کی نادر و نایاب تصنیف لطیف کشف المحجوب کو اردو کا لباس پہنایا۔ اس کے بعد پانچ ریل کا نمبر شروع ہوا تو یادگار سعدی اور یادگار دکشور پالکھی گئی۔ اور اس کتاب کا نام بھی یادگار رہے۔ جن کو بفضلِ خدا پبلک اور گورنمنٹ کے سررشتہ ہائے تعلیم نے قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور کئی ایک والیانِ ریاست نے اپنے ہاں رواج دینے سے عزت افزائی فرمائی اس کے سوا اسلام کی ایک لمبی چوڑی تاریخ کی تدوین کا خیال ہوا۔ جس کی جلد اول سرورِ کائنات صلے اللہ علیہ وسلم کے حالات میں لکھی گئی اور نصف سے زیادہ چھپ بھی چکی ہے۔ سیر و سیاحت کا بھی اکثر اتفاق ہوتا رہا۔ مگر اسی ہندوستان میں۔ جس کی وجہ زیادہ تر والد مرحوم اور برادر مغفور کے وہ تعلقات تھے جو ان کو اکثر والیانِ ریاست سے حاصل تھے۔ ۱۸۸۶ء میں شادی ہوئی اور بدفعات چھ اولادیں ہوئیں جن میں عبد اللطیف اور عبد العزیز دو لڑکے ڈھائی ڈھائی برس کی عمر کو فوت ہوئے۔ اور اب عبد المجید و عبد الحمید دو لڑکے ابتدائی تعلیم پاتے ہیں۔ بہرحال اپنا عقیدہ یہ ہے کہ

کیا فائدہ فکرِ بیش و کم سے ہوگا — ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا
جو کچھ کہ ہوا ہوا کرم سے تیرے — جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا



مولوی فیروزالدین مالک اخبار مشیر ہند لاہور
مولف یادگار دربار و کتب متعددہ

اِنّہٗ لتذکرہ

یادگار دربار

یعنی

تاریخ تخت نشینی و تاجپوشی مع سوانح عمری اعلیحضرت ایڈورڈ ہفتم

بافضالِ الٰہی ملکِ معظم سلطنت متحدہ برطانیہ عظمےٰ و آئرلینڈ حامی دین عیسوی

قیصر ہند و برٹش ممالک ہائے ماوراء البحر ادام اللہ اقبالہم

مولفہ و مرتبہ

مولوی فیروز الدین غفر اللہ لہٗ مالک و ایڈیٹر مشیر ہند لاہور مولف یادگار سعدی

و یادگار وکٹوریہ وغیرہ کتب متعددہ

۱۳۲۱ھ — ۱۹۰۲ء

مطبوعہ صدائے ہند پریس لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

حمدِ الٰہی - احکم الحاکمینِ حقیقی کی حمد و ثنا کا انسانِ ضعیف البنیان کے فہم و ذکا سے ادا ہونا جیسا کچھ ناممکن ہے۔ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ ایسا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ کہ جس کی لازوال سلطنت رقیب و غنیم اور شریک و سہیم کے خطرات سے قطعی منزہ و مبرا ہو۔ اور جسکے وسیع و فسیح ملک کی حدودِ اربعہ اور ابتدا و انتہا کے علم تک سے بنی نوعِ انسان کی عقول و افہام عاجز و درماندہ ہوں۔ اتنی بڑی رعایا و مخلوق کا ایسا حاکم کہ جس کی مجموعی تعداد تو ایکطرف رہی صرف اُس کے اقسام تک کی تعداد بھی اعداد و شمار کی طاقت سے بالاتر ہو۔ ایسا بڑا مسلّم و مقبول آقا کہ اجسام و افراد تو کجا ہر ایک ذی روح شے حتّٰی کہ آب و آتش و خاک و باد تک کے اربعہ عناصر اور چاند۔ سورج۔ زمین و آسمان تک کے اجرام اصلی معنوں میں اس کے مطیع و منقاد اور تقدیس خوان ہوں۔ اتنا بڑا باخبر منتظم کہ لَا تَتَحَرَّکُ ذَرَّۃٌ اِلَّا بِاِذْنِ اللہِ جس کی ایک معمولی صفت کہی جائے۔ ایسا دانا نہاں و آشکارا کہ وہ اندرونی راز جو کسیکو خود اپنی زبان تک لانے مشکل ہوں۔ وہ اُن تک سے کما حقہٗ

واقف و ماہر ہو۔ اِنسان کا محدود علم و خیال اُس کی عزت و شان کیا جان اور کیا بیان کرسکتا ہے۔ اے لازوال سلطنت کے مالک! واقعی لاشریک خدائی و شہنشاہی کا تاج و تخت تیری ہی ذات پاک کو زیبا ہے۔ جو انتقال و اختلال اور کون و فساد کے خطور و فتور سے بالکُل بے نیاز یکتای و بے ہمتای ہیں آپ ہی اپنی نظیر ہے۔ ؎

اے برتر از خیال و گمان و قیاس و وہم
و ز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر
ما ہمچناں در اوّل وصفِ تو ماندہ ایم

حمدِ الٰہی کے بعد **نعتِ مُصطفائی** بھی ہر انسان کا فرض عظیم ہے کیونکہ دین و دُنیا پر جسقدر احساناتِ عمیم و الطافِ صمیم حضرت سیّد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے جاتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ۔ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر۔ اور کوئی بڑے سے بڑا علیم و حکیم بھی اُنکا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ علم و عمل کا فیضان تہذیب و شائستگی کا دوران۔ مُلکی و قومی امن و امان۔ جس طرف بھی نگاہ کیجائے۔ اُسی کے ازلی و ابدی قوانین و ضوابط کو سب کا رہنما پایا جائیگا۔ ایسا بادشاہِ دو جہان کہ جس کی روحانی سلطنت ازل سے ابد تک یکساں قائم و برقرار رہنے والی ہو۔ جس کی تخت نشینی و تاجپوشی پر شہنشاہ علی الاطلاق کیطرف سے ختمِ نبوت کی مُہر ثبت کردی گئی ہو۔ جس کا سکّہ بجائے دراہم و دینار کے نقودِ قلوب پر لگ چکا ہو۔ اور جس کا خطبہ ہر شب و روز میں پانچ بار کروڑں زبانوں سے پڑھا جاتا ہو۔ جس کے گدایانِ در بہشت کی جاگیر دں کو

بھی بمقابلہ اُس کی آستان بوسی کے خاطر میں نہ لاتے ہوں۔ اور جس کی محبّت و وداد داخلِ عبادات ہو کر باعثِ ازدیادِ مدارج و نجات قرار پا چکی ہو۔ بھلا علوم و السنہ مروّجہ کے محدود الفاظ و خیالات اسکے قدر بلند و رتبۂ ارجمند بیان کرنے میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ خود خلّاقِ علوم و زبان بھی اُنہی کی محبّت و تعریف کا مُقرّ و خواہان ہو۔ ؎

فردا کہ ہر کسے بشفیعے زنند دست
ما ئیم و دست و دامنِ اَولادِ مُصطفیٰ

علمِ تاریخ و سیر نے جو عام مقبولیت ہر مُلک و قوم اور مذہب و ملّت اور ہر زبان و بیان میں حاصل کر رکھی ہے۔ اور جس خصوصیت کے ساتھ اِس علم کو فطرتِ انسانی سے مناسبت ہے اُسکی وجہ ہو جہ سب جانتے ہیں۔ کہ یہی علم ہے۔ جو ہزار ہا برسوں کے گذشتہ واقعات اور صدیوں کے گڑے مُردوں کے حالات اس طرح سامنے لاکر پیش کر دیتا ہے۔ کہ دیکھنے والا گویا برائ العین سب کا مشاہدہ کر کے عبرت و خیرت کے ایسے مُفید سبق اِس سے حاصل کر لیتا ہے جو کسی بھی دوسرے علم سے میسّر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اسی بناء پر کُتب آسمانی میں بھی اِسے ترک نہیں کیا گیا۔ یا یوں سہی کہ اِنہیں نے دُنیا کو اِس سے مُستفیض ہونا سکھایا ہے۔ اور گو اِس کی وسعت کے لحاظ سے تو تمام بڑے بڑے واقعات اِس میں سما سکتے ہوں۔ لیکن پھر بھی وہ واقعات و حالات جن سے گہرے نتائج نکل سکتے ہوں۔ اِس کا مایۂ ناز سمجھنے چاہئیں۔

دربارِ تاجپوشی کا اہم واقعہ اِس علم میں باعتبار اپنی خصوصیتوں کے جس قدر اعلیٰ رُتبہ رکھتا ہے اُس سے کوئی شخص غالباً ناواقف نہ ہوگا۔ کیونکہ اِس سے نہ صرف ایک بادشاہ کی تقریب تہنیت کا ہی خوش منظر سین آئندہ نسلوں کو

نظر آئیگا بلکہ ایک غیر مذہب اور غیر کفو قوم کی ہر دلعزیز حکومت کی کامیابی اور موجودہ زمانہ کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے باہمی تعلقات اور باوصف سائینس اور تفلسف کے زور کے بعض پرانے رسوم و رواجات کی برقراری اور مروجہ نظم و نسق کی ایسی قابلِ یادگار شہادتیں اس سے ملجاتی ہیں کہ جنہیں اربابِ عقول بڑا ہی قیمتی سمجھتے ہیں۔

سبب تالیف کتاب۔ ہیں مندرجۂ بالا بیان کے بعد جو کچھ مولف نے اظہار کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو بسبب اس بات کے کہ اُس نے موجودہ شہنشاہ کی والدہ متوفیہ ملکہ وکٹوریہ کی لائف انکی وفات سے صرف ایک مہینہ بعد جو سب سے پہلے ہندوستان کی مسلمہ زبان اُردو میں شائع کی تھی۔ چونکہ اس میں بھی موجودہ شہنشاہ کی تخت نشینی و حلفِ سلطنتی کا مختصراً بیان درج کردیا تھا۔ اسلئے قدرتی طور پر اسکو اب بھی اس دربارِ تاجپوشی کے حالات لکھنے ضروری تھے۔ لیکن اس کے سوا بھی جس بات نے اُسے اس تاریخ کے لکھنے پر مستقل اور اُسکے معمولی ارادہ کو مصمم کردیا۔ وہ یہ ہے۔ کہ گورنمنٹ کیطرف سے جو دربارِ قیصری ۱۸۷۷ء کی تاریخ مصنفہ جناب مسٹر وہیلر صاحب شائع کی گئی تھی۔ اُس کی طرزِ تحریر ایسی واقع ہوئی ہے کہ غالباً اس کے دیکھنے سے وہ لوگ جو نظر باریک بین رکھتے ہیں خوش نہیں ہوسکتے۔ مسلمانوں کا جہاں کہیں ذکر آیا ہے۔ اُنہوں نے نہایت سختی اور درشتی کے ساتھ انکو یاد کیا ہے اور بعض جگہ ہندوؤں پر بھی چوٹیں کی ہیں۔ جنکو غالباً اُن روسائے ریاست نے جو شوقِ دل سے شریک دربار ہوئے تھے۔ خوش آمدید نہ کہا ہوگا۔ اس سے کوئی بحث نہیں کیجاتی کہ جن پرانے تاریخی واقعات کے اعتبار پر اُنہوں نے ایسا کیا وہ فی نفسہٖ صحیح تھے یا غلط۔ لیکن یہ بات ضرور سوچنے کے لائق ہے

کہ وہ بغیر ایسے الفاظ کے بھی کامیابی کے ساتھ تاریخ لکھ سکتے تھے یا نہیں۔ جس کا جواب مولفِ کتاب ہذا کے نزدیک اثبات میں ہے۔ چنانچہ یہ تاریخ اسکی شاہدِ ناطق بھی ہے۔ اس پرانے فسانے کے یاد کرنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ اب بھی جبکہ گورنمنٹ نے دربارِ تاجپوشی کی تاریخ لکھوانے کا قصد فرمایا تو اُنہیں کے خلف الرشید کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے۔ جنکی تاریخ کی نسبت سرکاری طور پر مشتہر ہوا ہے کہ اس کی قیمت معمولی فی جلد ۲ پونڈ دو شلنگ یعنی بتیس روپیہ۔ اور قسم اعلےٰ فی جلد دس پونڈ دس شلنگ یعنے ایک سو اٹھاون روپیہ ہوگی۔ اور چونکہ قطع نظر اُس احتمال کے جو اُنکی تاریخ میں گذشتہ فرمانروایانِ ہند کی نسبت درشت بیانی کے بارے میں ہو سکتا ہے مجوزہ قیمت بھی ایسی گراں تھی کہ جس سے عوام تو یقیناً متمتع نہ ہو سکتے تھے۔ اِسلئے مولف نے اِس کتاب کو مکمل طور پر لکھنے کا ارادہ کیا جو الحمد للہ کہ ایک حد تک کامیابی کے ساتھ پورا بھی ہوگیا ہے۔ یعنے کتاب ہذا میں نہ صرف دربارِ دہلی کے ہی واقعات کو یکجا کیا گیا ہے بلکہ ملکِ معظم کی سوانح عمری اور تاجپوشیِ انگلستان کے حالات بھی نہایت جامعیت کے ساتھ قلمبند ہوئے ہیں۔ جو غالباً اِس سے پہلے اردو میں بحیثیت کتابی ابتک شائع نہ ہوئے تھے۔

علاوہ ان وجوہات کے چونکہ اِس کا لکھنے والا نہ تو گورنمنٹ کا پنشن خوار ہے اور نہ کوئی خطاب دار۔ بلکہ ایک اُردو اخبار کا ایڈیٹر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایڈیٹروں کا گروہ بوجہ نکتہ چینی سے منسوب ہونے کے بالعموم گورنمنٹ کا کچھ مقرب بھی نہیں ہوا کرتا۔ اِسلئے اُمید ہے کہ آئندہ نسلوں اور دوسری اقوام اور غیر سلطنتوں کے نزدیک بہ نسبت گورنمنٹ کے ایک ملازم اور اجیر مصنف کے یہ تاریخ زیادہ مستند اور مقبول ہوگی۔ جو نہ میرے لئے بلکہ گورنمنٹ کیلئے

ایک بڑی کامیابی سمجھنی چاہیئے۔

گو یہ ایک امر واقعہ ہے کہ یہ تاریخ بلا امدادِ گورنمنٹ لکھی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی صاف ظاہر ہے۔ کہ باعتبار اُردو لٹریچر اور ایشیائی زبانوں کی تاریخی ترقی دینے کے گورنمنٹ ہی ایسے مصنفوں کی کوئی قدر افزائی کر سکتی ہے جو ناول نویسی کے مذاق کو چھوڑ کر تاریخ نویسی کیطرف مائل ہوں۔ لہٰذا اگر مصنف کو اپنی بلے ریا محنت کی ملک اور گورنمنٹ سے کوئی توقع ہو تو کچھ بیجا بھی نہیں ہو سکتی

ترتیبِ کتاب میں چونکہ سلسلہ کا خیال زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اسلئے کتاب دو حصوں پر تقسیم ہوئی ہے۔ یعنے حصۂ اوّل میں تو شہنشاہِ معظم کی سوانح عمری اور تاجپوشیِ انگلستان کے حالات ہیں۔ اور حصۂ دوم میں دربارِ دہلی کی مفصل و مشرح کیفیت۔ جس میں اکثر دیسی ریاستوں کے حالات بھی آگئے ہیں۔

اپنی طرف سے ہر چند کوشش کی گئی ہے۔ کہ واقعات نہایت صحیح صحیح بلا مبالغہ درج ہوں۔ جو یا تو اپنے چشم دید ہیں۔ اور یا انگریزی اخبارات و رسایل سے اخذ کئے گئے ہیں۔ جنکے ترجمہ میں امداد دینے کے لئے میں اپنے عزیز دوست ماسٹر چراغ الدین صاحب روشن سکرٹری ٹمپرنس ایسوسی ایشن لاہور کا تہ دل سے شکر گذار ہوں۔ اور علیٰ ہذا عزیز القدر منشی دین محمد صاحب ایڈیٹر صدائے ہند بھی (جو اس کتاب کے بھی مینیجر ہیں) میرے خاص شکریہ کے لائق ہیں۔ جو علاوہ ایام دربار میں مختلف نوٹس دینے کے فراہمی حالاتِ رؤساء میں مجھے کامل امداد دیتے رہے ہیں۔ لیکن باوصف اس احتیاط کے بھی بحکم اَلْاِنْسَانُ مُرَکَّبٌ مِنَ الْخَطَاءِ وَالنِّسْیَان اگر کسی جگہ کوئی لغزش ہو گئی ہو تو ناظرین معاف فرمائیں لیکن اطلاع ضرور بخشیں کہ بروقت دوسرے ایڈیشن کے انکا لحاظ رکھا جائے۔

لاہور یکم مئی ۱۹۰۳ء } خاکسار فیروز الدین غفر اللہ لہٗ۔
مالک اخبار مشیر ہند لاہور

حصہ اوّل

شہنشاہ ہند کے حالات زندگی و تاجپوشی لنڈن

باب اوّل

ملکِ معظم شہنشاہِ ایڈورڈ ہفتم کی مختصر سوانح عمری

فصل اوّل

پیدائش سے سنِ بلوغ تک کے حالات

خاندان - ملکِ معظم شہنشاہِ ایڈورڈ ہفتم جس تاج و تخت کے بلا شرکت غیرے واحد مالک قرار دئے گئے ہیں یہ انکی والدہ متوفیہ ملکہ وکٹوریہ کے خاندان ذیشان کا ورثہ ہے - جسکی سلطنت و حکومت کی بنیاد خدا کی امداد و برکت اور اپنی بے عدیل کوشش و ہمت سے فتحمند ولیم اوّل نے ۱۰۶۶ء میں قایم کی تھی - لیکن اِسکے ساتھ ہی آپ اپنے والد ماجد

کیطرف سے بھی جرمن کے مشہور خاندان شاہی کے چشم و چراغ ہیں۔ یعنے آپ کے والد شہزادہ فرانسس چارلس آگسٹس البرٹ خاندان سیکس کے مشہور فرمانروا گوبرگ اوف گوتھا کے فرزند دلبند تھے۔ اور اس طرح ملکِ معظم نجیب الطرفین ہونے کے علاوہ جیسے کہ انگریزی قوم کے لئے باعثِ فخر و افتخار ہیں۔ ویسے ہی قوم جرمن کے لئے بھی مایۂ ناز ہیں۔ کیونکہ جسطرح آپ کا وجود مبارک شاہانِ انگلستان کی یادگار ہے ویسے ہی آپ کی رگوں میں جرمنی خون کے دوران سے جرمن بھی ویسے ہی اعزاز کا حقدار ہے۔ مگر بہرکیف جس تختِ انگلستان پر آپ آج جلوہ افروز نظر آتے ہیں۔ وہ آٹھ سو چالیس سال سے یکے بعد دیگرے (ننھیال کیطرف سے) آپ کے بزرگوں کے زیر قدم رہا ہے

شہنشاہ کے والدین کی شادی خانہ آبادی:۔ ۱۰ فروری ۱۸۴۰ء کو سینٹ جیمس کے شاہی گرجا میں جس تزک و احتشام اور شوکت و شان سے عمل میں آئی تھی۔ اسکو انگلستان کی سرزمین بھول نہیں سکتی۔ کیونکہ اس شادی کی رسوم میمنت لزوم پارلیمنٹ کی منظوری اور انگلستان و جرمن کے شاہی خاندانوں کے بڑے بوڑھوں کی پسندیدگی سے ملکہ وکٹوریا نے اسوقت ادا کی تھیں جبکہ وہ بلا شرکتِ غیرے انگلستان کے تخت پر جلوہ فرما تھیں۔ چنانچہ شہنشاہ کے والد ماجد چارلس آگسٹس البرٹ نے اسی خاطر سرزمین جرمن سے قطع تعلق کر کے انگلستان میں طرح اقامت آ ڈالی تھی۔ جہاں پرنس کنسرٹ کا خطاب معہ وظیفہ انگلستان کی طرف سے ان کیلئے مخصوص کیا گیا اور شادی سے ہفتہ بھر بعد یعنے ۱۸ فروری ۱۸۴۰ء کو قصر بکنگھم میں پارلیمنٹ کے دونوں طبقوں (دیوان

امرائو دیوان عام) اور لنڈن کے پیر پادریوں اور کارپوریشنوں اور کیمبرج یونیورسٹی اور چرچ آف سکاٹلینڈ کی جانب سے ملکہ وکٹوریا اور پرنس کنسرٹ کی خدمات میں اس ازدواج سراپا ابتہاج کے لئے تہنیت نامے پیش کئے گئے۔ اور نیز اسی دن نائٹ گرانڈ کراس کا معزز خطاب مزید بھی معہ تمغہ شہزادہ کی نذر کیا گیا۔ جسکے بعد یہ خوش نصیب جوڑا دلی محبت و موافقت اور نہایت سادگی و بے تکلفی سے لطف زندگی حاصل کرتا رہا۔

اس مبارک ازدواج سے ملکہ وکٹوریا اور پرنس کنسرٹ کو نومبر ۱۸۴۰ء سے لیکر اپریل ۱۸۵۷ء تک قریباً ۹ اولادیں ہوئیں۔ جن میں سے چار شہزادے اور پانچ شہزادیاں تھیں۔ جسکے بعد ۱۴ دسمبر ۱۸۶۱ء کو پرنس کنسرٹ کا انتقال پُرملال ہو گیا۔ اور پھر مادام الحیات ملکہ نے بھی بیوگی میں ہی بسر کر دی۔ لیکن جب تک یہ مبارک جوڑا قائم رہا۔ الفت و یگانگت باہمی اور رفاہ جوئی مخلوق میں ایک دوسرے کا ایسا معین و مددگار رہا کہ دنیا میں ایسی مثالیں بہت کم ملسکتی ہیں۔

شہنشاہ کی ولادت باسعادت:- آپ کی ولادت کا روز سعید سہ شنبہ اور تاریخ ۹ نومبر ۱۸۴۱ء ہے۔ جبکہ قصر بکنگھم میں آپ زینت افزائے عالم شہود ہوئے۔ لڑکے کی پیدائیش سے جسقدر مسرت عامۃً سب والدین کو ہوتی ہے شہنشاہ کی ولادت کی خوشی اُس سے لاکھوں درجہ بڑھی ہوئی تھی۔ کیونکہ اگرچہ اس سے پہلے ملکہ وکٹوریا کے بطن سے ایک سال قبل ایک لڑکی تولد ہو چکی تھی۔ مگر لڑکا کوئی نہ ہوا تھا۔ اس لئے اہالیان خاندان اور متوسلین شاہی کے علاوہ

تمام رعایا کو اس مولودِ مسعود کی دل سے آرزو تھی۔ کیونکہ سب اُس کو اپنا ہونے والا شہنشاہ جانتے تھے۔ غرضکہ انہیں وجوہات سے انگلستان نے اُس روز کو نوروز سے کم نہ جانکر اظہار مسرّت و شادمانی اور عرض مبارکباد میں اس قدر مبالغہ کیا۔ کہ عوام و خواص کی خواہشِ دیدار پُورا کرنے کے لئے ولادت سے چند یوم بعد ونڈسر پارک میں فوجی علیمہ کی تقریب سے شہزادۂ عالم کو محل شاہی کے دریچہ میں جلوہ افروز کیا گیا۔ جسپر رعایا نے اسقدر چیخیں دیں کہ سوائے مُبارک باد کی آوازوں کے اور کچھ سُنائی نہ دیتا تہا انگلستان کو اس جگر گوشۂ سلطنت سے جسقدر عقیدت و ارادت مدنظر تھی۔ اُس کا اندازہ کسی قدر اس سے بھی ہوسکتا ہے کہ جب آپ کے لئے دائیہ کی ضرورت ظاہر کی گئی تو پانسو دائیوں کی درخواستیں آئیں (ہندوستان میں ایک عہدہ کے لئے اتنی درخواستوں کا جمع ہوجانا تو کوئی بڑی بات نہیں مگر انگلستان میں ملازمت کی تلاش اس بےصبری سے نہیں کی جاتی) شہنشاہ ذیجاہ چونکہ پیدائشی خوبصورت تھے۔ اور قدرت نے اعضاء بھی بھرپور بنائے تھے اسلئے سب لوگوں کو آپ سے ایک خاص محبّت و دلبستگی پیدا ہوگئی تھی۔ بہرحال ایک مہینے کی اقامت کے بعد ملکہ وکٹوریا اپنے لختِ جگر کو قصر بکنگھم سے ایوان ونڈسر میں لائیں۔ اور یہ ہونہار نومولود بڑھنے اور پھلنے پھولنے سے والدین کو مسرور و شاد کام کرتا رہا۔

اصطباغ اور نام رکھنے کی رسوم شہنشاہ کی ولادت سے دس ہفتے بعد ۲۵ جنوری ۱۸۴۲ء کو ایوان ونڈسر کے سینٹ جارج گرجا میں نہایت شان و تجمل سے ادا ہوئیں۔ شاہ پرشیا جو آپکے دینی باپ تجویز کئے گئے

تھے۔ اس رسم کی ادائگی کیلئے انگلستان تشریف لائے۔ اور بپتسمہ دینے کی تمام رسوم میں دریائے یردن کا پانی استعمال کیا گیا۔ جس کی دو صراحیاں کسی شخص نے تحفتاً خاندان شاہی کی نذر کی تھیں۔ اس دریا میں بقول عیسائیوں کے خود حضرت مسیحؑ نے اصطباغ پایا تھا اسلئے اس کا پانی نہایت مقدّس گنا جاتا ہے۔ اس رسم کی ادائگی کے بعد آپ کا نام نامی آپکے باپ اور نانا کے ناموں کی مناسبت سے البرٹ ایڈورڈ رکھا گیا۔ اس دن کا اہتمام خاص قابل ذکر ہے۔ کیونکہ دو لاکھ پونڈ یعنے بیس لاکھ روپے اس تقریب کے لئے خزانہ عامرہ سے منظور کئے گئے تھے۔ صرف وہ ایک پوشاک جو آپنے اسدن زیب بر فرمائی تھی۔ اسپر ساڑھے دس ہزار روپے لاگت آئی تھی۔ الغرض یہ تمام روپیہ شاہ پرشیا کی مدارات۔ مستحقین کی تقسیم۔ اور شہزادہ کی متعلقہ رسوم پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کیا گیا۔ اس تقریب کی عظمت اسی امر سے ظاہر ہے کہ بپتسمہ کے کیک کا ایک ٹکڑا جو کسی شخص کے پاس بچ رہا تھا وہ کئی سال بعد بھی بیس گنا سونے کے ہم وزن فروخت ہوا۔

ولیعہدی سلطنت کا اعلان:۔ نام اور اصطباغ کی رسوم کے متصل ہی ملکہ معظمہ کیطرف سے شہزادہ عالم کو ولیعہدی سلطنت پر نامزد کیا گیا۔ اور حسب دستور تاج۔ انگشتری۔ عصاء اور تلوار تمام مراسم مذہبی کے مطابق شہزادہ کو عطا فرما کر مندرجہ ذیل فرمان نافذ ہوا۔

اعلان ہم اپنے پیارے لخت جگر البرٹ ایڈورڈ کو پرنس آف ویلز اور ارل اوف چیسٹر کے معزز لقب سے ملقب کر کے اس اعزاز و امتیاز کے ساتھ سلطنت کے دستور کے موافق اُس کے سر پر تاج۔ انگلی میں

انگشتری پہنانے ہاتھ میں سونے کا عصا دینے اور کمر میں تلوار باندھنے کے ساتھ آرزو کرتے ہیں کہ وہ اِن معزز و مقدس نشانات سے سلطنت کی حفاظت و رہنمائی کا کام انجام دیا کرے۔

اسی فرمان ذیشان کے ساتھ ملکہ معظمہ کے ہوم سکرٹری نے شاہی منظوری سے اس تولید سعید اور تقریبات تہنیت کے سرانجام کی خوشی میں سلطنت عظمٰی کے اُن کثیرالتعداد قیدیوں کی رہائی کا اشتہار بھی جاری کیا۔ جنہوں نے دورانِ قید میں اپنا چال چلن بہت ثابت کیا تھا۔ اور نیز دوسرے لوازمِ اظہارِ مسرت بھی بخیر و خوبی ادا کئے گئے۔

شہنشاہ کی تعلیم و تربیت میں جسقدر شغف و انہماک ملکہ معظمہ اور ان کے شوہر نامدار کو رہا ہے غالباً نہ صرف بہت کم بادشاہوں بلکہ بہت کم عوام کو بھی اسقدر اپنی اولاد کی تعلیم کا خیال ہوگا۔ ابتداء میں لیڈی لٹلن ایک معزز اور لائقہ خاتون اس کام پر تعینات تھیں (جو مسٹر گلیڈسٹون کی ہمشیرہ ہوتی تھی) اور چونکہ ملکہ معظمہ اور اِن کے شوہر نامدار دونوں سچے عیسائی تھے۔ اسلیئے اُن کو ابتدا میں اپنی اولاد کی دینی تعلیم کا بہت ہی بڑا خیال تھا گو ایسی مذہبی تعلیم مرکوزِ خاطر نہ تھی۔ جو تعصب سکھاتے۔ بلکہ ایسی تعلیم جو خدا کی فرمانبرداری اور مخلوقِ الٰہی کی رفاہ جوئی کی محرک ہو۔ چنانچہ ملکہ نے لیڈی لٹلن سے صریح الفاظ میں اسکی ہدایت کر رکھی تھی کہ

"میں اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دلوانا چاہتی ہوں۔ جس سے اِن کے دلوں میں خدا کی محبت جلوہ گر ہو۔ تاکہ جس محبت و سرگرمی کو خداوند تعالےٰ اپنی مخلوق کیساتھ برتنے کی ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ وہ اُنکی فطرت میں داخل ہوجائے۔ میں اِن کو ایسی تعلیم دلوانا نہیں چاہتی جس میں خواہ مخواہ موت اور عذاب

کی مہیب صورت سے خوف دلایا جاوے۔ یا مذہبی فرقہ بندی کیطرف میلان ہو۔ بلکہ مَیں یہ چاہتی ہوں۔ کہ یہ خدا کو محبّت کرنی سیکھ جائیں جسکے ساتھ لازمی طور پر یہ اسکی مخلوق سے بھی محبّت کرینگے۔"

اور اس ہدایت دینے پر ہی بس نہیں کیا گیا بلکہ شہنشاہ کے والدین لازمی طور پر خود بلا ناغہ اپنے اوقات عزیز میں سے ایک معقول حصّہ شہزادے کی تعلیم و تربیت پر صَرف کرتے رہے۔ مگر یہ نہ سمجھنا چاہیئے کہ صرف دینی تعلیم پر ہی اکتفا کر دیا گیا تھا جو حدتک نامناسب بھی ہوتا بلکہ رفتہ رفتہ شہزادہ کی عمر کی ترقی کے ساتھ مختلف علوم و فنون کی تعلیم بھی برابر دیجاتی تھی۔ چنانچہ ان معاملات میں ملکہ اور اُن کے شوہر نامدار کے مشورہ کار لارڈ ملبورن وزیر اعظم بیرن شاکمر ڈاکٹر ٹرفورس۔ بشپ آف اکسفورڈ اور جیمیس کلارک صاحبان مشہور و مُسلّم اہل الرائے ہوا کرتے تھے۔

گلشن تربیت۔ قصر آسبورن میں جو ملکہ معظمہ کا محل اقامت تھا ایک باغ ایسا بنایا گیا تھا جس میں دنیا بھر کی نباتات جمع کر کے براءالعین ہر ایک پھل پھول کی رنگت شکل اور بُو سے اولاد شاہی کو واقفیت کرائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس خیال کی تکمیل کے واسطے اسی باغ میں چند کیاریاں اولاد شاہی کی فلاحت و باغبانی کے لئے مخصوص کر دی گئی تھیں۔ جنمیں شہزادے اور شہزادیاں خود کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسی محل میں ایک طرف **ذخیرہ موجودات عالم** بھی وسیع پیمانہ پر جمع کر دیا گیا تھا۔ اس کو اگر عجائب خانہ کے نام سے لکھیں تو لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ جائینگے اسمیں معدنی اور صنعتی اشیاء اور نو ایجاد کلیں سب شامل تھیں اور یہ ذخیرہ بھی صرف اسی غرض سے جمع کیا گیا تھا۔ کہ ہر چیز کی ماہیت اور اصلیت

کو اولادِ شاہی بچشم خود دیکھ کر سمجھ سکے۔ اس کے سوا **نجاری و آہنگری** کی تعلیم کے لئے بھی ایک کرہ علیحدہ طیار کیا گیا تھا جسمیں اولادِ شاہی کو جہاز رانی۔ آرہ کشی اور آہنگری کی تعلیم ہوا کرتی تھی اور ایسے ہی **معماری** کی تعلیم کے واسطے بھی اسی محل کے ایک طرف ایک پژاوہ بنا ہوا تھا۔ جسمیں شاہزادیاں اور شہزادے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بنایا اور پکایا کرتے تھے اور اسی طرح تعلیمِ **ناٹک** کے لئے بھی تھی ایٹج الگ بنا ہوا تھا جس میں حسبِ موقع اولادِ شاہی کو ایکٹ کرنے ہوتے تھے اور اسکے علاوہ **تصویرکشی** کی تعلیم بھی ویسی ہی ضروری سمجھی گئی تھی۔ جیسی کہ اور تعلیمات کا التزام تھا **کتابی تعلیمات** میں ہر مفید علم و فن کی کتابیں آپ کو پڑھائی جاتی تھیں مثلاً تاریخ۔ قانون اور سائینس وغیرہ وغیرہ۔ جنکے پڑھانے کا یہ قاعدہ تھا کہ پہلے تو پروفیسر صاحب کسی مسئلہ کو زبانی بیان کرتے اور پھر کمرہ میں لے جاکر اس عمل کو بالتصریح ذہن نشین کرانے کے لئے عملی طور پر دکھا بھی دیتے۔ اِن سب پر قیامِ صحت کے لئے ہوا خوری اور ورزش کی بھی ایسی تاکید تھی کہ جن میں ناغہ ناممکن تھا۔

شہنشاہ کی تعلیم پر ایک پمفلٹ کا شیوع۔ ۱۸۴۶ء میں جبکہ شہنشاہ ذیجاہ کی عمر پانچ سال کی تھی۔ اُن کی تعلیم کے متعلق انگلستان کے کسی روشن خیال شخص نے ایک پمفلٹ شائع کیا۔ جس کا عنوان یہ تھا "ولیعہد انگلینڈ کی تعلیم و تربیت کیسے ہونی چاہیئے؟"

اس پمفلٹ پر کسی صاحب کار نے اپنا نام نہ دیا تھا۔ مگر پھر بھی ملکہ معظمہ اور پرنس کنسرٹ نے اُسے پسند کر کے اسکی بعض تجاویز سے اتفاق کیا۔ اور شہنشاہ

کی تعلیم و تربیت میں پہلے سے بھی زیادہ سعی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ خانگی تعلیم کے بعد آکسفورڈ، کیمبرج اور اڈنبرا کی یونیورسٹیوں میں بالترتیب تعلیم پاتے رہے اور اگرچہ آپکے والد ماجد نے ۱۸۶۱ء میں آپ کے فارغ التحصیل ہو جانے کی بابت ایک پرائیویٹ چٹھی میں ذکر کیا ہے لیکن اصل یوں ہے۔ کہ آپ کو تحصیل علوم و فنون کا اشتیاق اسکے بعد بھی برابر دامنگیر رہا۔ اور مطالعہ نے تو بڑھاپے تک سفر و حضر میں کبھی آپ کی رفاقت نہیں چھوڑی۔

دوران تعلیم میں آپ پورے محنتی اور پابندِ اوقات طالب علم رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کے ہم جماعت اور اُستاد سب اسکی تائید کرتے ہیں۔ کہ شہنشاہ موصوف محنت کرنے والوں کے بھی شہنشاہ ہیں۔

ناولوں کے پڑھنے کی خاندان شاہی کو بہت کم اجازت ہوتی تھی۔ مگر آپ کبھی کبھی فرصت کے وقت سروالٹر سکاٹ کے ناول دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ اسلئے کہ اُسکا اندازِ بیان بہت کچھ دلچسپ اور نتیجہ خیز ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے والد ماجد کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ شہزادۂ والا کو ہر فرصت کے وقت ناول خوانی بھی کیا کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کو بلا کر اپنا افسوس ظاہر کیا۔ کہ کیا تم ہونے والے شاہِ انگلستان کے لئے ناول خوانی جائز رکھتے ہو؟ مگر آپ نے نہایت سادگی سے یہ جواب دیا کہ قبلہ! میں تو سروالٹر سکاٹ کی تصانیف پڑھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہِ معظم سروالٹر سکاٹ کے ناولوں کو ناول نہیں بلکہ قابل دید تصانیف سمجھتے تھے۔

آپ کی طفولیت کا یہ لطیفہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ ایک دفعہ جبکہ

آپکی عمرِ مبارک صرف پانچ سال کی تھی۔ کہ آپ نے ایک بت تراش برنارڈ نامی کی تصاویر پر (جو آپ کو برابر آٹھ دن تک ملاحظہ کرائی گئی تھیں) چکنی مٹی ڈالدی۔ جس سے اُن مجسموں کیصورت بہت کچھ بگڑ گئی۔ اور قصہ آپ کی والدہ ملکہ معظمہ کے گوشگذار ہوا۔ جس پر اُنہوں نے شہنشاہ کو سرزنش کرنے کے بعد ہدایت کی کہ خود کاریگر کے پاس جاکر معذرت کریں۔ آپ کی عمر ہی اُسوقت کیا تھی۔ کہ معذرت کے الفاظ بھی باضابطہ ہوتے۔ پس آپ نے کاریگر کو مخاطب کرکے بلا تکلف فرمایا۔ کہ

دوست برنارڈ! مجھے معاف کردینا۔ کیونکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ بے تمیزی میں مَیں بھی ایک چھوٹا سا گدھا ہوں۔

مردانہ ورزشوں کا بھی آپ کو ہمیشہ شوق رہا ہے۔ چنانچہ اس میں آپ نے بخوبی نام بھی پایا ہے۔ گھوڑ دوڑ کے آپ بہت شائق تھے۔ کالج کے والنٹیروں کی جماعت میں بھی خاص طور پر مشہور تھے۔ بمقابلہ عام طالب علموں سے بہت زیادہ انکو اپنے وقت کی قدر و قیمت اور ضروریات سے واقفیت حاصل تھی۔

زباندانی میں آپ کو نہ صرف انگریزی کے ہی ایک بے عدیل زباندان ہونے کا حق حاصل ہے بلکہ اسکے ساتھ یونانی لاطینی و فرانسیسی۔ اطالی جرمن وغیرہ زبانوں پر بھی آپ کو وہی قدرت حاصل ہے جو ایک ماہر زباندان کو ہونی چاہیئے۔

شہنشاہ کے اُستاد:۔ آپ کے استادوں میں مسٹر سبج۔ ڈین سٹینلی اور چارلس کنگسلی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ

صاحبان باعتبار اپنے علم و فضل اور طبع خداداد کے انگلستان بھر کے اتالیقوں اور عالموں کا خلاصہ و انتخاب تھے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ انکی ہم نشینی و معلمی سے شہنشاہ کو اعلےٰ درجہ کے فوائد حاصل ہوتے رہے۔ چنانچہ آپ کے والدین کی سعی و کوشش اور ایسے لائق اتالیقوں کی تعلیم و تربیت کا ہی یہ نتیجہ سمجھنا چاہیئے کہ سن بلوغ حاصل کرنے تک آپ کو مختلف علوم و فنون پر بھی اس عمدگی اور قابلیت سے قبضہ و توغل حاصل ہو چکا تھا۔ کہ کسی کو مدتوں کی سرزنی سے بھی کم نصیب ہوتا۔ اور غالباً آپکے بالغ ہونے تک کوئی ایسا مفید علم و فن رہ نہ گیا تھا۔ جسپر آپ کو عبور نہ ہو۔ بالخصوص تاریخ اور قانون کیطرف آپ کا اسقدر میلان رہا ہے کہ اسوقت اگر دنیا میں کوئی تاریخ قدیم و جدید کا بہترین عالم اور قانون میں اعلےٰ درجہ کا بیرسٹر تلاش کیا جائے۔ تو غالباً آپ ہی کا نام نامی اول نمبر پائے گا۔

حافظ حقیقی کی محافظت۔ سن بلوغ سے پہلے دو دفعہ آپ کو ایسے حادثات سے سامنا ہوا کہ اگر حافظ حقیقی کی حفاظت شامل نہوتی تو غضب ہی ہو گیا ہوتا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ سات برس کی عمر میں
ایک ساتھی کی بندوق کی گولی کا نشانہ ہوتے ہوتے بچ
گئے۔ اور دوسری دفعہ ۱۶ سال کی عمر میں
ایک بلند پہاڑ پر سے گر گئے تھے
مگر خدا نے فضل کیا۔ کہ
آپ کو کچھ زیادہ
چوٹ نہ آئی

فصل دوم

شہنشاہ کی بلوغت اور خود مختار زندگی

شہنشاہ کا زمانۂ بلوغت تو ۹ نومبر ۱۸۵۹ء سے شروع ہوتا ہے۔ مگر اس سے پہلے مذہبی مراسم کے مطابق شاہی گرجاء میں بشپ اوف کنٹربری امتحان لیتے ہیں۔ جس میں مذہبی و اخلاقی جذبات کی جانچ ہوتی ہے۔ چنانچہ شہنشاہ کا بھی امتحان لیا گیا۔ اور آپ اسمیں تعریف کے ساتھ پاس ہوئے۔ جسکے بعد اسقفِ اعظم نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھکر دُعائے برکت مانگی۔ اس رسم کی نسبت ملکہ معظمہ تحریر فرماتی ہیں "کہ شاہزادہ کے دل پر اس رسم کی سنجیدگی اور عظمت کا بخوبی اثر ہُوا۔ خدا اُسے برکت دے"

بہرحال ۹ نومبر ۱۸۵۹ء کو جب آپ پورے اٹھارہ سال کے ہوئے تو والدین کی نگرانی سے آزاد کئے گئے۔ اور آپ کی نسبت سلطنت انگلشیہ کے جائز ولیعہد ہونے کا اعلان گزٹ میں شائع کیا گیا۔ نیز "آرڈر اوف دی گارٹر" کا معزز تمغہ پہنایا جاکر آپ کو اعزازی کرنیل بھی بنایا گیا۔ غرضکہ سلطنت کیطرف سے اُن اعزازوں کا آغاز ہوگیا جسکے آپ حقدار اور اُمیدوار تھے۔

ایسے مواقعات سے انسانی دل خواہ مخواہ متاثر ہو جایا کرتے ہیں مگر شہنشاہ پر اس تقریبِ سعید کا جو اثر ہوا وہ اس مثال سے ظاہر ہے کہ اسی دن لارڈ ولزلی صاحب سپہ سالار انگلشیہ جب آپ کے

حضور میں عرضِ مبارک باد کو حاضر ہوئے۔ تو دیکھا کہ آپ ایک کاغذ کو پڑھتے جاتے ہیں اور آنسوؤں کا تار ہے کہ مسلسل بندھا ہوا ہے۔ یہ کاغذ کیا تھا؟ اور اسکے مضامین کیسے تھے؟ یہ ایک چٹھی تھی جو ملکۂ معظمہ نے اپنے فرزند دلبند کو اس تقریب کے متعلق تحریر فرمائی تھی۔ اور جسمیں بے شمار نادرانہ نصائح کے بعد یہ بھی ارقام فرمایا کہ "آج سے تم اپنے والد اور والدہ دونوں کے قبضہ و اختیار سے آزاد اور خود مختار ہو۔ شاید تمہیں خیال ہو کہ ہم نے گذشتہ وقت میں تمہارے طریقِ تعلیم و تربیت میں بہت بڑی سختی ملحوظ رکھی ہے۔ مگر اصل یوں ہے کہ جو طور و انداز تمہاری تعلیم و تربیت کے متعلق ہمارے مدِ نظر رہے ہیں۔ اُن سے تمہاری ہی بہتری اور بہبودی ہماری نظروں کے پیش نہاد تھی۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آیندہ زمانہ میں کس قسم کی خوشامدوں اور آزمائشوں سے تمہیں وقتاً فوقتاً مقابلہ کرنا پڑیگا پس ہم نے اپنی طرف سے حتےالامکان یہی کوشش کی کہ تمہارے دل و دماغ کو پہلے سے اُن امتحانوں کے لئے مضبوطی کے ساتھ طیار کردیں۔ مگر اب جبکہ تم بفضلہٖ سن بلوغ کو پہنچ گئے ہو۔ میں یا تمہارے والدِ مہرباں از خود تمہارے معاملات میں خواہ مخواہ دخل در معقولات دے کر دست اندازی نہ کیا کرینگے۔ لیکن اگر تم بطیبِ خاطر ہم سے صلاح و مشورے لینا چاہو گے۔ تو اُس سے ہمیں دریغ بھی نہ ہوگا۔ اور تا حد امکان نیک صلاحوں اور مفید مشوروں سے تمہاری کمرِ ہمت بندھانے میں امداد دیتے رہیں گے۔"

یہ تحریر ایسی نہ تھی کہ شہزادے کو آیندہ ایک ناصح مشفق کا کام نہ

دیتی اور نیز گذشتہ قابلانہ تعلیم و تربیت نے انہیں جس سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ وہ بھی انکی رہنمائی اور مشہوری کے لیئے کچھ کم نہ تھا۔ چنانچہ شہزادہ صاحب نے سنِ بلوغ کے بعد بھی اپنے اوقات عزیز کو ویسا ہی قیمتی سمجھا جیسا کہ ایک لائق شہنشاہ کو سمجھنا چاہیئے۔ چنانچہ سنِ بلوغت کے بعد ہی آپ نے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس فرمایا۔ اور جنگی امتحانات بھی دیئے۔ اور علمِ کیمیا کے اصول و فروع پر بھی اڈنبرا یونیورسٹی میں ڈاکٹر پلے فیئر سے کما حقہٗ واقفیت حاصل کی۔ اور ایسا ہی ڈاکٹر شاکمنر اور مسٹر ہربرٹ فشر سے تاریخِ روم اور قانون پر عالمانہ بحثیں اور لیکچر زسنکے بدستور اپنے معلومات کو ترقی دیتے رہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ آپنے باضابطہ طور پر آکسفورڈ میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور وہ بھی اس ضابطہ کے ساتھ کہ کرائیسٹ چرچ کی آٹھ بجے صبح والی دعا کی شمولیت میں بھی کبھی ناغہ نہ ہونے دیا چنانچہ مارچ ۱۸۶۰ء میں آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی رائیفلز کار پس کا آنریری کرنیل کیا گیا۔ اور اسی وردی سے آپ ملکہ معظمہ کے اس دربار لیوی میں اپنے والد ماجد کے ہمراہ شریک ہوئے۔ جسمیں ۲۰۰ والنٹیر افسروں کو عزت حاضری بخشی گئی تھی۔ غرضکہ آپ سن بلوغ حاصل کرنے کے بعد بھی ویسی ہی سرگرمی اور محنت اپنی تعلیم اور دیگر کاروبار مقررہ میں کرتے تھے جیسے کہ اس سے پہلے عادت ہو چکی تھی۔ اس زمانہ میں آپ کے ہم جماعتوں میں سے لارڈ برون لو۔ لارڈ ہملٹن (جواب ڈیوک اوف ابرکارن ہیں)، اور فریڈرک جانسٹن آپ کے ہمنشین دوست تھے۔ چونکہ آپ سن بلوغ حاصل کرنے پر پبلک لائف میں داخل ہو چکے

تھے۔ اس لئے کئی ایک سلطنتی امور میں بھی آپ کو شریک ہونا پڑتا تھا۔ چنانچہ بحیثیت پرنس اوف ویلز ۱۰ستمبر ۱۸۶۱ء کو آپ نے چھبیسویں پلٹن کو اعزازی جھنڈا عطا فرمایا۔ کیونکہ آپ فوجی عہدہ دار بھی ہو چکے تھے۔ اور فوجی معاملات سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔

۷۔ نومبر ۱۸۶۱ء کو آپ بنچر اوف دی مڈل ٹیمپل منتخب ہوئے جس کے بعد آپ نے نیو ٹیمپل لائبریری کی افتتاحی رسوم نہایت عمدگی سے ادا فرمائیں۔

اسی سال میں محل مارلبرو جو ۱۸۶۵ء میں آپ کی رہائش کے لئے خریدا گیا تھا۔ پرنس کنسرٹ نے اسکی آرائش اور قابل رہائش بنانے کا اہتمام اپنے ذمہ لے کر شہنشاہ کے لئے طیار کر دیا۔ اور آپ اسمیں رہنے سہنے لگے یہ عالیشان محل ۱۸۱۷ء میں شاہزادی شار لوٹی اور شاہزادہ لیوپولڈ کے لئے خریدا گیا تھا۔ اور کسی زمانہ میں شاہزادی لیڈی لیڈ بھی اسی میں اقامت فرما ہو چکی تھیں۔ آپ کا سیر و سفر اگرچہ سن بلوغ سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ مگر اب اسمیں اور بھی وسعت ہونے لگی۔ اور ہر جگہ بطور نائب ملکہ انگلستان آپ کام کرنے لگے۔ جن کا مفصل تذکرہ آئندہ فصول میں اپنے موقع پہ آئے گا۔

شہنشاہ کی نانی کی وفات۔ رنج و بیماری سے کوئی فرد بشر عام اس سے کہ بادشاہ ہو یا غریب خالی نہیں رہ سکتا۔ اور اس کلیہ سے شہنشاہ بھی مستثنےٰ نہ تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے ۱۵ مارچ ۱۸۶۱ء کو آپ کی نانی صاحبہ ڈچس اوف کینٹ نے بمقام فراگمور انتقال کیا۔ یہ خاتون ایسی لائقہ اور منتظمہ تھیں کہ ملکہ معظمہ کی تعلیم و تربیت اور ان کے

با اقبال اٹھان میں اُن کی کوششیں شاہی خاندان کو کبھی فراموش نہیں ہوسکتیں۔

شہنشاہ کی علالت اوّل:- ۱۰ نومبر ۱۸۶۱ء کو شہنشاہ ذیجاہ خود وجع المفاصل کی مرض میں گرفتار ہوگئے۔ اور تین ہفتہ سے زیادہ صاحب فراش رہے۔ لیکن آپ کی مستعدی اور معاملہ فہمی کی دلیل اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ۲۸ نومبر ۱۸۶۱ء کو جب آپ کے حضور میں ایک مراسلہ سلطنت انگلشیہ کیجانب سے اضلاع متحدہ امریکہ کی گورنمنٹ کے پاس جانے والا پیش ہوا تو باوصف پرلے درجہ کی نقاہت اور بیماری کے جبکہ قلم کا پکڑنا بھی مشکل تھا۔ آپ نے اُسکے الفاظ کو نا ملائم پاکر جابجا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے خود اسکی ترمیم فرمادی تاکہ ایک آزادی پسند قوم کے خیالات وجذبات کو صدمہ نہ پہنچے۔ بہرحال اس کے بعد آپ کی صحت ترقی کرتی گئی۔ اور ۱۴ دسمبر ۱۸۶۱ء کو آپ مع الخیر کیمبرج سے ایوانِ ونڈسر میں تشریف لائے۔ مگر شہنشاہ کے رنج وآلام کا ابھی پرخاتمہ نہیں ہوا۔ بلکہ یہاں آکر اُن کو یہ وحشت اثر خبر سُننی پڑی۔ کہ **پرنس کنسرٹ البرٹ** جو دو مہینے سے علیل اور قریباً ایک مہینہ سے صاحب فراش ہوچکے تھے۔ ۱۴ دسمبر ۱۸۶۱ء کو ہمیشہ کے لئے خاندان شاہی کو اپنی مفارقت کا داغ دے گئے ہیں۔

(شہنشاہ کے والد کی وفات)

اس حادثہ سے نہ صرف شہنشاہ کو بلکہ تمام اہالیان خاندان اور خود ملکہ معظمہ کو ایسا ناقابل تلافی صدمہ ہوا۔ کہ جسکو الفاظ میں لانا مشکل ہے۔ بالخصوص ملکہ معظمہ شہنشاہ ذیجاہ اور ڈیوک اوف آرتھر کا رونا تو کسی طرح نہ رُکتا تھا اور واقعی ملکہ کو ایسے نیک نہاد خوبصورت اور نیک سیرت

خاوند کا اور اولاد کو ایسے لائق اور ایسے دردمند باپ کا جسقدر بھی رنج ہوتا بجا تھا۔ مگر قضائے یزدانی اور رضائے ربّانی سے کِس کو چارہ و یارا ہو سکتا ہے۔ آخرش ۲۳ دسمبر ۱۸۶۱ء کو یہ دُرِ یکتا ونڈسر کے گرجا میں تہ خاک کیا گیا۔ اور بعدازاں میدان فراگ مور میں بیس لاکھ روپے کی لاگت سے ایک عالیشان مقبرہ بنوا کر وہاں اُن کی لاش منتقل کی گئی۔ اِس مقبرہ پر جو کتبہ لکھا گیا ہے اسکا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے۔ کہ:۔

" یہ مکان ۲۵ مارچ ۱۸۶۲ء کو ملکہ وکٹوریا نے اپنے عزیز شوہر کی یادگار میں بنوایا۔ با برکت ہیں وہ لوگ جو خدا کی یاد میں سوتے اور اُسی کی تلاش میں جان کھوتے ہیں"

شہنشاہ نے اپنے والد کی یادگار میں معقول چندوں کے اعطا کے علاوہ ہمیشہ انکی نیک زندگی کو اپنا دستور العمل بنانے سے آجتک جو اعلےٰ ترین ثبوت محبّتِ فرزندی کا دیا ہے۔ اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے دلپران کے والد کی بے حد عظمت چھائی ہوئی ہے۔ اور اسی سے اُن کے اُس رنج و غم کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو اِس صدمہ سے اُن کو ہوا تھا۔

پرنس کنسرٹ اگر آج زندہ ہوتے۔ تو انکی خوشی کی کیا انتہا ہو سکتی تھی۔ مگر اب بھی اُمید ہے کہ جب وہ اپنے لختِ جگر کو ہمدردیٔ مخلوق۔ ترقی صنعت و حرفت۔ نیک چلنی کے اپنے پڑھائے ہوئے سبقوں کا مطالعہ خوان دیکھتے ہوں گے۔ تو اِس سے اِن کی گور ضرور ٹھنڈی ہو جاتی ہو گی۔

فصل سوم

شہنشاہ کی شادی خانہ آبادی

سنِ بلوغ حاصل کرنے پر شادی کا مرحلہ طے کرنے کا خیال جیسا کہ ہر سوسائیٹی میں ایک ضروری چیز ہے۔ ویسا ہی شاہی خاندانوں میں بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور شہنشاہ کے والدین بھی اس سے بے فکر نہ تھے۔ سفر یوروپ میں اوّل اوّل ۲۴ ستمبر ۱۸۶۱ء کو ورامز کے گرجا میں شہنشاہ کی ملاقات ڈنمارک کی شہزادی پرنسس الگزینڈرا سے ہوئی۔ تو اس نے دل میں اسقدر جگہ کرلی کہ اسکے بعد کی ملاقاتوں میں محبت وخلوص کو اور ترقی پر ترقی ہوتی چلی گئی چنانچہ شہنشاہ کے والد اپنے روزنامچہ ۳۰ ستمبر ۱۸۶۱ء میں تحریر فرماتے ہیں کہ "شاہزادی الگزینڈرا کی نسبت ہماری رائے بہت عمدہ ہے اور خوشی کی بات ہے کہ دونوں نوجوانوں نے باہم محبت کرنا سیکھ لیا ہے" اسپر ملکہ معظمہ ستمبر ۱۸۶۲ء میں خود ڈنمارک تشریف لے گئیں۔ جن کے عقب میں شاہزادہ نے بھی حسب الحکم اپنی والدہ کے وہیں پہنچ کر شاہزادی کو بزبانِ خود شادی کا پیغام دیا جسے انہوں نے بطیبِ خاطر منظور فرمایا۔ اور وہیں ۹ ستمبر ۱۸۶۲ء کو محل للکین میں شاہ بلجیم اور ممبرانِ خاندان کی موجودگی میں منگنی کی رسوم ادا کردی گئیں جس موقع پر شاہ بلجیم کی طرف سے عاشقین و شیدائے ڈنمارک کو ایک پُرتکلف دعوت بھی دی گئی۔ اس رسم کے بخیر و خوبی انجام پذیر ہونے پر ملکہ معظمہ مراجعت فرمائے انگلستان ہوئیں اور یہاں سے شاہ ڈنمارک کو معہ شہزادی

صاحبہ انگلستان میں مدعو کیا گیا۔ جسکو اُنہوں نے بخوشئ خاطر منظور فرمایا۔ اور انگلستان کی منتظر پبلک کو اپنی تشریف آوری سے مسرور کردیا ۹۔ نومبر ۱۸۶۲ء سے ۲۶م۔ نومبر تک شاہِ ڈنمارک معہ شاہزادی الگزینڈرا کے انگلستان میں رونق افروز رہے۔ جن کی خاطر و مدارات میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا جاتا تھا۔ کیونکہ انکی تشریف آوری سے قبل ۸م نومبر کے لنڈن گزٹ نے باضابطہ طور پر یہ خبر چھاپ کر مشتہر کردی تھی۔ کہ ملکہ معظمہ وکٹوریا نے یکم نومبر ۱۸۶۲ء کو ہز رائیل ہائینس پرنس اوف ویلز البرٹ اڈیورڈ کی شادی خانہ آبادی ہر رائیل ہائینس پرنسس الگزینڈرا شاہزادی ڈنمارک کے ساتھ منظور فرمائی ہے"۔ چنانچہ اس کے بعد پارلیمنٹ انگلستان نے بھی اس شادی کو منظور کرکے شہنشاہ کے وظیفۂ مقررہ میں چالیس ہزار پونڈ یعنے چھ لاکھ روپیہ سالانہ کا اضافہ کردیا۔ اور ماسوا اسکے دس ہزار پونڈ یا ڈیڑھ لاکھ روپے سالانہ کی جاگیر شاہزادی الگزینڈرا کے لئے بھی منظور فرمائی۔ اور پھر نہایت شان و شوکت کے ساتھ اس عظیم الشان شادی کی طیاریاں شروع ہوئیں۔ ملک بھر میں مبارکباد کا ایک جوش تھا۔ کہ برابر پھیلا ہوا تھا۔ کیونکہ شاہزادی صاحبہ نے باعتبار اپنے حسن و جمال اور خصال و افعال کے ہر طبقہ اور ہر درجہ میں پوری پوری نیک مشہوری حاصل کررکھی تھی۔

چونکہ قرار پاچکا تھا کہ رسومات شادی انگلستان میں ہی ادا ہونگی اسلئے ۲۶ فروری ۱۸۶۳ء کو پرنسس الگزینڈرا صاحبہ نے اپنے وطنِ مالوف سے روانہ ہوکر ۷۔ مارچ ۱۸۶۳ء کو سرزمینِ انگلستان میں قدم رکھا کیونکہ ۱۰ مارچ شادی کی تاریخ مقرر ہوچکی تھی۔

اس موقع کی آرائش و زیبائش اور اس تقریب کی شان و شوکت اور رعایا کے جوش مسرت کو کن الفاظ میں بیان کیا جائے۔ جس ایشیائی شاعر نے اپنے محبوب کی تشریف آوری پر یہ لکھا تھا کہ ؎

از آمدنت اگر خبر داشتمے
در رہگذرت گل و سمن کاشتمے

وُہ اگر زندہ ہوتا تو انگلستان میں یہ دیکھ کر نہایت ہی محظوظ ہوجاتا۔ کہ شاہزادی الگزنیڈرا کے سرزمین انگلستان پر قدم رکھتے ہی ساٹھ پری جمال لڑکیاں انکے آگے آگے گل افشانی پر مامور تھیں اور لنڈن کے بازاروں کی آرائش پر تین لاکھ پونڈ یا پینتالیس لاکھ روپیہ اسی تقریب کی خاطر خرچ کردیا گیا تھا۔

الغرض ۱۰۔ مارچ ۱۸۶۳ء کو بروز سہ شنبہ نکاح کی رسوم ساڑھے گیارہ بجے دن کے سینٹ جارج کے گرجے میں نہایت کرّوفر اور شان و شوکتِ شاہانہ سے عمل میں آئیں۔ دعوت شادی اس وسیع پیمانہ پر دی گئی تھی کہ اسکے برتنوں کی قیمت کا اندازہ دس لاکھ پونڈ یا ڈیڑھ کروڑ روپیہ کیا جاتا ہے۔ شادی کا کیک ساڑھے پانچ فیٹ بلند اور ایک من دس سیر وزنی تھا اور زیورات شاہی کے علاوہ شہزادی کو لنڈن کی کیٹی کیطرف سے جو جڑاؤ کنٹھا بطورِ نذر دیا گیا تھا دس ہزار پونڈ یا ڈیڑھ لاکھ روپے کی مالیت کا تھا۔ انہیں باتوں سے ناظرین اس تقریب کی عظمت و شان کا موازنہ کرسکتے ہیں۔

رسُوماتِ نکاح کے وقت شہنشاہ کی والدہ ملکہ انگلستان اور شاہزادی الگزنیڈرا کی والدہ ملکہ ڈنمارک دونوں موجود تھیں۔ اور بڑے بڑے اعیان و اکابرانِ یورپ جو تعداد میں نو سے زیادہ تھے۔ وہ بھی

سب حاضر تھے۔ کہ اوّل شہزادے نے گرجا میں پہنچ کے اپنی والدہ ملکہ کو دوزانو ہوکر مودّبانہ سلام کیا۔ اور پھر قربانگاہ کے پاس جاکر دوزانو ہونے کے بعد دُلہن کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ ایسا ہی دُلہن صاحبہ نے بھی آتے ہی سب سے پہلے ملکہ کے رُوبرُو دوزانو ہوکر مودّبانہ سلام کیا۔ اور پھر قربانگاہ کی تقدیس کے لئے دوزانو ہوگئیں جسکے بعد آرچ بشپ اوف کنٹربری نے بشپ اوف لنڈن و ابرڈین کی شراکت سے مراسم نکاح ادا کردیں اور دولہا دولہن دونوں ہمدست ہو کے گرین اینڈ وائٹ ڈرانیگ روم میں رجسٹر شادی پر دستخط کرنے کو تشریف لے گئے جسپر اسقدر ہپ ہپ ہُرّے اور نعرہ ہائے مسّرت بلند ہوئے کہ آسمان تک آواز جا پہنچی۔ اور پھر یہ مبارک جوڑا شادان و فرحان شاہی گاڑیوں پر سوار اپنے ایوانِ عالیشان میں جا پہونچا اور وہاں سے حسب دستور قدیم ہنی مون کے لئے پہلے آسبورن اور پھر سیاحت یوروپ کے لئے روانگی عمل میں آئی۔ جہاں سے ایک مہینہ کے بعد مراجعت فرمانے پر آپکے لئے محل سنڈرنگھم پر دار الاقامت قرار پایا مگر مالبرد ہوس اور بکنگھم وغیرہ وغیرہ سب آپ کے ہی تحت و تصرف میں تھے۔ جہاں جی چاہا وہیں چند روز جلوہ افروز ہو گئے۔

غالباً یہ بھی لکھدینا ضروری ہے کہ اس ازدواج فرحت امتزاج سے آپ کو چھ اولادیں ہوئیں۔ جن میں سے تین تو ضائع ہوگئیں اور تین بفضلہٖ موجود ہیں۔

اولادِ اوّل ۔ ۸ جنوری ۱۸۶۴ء کو پرنس البرٹ وکٹر پیدا ہوئے جنکو ایوان بکنگھم میں اصطباغ دیا گیا۔ اور ملکہ وکٹوریا ان کی دھرم ماں بنیں

یہی صاحب شہنشاہ کے ولیعہد قرار پائے تھے۔ اور ماشاءاللہ بڑے ذکی و فہیم تھے۔ ۱۸۹۰ء میں ہندوستان کو بھی آپ نے اپنی تشریف آوری سے عزت بخشی تھی۔ مگر افسوس کہ یہاں سے واپسی پر عین عالم جوانی میں جبکہ آپ کی شادی کی طیاری ہو رہی تھیں اواخر ۱۸۹۲ء میں آپ والدین کو داغ مفارقت دے گئے ؎

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

اولادِ دوم۔ ایک سال بعد یعنے ۱۸۶۵ء میں پرنس جارج فریڈرک آرنسٹ پیدا ہوئے۔ جو اَب بفضل خدا ولیعہد سلطنت انگلستان ہیں اور انکی شادی بھی ۱۸۹۳ء میں شاہزادی مے صاحبہ کے ساتھ ہو چکی ہے جو ان سے پہلے پرنس وکٹر متوفی کی منسوبہ تھیں۔

اولادِ سوم۔ پرنسس لوئیس وکٹوریا الگزینڈرا۔ جو ۲ فروری ۱۸۶۷ء کو پیدا ہوئیں اور جنوری ۱۸۹۲ء میں ارل اوف فائف سے بیاہی گئیں۔

اولادِ چہارم۔ پرنسس وکٹوریا اولگا میری جو ۶ جولائی ۱۸۶۸ء میں پیدا ہوئیں۔

اولادِ پنجم۔ پرنسس جولیٹ میری وکٹوریا جو ۲۶ نومبر ۱۸۶۹ء کو پیدا ہوئیں۔

اولادِ ششم۔ پرنس الگزینڈر جنہوں نے پیدایش سے تھوڑے دنوں بعد قضا کی!

اب جیسے بفضل الٰہی شہنشاہ تخت نشین ہوئے ہیں شہزادی الگزینڈرا بھی ملکہ معظمہ کے معزز خطاب سے مخاطب ہوتی ہیں اور یہ تاجدار جوڑا دلی الفت و محبت سے پاکیزہ زندگی کے لطف اٹھا رہا ہے۔

فصل چہارم

شہنشاہ کی سیر و سیاحت

اگرچہ سیر و سیاحت کے فوائد کو تسلیم کر کے شہنشاہ کے والدین نے اسکو بھی اپنی اولاد کے لئے بمنزلہ تعلیم کے قرار دے رکھا تھا۔ لیکن شہنشاہ کی لمبی اور پے در پے سیاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو خود بھی اسکا دلی شوق رہا ہے۔ چنانچہ ابھی آپ سنّ بلوغ کو نہ پہنچے تھے۔ کہ چھوٹے چھوٹے سفر شروع ہو گئے تھے۔ اور ان میں آپ کا ایسا دل لگتا تھا کہ جب آپ تیرہ سال کی عمر میں اپنی بڑی ہمشیرہ کے ساتھ فرانس میں جا کر نیپولین سوم کے مہمان ہوئے تو وہاں کی سیر و تفریح سے خوش ہو کر آپ نے شہنشاہ بیگم فرانس سے فرمایا کہ آپ ملکہ معظمہ کو لکھ کر ہماری نسبت یہاں زیادہ عرصہ ٹھہرنے کی اجازت منگالیں اور جب شہنشاہ بیگم نے اسکا یہ جواب دیا۔ کہ "میرا خیال تو یہ ہے کہ تمہاری والدہ تمہارے بغیر رہ نہیں سکتیں" تو آپ نے بھولے پن سے فرمایا۔ کہ "اس کا کچھ خیال نہ فرمائیے۔ وہاں گھر میں اَور چھ موجود ہیں اور ہماری وہاں چنداں ضرورت بھی نہیں"۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سیر و سفر میں خوب لطف آتا تھا اور آپ اسے دل سے پسند کرتے تھے۔ پندرہ سال کی عمر میں آپ نے سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کا سفر کیا۔ اور پھر ۲۔ اپریل ۱۸۵۸ء کو آپ آئرلینڈ کی سیر کے لئے روانہ ہو گئے۔ ۴۔ اگست ۱۸۵۸ء کو آپ نے والدین کے

ہمراہ آسبورن سے چربرگ تک بحری سفر کیا۔ جہاں شاہی استقبال کے لیئے روشنی وآتشبازی کے جلسوں پر وہاں کے باشندوں نے پچیس ہزار فرانک خرچ کر دیا تھا اور اسکے بعد پھر ۲۰۔ اکتوبر ۱۸۵۸ء کو آپ نے پرنس الفریڈ کے ساتھ یورے لس نامی جہاز پر بحیرہ روم کی سیر فرمائی۔ اور پھر ۲۰ نومبر کو جرمنی کا سفر کیا۔ جہاں آپ شہنشاہ جرمن کے مہمان تھے۔ اور شہنشاہ جرمن (قیصر ولیم متوفی) نے آپ کے خصائل وشمائل سے متاثر ہو کر فرمایا کہ "ان کا وجود ان تمام آرزؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ جو والدین کو نیک اولاد سے ہوتی ہیں" اور اسی خوشی میں اس سفر میں انہوں نے آپ کو **آرڈر اوف دی بلیک ایگل** کا خطاب وتمغہ بھی عنایت کیا۔ اس موقع پر ملکہ وکٹوریا اور آپ کے والد پرنس کانسرٹ بھی جرمن میں موجود تھے۔ جسکے بعد آپ بخیرو عافیت واپس تشریف لائے۔

۱۰۔ جنوری ۱۸۵۹ء کو آپ روم (اٹلی) کی سیاحت کی غرض سے روانہ ہوئے۔ اب تو وہ زمانہ تھا کہ ایک عالم آپ سے آشنا تھا اور سب کو آپ سے ملنے کی تمنا تھی۔ مگر آپ پر تکلف آؤ بھگت اور داب وآداب کو زیادہ پسند نہ کرتے تھے۔ پس اس سفر میں بعض مقامات پر آپ بھیس بدلکر بھی سیر کرتے رہے اور جو جو چیزیں لائق دید تھیں ان کو ایک ایک کر کے نہایت تحقیق سے ملاحظہ فرمایا۔ اسی سفر میں آپ پوپ اوف روم سے بھی ملے۔ آپ کا ارادہ تو دیر تک ٹھہرنے کا تھا۔ مگر چونکہ ان دنوں نپولین سوم آسٹریا پر جنگ کی طیاریاں کر رہا تھا۔ اور روم فرنچ افواج کے قبضہ میں تھا۔ لہذا ملکہ

معظمہ نے ایسے پیچیدہ وقت میں آپ کو وہاں زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہ دی اور آپ اواخر اپریل میں روم سے روانہ ہوکر ۷۔ مئی کو جبرالٹر پہنچ گئے جہاں کسی وقت آپ کے نانا گورنر رہ چکے تھے۔ اور یہاں سے آپ ہسپانیہ و پرتگال کی سیر کرتے ہوئے جولائی میں روانہ انگلستان ہوئے۔

۱۱ستمبر کو آپ بالمورل جاکر ڈولاک میں ہرن کا شکار کرنے کے بعد ۷۔ اکتوبر کو اپنے والدین کے ہمراہ کوہ بیس پیک ڈوی کی سیر کرکے گلاسگو روانہ ہوئے۔ جہاں ایک واٹر ورکس کی افتتاح کے لئے ملکہ معظمہ کو جانا تھا۔ وہاں سے ۱۷۔ اکتوبر کو آپ آکسفورڈ پہنچے۔ اور آٹھ مہینے کی اقامت میں خوب دماغی محنت کرتے رہے۔

۹ جولائی سنہ ۱۸۶۰ء کو آپ بحیثیت ملکۂ انگلستان کے نائب ہونیکے کنیڈا میں دو عظیم الشان اور مہتم بالشان کاموں کی انجام دہی کو تشریف لے گئے۔ پہلا کام تو دریائے مانٹریل کے ریلوے پل کا افتتاح تھا۔ مگر دوسرا کام قرون آیندہ تک برابر شہنشاہ کی تاریخ میں سُنہری حروف سے لکھا رہے گا جو کنیڈا کی پارلیمنٹ کا بنیادی پتھر رکھنا تھا۔

اصل یوں ہے کہ ملکۂ انگلستان نے کنیڈا والوں کو بنفس نفیس اپنی تشریف آوری کا وعدہ دے رکھا تھا۔ مگر آخر کار مشاغلِ شاہی سے عدیم الفرصتی کے باعث اپنے ولیعہد سلطنت کو اپنا قائمقام کرکے روانہ کرنے کی تجویز فرمائی جسکو اُن لوگوں نے بھی دلی خوشی سے پسند کیا۔ اور اس سفر میں شہنشاہ نے بھی تمام رعایا برایا کے دلوں پر اپنی ہردلعزیزی کا وہ سکہ بٹھایا کہ جو کبھی محو نہیں ہوسکتا۔

آسبورن سے چلکر آپ نے ڈیون پورٹ میں مقام فرمایا جہاں معززین قوم نے آپکے حضور میں ایک اڈریس پیش کرنے کی عزت حاصل کی اسکے جواب میں آپنے جوکچھ ارشاد فرمایا اسکے چند فقرات کا اقتباس ذیل کیا جاتا ہے۔ تاکہ ناظرین اپنے شہنشاہ کی حُبّ الوطنی اور ہمدردیِ قومی کا اندازہ کرسکیں آپ نے فرمایا۔ کہ:۔

" میں اس وقت ملکۂ انگلستان کے نائب کی حیثیت سے مقبوضات شمالی امریکہ کی سیر کو جارہا ہوں جہاں شریف اشخاص۔ انسانی صنعت و کمال اور قدرت کی دلچسپ کاریگری میرے مشاہدہ میں آسکے گی۔ پس میں واپسیٔ انگلستان پر اپنے ساتھ ایسی معلومات لانے کی کوشش کروں گا جو میرے ہموطنوں کے لئے مفید اور کارآمد ثابت ہوسکے۔ غالباً اس امر کا آپ لوگوں کو بجا ناز ہوگا۔ کہ آپ کے ہمقوم بھائی ایک بھاری تعداد میں اسوقت غیر ممالک میں جاکر عزت و توقیر اور امن و آسایش سے گذارہ کر رہے ہیں "

ڈیون پورٹ سے روانہ ہوکر جب ۲۳ جولائی کو آپ مقام سینٹ جان واقعہ نیو فونڈلینڈ امریکہ میں پہنچے تو پہلی بار وفادار رعایا نے آپ کی گاڑی کے گھوڑے کھولکر اسکو اپنے کندہوں سے کھینچا۔ اور ایک قابل دید ناچ کا جلسہ آپ کو دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے بھی ایک دربار لیوی منعقد فرماکے وہاں کے چیدہ معززین کو شرف نیاز بخشا۔ اور اس کے بعد ہیلی فیکس اور نوا اسکوشیا کا رُخ کیا۔ جہاں ۲۹ جولائی کو لارڈ ملگریو صاحب گورنر نے آپ کا شاندار استقبال کرکے فوج کا ملاحظہ کرایا۔ جہاں سے روانہ ہوکر آپ آٹھویں اگست ۱۸۶۱ء کو جمعہ کے دن دوپہر

کے وقت مقام کوبیک دارالحکومت کینیڈا میں رونق افروز ہوئے۔ جہاں ساٹھ ہزار آدمی آپ کے استقبال کے لئے موجود تھے۔ چنانچہ اسی دن تیسرے پہر آپ نے ایک لیوی دربار کا انعقاد فرماکر شمالی وجنوبی کینیڈا کے رومن کیتھولک پادریوں کو اعزاز نیاز بخشا۔ اور پھر پانچ دن کے قیام کے بعد شہر مانٹریل کے پل کی افتتاح کے لئے تشریف لے گئے۔ یہ پل دریائے سینٹ لارنس پر ۱۸۵۳ء سے طیار ہورہا تھا جو پورے سات سال کی محنت اور صنعت سے کہیں اب جاکر مکمل ہوا اور حضور ممدوح نے اسپر سب سے پہلے اپنی گاڑی چلانے سے رسمِ افتتاح ادا فرمائی۔

چونکہ آپ کو صنعت وحرفت کی ترقی کا شوق اپنے والد سے ورانتاً پہنچا ہوا تھا۔ لہذا وہاں بھی آپ کے حکم سے ایک صنعتی نمائش کھولی گئی۔ جسکے افتتاح کی تقریب پر آپ کو مختلف قسم کے ورزشی کھیل اور ناچ وغیرہ دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ ۲۹ اگست کو آپ نے وہاں کی آٹھ ہزار فوج کا علمہ لیا۔ اور ۳۱ تاریخ کو اٹاوہ کیجانب روانہ ہوئے۔ جہاں آپ نے ایک عظیم الشان تاریخی کام سرانجام دینا تھا۔ چنانچہ یکم ستمبر ۱۸۶۰ء کو آپ نے اٹاوہ میں کینیڈا کے پارلیمنٹ کا بنیادی پتھر نصب فرمایا۔ اس موقع کی عظمت و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جہاں تمام حاضرین کے چہرے انکی دلی بشاشت کی گواہی دے رہے تھے۔

اس کام کو انجام دے کر دو دن میں آپ نے سویبل کا سفر طے فرمایا۔ اور ۳ تاریخ کو مقام برگ وائل میں نزول اجلال ہوا۔ اور

اگلے دن وہاں سے روانہ ہوکر ۶ ستمبر کی شام کو کوبرگ میں پہنچکر قیام فرما ہوئے۔ جہاں کی رعایا مثل اہالیانِ ڈیون پورٹ کے آپ کی گاڑی خود کھینچتی ہوئی فرودگاہ پر لے گئی۔ ۷ تاریخ کو روانہ ہوکر جھیل رائس کا ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ مختلف مقاماتِ کنیڈا کی سیر سے محظوظ ہوتے رہے۔ اور ۱۸ ستمبر کو انٹاریو کی جھیل سے ہوتے ہوئے ہملٹن کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاں اس سفر کا اختتامی دربار منعقد فرمایا گیا۔ اور نیز ایک صنعتی نمائش کا افتتاح کیا گیا۔ اور انجمن زراعت کا ایڈریس لے کر بائیشہ جواب سے اسکو سرفرازی بخشی گئی۔ یہاں سے فراغت کے بعد آپ نے اضلاع متحدہ امریکہ کی گلگشت کا قصد فرمایا اور مقام شکاگو کو دیکھ کر مختلف دیہات و قریات کا معائنہ فرماتے ہوئے ایک چھوٹے مگر دلکش گاؤں ڈوایٹ نامی میں ۲۳ سے ۲۶ ستمبر تک قیام فرما کر قدرتی زندگی کا لطف اُٹھایا۔ کیونکہ آپ کو بٹیر کے شکار کا شوق تھا اور یہاں اسکا نہایت عمدہ موقع تھا۔ چنانچہ اثنائے قیام میں آپنے سو بٹیروں کا شکار کیا۔ اور پھر مختلف شہروں کی سیر کرتے ہوئے ریاست ہائے۔ الینس۔ انڈیانہ۔ واوہو کو دیکھتے ہوئے ۳۔ اکتوبر کو شہر واشنگٹن میں رونق افروز ہو کر پانچ دن تک مسٹر بوچانن کے مہمان عزیز رہے۔ جہاں ۴۔ اکتوبر کو آپ نے دربار شاہی اور پیٹنٹ اوفس کا معائنہ فرمایا۔ اسی دن تیسرے پہر آپ کی تشریف آوری کی تقریب سے پریزیڈنٹ نے ایک دربار منعقد کیا۔ جسمیں دائیں جانب شہنشاہ اور بائیں طرف پریزیڈنٹ کی نشست تھی۔ اور پھر شام کو امریکن گورمنٹ کی جانب سے ایک عظیم الشان دعوت آپ کو دی گئی۔

اگلے دن ۵- اکتوبر ۱۸۷۶ء کو آپ پریزیڈنٹ کے ساتھ بمقام لونٹ وربان **واشنگٹن** کے مقبرہ دیکھنے کو تشریف لے گئے۔ واشنگٹن وہ شخص تھا جسکی لڑائیاں شہنشاہ کے پڑداداکے ساتھ اکثر رہا کرتی تھیں۔ اور قدرت ان میں اُسی کو فتحیاب بھی کرتی رہی تھی۔ مگر شہنشاہ کی بے تعصبی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جب آپ قبرستان میں پہنچے تو تعظیماً سر سے ٹوپی اوتار لی۔ جسکی تمام جماعت نے تقلید کی۔ اور پھر آپنے فرمایا۔ کہ میرے یہاں آنے کی یادگار میں واشنگٹن کے سرہانے کوئی ایسا درخت لگایا جائے جو امریکہ میں خاص طور پر ہر دلعزیز اور مُبارک ہو۔ ۸- اکتوبر کو آپ شہر واشنگٹن سے چلکر ۱۰ کو فلاڈلفیا کے سٹیٹ ہوس میں مقیم ہوئے۔ اور اُس تاریخی قدیم کانگرس ہال کا ملاحظہ فرمایا۔ جسمیں امریکہ کے آزادی پسند فرقہ نے ۴- جولائی ۱۷۷۶ء کو دستاویز آزادی پر دستخط کئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہوکر ۱۱- کو آپ نیویارک داخل ہوئے جہاں کیسل گارڈن بیٹری میں آپ کا قیام ہوا۔ لیکن اس شہر نے جسقدر آؤ بھگت آپ کی کی ہے۔ وہ سرسری طور پر چھوڑ دینے کے لائق نہیں۔ کیونکہ نیویارک کا ہر کہ و مہ اسقدر آپکے جمالِ جہاں آرا کا مشتاق تھا۔ کہ آپ کے رستہ کے دونوں طرف اژدہام مخلوق سے تل بھر جگہ باقی نہ رہی تھی۔ چنانچہ تخمینہ کیا گیا ہے کہ پانچ اور چھ لاکھ کے درمیان لوگ آپ کی سواری دیکھنے اور خوش آمدید کہنے کو اسدن جمع ہوئے تھے یہاں سے روانہ ہوکر آپ ۱۷ کو امریکہ کے مشہور تجارتی شہر بوسٹن میں پہنچے۔ اور ۱۹ تاریخ کو کیمبرج ہارورڈ کالج کا معائنہ فرماکے کوہ آیڑن کی سیر کرتے ہوئے ۲۰- اکتوبر کو ۴ بجے شام کے ہیرو نامی جہاز پر سوار ہوکر پولینڈ کی طرف روانہ

ہوئے۔ رستے میں موسم طوفانی ہوجانے کے باعث آپ کو ناگوار توقف کرنا پڑا۔ اور ۵ نومبر کو آپ بخیریت پلائی موتھ سے محلِ ونڈسر (لنڈن) میں رونق افروز ہوئے۔ جہاں آپکے والدین بڑے چاؤ سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔

اس سفر سے جو فوائد حضور ممدوح کو باعتبار وسعتِ معلومات پہنچے اور جو فوائد باعتبار دوستانہ تعلقات کی ایزادی کے تجارت کو نصیب ہوئے۔ اُسکی نسبت عموماً تمام اہل الرائے نے اپنی بیش قیمت رائیں دی ہیں۔ علےٰ ہذا پولیٹیکل طور پر امریکہ پر جو اثر انگلستان کا ہُوا وُہ بھی بہت کچھ لائقِ تعریف ہے اور جسمیں شہزادہ صاحب کا پایۂ اخلاق بہت بڑھا ہُوا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ شہنشاہ کی روانگی پر پریزیڈنٹ امریکہ نے ملکہ معظمہ کو جو خط لکھا تھا وُہ یہ ہے:۔

"یہاں کے ہر مقام پر شاہزادۂ انگلستان کا استقبال بڑی محبت و صداقت سے ہوا ہے۔ جسکی یہی وجہ نہیں کہ صاحبِ موصوف بحیثیتِ ولیعہدِ انگلستان اس کے شایان تھے۔ بلکہ زیادہ تر یہ باعث ہے کہ شہزادہ کے اوصاف و اخلاق ہی اس لائق تھے کہ وُہ خود بخود لوگوں میں ہر دلعزیزی اور محبت پیدا کر لیں۔ کیونکہ اُنہوں نے ہر مقام پر امریکہ والوں سے مہربان سلوک کر کے انکو اپنا گرویدہ کر لیا۔ خاصکر مَیں اور میرے جتنے اہالیانِ خاندان تو جتنا اِن سے ملے ہیں اِن کی خوبیوں کے دل سے ثناخواں ہوگئے ہیں۔ شاہزادہ کا واشنگٹن کے مقبرہ کو جانا اور اسکی زیارت پر صداقت و محبت کا اظہار کرنا ایسا اہم واقعہ ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور امریکہ و انگلستان کے باشندوں

ہمارا اپنا اثر ڈالتا رہیگا۔"

ملکہ معظمہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ:-

"آپ نے اپنے محبت نامہ میں جو میرے فرزند دلبند کی نسبت عمدہ رائے ارقام فرمائی ہے۔ اور تحریر فرمایا ہے کہ ان کے شایستہ سلوک سے آپ اور آپکے ہموطن خوش رہے ہیں۔ اس سے مجھکو بیحد مسرت ہوئی۔ چونکہ پرنس ممدوح آپ سے رخصت ہوکر رستہ میں بادِ مخالف کے باعث متوقف ہوگئے تھے۔ اسلئے میں نے ارادتاً والانامہ کے جواب میں دیر کی۔ کہ انکے بخیریت پہنچنے کی خوشخبری بھی لکھ سکوں۔ چنانچہ اب وہ بعافیت پہنچ گئے ہیں۔ اور آپکے ملک کی سیر سے محظوظ اور آپ اور آپکے ہموطنوں کے نیک سلوک اور اظہارِ محبت پر دل سے شکر گذار ہیں۔

میرے دل پر اہالیانِ امریکہ کی محبت سے جو اثر ہوا ہے۔ اسکو معمولی الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ مگر یہ آپ کو یقین رکھنا چاہئے۔ کہ واشنگٹن کے مقبرہ پر شہزادہ کیطرف سے جس ادب کا برتاؤ ہوا۔ میں بھی اسکی ویسی ہی تقدیس کرتی ہوں۔ اور امید ہے کہ بلا منازعت ایسے ہی ہمارے دوستانہ تعلقات ہمیشہ رو بترقی رہینگے۔"

بہرحال یہاں سے واپسی پر آپ نے تعلیم و تعلم کی طرف توجہ فرمائی اُن دنوں آپ کا قیام اکثر مانگلی ہال میں رہا کرتا تھا۔ جو ملکہ الزبتھ کے زمانہ کی ایک قابل یادگار عمارت تھی۔ یہاں آپ مطالعہ کتب میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ یہیں سے آپ کیمبرج اور پھر اکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کے امتحانات میں شریک ہوکر نہایت تعریف سے پاس ہوتے رہے

اسی اقامت میں چونکہ آپ خود بھی بیمار ہو گئے تھے۔ اور اسی سال آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تھا۔ جس سے طبع عالی سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اسلئے آپ نے یروشلم (بیت المقدس) کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ یروشلم کے مقدس سفر پر آپ ۶ فروری ۱۸۶۲ء کو بھراہی کرنل بروس و میجر ٹیڈزیل وغیرہ مقام ڈوور سے براہ وائنا روانہ ہو کر ۱۶ کو وہاں سے آسبورن نام جہاز میں سوار ہوئے اور کارفو وغیرہ ہوتے ہوئے ۲۴ تاریخ کو اسکندریہ پہنچے۔ جہاں آپ کے خیر مقدم کو ڈاکٹر لسٹر۔ آنریبل آرہیڈ اور کپتان سیٹنلے وغیرہ معزز و مقتدر حکام موجود تھے چنانچہ آپ کو خوش آمدید کہنے کے بعد وہ بھی آپکے ہمراہ یکم مارچ کو قاہرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاں پرتپاک استقبال کے بعد آپ خدیو مصر کے مہمان عزیز قرار دئے جاکر قصر النوسہ میں ٹھہرائے گئے۔ جو برلب دریائے شوبرا بڑا پرفضا محل ہے۔ ۴ تاریخ کو آپنے مصر کے مایۂ ناز اہرام یعنے سہ پہل میناروں کی سیر فرمائی اور یہ سین اسقدر پسند خاطر عالی ہوا کہ اگلے روز طلوع آفتاب سے قبل آپ پھر تشریف لیگئے تاکہ ان بلند میناروں پر سے طلوع آفتاب کے دلکش اور مبارک سمے کا نظارہ کر سکیں۔ اسکے بعد مصر کے دو شاہی سٹیمر آپ کو دریائے نیل کی سیر کراتے رہے۔ اور آپ مصر کے مشہور اور تاریخی قابل دید مناظر کی سیر اور آبشار کا نظارہ کرتے ہوئے پھر قاہرہ کو مراجعت فرما ہوئے راستے میں مقام تھی بنیر میں آپ کے برادر خورد ڈیوک اوف سیکس کوبرگ بھی معہ ڈچس صاحبہ آپ سے ملگئے۔ جس سے حضور ممدوح کو بڑی خوشی ہوئی۔ غرضکہ مختلف مقامات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے۔ اور لوحِ

دل پر مصری و عربی زندگی کے فوٹو لیے ہوئے ۳-اپریل ۱۸۹۶ء کو آپ قاہرہ پہونچے۔ جہاں پہنچکر آپ نے متجسسانہ انداز سے ہر کوچہ بازار اور ہر قابلِ دید عمارت کو دیکھا۔ اور پھر بذریعہ ریل نہر سویز کی سیر کو تشریف لے جاکر ۷ کو ساڑھے نو بجے صبح کے قاہرہ سے روانہ ہوکر ایک بجے بندرہ منٹ پر آپ اسکندریہ رونق افروز ہوئے۔ اور وہاں سے ۸ کو بذریعہ آسبورن نامی جہاز کے ۱۳ کو جافہ ہوتے ہوتے سرزمین یروشلم پہنچ گئے۔

حضور ممدوح شہر یروشلم کے باہر شمال مغرب کیطرف اپنا کیمپ نصب کرا کے ہیکل۔ حرم۔ کوہ زیتون اور حضرت داؤد کے مقبرہ وغیرہ مشہور زیارات دو دن تک متواتر کرنے کے بعد بیت اللحم اور ماریسابہ کو دیکھتے ہوئے بحیرہ مردار پر پہنچے۔ جہاں آپنے غسل بھی فرمایا۔ اس بحیرہ کا پانی اسقدر بوجھل اور نمکین ہے کہ اس میں نا شناور بھی نہیں ڈوبتا۔ بہرحال یہاں سے غسل کے بعد آپ پھر یروشلم کو مراجعت فرما ہوئے۔ اس سفر میں سلطان المعظم روم کے معتمد ہر مقام پر آپ کے رہنما تھے۔ چنانچہ واپسی کے وقت بھی آپ کو تمام مشہور مقبروں کی سیر کرائی جاتی رہی۔ بلکہ مسجد کے اندر بھی جو مقابر موجود ہیں۔ گورنمنٹ ٹرکی کے خاص حکم سے آپ کو انکی بھی زیارت نصیب ہوتی ہی۔ حالانکہ اس سے قبل کسی عیسائی کو اُن کے دیکھنے کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ ۱۲ تاریخ کو آپنے دیوارِ یعقوب کا ملاحظہ فرمایا۔ اور پھر تمام قابلِ نظارہ گاہوں کو دیکھتے ہوئے گڈ فرائیڈے کا مبارک دن ناصرہ میں بسر کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسےٰ علےٰ انبیّنا علیہم السلام

کی پیدائیش ہوئی تھی۔ اور اسیوجہ سے آپ مسیح ناصری کہلاتے تھے یہ مقام بدوی عربوں کے قبضہ میں ہے جسکے سردار آغا ئیل آغانے پُرجوش تپاک سے آپ کا استقبال کیا۔ اور آپ کو عربی بلکہ بدوی ڈھنگ کی ایک دعوت بھی دی جسکو آپنے بدل پسند فرمایا۔ اور پھر وہاں سے ۲۱ تاریخ کو کوہِ سفید کی سیر کرتے ہوئے ۲۴-۲۵ کو دریائے پرون کے منبع پر قیام کرتے ہوئے ۲۶ کو قلعہ بلفورٹ اور ۲۷ کو رشیدیہ دیکھکر ۲۹ کو خاص دمشق پہونچگئے۔ جہاں عبدالقادر مشہور سپہ سالار الجیریا آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آداب بجالائے یہاں سے آپ بحیرہ بالٹک کی راہ بیروت پہونچکر ۶ مئی ۱۸۶۲ء کو آسبورن جہاز پر سوار ہوکر دریائے سانڈن وڈواگ کی سیر کرتے ہوئے ۱۱ کو شام (سیریا) پہونچے۔ جہاں سے ۱۳ کو آپ مغربی علاقہ کی سیر کے لئے روانہ ہوئے۔ چنانچہ ۱۸ کو آپ ڈارڈنیلز (درہ دانیال) میں جلوہ افروز تھے۔ ۲۰ مئی ۱۸۶۲ء کو قسطنطنیہ میں آپکا ورودِ مسرت آمود ہوا۔ جہاں سلطنت عثمانیہ کے وزیراعظم آپکے استقبال کو لبِ ساحل موجود تھے جنھوں نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو محلِ سلطانی پر لیجاکر سلطان المعظم روم سے ملاقی کرایا اور سلطان نے بھی دلی تپاک و محبت سے آپ کو بکمالِ عزت مہمان کیا۔ اور آپ پھر قسطنطنیہ کی سیر میں مشغول ہوئے۔ ۲۲ تاریخ کو شہر کے کوچہ و بازار دیکھکر سرکاری عمارات خزانہ و اسلحہ خانہ قدیم و مسجد ایا صوفیہ اور چند دیگر مساجد کا ملاحظہ ہوا۔ اور ۲۳ کو چشمہ شیرین کے پُرفضا مقام پر سلطان المعظم کی طرف سے ایک عالیشان دعوت

دی گئی جسمیں سلطان المعظم نے حضور ممدوح کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کر خود بھی خاصہ تناول فرمایا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان المکرم نے ایک عیسائی کے ساتھ ملکر کھانا کھایا ہو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ کی پاکیزگی اور بے تعصبی سلطان کے دل پر منقش ہو چلی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قسطنطنیہ کے شہر میں اکثر اوقات آپ بتغیر لباس نہایت بے تکلفی سے دورہ کرتے رہے۔ تاکہ ترکوں کی معاشرت و تمدن کی صحیح تصویر لے سکیں۔ چنانچہ اس ذریعہ سے آپ کو بے شمار معلومات حاصل ہوئیں اور آپ ۲۵ کو قسطنطنیہ کی سیر سے فارغ ہو کر براہِ مالٹا مارسیلز پہنچ کے عازم فرانس ہوئے۔ اور فرانس کے مضافات کی سیر سے حظ اٹھاتے ہوئے مقام فان ٹین بلو میں نپولین سوم شہنشاہ فرانس اور انکی بیگم صاحبہ سے ملاقات کرکے مع الخیر والعافیتہ ۱۴ جون ۱۸۶۲ء کو لنڈن کے محل ونڈسر میں رونق افروز ہوئے جسکے بعد آپ کی شادی خانہ آبادی کی طیاریاں ہونے لگیں۔ اور عرصہ پانچسال تک آپ خانہ دار زندگی بسر کرتے رہے جسمیں آپ کی بیماری وغیرہ بھی شامل تھی۔ جن باتوں کا مذکور علیحدہ فصل میں کیا جائے گا۔ غرضکہ آپ پانچسال کے عرصہ میں سوائے ڈنمارک یا صوبجات متحدہ انگلستان کے مختصر سفروں کے کوئی لمبا سفر نہیں کرسکے ۱۷۔ نومبر ۱۸۶۶ء کو برِاعظم یوروپ کی سیاحت کے ارادہ سے معہ اپنی بیگم صاحبہ و خورد سال بچوں کے آپ نے لنڈن سے کوچ فرمایا۔ اور فرانس میں شہنشاہ نپولین سوم کی مہانداری کے لطف اٹھائے اور وہاں سے ڈنمارک کی جانب تشریف لے گئے۔ جہاں نہایت تپاک

اور دلی جوش و خروش سے آپ کا استقبال ہُوا۔ کوپن ہیگن میں شہزادہ
کے استقبال کو خود شاہِ ڈنمارک معہ شاہزادہ والڈی مارکے حاضر تھے
اور چونکہ یہ ملک موجودہ ملکۂ زمانی کا وطن تھا۔ اسلئے آپ نے ۱۵ دسمبر
تک یہاں اقامت فرمائی۔ اور اہالیانِ ڈنمارک کی تواضع و تکریم سے
محظوظ ہوکر یہاں سے سویڈن کا عزم فرمایا جہاں بمقام سٹاک ہالم
(دارالحکومت سویڈن) شاہ سویڈن ریلوے سٹیشن پر آپ کے
خیر مقدم کو موجود تھے۔ جنہوں نے نہایت کرّوفرِ شاہانہ کے ساتھ
آپ کو محل شاہی میں لے جاکر مہمان کیا۔ اور آپ کے دورانِ قیام
میں مختلف جلسوں اور درباروں کے انعقاد سے باشندگانِ سویڈن
کی طرف سے اظہارِ مسرت ہوتا رہا۔ اسی جگہ آپ نے **فری میسن لاج** میں
اپنی شمولیت فرمائی۔ جسکے آپ گرنڈ ماسٹر بھی ہوئے۔ اسکے بعد آپ نے
برلن و مصر کا ارادہ فرمایا۔ اور سوائے پرنس وکٹر کے باقی دونوں
شہزادوں کو معہ انکی ہمشیرہ کے انگلستان روانہ فرمادیا۔ اور خود معہ بیگم صاحبہ
کے برلن اور وائنا کی سیر فرماکر، ۴ جنوری ۱۸۶۹ء کو آریاڈین نامی
جہاز پر سواحل مصر کی طرف کوچ فرمایا۔

۴۔ فروری ۱۸۶۹ء کو آپ کا جہاز اسکندریہ پہونچا تو تمام مصری
جہازوں نے شاہی سلامی دی اور محمد توفیق پاشا خدیو مصر نے نہایت
شاندار استقبال کے ساتھ آپ کو اسکندریہ سے قاہرہ (دارالخلافہ
مصر) لے جاکر قصرِ نیل میں (جو ایک مشہور عالیشان اور پُرفضا اور خوش منظر
محل ہے) فروکش کیا۔ اور آپ قاہرہ کی سیاحت میں مشغول ہوئے۔ ان
دنوں ایک قافلہ حجاجِ کعبہ کا قاہرہ سے باہر ٹھہرا ہوا تھا۔ جس کا منظر

شہزادہ کو نہایت دلکش اور سُہانا معلوم ہُوا۔ مختصر یہ کہ آخر فروری تک آپ مصر اور اسکے مضافات کی سیر میں مصروف رہے۔ اور تاحدامکان کوئی تاریخی عمارت بلکہ کھنڈرات تک آپ نے دیکھے بغیر نہیں چھوڑے۔ اور پھر وہاں کی سیر سے سیر ہوکر ماہ مارچ میں آپنے بحیرہ روم کی راہ سے قسطنطینہ جانے کا ارادہ کیا۔ اور حسب قاعدہ روانگی کے وقت بھی خدیو مصر کی طرف سے ویسے ہی اعزاز و صداقت کا اظہار ہُوا۔ اور چند دنوں میں آپ کا جہاز قسطنطینہ پہنچ گیا۔ جہاں آپ کو شایانِ استقبال کے ساتھ قصر شاہی میں لیجایا گیا۔ اور سُلطان المعظم نے محل کی سیڑھیوں تک آپ کا استقبال کرکے اُس عزت و مسرت کو ظاہر کیا جو شہزادہ کی نسبت اِن کے دل میں جاگزین تھی سُلطان المعظم آپ کو محل شاہی کے تمام کمرے خود دکھاتے تھے اور آپ کی مہانداری کا انتظام بنفسِ نفیس خود فرماتے تھے شہنشاہ ذیجاہ بھی سلطانی مدارات سے بدرجہ کمال احسان مند ہوئے۔ مگر چونکہ آپ طبعی طور پر متجسّانہ طبیعت رکھتے ہیں اور صرف محلات و عمارات کے دیکھنے کو ہی اپنے سفر کا مقصود نہیں سمجھتے۔ بلکہ ملک کی اندرونی تمدّنی و معاشرتی و پولیٹیکل لائف سے واقفیت حاصل کرنا بھی آپ کا ہر جگہ پُورا پُورا نصب العین رہا ہے۔ اسلئے آپ نے بہ تبدیل لباس یہاں بھی خوب خوب سیریں کیں۔ جن سیروں میں شہنشاہ بیگم بھی اِن کے ساتھ شریک ہوا کرتی تھیں۔ ایسے مواقعات پر آپ اپنا نام مسٹر ولیم اور شہنشاہ بیگم کا نام مسز ولیم بتایا کرتے تھے۔ بہرحال ۱۱۔ اپریل ۱۸۶۹ء کو سیر قسطنطینہ سے فارغ ہوکر روانہ انگلستان

ہوئے ۔ اور ایک مہینا کابل رستہ میں مشہور مقامات اور جنگ کریمیا کے تاریخی مواقعات کا ملاحظہ کرتے ہوئے انگلستان رونق افروز ہوئے ۔ جہاں بدستور پھر ایک عرصہ تک خانہ دار زندگی بسر کرتے رہے جبیں گاہ گاہ ڈاکٹری مشورے یا خانگی ضروریات یا سیر و تفریح کے سوا کبھی کبھی معمولی نقل و حرکت بھی ہو جاتی تھی۔

مارچ ۱۸۷۲ء میں آپ نے اٹلی (رومۃ الکبرٰے) کا سفر اختیار کیا جبیں آپ کی بیگم صاحبہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اور اگرچہ آپ کا ارادہ تو یہی تھا کہ اس سفر کو بہ تبدیل لباس اپنے آپ کو ارل اوف چسٹر اور بیگم صاحبہ کو کونٹس اوف چسٹر مشہور کر کے سیاحت کریں ۔ مگر آپ کی روانگی کا عزم دنیا بھر میں مشہور ہو چکا تھا اور ایک زمانہ چونکہ آپ سے روشناس ہو چکا تھا۔ لہٰذا یہ ارادہ پورا نہ ہوا ۔ اور ہر جگہ آپ کے استقبال و شایعت کی رسوم پوری طرح ادا ہوتی رہیں اٹلی میں قریب ایک مہینے کے آپ نے قیام فرمایا۔ جس عرصہ میں سلطنت کی طرف سے آپ کی خاطر و مدارات میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں ہوا۔ اثنائے قیام میں آپ پوپ اوف روم سے بھی ملے ۔ اور اہالیانِ اٹلی آپ کے اور آپ کی بیگم صاحبہ کے جمال و خصال سے کمال احسانمند ہوئے۔ چنانچہ مارگریٹ ولیعہد اٹلی نے صاف اقرار کیا کہ "شہزادی الگزنڈرا حسن و جمال کی ملکہ ہیں" یہاں سے رخصت ہو کر آپ ڈنمارک تشریف لے گئے۔ جو شہنشاہ بیگم کا وطن مالوف تھا۔ یہاں کی مدارات کا تو ذکر ہی فضول ہے کہ یہ اپنا گھر تھا۔ بہرحال آپ اس سفر سے فارغ ہو کر ماہ جون میں انگلستان پہنچ گئے ۔ اس امر کا بیان بھی بے موقع نہ ہوگا ۔ کہ اس سفر

میں بھی حسبِ معمول حضورِ ممدوح نے تبدیل لباس سے اپنی سیر و سیاحت کو معلومات کے زر و جواہر سے مالا مال کرتے رہے اور نہایت بے تکلفی سے قدرت کے فیضان کا تماشہ کرتے رہے۔

اسکے بعد خاندانی ضروریات کے لئے ایک دفعہ ۲۳ جنوری ۱۸۷۴ء کو آپ ڈیوک اوف اڈنبرا کی شادی کی شرکت کے لئے سینٹ پیٹرز برگ (دارالحکومت روس) تشریف لے گئے۔ اور پھر پرنس فلپ اوف سیکس کوبرگ کی شادی کی تقریب سے بلجیم رونق افروز ہوئے۔ نیز اسی سال برمنگھم اور پلائی موتھ میں بھی سیر و شکار فرماتے رہے۔ مگر کوئی اہم سفر اختیار نہیں کیا۔

اواخر ۱۸۷۵ء میں آپ نے سفر ہندوستان کا عزم بالجزم فرماکر صداقت آئین سرزمین ہند کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے شرف اندوز اور وفادار رعایا کو اپنے جمالِ باکمال سے معزز و ممتاز کیا۔ اس سفر کے اخراجات کے لئے پارلیمنٹ نے ایک لاکھ پونڈ یعنے پندرہ لاکھ روپے منظور کئے تھے۔ چنانچہ آپ سر بارٹل بہادر کی ہمراہی میں انگلستان سے روانہ ہوکر بندرگاہ بمبئی سے داخلِ ہندوستان ہوئے۔

اگرچہ آپ کی طبیعت ابتداء سے سادگی پسند واقع ہوئی ہے مگر وفادار رعایائے ہند نے آپ کی تشریف آوری پر جسقدر اظہارِ مسرت کیا۔ اگر اسکو مختصر طور پر بھی تفصیل وار بیان کیا جائے تو ایک علیحدہ ضخیم کتاب کے سوانہ آسکے گی لہذا اسیقدر کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہندوستان میں جہاں کہیں ایک دن کے لئے بھی آپ کا قیام ہوا۔ رعایا نے سر آنکھوں پر جگہ دی اور پرلے درجہ کی عقیدت و ارادت کا اظہار کیا۔

بمبئی میں جب آپ تشریف لائے۔ تو بندرگاہ کا نظارہ ایسا شاندار اور پرجلال ہوگیا تھا۔ کہ غالباً بمبئی نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اور نہ شائد آیندہ دیکھے۔ گورنر صاحب مع تمام دیگر معزز روسا و عمائدین کے آپکے خیر مقدم کو موجود تھے۔ جہاز کے پہونچتے ہی شاہی سلامی سر ہوئی اور آپ مُتبسّم انداز سے برآمد ہوئے! اور گورنر صاحب و دیگر مقتدر حکام سے مصافحہ کرکے بسواری گاڑی گورنمنٹ ہوس کو تشریف لیگئے رستے میں شائقینِ دیدار کا وُہ ہجوم تھا کہ شاید حضور ممدوح نے اُس سے زیادہ اپنی قوم میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ رستہ جھنڈیوں اور ویلکموں اور دیگر سامان آرائش سے بالکل عروسِ چمن کی طرح سجا ہوا تھا۔ اور گورنمنٹ ہوس کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ اتفاق سے یہیں آپ کی سالگرہ کی تاریخ بھی آ پہنچی۔ جس نے لطفِ تشریف آوری کو اور بھی دوبالا کردیا۔ روشنی آتشبازی۔ ناچ کے جلسے اور دربار نہ صرف بمبئی میں ہی ہوئے۔ بلکہ جہاں کہیں آپ تشریف لے گئے کچھ مزید ہی رنگ دیکھنے میں آیا۔ اور کیوں نہ ہو سلطنت انگلشیہ کے ہونے والے ہی شہنشاہ تھے۔ جنھوں نے سب سے پہلے خاکِ ہندوستان کو اپنے شرفِ قدمبوس سے مشرف فرمایا تھا۔ کیا بڑے سے بڑے والیان ریاست اور کیا غریب سے غریب مخلوق اس خوشی سے جاموں میں پھولے نہ سماتے تھے۔ چنانچہ اس اظہار وفاداری کا آپکے دل پر بھی بخوبی اثر ہوا۔ جسکو آجتک آپ نے فراموش نہیں فرمایا۔ بمبئی سے روانہ ہوکر آپ نے اور بھی مختلف مقامات اور بعض مشہور ریاستوں کی سیر فرمائی۔ اور ہر جگہ اظہارِ عقیدت و ارادت سے کمال محظوظ ہوتے رہے۔ مشہور صوبجات کے صدر مقامات

مدراس۔ کلکتہ۔ الہ آباد۔ لاہور کے سوا آپ نے بعض مشہور دیسی ریاستوں کی بھی سیر کی جنہیں سے ہر ایک نے آپ کی خاطر و مدارات میں وہ سامان کیا کہ شاید کوئی بڑی سے بڑی سلطنت بھی نہ کر سکتی بڑودہ میں آپ نے ہرنوں کے شکار سے بہت لطف اٹھایا۔ گوالیار میں آپ نے مشقی جنگ ملاحظہ فرمایا۔ میسور میں ہاتھیوں کا جنگل دیکھا غرضکہ جہاں گئے وہاں کے رئیس کے لئے ہزار عید کے چاند سے بڑا چاند چڑھ گیا۔ اور جہاں پہنچے ایک جہان کو مستفید کر دیا۔

۱۱ جنوری سنہ ۱۹۰۳ء کو آپ کا داخلہ دہلی میں ہوا۔ جو اس سے پہلے صوبہ پنجاب میں ملحق ہو چکی تھی۔ اس داخلہ کے وقت جیسا شاندار جلوس نکلا ہمیشہ یاد رہنے کے لائق ہے۔ ۱۳ کو آپ نے فوج کا ملاحظہ لیا۔ اور ۱۳ کو لارڈ ہنیرا وف بیگنڈالا کے زیر اہتمام آپ نے ملٹری بال میں شرکت فرمائی۔ جس میں ۱۴ سو معتقد مہمان شامل تھے۔ یہ دعوت قلعہ معلّیٰ میں دی گئی تھی۔ اور اگرچہ وقت ساڑھے ۹ بجے دن کا مقرر تھا مگر صبح ہوتے ہی سب لوگ بڑے ٹھاٹھ سے جانے شروع ہو گئے۔ اور یقیناً جب سب کے اخیر حضور ممدوح تشریف لے گئے ہونگے تو سڑک پر قلعہ کے ارد گرد گاڑیوں کا اسقدر ہجوم دیکھ کر ضرور متاثر ہوئے ہوں گے۔ کہ یہ سب عقیدتمند ہمارے ہی خیر مقدم کو جمع ہیں۔ دوسرے دن قطب صاحب کے مینار کی سیر ہوئی جہاں لفٹنٹ گورنر صاحب پنجاب نے مشہور اور معزز دیسی رؤسا کو آپ کے روبرو پیش فرمایا۔ اگلے روز آپ کو مشقی جنگ کا سین اس انداز سے دکھایا گیا کہ اصل کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ اور چونکہ شہنشاہ کو فوجی معاملات سے

دلچسپی بھی ہے۔ اسلیئے اِن باموقع نظاروں سے آپ کمال محظوظ ہوئے پیر کا دن بھی سپاہیانہ کھیلوں اور کرتبوں کے دیکھنے میں بسر کرنیکے بعد آپ دہلی سے لاہور روانہ ہوئے جو اسوقت تک صوبہ پنجاب کا صدر مقام ہے۔

۱۷- کو آپ داخل لاہور ہوئے۔مؤلف کتاب اسوقت خوردسال تھا۔مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ ریلوے سٹیشن سے گورنمنٹ ہوس تک دورویہ شائق دیدار رعایا اسطرح کھڑی تھی کہ ان میں سے رستہ پاجانا سوائے حکومت وہیبت کے بالکل ناممکن تھا۔سٹیشن پر والیان ریاست ہائے بہاولپور و نابھہ وکپورتھلہ وغیرہ وغیرہ اور تمام دوسرے معزز عہدہ داران یوروپین و ہندوستانی آپ کے استقبال کو موجود تھے۔ٹرین کے پہونچتے ہی ہپ ہپ ہرّے کا شور بلند ہوا۔ اور آپ نے بخندہ پیشانی برآمد ہوکر ہر ایک والی ملک اور معزز ومقتدر حاکم سے مصافحہ فرمایا۔توپوں کی سلامی ایک عالم کو خبر کر رہی تھی کہ آج شہزادہ عالم لاہور پہونچ گئے ہیں۔آپ اسٹیشن سے گھوڑا گاڑی میں سوار ہوکر بازار سلطانی سے ہوتے اور دہلی دروازہ اور لوہاری دروازہ کے باہر سے گذرتے ہوئے گورنمنٹ ہوس تشریف لے گئے۔آپ کی گاڑی معمولی رفتار سے چلتی تھی۔یعنے ایسے جلوس کے موقع پر جو عموماً رفتار کو نہایت دھیما کردیا جاتا ہے۔ وہ بات نہ تھی۔ اسلئے شائقین دیدار اور رعایا سے وفادار سوائے نظر غلط انداز کے آپکے دیدار سے پوری طرح متمتع نہ ہوسکی۔مگر آپنے اپنے قیام سے ساکنین لاہور کو کافی موقع اپنے دیدار کا دیدیا تھا بہر حال پھر بھی زہے نصیب لاہور کے کہ سمندپار سے اُس کا ہونے والا شہنشاہ

یہاں رونق افروز ہُوا۔ گورنمنٹ ہوس میں آپکے حضور میونسپل کمیٹی لاہور کیطرف سے پنجاب کو اس تشریف آوری کی اعزاز بخشی پر ایڈریس دیا گیا۔ اور حضورِ ممدوح نے بھی اسکے جواب سے سرفرازی بخشی۔ جسکے بعد ایک دربارِ لیوی منعقد فرما کے حکام یوروپین وبعض خاص الخاص دیسیوں کو شرفِ نیاز عطا فرمایا۔ جس سے فراغت کے بعد والیانِ ریاست سے فرداً فرداً ملاقات کرکے انکی عزت افزائی کی۔ دوسرے روز قلعہ لاہور شاہی مسجد جامع۔ سمادھ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سنٹرل جیل کی سیر فرمائی اور جیل میں جاکر تیس قیدیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمایا۔ اگلے دن آپ کو یہاں بھی ناچ کا جلسہ دیا گیا اور اُس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ منگل کو آپ نے پھر والیانِ ریاست سے ملاقات فرمائی اور پھر چھاؤنی میانمیر لاہور کے سپاہیوں کی دستکاریوں کی نمائش کا جاکر بدستِ خاص افتتاح فرمایا۔ اس موقع کے لئے ایکسو نادیں رجمٹ کے سپاہی سکھ پل نامی نے آپ کو ایک تصویر نذر کی بھی۔ جس میں حضور کی بیگم صاحبہ کو ایک دلہن سے ملاقات کرتے دکھایا گیا تھا۔ چنانچہ اس تصویر کو حضورِ ممدوح نے بھی شرفِ قبولیت بخشکر سپاہی مذکور کی عزت افزائی فرمائی۔

بُدھ کی شام کو شالا مار باغ لاہور میں آپ کو چراغان دکھائی گئی۔ جہاں نواب صاحب بہاولپور۔ مہاراجہ پٹیالہ ونابھہ اور شاہ شجاع کے پوتے کو شرفِ ملاقات بھی بخشا گیا۔ یہ باغ اپنی ندرت ونظارت اور عمارت کے لحاظ سے پنجاب میں ایک بے نظیر اور قابل دید باغ ہے۔ اور بالخصوص اُسوقت جبکہ اس شاہجہان کے بنائے ہوئے باغ میں یہ شہزادہ عالم وعالیان

جلوہ افروز تھے۔ ایسے حسن و جمال کو پر لگ گئے تھے۔ روشنی نہ صرف عمارات پہ بلکہ درختوں اور تالابوں کے اردگرد ایسی خوشنمائی سے کی گئی تھی۔ کہ باغ بقعۂ نور بنا ہوا تھا۔ آپ دس بجے شب سے ساڑھے گیارہ بجے تک وہاں مصروف گلگشت رہے۔ اور باوجودیکہ سخت سردی کا موسم تھا مگر پھر بھی آتے اور جاتے مخلوق کا باغ کے باہر اور سڑک پر وہ اژدحام تھا۔ کہ شانہ سے شانہ چھلتا تھا۔

بہرحال لاہور میں چار دن قیام فرما کر حضور ممدوح ۴ جنوری کو ساڑھے بارہ بجے دن کے ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والی ریاست جموں و کشمیر کی دارالریاست کی طرف نہضت فرما ہوئے۔ اُن دنوں جموں جانے کے لئے صرف وزیر آباد تک ہی ریل کی سواری میسر ہو سکتی تھی۔ اور اس سے آگے سیالکوٹ تک علاقہ انگریزی کی سڑک تھی۔ جس سے پرے جموں ۲۸ میل کے فاصلہ پہ واقع ہے۔ اور رستہ معمولی حالت میں تھا۔ لیکن ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والی کشمیر نے کمال فراخ دلی سے برابر اٹھائیس میل تک پختہ سڑک بنوائی۔ اور آپ کی سواری کے انتظام کا مسٹر کلز ایجنسی کو ہزار ہا روپیہ دے کر وزیر آباد سے جموں تک آمد و رفت کے لئے ٹھیکہ دیدیا تھا۔ چنانچہ حضور ممدوح شاہانہ گاڑی میں سوار ہو کر نہایت آرام کے ساتھ جموں تشریف لے گئے۔ جہاں جموں سے سات میل اِدھر تک ہز ہائینس حضور ممدوح کے استقبال کو تشریف لائے۔ اور وہاں سے ایک ہی گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو اپنی دارالریاست میں لے گئے۔ اور جموں سے دو میل پیچھے پہنچے (جہاں دریائے توی بہتا ہے) تو شاہی جلوس

ہاتھیوں پر سوار ہوا۔ جسمیں پہلے ہاتھی پر حضور ممدوح کے ساتھ ہزہائنس مہاراجہ صاحب بہادر تھے اور پھر درجہ بدرجہ دیگر حکام و معززین گیارہ ہاتھیوں پر جلوہ فرما تھے۔ اسی شان سے جلوس شاہی محل مہاراجی میں پہونچا۔ تو ایک طرف باجے نے قومی گیت گانا شروع کیا اور دوسری طرف سلامی اتواپ سر ہونے لگی۔ مخلوق کا دریا سے لیکر محل مہاراجی اور وہاں سے لیکر قیامگاہ شہنشاہی تک وہ ہجوم تھا جو دیکھنے سے ہی متعلق تھا۔ حضور ممدوح کا قیام ایک وسیع و نفیس کوٹھی میں (جواب عجائب گاہ کے نام سے مشہور ہے) کرایا گیا۔ اور ریاست کیطرف سے کوئی دقیقہ اپنے مہمان عالیشان کی خاطر تواضع میں باقی نہ رہگیا تھا۔ روشنی آتشبازی طرح طرح کے کھیل۔ ناچ اور فوجی ریویو وغیرہ دکھاکر ہر طرح سے شہزادہ عالم کو محظوظ کیا جاتا تھا۔ اسکے علاوہ آپ نے کامیابی سے شکار بھی فرمایا۔ آتے ہوئے ہزہائنس کیطرف سے بیش بہا تحائف آپ کی نذر کئے گئے جن میں سے ایک مرصع تلوار بھی تھی جسکو پیش کرتے ہوئے ہزہائنس نے فرمایا کہ "اگر اسکی آزمائش منظور ہو تو اس کے لئے میرا سر حاضر ہے" غالباً اس جوش بھرے فقرے نے آپ پر جو اثر کیا ہوگا۔ وہ اسکو کبھی بھول نہ سکیں گے۔ بہرحال نہایت خوشی و خرمی کیساتھ آپ ویسے ہی تزک و احتشام سے واپس ہوئے۔

دریائے چناب کا پل (جو باعتبار اپنی وسعت اور مضبوطی کے دنیا کا ایک نہایت شاندار پل ہے اور جسپر باون لاکھ روپیہ صرف ہوا ہے۔ ان دنوں طیار ہو چکا تھا اور اہالیان ریلوے نے آپ کی بیگم صاحبہ کے نام نامی پر اسکا نام الگزنڈرا رکھنا تجویز کرکے آپ ہی کے دست مبارک

سے اسکی رسم افتتاح کا ادا ہونا منظور کرالیا تھا۔ لہٰذا جموں سے آتے وقت آپ وزیرآباد سے اس پُل کی افتتاح کے لئے تشریف لے گئے۔ جہاں ایک مختصر مکان طیار کر کے اسکے چاروں طرف یہ چار فقرے لکھے گئے تھے۔ جن کے دیکھنے سے آپ کمال محظوظ ہوئے۔

۱۔ خدا ملکہ معظمہ کو سلامت رکھے۔ ۲۔ خدا پرنس اوف ویلز کو برکت دے۔ ۳۔ خدا کرے انگرنڈرا مشرق ومغرب کے اتحاد کا باعث ہو ۴۔ اے سمندروں کے بادشاہ کی بیٹی! چناب تیری ملکیت ہے

پہلے دو دعائیہ فقرات تو غیر معمولی ہیں۔ مگر آخر الذکر دونوں اپنے معانی میں بہت کچھ مطالب رکھنے کے باعث شہنشاہ کو نہایت پسند ہوئے۔ بالخصوص شاہِ ڈنمارک کو ملکہ کی تفضیل جتانے کے لئے سمندروں کا بادشاہ قرار دینا آپکو بھی پسند ہوا۔ اور آپ نہایت خوشی سے مراجعت فرمائے امرتسر ہوئے۔

چناب کے پُل پہ فارسی میں جو قطعہ تاریخ لکھا ہے۔ اس میں یہ خصوصیت ہے کہ مصرعہ تاریخی میں آپ کا نام نامی ایڈورڈ ہی آیا ہے۔ حالانکہ آپ کا نام اسوقت البرٹ ایڈورد تھا۔ قطعہ یہ ہے۔

بازبکشاد البرٹ ایڈورڈ　　چوں انگرنڈرا پُلِ محکم
یادگارے زحضرت ایڈورڈ　　سال تاریخ آں نوشت قلم

امرتسر میں آپ کے خیر مقدم کے پرجوش بنانیکے لئے بھی جھنڈیوں ویلکموں اور جلوس استقبالی وغیرہ کی بھی پوری پوری بہار تھی اور آپ کے تفریح خاطر کے واسطے روشنی وغیرہ امور کا ویسا ہی التزام تھا۔ ٹون ہال میں آپ کو ایک ایڈریس عام باشندگان امرتسر کیطرف سے نہایت

پر خلوص الفاظ میں دیا گیا۔ اور پھر مشن ہال میں آنریبل کنور ہرنام سنگھ صاحب برادر متوفی مہاراجہ صاحب کپورتھلہ نے آپ کو ہندی عیسائیوں کی جانب سے ایک مخلصانہ اور دعائیہ ایڈریس دیا۔ جنکے جوابات آپنے نہایت عمدہ الفاظ میں عنایت کئے۔ اور شام کو تالاب اور دربار صاحب امرت سر کا معائنہ کر کے اگلے روز مع الخیر روانہ آئندہ ہو گئے۔

الغرض مختلف مقاماتِ ہندوستان کی سیر کرتے ہوئے آپ بخیر و عافیت ۱۳۔ مارچ ۱۸۷۶ء کو بندرگاہِ بمبئی سے بعزم انگلستان جہاز پر سوار ہوئے۔ جہاں آپ کی مشایعت بھی ویسے ہی اخلاص و شان سے عمل میں آئی۔ اور امید ہے کہ اس تین مہینے کی سیر ہند نے آپ کے صفحۂ دل پر رعایا کی وفاداری اور والیانِ ریاست کی مہمانداری کے جو خیالات منقش کر دئے ہوں گے۔ وہ آپ کو تادام الحیات نہ بھولیں گے۔

سیاحت ہندوستان سے واپس ہو کر جب آپ انگلستان پہنچے ہیں تو شاہی خاندان اور تمام اراکین سلطنت اور رعایا برایا نے آپ کو اس چاؤ سے ریسیو کیا کہ جسکی انتہا نہیں۔ اسوقت اگرچہ آپ کا جسم کسی قدر دُبلا معلوم ہوتا تھا۔ مگر چہرہ بہت بشاش اور تروتازہ تھا چنانچہ آپنے اپنے پُرجوش استقبال کرنے والوں کے جواب میں فرمایا

"اگرچہ آپ صاحبوں کو دلی محبت کے باعث میرے اس دُور و دراز سفر میں میری تکالیف کا خیال رہا ہوگا مگر اصل یوں ہے کہ ایسا سفر بہت ہی خوش آیند اور شیریں کہنا چاہئے۔ جس کا انجام ایسا مسرتناک ہو جیسا کہ اپنے دلی خلوص سے آپ نے میرے استقبال میں ظاہر کیا ہے"

بہرحال آپ کو سفرِ ہندوستان سے ساحل سمندر کی سیر کا شوق

کچھ ایسا پیدا ہوگیا۔ کہ آپ نے ایک کشتی ہلدی گارڈی نام موسم گرما میں آئیل اوف رائیٹ میں سیر کرنے کو طیار کرائی۔ جسمیں گاہ گاہ آپ نارمنڈی کی طرف بھی تشریف لے جاتے تھے۔

فروری ۱۸۶۷ء میں آپ معہ ڈیوک اوف کیناٹ کے جرمنی میں شہزادی شارلوٹی دختر ولیعہد جرمن کی شادی میں تشریف لے گئے۔ جہاں ڈیوک اوف کیناٹ کی شاہزادی سوئس مارگرٹ (ہمشیرہ پرنس الزبتھ متعلقہ خاندان شاہی جرمنی) سے بات چیت ہوکر دونوں کی باہمی شادی قرار پاگئی۔

۱۸۷۹ء میں آپ نے پھر ڈنمارک کی سیر فرمائی۔ جہاں پہلے سے بھی زیادہ تپاک سے آپ کا استقبال ہوا۔

۱۸۸۰ء و ۱۸۸۱ء میں آپ کئی بار مع اپنی خاتون ذیجاہ کے پیرس تشریف لے گئے۔ کیونکہ آپ وہاں کی مشہور عالم نمائش کے انگریزی حصّہ کے پریزیڈنٹ قرار پائے تھے۔

۱۸۸۱ء میں آپ پرنس ولیم جرمنی کی شادی کی تقریب سے برلن میں اور پھر ولیعہد آسٹریا کی شادی کی تقریب سے وائینا۔ اور پھر سابق شہنشاہ روس کی موت پر اظہار ملال کے لئے معہ بیگم صاحب کے سینٹ پیٹرز برگ تشریف لے گئے اور اگلے سال آپ قیصر جرمن کی جوبلی کے موقع پہ برلن رونق افروز ہوئے۔ جہاں آپ کو کرنل اوف بلوچہ ہزار ونکا خطاب و تمغہ شہنشاہ جرمن کیطرف سے دیا گیا۔ جو جرمن میں ایک نہایت ہی اعلےٰ درجہ کا خطاب ہے۔

۱۸۹۲ء میں آپ معہ بیگم صاحبہ کے آئرلینڈ کی سیر کو تشریف لیگئے

اور پھر ڈبلن کی سیر میں مصروف رہ کر وہاں کے لوگوں کو اپنے اخلاق وآداب کا اسقدر گردیدہ کیا۔ کہ وہاں کی بوڑھی عورتیں آپ کو فائین بوائے یعنے "بہترین لڑکا" کہہ کے یاد کرتی ہیں۔ یہاں سے دایرہ دولت کاٹن وین مور اور کاذک اور کیپ اوف ڈنلو اور بنچس ٹون اور بلفاسٹ ہوتا ہوا آسبورن جہاز کے ذریعہ لنڈن پہونچا۔

اسکے بعد بھی آپ چھوٹے چھوٹے سفر کرتے رہے۔ اور سنہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے بلجیم کا سفر فرمایا۔ جس میں ایک فاتر العقل شخص مسمی سیپی ڈو نے آپ پر متواتر دو گولیاں چلائیں۔ مگر حق تعالےٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور آپ نے بطور یادگار یہ دونوں گولیاں اپنے بکس میں بند کرلیں۔ اور اب جبکہ بفضلِ خدا آپ شہنشاہ ہند وانگلینڈ ہیں۔ سوائے خاص ضروریات یا ڈاکٹری مشورے کے آپ کی نقل وحرکت سخت مشکل ہے۔ مگر پھر بھی آپ کہیں نہ کہیں آتے جاتے رہتے ہیں لیکن صاف ظاہر ہے کہ جس پوری پوری دلچسپی کے ساتھ آپ نے سیر وسیاحت میں کتاب کائنات کا مطالعہ فرمایا ہے۔ اور جس تحقیق وتدقیق کے ساتھ ہر ایک ملک کی خالص طور پر معاشرت وتمدن سے واقفیت حاصل کی ہے وہ بھی اسقدر ہے۔ کہ دوسرے بہت بادشاہوں کو نصیب نہ ہوگی۔

فصل پنجم

شہنشاہ کے اشغال و خصال

تقسیم اوقات - زمانۂ ولیعہدی میں اگرچہ کوئی روزانہ باضابطہ کام آپ کے متعلق نہ تھا - مگر ولیعہدِ سلطنتِ انگلشیہ کی حیثیت سے آپ کو سلطنتی اور قومی معاملات میں اسقدر مصروفیت رہتی تھی کہ آپ کا وقت برابر جچا تُلا ہوتا تھا چنانچہ ہمیشہ آپ کا دستور رہا ہے کہ خاندان بھر میں سب سے پہلے جاگا کرتے تھے اور حوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد سب سے پہلے سکرٹری کو اُسدن کے کاروبار کے متعلق تفصیلی ہدایات دیکر آٹھ بجے تک اُن خطوط کا جواب بدست خاص لکھا کرتے تھے - جو بالخصوص آپ سے متعلق ہوں - اور یہ خطوط ایک دو ہی نہیں بلکہ اسقدر ہوا کرتے تھے کہ کبھی کبھی وقت مقررہ میں اِن سے فراغت ہی نہ ہوسکتی تھی مگر پابندی اوقات کا یہ عالم تھا کہ جہاں آٹھ بجے - آپنے کام چھوڑدیا اور جو باقی رہ گیا اگلی صبح کو پھر اسکی باری سب سے پہلے آتی تھی - آٹھ سے نو تک آپ کی تفریح طبع کا وقت تھا - جسکے بعد آپ معہ اہالیانِ خاندان حاضری پر بیٹھ جاتے اور اس سے فراغت کے بعد مالبرو ہوس میں تشریف لے جاکر تمام ڈاک جو آپکے نام آئی ہوتی اُسے کھولا کرتے - اور اسیوقت ساتھ ساتھ سکرٹریوں کو ایسے خطوط کے جواب کی ہدایت فرماتے جاتے جو سکرٹریوں کے جواب دینے کے لائق ہوا کرتے تھے اور اپنے لکھنے کے لائق خطوط خود رکھتے جاتے تھے - اِس خط و کتابت کو معمولی نہ

سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ پندرہ ہزار روپیہ سالانہ کی رقم محصول ڈاک و محصول تار پہ صرف ہوا کرتی تھی۔ اسکے بعد آپ اپنے ولیعہد بہادر کے محل پارک ہیں میں تشریف لے جاتے اور بچوں سے دل بہلاتے۔ جن سے نمٹنے پر قریباً گیارہ بجے دنیاوی کاروبار میں مصروف ہو جاتے جو عموماً سلطنتی اور قومی ہوا کرتے تھے۔ اسی وقت میں ہی مختلف ڈیپوٹیشن وغیرہ آپ کے حضور میں پیش ہوتے اور مختلف امورِ سلطنتی میں آپ کو غور و خوض کر کے رائے دینے کا موقع ہوتا۔ ایسی کارروائیوں کے لئے انڈین ہال مخصوص تھا۔ جو سفرِ ہندوستان کے بعد آپنے اپنے محل میں نامزد فرما رکھا ہے۔ اور اس میں وُہ تمام تحائف اور جواہرات وغیرہ سجے ہوئے ہیں جو ہندوستانی والیانِ ریاست وغیرہ نے آپ کو نذر کئے تھے۔

ملنے ملانے میں آپ اسقدر با اخلاق ہیں کہ اپنی تکلیف کا بھی خیال نہ فرما کر حاضرین کو کبھی محروم نہ کرتے۔ اسکے بعد اگر کوئی کونسل ہوتی۔ جو عموماً ہوتی تھیں۔ تو آپ اسکی شرکت کو تشریف لیجاتے اور اگر وقت خالی ہوتا۔ تو نامعلوم طور پر کسی شفاخانہ یا مدرسہ وغیرہ کے ملاحظہ کو چلے جاتے۔ اور معقول امداد سے اسکی معاونت فرما دیتے۔ اسکے بعد ہوا خوری کا وقت ہو جاتا۔ جس سے فارغ ہو کے پھر آپ اپنی جائداد کے انتظام کے متعلق کام کرتے۔ اور بعد ازاں اپنے مہمانوں اور بے تکلف دوستوں سے جلسہ رہتا۔ جس سے کہیں نصف شب کے قریب آپ کو اپنے پلنگ پہ جانے کا موقع ملتا۔ اور آپ صرف چھ گھنٹے سو کر بیدار ہو جاتے۔ چونکہ آپ فوج میں پہلے کرنیل اور پھر جرنیل ہو چکے تھے۔ اسلئے فوجی کاروبار سے بھی آپ کو خاص دلچسپی رہتی تھی۔ اور

صنعت و حرفت کی ترقی کے لئے آپ ہمیشہ مصروف نظر آتے تھے۔
ملکی و قومی کاروبار میں ہمیشہ آپ بڑی فراخدلی سے حصّہ لیتے رہے ہیں۔ کئی مفید تعمیروں کی آپ نے بنیاد رکھی۔ اور کئی رفاہِ عام عمارتوں اور پلوں کا افتتاح فرمایا۔ اخلاق و تواضع میں آپ خاص طور پر مشہور ہیں۔ کئی دفعہ جب آپکے ملاقاتی بہت زیادہ ہو جاتے۔ اور اِن کا سلام لیتے لیتے آپ تھک بھی جاتے۔ تو بھی اپنے آرام کا خیال نہ فرماتے اور سب حاضرین سے بخوبی خندہ پیشانی ملتے۔ کسی کو کل آؤ کا ارشاد نہ ہوتا۔ جو فی الواقعہ بڑے بھاری اخلاق کا ثبوت ہے۔
شکار کا آپ کو ہمیشہ ازحد شوق رہا ہے۔ بٹیر کا شکار تو خاص طور پر مرغوب طبع تھا جسکے لئے ایک جنگل آپنے اپنی جائیداد میں رکھ چھوڑا تھا۔ اور قریباً ہر سال آٹھ ہزار بٹیر شکار ہوتے تھے۔ لیکن ہرن شیر۔ ہاتھی وغیرہ صحرائی حیوانات کے شکار میں بھی آپ کو کچھ کم دلچسپی نہیں رہی۔ چنانچہ سیاحت ہندوستان میں بھی ایک دن آپ نے پے درپے پانچ شیر شکار کئے تھے۔
آپ اگرچہ گاڑی اور گھوڑے کی سواری کرتے رہے ہیں۔ مگر بائیسکل خاص طور آپ کو مرغوب رہی ہے اور خصوصاً وُہ بائیسکل جو پولو کی سواری کے لائق ہو۔ پالکی یا ہاتھی کی سواری آپ کے پسندِ خاطر نہیں ہوئی بمبئی میں آپ نے پالکی نشینی فرمائی تھی۔ مگر طبیعت پر بار معلوم ہوا۔ ایسا ہی ہاتھیوں پر کئی بار سوار ہوئے۔ مگر اتفاق سے آپ کے ساتھ ہاتھی شوخی سے پیش آتے رہے۔
بیگم صاحبہ سے بھی آپ کو خاص موانست رہی ہے۔ چنانچہ سیاحت

ہندوستان کے متعلق مشہور ہے۔ کہ ہر روز رات کو آپ اپنی پیاری بیگم سے بذریعہ تار گفتگو کر لیا کرتے تھے۔

تربیتِ اولاد سے بھی آپ کبھی غافل نہیں رہے۔ اور ہمیشہ اپنے شہزادوں کی تعلیم و تربیت کی بنفس نفیس نگرانی فرماتے رہے ہیں۔

آپ عوام کی تفریح کے بھی کم قدر دان ثابت نہیں ہوئے۔ چنانچہ لنڈن میں آپ کی ملکیت میں ایک وسیع قطعہ اراضی تھا۔ جس سے بصورت کاشتکاری آپ ہزارہا پونڈ سالانہ پیدا کر سکتے تھے۔ مگر چونکہ وہاں کرکٹ کے شوقین کھیلا کرتے تھے۔ اسلئے آپ نے اُن کی خاطرشکنی کو روا نہ رکھ کر زمین سے مدتوں کوئی انتفاع حاصل نہیں کیا۔ کیونکہ کرکٹ اور فٹ بال کے کھیلوں سے آپ کو بھی بہت بڑی دلچسپی رہی ہے۔ اور ہنسی کی بات ہے کہ لارڈ پنسر نے جب ایک کھلاڑی لڑکے پین سے آپ کی نسبت رائے پوچھی تو اُس نے کہا۔" آپ بیشک شہنشاہی کے قابل شخص ہیں۔ کیونکہ آپ کھلاڑیوں کے بھی بادشاہ ہیں"

حضور ممدوح غریبوں کی امداد و دلدہی کے لئے ہمیشہ مستعد نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ کسی مزدور نے آپ کو سلام کر کے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تو آپ نے بھی بڑھکر نہایت کشادہ دلی سے مصافحہ فرمایا۔ علے ہذا ایکبار آپ لنڈن کے بازاروں سے گذر رہے تھے کہ آپ نے ایک اندھے کو دیکھا جو بازار کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور بھیڑ کے باعث رستہ نہ پا سکتا تھا یہ دیکھ کر آپ نے خود اُسکا ہاتھ پکڑا اور اُسکو سڑک کی دوسری طرف پہنچا آئے۔ اس حالت کو کوئی اور شخص بھی دیکھ رہا تھا۔ جس نے دوسرے دن بطور

اظہار شکرگذاری آپ کو ایک چاندی کا قلمدان ارسال کیا۔ اُس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ قلمدان مذکور پر صرف یہ لکھوایا۔ کہ "یہ قلمدان اُس شخص کیطرف سے بطور یادگار پرنس آف ویلز کی نذر ہے۔ جسنے اُن کو سچے مسیحیوں کیطرح لنڈن کے بازار میں ایک اندھے بڈھے کا ہاتھ پکڑ کے منزل مقصود تک پہونچاتے دیکھا"۔ اسی طرح آپ نے دیکھا۔ کہ کوئی بدمعاش ایک لیڈی سے اُسکی بائیسکل چھیننی چاہتا ہے۔ تو آپنے سواری سے اُتر کر لیڈی کو اس خطرے سے بچا دیا۔ اور بدمعاش بھاگ گیا۔

اسی ذیل میں اس لطیفہ کا ذکر بھی آجانا نامناسب نہوگا۔ کہ آپسے ایک دفعہ اثنائے شکار میں کسی زمیندار نے کہا۔ "چونکہ تم لوگ میرے بلا اجازت ادھر آئے ہو۔ اسلئے ایک شلنگ جرمانہ ادا کرو"۔ آپکے ہمراہی اُسے آپکے مرتبہ سے آگاہ کر رہے تھے کہ آپنے ایک شلنگ کی ادائگی کا حکم دیدیا۔

ایسا ہی ایک دفعہ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ پیدل ہوا خوری کر رہے تھے کہ بارش آگئی اور آپ کو ایک غریب دُبلی ردّی والی بڑھیا کے ہاں توقف کرنا پڑا۔ مگر بارش نہ تھمی۔ لہذا آپ کے دوست نے بڑھیا سے چھاتا مانگا جسکے جواب میں اُس نے کہا کہ صاحب میرے پاس دو چھاتے ہیں ایک نیا اور ایک پُرانا۔ نیا چھاتا تو میں کسی کو حتّے کہ پرنس آف ویلز تک کو بھی نہیں دونگی۔ پُرانا چھاتا لے جائیے اور یاد سے بھیجدیجئے آپ یہ کلمات سُنکر مسکرائے اور اُن کے دوست نے پُرانا چھاتا لیکر کام چلالیا مگر دوسرے دن آپنے اُسکو وہ چھاتا مع ایک نہایت قیمتی نئے چھاتے کے واپس کر دیا۔

حضور ممدوح اخبارات کے بھی قدردان ہیں۔ ستر اخبار اور رسالجات اپنے ایام ولیعہدی میں آپ جیب خاص سے خرید اکرتے تھے۔ اور مطالعہ کتب کا اسقدر شوق ہے کہ غالباً انگریزی کی کوئی مشہور قدیم و جدید تصنیف ایسی نہ ہوگی جو آپ کے کتب خانہ میں موجود نہ ہو۔ شاہی محل کے تین کمرے ایسی کتابوں سے پُر ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آپ تاریخ اور قانون کے بہت شوقین ہیں۔ اور انمیں سے بھی غدر ہندوستان اور جنگ کریمیا کی کتابیں آپ خاص شوق سے دیکھا کرتے تھے۔

آپ جسقدر عزتوں کے مالک ہیں انکی تشریح آسان نہیں ہے۔ آٹھ رجمنٹوں کو آپ کی کرنیلی کی عزت رہی ہے۔ آپ ایڈمیرل (امیر البحر) اور فیلڈمارشل (حاکم فوج) بھی ہیں۔ خطابات کیطرف آئیے۔ تو آپ یورپ کے تمام آرڈروں کے نائیٹ ہیں۔ اور علمی حیثیت سے جہاں اکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈی۔سی ایل اور کیمبرج یونیورسٹی کے ایل۔ایل ڈی ہیں۔ وہاں ان کے سوا تیرہ مختلف یونیورسٹیوں کے ڈگری یافتہ بھی ہیں۔ اسکے علاوہ آپ اتنے تمغوں کے مالک ہیں کہ وہ اگر سر سے پاؤں تک آگے پیچھے بھی لگائے جائیں تو بھی جگہ کافی نہ ہو۔ اور تمغے بچے رہیں۔

آپ فیشن کے موجد تسلیم کئے گئے ہیں۔ جب سے آپ نے اپنی ایک خاندانی شادی میں میٹھی روٹی تقسیم کی ہے تب سے تمام انگلستان میں یہ رسم منزلہ قانون کے رواج پاگئی ہے۔ اور ایک انگریزی اخبار کی رائے تھی کہ اگر آپ پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا فیشن اختیار کریں تو اس کی بھی برابر تقلید ہو۔ کپڑے آپ قیمتی پہنتے ہیں اور جلد جلد بدلتے رہتے ہیں

یعنے اگر آپ مہینا بھر روزانہ آپ کو دیکھتے رہیں تو غالباً ہمیشہ نئے لباس میں جلوہ گر نظر آئینگے۔ سیاہ بوٹ آپ شوق سے پہنتے اور خاکی بوٹوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں۔

گو آپ بڑے متین ہیں مگر باموقع ظرافت سے بھی آپ کی طبیعت خالی نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امریکن اخبار نویس لنڈن میں آیا تو آپ کے سلام کو بھی حاضر ہوا۔ اطلاع ہونے پر جب آپ نے اپنی معمولی فراخ دلی سے اُسے شرف باریابی بخشا۔ تو اخبار نویس نے ٹوپی اُتار کر سلام کے بعد ازراہ تجنتر عرض کیا کہ "شائد حضور میرے چہرے کو پہچان رہے ہیں" حالانکہ آپ نے اُسے کبھی نہ دیکھا تھا۔ البتہ اُسکی گنجی کھوپری ابھی ابھی آپکے نظر پڑی تہی۔ لہذا آپنے بے ساختہ فرمایا۔ کہ "میں آپ کے چہرے کو تو نہیں مگر کھوپری کو ضرور پہچان رہا ہوں"

ایک دفعہ آپ ایک لارڈ کے مہمان تھے۔ جہاں ایک اور دولتمند بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپنے میز پر سے چُرٹ اُٹھایا۔ تو چونکہ دوسرے دولتمند مہمان کے پاس اُس سے نفیس چُرٹ موجود تھے۔ اسلئے اُس نے نہایت ادب سے پیش کر کے عرض کیا کہ حضور انہیں سے شوق فرمائیں۔ یہ آپکے میزبانوں سے کہیں زیادہ نفیس ہیں۔ مگر آپ نے فرمایا کہ میں سوائے میزبان کے دوسرے کے چرٹ نہیں پیا کرتا۔

ایک بار کا ذکر ہے کہ جب آپ ملک کینڈا میں تشریف لے گئے تھے تو آپکے روبرو ایک ایسا ایڈریس بھی پیش ہوا۔ جس کے آخر میں دعا کی گئی تھی کہ "ملکہ وکٹوریا تادیرگاہ سلامت رہیں اور آپ مدتوں ولیعہد بہادر رہیں" آپ کے سکرٹری نے ایڈریس دینے والوں سے

سرگروہ سے اسکا مطلب پوچھا تو اُس نے بھی صفائی سے اقرار کیا۔ کہ ہمیں ملکہ کی حکومت بہت پسند ہے۔ چنانچہ آپ کی پچاس سالہ جوبلی پر اُس شخص نے اظہار مبارکباد کے بعد اپنی دُعا یاد دلائی۔ جس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ اور جواب دیا۔ کہ اِس واقعہ کی اطلاع ملکۂ معظمہ کو بھی دیجائیگی۔"

بے نمائیش پھرنے کی عادت آپ کو ہمیشہ رہی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ یوں ہی پھرتے پھراتے ایک خوبصورت لیڈی سے ہمکلام ہوئے۔ تو آپ نے اسکی عمر پوچھی۔ جسکے جواب میں اس نے پچیس برس کہے۔ پھر تین سال کے بعد جب آپ کو اُس سے دوبارہ ملنے کا اتفاق ہوا اور یہ دیکھہ کے کہ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی خوبصورت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپنے پھر پوچھا کہ لیڈی تمہاری عمر کیا ہوگی اور اس نے کہا جناب پچیس سال! تو آپنے فرمایا کہ کیا تین برس سے تم پچیس سالہ ہی چلی آتی ہو۔ مگر لیڈی مذکور نے بھی نہایت حاضر جوابی سے عرض کیا کہ حضور پھر کیا بھلے آدمی ہر وقت زبان بدلا کرتے ہیں؟

تجارت کی نسبت چونکہ آپ کی ہمیشہ اعلےٰ رائے رہی ہے۔ اسلئے ایک دفعہ ایک دوست نے آپ سے پوچھا کہ تجارت کی تعریف تو آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ یہ بھی پسند کرینگے کہ آپکے رشتہ دار تجارت اختیار کریں۔ متکلم کا منشا اس سے یہ تھا کہ خاندان لورن جو آپ کا رشتہ دار تھا اور تجارت کر رہا تھا۔ اسکی نسبت آپکے خیالات معلوم کرے۔ مگر آپنے بلاتکلف فرمادیا۔ کہ "میرے رشتہ داروں میں خاندان لورن تجارت کرتا ہے۔ اور میں اُسے ایسا پسند کرتا ہوں کہ اگر وہ لطیف خاطر

مجھے اپنا شریکِ کاروبار کرنا چاہیں تو میں بخوشی ان کا ساجھی دار بن جاؤں۔"

گھوڑوں اور کشتیوں کی دوڑ کا بھی آپ کو شوق رہا ہے۔ چنانچہ اس ذریعہ سے آپ ہمیشہ اعلےٰ انعامات پاتے رہے ہیں۔ مگر امید ہے کہ اب یہ باتیں ولیعہدی کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی ہونگی۔ کبوتر بازی بھی آپ بہت اہتمام سے کرتے تھے۔ مگر اب وہ بات کہاں۔

آپ کی زندگی میں یہ بھی ایک قابل یادگار واقعہ ہے کہ آپنے ساٹھ سال تک ولیعہدی کی ہے۔ اور غالباً یہ ایسا واقعہ ہے کہ دنیا بھر میں اپنا نظیر نہیں رکھتا۔ ملکۂ معظمہ متوفیہ کے عہدِ حکومت کے برابر سلطنت کرنے والے تو چند فرمانرواؤں کے نام نکل بھی آئینگے۔ مگر ساٹھ سال تک پوری صلاحیت و ناموری کے ساتھ ولیعہدی کرنے والا شاید سوائے آپ کے اور کوئی نہ نکلے گا۔ اسپر لطف یہ ہے کہ اگرچہ آپ معاملاتِ سلطنت سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ مگر کسی پولیٹیکل معاملہ کی نسبت آپنے کبھی بظاہر لب کشائی تک نہیں کی۔ کیونکہ ولیعہدِ سلطنت کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا وہ گویا سلطنتی آواز ہوتی۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپنے زبان پر بھی اعلےٰ درجہ کی حکومت حاصل کر رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ولایت کے کنسرویٹیو۔ لبرل اور ریڈیکل وغیرہ تمام جماعتوں کے لوگونکو آپکی یکساں دوستی کا شرف حاصل رہا ہے۔

آپ کی آواز متوفی قیصرِ جرمن شاہ ولیم سے ایسی مشابہ ہے۔ کہ کمرے کے باہر سے کوئی شخص جس نے اُن کی آواز سُنی ہو۔ مطلق اعتبار نہیں کر سکتا۔ کہ یہ ولیم کی آواز نہیں۔

اگرچہ آپ نے مختلف قومی انجمنوں اور سوسائیٹیوں میں بے شمار تقریریں کی ہیں۔ اور آپ کی تقریریں ہمیشہ مختصر اور معنی خیز ہوتی رہی ہیں مگر بے ضرورت آپ پبلک کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ اِن کثیر التعداد تقریروں میں یہ دیکھکر سب کو تعجب ہوگا۔ کہ آپ نے کبھی پولیٹیکل معاملات کو چھوا تک نہیں۔

آپ کی چھٹیات کا کاغذ ہلکا نیلا ہوا کرتا ہے۔ جبتک زمانِ ولیعہدی تک آپ البرٹ ایڈورڈ کے نام سے دستخط کیا کرتے تھے۔

آپ قدامت پسند بھی اسقدر ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے برسلز کے کارخانے سے دستانے بنوائے تو اب برابر وہیں سے بنواتے رہتے ہیں۔ چنانچہ کارخانہ موصوف آپکے بھیجے ہوئے سانچے بطور یادگار اپنے پاس جمع کرتا رہتا ہے۔

اتوار منانے کا بھی آپ کو ازحد خیال رہتا رہا ہے۔ اور اسدن کی مذہبی اعتبار سے جو عزت کرنی چاہیئے۔ اُسکو آپ نے کبھی نظرانداز نہیں کیا۔

غرضکہ آپ کو انگلستان کی رعایا نے نہ صرف اپنا بادشاہ ہی تسلیم کیا ہے۔ بلکہ "فسٹ کلاس جنٹلمین اوف دی کنگڈم" یعنے انگلستان کا مسلّمہ "شریف" بھی مان لیا ہے۔

فصل ششم

شہنشاہ کے بڑے بڑے واقعات زندگی

آپکی زندگی کے واقعات شادی وغم دونوں تقارب سے معمور ہیں اور ان کو پبلک سے ایسا ہی تعلق رہا ہے جیسا کہ خود شہنشاہ کو۔ اور گو آپکے کارناموں کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ مگر اجمالی نظر ڈالنے سے چند موٹے موٹے واقعات یہ معلوم ہوتے ہیں۔ کہ

آپ کی سالگرہ پر ہر سال پبلک اور گورنمنٹ کیطرف سے جتنا کچھ اظہار مسرت و اعزاز ہوتا رہا ہے شائد آپ کو بھی اس سے زیادہ نہ ہوگا۔ سالگرہوں میں بالخصوص آپ کی پچیسویں اور پچاسویں سالگرہ کی تقریبات نہایت شاندار ہوئی ہیں۔ کیونکہ اُن سے آپکی ولیعہدی کی نقرئی اور طلائی جوبلی متصور تھی۔ ۱۸۸۸ء میں آپ کی شادی کی نقرئی جوبلی ہوئی۔ مگر آپکے بہنوئی ولیم لال میتھر متعلقہ خاندان شاہی جرمنی کی وفات کے باعث اسپر زیادہ شان و شوکت کا اظہار نہ ہوسکا۔

۱۸۷۱ء میں آپ کو پہلی دفعہ وجع المفاصل کی شکایت ہوئی جس سے تین ہفتے تک آپ کو صاحب فراش رہنا پڑا اور اسوقت تو گو آپ تندرست ہوگئے۔ لیکن پھر اسی مرض نے آپ پر دوبارہ سخت حملہ کیا۔ اور کئی مہینے تک آپ بستر علالت پر رہے۔ یہ بیماری ایسی صعب و سخت تھی کہ باوجود حاذق ڈاکٹروں کے علاج کے بھی کسیقدر لنگ باقی رہ گیا اور ایک مدت کے

بعد آپ شفا یاب ہوئے۔

۱۸۷۱ء میں آپ کی شہزادی لوئیسا کی تقریب شادی لارڈ لورن سے نہایت شان و شوکت سے عمل میں آئی۔ مگر تھوڑے دنوں بعد آپ کے نوسولو فرزند پرنس الگن نڈرا نے قضا کی۔ جس سے شہنشاہ کے دل کو سخت صدمہ پہونچا۔ اور ڈاکٹروں نے آپ کو تبدیل آب و ہوا کا مشورہ دیا لیکن سیر و سفر سے واپس آتے ہی آپ پر شدید امراض نے حملہ کیا۔ اور تپ محرقہ کی علامات پیدا ہو گئیں۔ اس بیماری میں پہلے ڈاکٹر کلیٹن اور ڈاکٹر گل آپ کے معالج تھے۔ مگر جب افاقہ نہ ہوا۔ تو سر ڈبلیو جنیر کو طلب کیا گیا۔ لیکن پھر بھی آپ کو مطلق آرام نہ ہوا۔ تپ کا زور نیند کا فور۔ بھوک کا نہ لگنا۔ کسی میں بھی تخفیف نہ ہوئی۔ شہنشاہ بیگم۔ شاہزادی لوئیسا اور دوسرے شہزادے ہر وقت آپ کے پاس رہ کر خود خدمت کیا کرتے تھے مگر آپ کو کسی صورت چین نہ آتا تھا۔ حتے کہ ۲۵ نومبر کو مرض سخت زور پکڑ گیا۔ اور دسمبر کے پہلے ہفتہ میں تو کسی کو آپ کی زیست کی توقّع نہ رہی۔ چنانچہ ملکۂ وکٹوریا متوفّیہ معہ شاہی خاندان کے آپ کے محل سانڈرنگھم میں گویا آخری دیدار کو تشریف لے گئیں۔ جس وقت ملکۂ وکٹوریا آپ کے لب بالیں پہونچیں تو آپ پر غشی طاری تھی۔ ہر چند ڈاکٹروں نے زور لگایا کہ آپ کسی قدر ہوش میں آکر اپنی والدہ مکرّمہ سے دو دو باتیں کر سکیں۔ مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ جس سے اور بھی مایوسی بڑھ گئی اور تمام انگلستان و ہندوستان میں ایک تھلکہ بپا ہو گیا۔ کیونکہ آپ نے جو ہر دلعزیزی پیدا کر رکھی تھی۔ اُس سے لوگوں کی محبّت آپ کے ساتھ بدرجہ تعشق پہنچ گئی تھی

ہر مسجد۔ ہر مندر۔ ہر گرجا۔ غرضکہ ہر مذہب وملت کے معبدوں میں آپ کی صحت کے لئے دعائیں شروع ہوئیں۔ اور نہایت عجز و زاری کے ساتھ ہر شخص نے شافی مطلق کے حضور میں اپنے ہونے والے شہنشاہ کی صحت و سلامتی کے لئے گڑگڑانا شروع کیا۔ یہ تو رعایا کا حال تھا لیکن دیگر ممالک میں بھی جہاں آپ سیر کے لئے تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ کی صحت کی دل سے آرزو کیجاتی تھی۔ کیونکہ آپکے اخلاق وآداب نے سب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ شاہی خاندان اور بالخصوص آپ کی والدۂ مکرمہ اور شہنشاہ بیگم کی حالت کا کون بیان کرسکتا ہے۔ ولیعہد بیمار شاہی ڈاکٹر اُسکے علاج سے لاچار۔ اور ملک و دولت سب بیکار نظر آتے تھے سوائے دُعاؤں کے کوئی دوا نہ رہگئی تھی اور دُعا کا سائنس نے جو کچھ حال کر رکھا ہے اسکے اظہار کی ضرورت ہی نہیں مگر حق تعالےٰ نے اپنی رحمتِ کاملہ سے دُعا کی طاقت ظاہر فرمائی اور عین مایوسی کے عالم میں شہنشاہ کی بیماری پہلے افاقے اور پھر صحت سے متبدّل ہونی شروع ہوئی۔ اور ۱۴ دسمبر کا دن جو بوجہ اسکے کہ حضور کے والد کی وفات کا دن تھا۔ اوہام پرستوں کے نزدیک (جنمیں اسوقت قریباً فلسفی بھی شامل ہو گئے تھے) آپ کا بھی آخری دن قرار پا چکا تھا۔ اسیدن کو خداوند کریم نے آپکے حق میں روزِ حیات بخش ثابت کیا۔ اور پہلا آرام یہ شروع ہُوا۔ کہ آپ خوب نیند بھر کے سوئے جس سے بیداری کے بعد آپ کی بیماری صحت سے بدلنے لگی۔ اور آخرش رفتہ رفتہ تمام شکایات جاتی رہیں۔ اور بفضلِ الٰہی آپ بالکل صحت یاب ہوگئے۔

آپ کی یہ بیماری چونکہ نہ صرف خاندانِ شاہی کے لئے ہی رنج دہ تھی بلکہ اس سے تمام رعایا میں ایک کھٹکہ پیدا ہو گیا تھا۔ اِس لئے ملکہ وکٹوریا

نے آپ کی صحت پر شکرانۂ الٰہی کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ اور تجویز کیا کہ ۲۷ فروری ۱۸۷۲ء کا دن تمام رعایا کے لئے خوشی کا دن مقرر کیا جائے جسمیں وُہ اپنے اپنے معبدوں میں جاکر اِس انعام الٰہی کا شکریہ ادا کریں۔ چنانچہ لنڈن کے لئے یہ قرار دیا گیا کہ اسدن آپ کی سواری لے کر ملکۂ وکٹوریہ خود ایک شائستہ جلوس شاہی کے ساتھ قصر بکنگھم سے سینٹ پال گرجا میں جائینگی۔ جہاں تمام اعیان واکابر اور عوام و خواص کی شرکت سے شکرانۂ الٰہی ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ حسب قرار داد بارہ بجے جلوسِ شاہی نہایت شان وشوکت سے روانہ ہوا۔ جس میں خاندان شاہی کے علاوہ تمام بڑے بڑے اُمرا بھی شریک تھے۔ پبلک کی طرف سے جابجا "خدا ملکہ کو سلامت رکھے۔ خدا ولیعہد کی عمر دراز کرے" کے دعائیہ فقرات نہ صرف لکھے ہوئے مکانات پر آویزاں تھے۔ بلکہ ہر جگہ جہاں سے جلوس شاہی گذرتا تھا۔ شائقینِ دیدار زبان اور دل سے بھی ادا کر رہے تھے جو ایسا قابلِ دید نظّارہ تھا کہ جس میں قومی محبّت و صداقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بہرحال جب جلوسِ شاہی ٹمپل بار تک پہونچا۔ تو لارڈ میئر نے استقبال کر کے ایک مرّصع تلوار ملکہ کی نذر کی جسکے بعد لارڈ میئر کی شرکت سے جلوس مذکور گرجا پہونچا۔ جس کے بڑے دروازہ پر یہ فقرہ لکھا ہوا تھا۔ "کتنا مسرت بخش یہ خیال ہے کہ وُہ خدا کے گھر آتے ہیں"۔ جسکو دیکھکر حضور ممدوح اور ملکہ ذیجاہ کمال متاثر ہوئے۔ اسکے بعد رسوم مذہبی ادا ہوئیں۔ اور پھر قومی گیت گایا گیا۔ اور ادائے نماز کے بعد حاضرین کو دو دفعہ آداب بجالا کر جلوس شاہی واپس روانہ ہوا واپسی پر رستے میں پہلے سے بھی زیادہ ہجوم تھا۔ اور ہر شخص مشتاق

دیدار ہو رہا تھا۔ حتےٰ کہ ایک جگہ کثرت ہجوم سے شاہی گاڑی کو چلنے کے لئے جگہ نہ رہی۔ جسپر گاڑی ٹھہرا کر سب کو باطمینان سلام کیا گیا۔ اور پھر بدستور شاہی گاڑی آگے روانہ ہوئی۔

ہندوستان میں بھی جس طرح آپکے ایام بیماری میں صحت کے لئے دعائیں کیجاتی تھیں۔ ویسے ہی خلوص سے صحت پر شکریہ الٰہی بھی ادا کیا گیا۔ اور جا بجا دیپ مالا کرنے اور غربا کی دستگیری کرنے سے اظہار مسرت کی مراسم اس طرح عمل میں آئیں کہ جن سے آپ کی ہر دلعزیزی اور رعایائے ہند کی وفاداری صاف صاف ظاہر ہو رہی ہے۔

بہرحال اس مبارک تقریب کی ادائگی کے بعد آپنے ڈاکٹری مشورہ سے اٹلی کا سفر کیا۔ جس سے آپ کی صحت اور بھی درست ہو گئی۔ اور پھر انگلستان واپس آکر بتنہال گرین میوزیم کے افتتاح کی رسم ادا کی۔ جسکے بعد یو رائٹ لینڈ بریٹ واٹر کی افتتاحی رسوم بھی آپکے ہی دست مبارک سے ادا ہوئیں۔

اسی سال میں مرحوم شاہ کجکلاہ ناصر الدین تاجدار والیِ دولت ایران مہمانِ انگلستان ہوئے۔ اور آپ ہی کے ذمہ ان کی میزبانی کیگئی جسے آپنے اس توجہ سے انجام دیا کہ شاہ کجکلاہ مرحوم بھی ان کی مدارات سے نہایت ہی خوش خوش واپس ہوئے۔

۱۸۸۶ء میں شہنشاہ نے دائمالی عالمگیر نمائش میں اس کے انگریزی حصہ کی پریزیڈنٹی قبول فرما کر اسکے نامور۔ کامیاب۔ مفید اور نتیجہ خیز ہونے میں اسقدر کوشش فرمائی کہ اہالیانِ انگلستان کو کبھی فراموش نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ یہانتک ۱۸۸۷ء میں آپ کی سعی و توجہ سے ایسے اعلا

پیمانہ پر ہوئی جو بانیوں کے بھی خیال میں نہ تھا۔

اسی سال شہنشاہ رُوس انگلستان میں آکر قصرِ گلڈ ہال میں مہمانِ انگلشیہ ہوئے اور اُنکی مہمانداری بھی آپ کے ہی سپرد ہوئی جسکو آپنے اِس اہتمام سے پُورا فرمایا۔ کہ وُہ آپکے اخلاقِ برادرانہ اور مہمانداری شاہانہ کے دل سے مدّاح ہو گئے۔

۱۸۷۰ء میں آپ رائل کولونیل انسٹی ٹیوٹ کے پریزیڈنٹ بنائے گئے۔ جو ایک بڑا مہتم بالشان کام تھا۔ اور اُسکو آپنے اِس سرگرمی سے ادا فرمایا۔ کہ اُس سے پُورے پُورے فوائد حاصل ہو گئے۔ اِسکے علاوہ بھی آپ کئی ایک ملکی وقومی انسٹیٹیوشنوں کے پریزیڈنٹ ہوکر کام کرتے رہے۔ اور کئی مدرسوں۔ شفاخانوں اور سوسائٹیوں کی افتتاح فرماتے رہے۔ جنکی تفصیل باعثِ تطویل سمجھکر قلم انداز کیجاتی ہے

۱۸۷۹ء میں آپنے گرمبائی میں ڈاکخانوں کا افتتاح فرمایا۔ اور پھر ایڈلین لائیٹ ھوس اور ناروچ شفاخانہ کے بنیادی پتھر نصب فرمائے۔

۱۸۸۱ء میں آپنے بحیثیت گرانڈ ماسٹر ہونے کے فریلیسن ٹرورو کے بھی ڈرل کا بنیادی پتھر رکھا۔ اور ایک جدید بریاٹ واٹر کی رسُوم افتتاح فرمائیں۔ اور مقام ہگن ڈن میں جاکر لارڈ بکینسفیلڈ کو اپنی مہمانداری کی عزت بخشی۔

۱۸۸۱ء میں آپنے ساوتھ کنگسٹن میں ایک عالیشان صنعتی نمائش قائم فرمائی جسکی افتتاح نہایت کامیابی کے ساتھ ۱۸۸۲ء میں عمل میں آئی۔ اور اسی خیال کی وسعت نے آپسے ہندوستان اور نوآبادیوں میں بھی نمائشوں کے

افتتاح کی تحریک کرائی - جو ملکہ معظمہ کے ارشاد پر ۱۸۸۶ء میں منعقد ہوئیں - اور لنڈن میں امپیریل انسٹیٹیوٹ کھولی گئی -

اسی سال آپنے رائل کالج آوف میوزک (شاہی بیت العلم موسیقی) قائم فرمایا - اور اسکے علاوہ رائل بیٹ سکواڈرن کی بنیاد ڈال کر اپنے لیئے کموڈور کا عہدہ منظور کیا -

اسی سال متوفی شاہزادہ پرنس البرٹ وکٹر کو ٹرنٹی کالج کیمبرج میں فوجی فنون کی تعلیم کے لیئے داخل فرمایا گیا - اور موجودہ ولیعہد بہادر بحری صیغہ میں کام کرنے کے لیئے کینڈا نامی جہاز پر بھیجے گئے -

ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی کے موقع پر شاہی مہمانوں کی میزبانی آپ ہی کے سپرد ہوئی - جسے آپ نے پرلے درجہ کی لیاقت و صلاحیت سے انجام دیا اور سب کو اپنا مداح بنا کے بھیجا -

۱۸۹۲ء میں پارلیمنٹ انگلستان میں غربا کے مکانات رہائش کی نسبت جو مسودہ پیش تھا آپنے اسکی رائل کمیشن کی ممبری قبول فرمائی - اور نہایت توجہ سے اسمیں دلچسپی لیتے رہے - اور تحقیقات و مشاہدہ کے لیئے غریب اور غلیظ لوگوں کے گھروں کو جا کر براءالعین خود معاینہ فرمانے کے بعد پارلیمنٹ میں اسکے متعلق برجستہ تقریر فرمائی - جسمیں آپ نے یہ بھی فرمایا - کہ

"غربا کے انتظام رہائش کا معاملہ میرے واسطے کوئی نئی بات نہیں بلکہ بیس برس سے صوبہ نارفک میں جو میں نے جائیداد خریدی ہوئی ہے اسمیں مجھے غریب مزدوری پیشہ لوگوں کے لیئے مکانات بنانے کا اتفاق ہو چکا ہے - کیونکہ جب میں نے اسے خریدا تھا تو وہاں کے مکانات

کی حالت نہایت خراب وخستہ تھی۔ لیکن اب غالباً میری تمام جائیدادوں میں کسی کو ان مکانات کی نسبت کوئی شکایت نہ ہوگی۔"

اسی کے متعلق آپ نے ایک اور موقع پر پارلیمنٹ میں ارشاد فرمایا۔ کہ "چند روز ہوئے جب مجھے غریب لوگوں کے مکانات دیکھنے کا موقع ہوا تو میں نے اُنہیں نہایت غلیظ مگر رحمناک حالت میں پایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ واقعی اس معاملہ کی تحقیقات کی سخت ضرورت تھی۔ گو رائل کمیشن سے پہلے بھی کئی سوسائیٹیاں اس کام میں مصروف تھیں۔ جن کا ہمیں شکر گذار ہونا چاہیئے۔ اور نہ رائل کمیشن انکی کارروائیوں میں کوئی ہرج کرے گی۔ بلکہ رائل کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے روبرو ایسی تجاویز پیش کرے۔ جس سے نہ صرف غربا کا انتظام رہائش ہی درست ہو جائے۔ بلکہ اُن غریبوں کی حالت کی بھی درستی ہو سکے۔"

آپ کی اس حمایت سے غربا کو بہت بڑی مدد ملی۔ اور کیوں نہ ہو آپ ہمیشہ سے غریبوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ آپ کی جاگیرات میں ان کے واسطے گرجے۔ شفاخانے اور مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ان کے رہائشی مکانات سب صاف ستھرے بنوائے جاچکے ہیں۔ جن کے روبرو ایک ایک چھوٹا خانہ باغ بھی لگوایا ہوا ہے۔ مزدوری میں کوئی قلت نہ کیجاتی تھی بلکہ روز ٹھیک تین بجے مزدوری دیدینے کا حکم تھا۔ البتہ شراب خوری اور جوا بازی کی ممانعت تھی۔ غربا کے اطفال کے لئے مختلف ورزشی کھیلوں کے سامان بھی مہیا کر دیئے گئے تھے۔

۱۸۹۲ء میں پرنس البرٹ وکٹر کے انتقالِ پُر ملال سے آپکو سخت صدمہ پہونچا۔ اور نہ صرف شاہی خاندان بلکہ تمام برٹش رعایا نے ہمیں

ہندوستان کی تیس کروڑ آبادی بھی شامل ہے - اِس مصیبت کو نہ صرف شخصی بلکہ ملکی صدمہ محسوس کیا- بالخصوص شاہزادہ کی جوانی اور اسی سال اُسکی شادی کی تجویز قرار پاکر منگنی ہوجانا تو اِس مصیبت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے - مگر قضائے الٰہی سے کسے چارۂ دیارا ہوا ہے- آخرِ کار ملکہ وکٹوریا متوفیہ کے منشاء کے مطابق متوفی شہزادے کی منگیتر پرنسس مے کا ڈیوک اوف کلیرنس حال پرنس اوف ویلز کے ساتھ نکاح کیا گیا-

۱۸۹۶ء میں آپ نے بیرن فرڈی نینڈ روتھشیلڈ کی عزت افزائی کے لئے اُس کے مکان پر جاکر دعوت قبول فرمائی- اور دعوت گو نہایت پُر تکلف اور محظوظ کرنے والی تھی- مگر آتے ہوئے سیڑھیوں سے اُترنے میں پاؤں پھسل جانے سے آپکے سخت چوٹ لگی- اور گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی- جس کا مدتوں علاج ہوا- اور گو درد و تکلیف تو جاتی رہی- مگر کسیقدر لنگ باقی رہ گیا-

آپکے کارناموں میں یہ بھی قابلِ ذکر بات ہے- کہ آپ نے اپنے محل مارلبرو ہوس میں ایک شاہی کلب کی بنیاد رکھی- جس میں آپکے بے تکلف دوست اور رشتہ دار ممبر ہوئے اور اصولی طور پر یہ قرار دیا گیا کہ سب لوگ درجہ برادری میں مساوی سمجھے جائیں واب آداب کی زحمت نہ ہوا کرے-

۲۲ جنوری سنہ ۱۹۰۱ء کو آپ باضابطہ شہنشاہ ہوئے (جس کا ذکر آگے آئے گا)

۶- فروری سنہ ۱۹۰۱ء کو آپنے ہِز کمیشنڈ آفسروں اور گرانڈیر گارڈ

کے اُن لوگوں کو جنہوں نے ملکہ متوفیہ کی لاش پہنچانے میں خدمات کی تھیں۔ تمغے عطا فرمائے۔ اور ایساہی متوفیہ کے جنازے کیخدمات کے صلہ میں ۱۸۔ کورائل ہارس آرٹیلری باٹری اور ہوس ہولڈ ٹروپ کے افسروں میں بھی تمغے تقسیم فرمائے۔

ڈاکٹر کریڈن صاحب بشپ اوف لنڈن کے انتقال پر ڈاکٹر ونگٹن انگرم کے تقرر سے بھی آپنے مذہبی اور ملکی سوسائٹی پر اپنی قوتِ انتخاب کو بہت باوقعت ثابت فرمایا ہے۔ اور اتفاق سے آپکے حکومت سنبھالنے کے چھ ماہ بعد جب لارڈ سالسبری سابق وزیر اعظم نے اپنا استعفے داخل کیا تو ان کی جگہ مسٹر بالفور کی تقرری سے بھی آپنے اپنی نسبت بڑی عمدہ شہرت انگلستان کی پبلک میں پیدا فرمائی ہے۔

چونکہ آپ ہمیشہ سے نہایت عمدہ بولنے والے مشہور ہیں۔ اسلئے اس اپنے قدیمی وصف کو آپنے شہنشاہی کے بعد بھی ضائع ہونے نہیں دیا۔ بلکہ بموقع تقریروں سے اسکو اور مجلّا کردیا ہے۔ چنانچہ ۱۲ جولائی سنہ ۱۹۰۱ء کو جبکہ شہزادہ ایڈورڈ اوف یارک نے دس مشہور علماء کا ڈیپوٹیشن بغرض ہاربرو ہوس کی سو سالہ عمر ہو جانے کی مبارکباد کے لئے آپ کی خدمتمیں پیش کیا تو اُن کے جواب میں بھی اور پھر ۲۵ جولائی کو مجمع اطباء کے ڈیپوٹیشن کے روبرو بھی آپنے نہایت عمدہ تقریریں کیں۔ اور چونکہ آپ طبی امداد کے قدرتی طور پر قدردان ہیں۔ اور اسکی قدر افزائی کا خیال بھی ہر وقت آپکے پیش نظر رہتا ہے۔ اسلئے امداد بھی فرمائی۔ ایساہی ۲۴ جولائی کو باوصف بارانی دن ہو جانے کے بھی آپنے تین ہزار لوگوں کو تمغے عطا فرمائے

اور اسکے بعد بھی کئی مواقعات پر تقریریں کیں۔

۱۸ دسمبر سنہ ۱۹۰۰ء کو آپ سر آرچی بالڈ اور لیڈی اڈمنسن کے نومولود فرزند کے دینی باپ قرار دیئے گئے۔


۱۴۔ دسمبر سنہ ۱۹۰۱ء کو آپنے فوجی ملبوسات جرسن کی سی کم خرچ بالانشین وضع کے جاری کرنے کا حکم نافذ فرمایا۔

پہلے جون سنہ ۱۹۰۲ء میں اور پھر اگست میں مختلف ممالک کے قائمقاموں سے وقتاً فوقتاً آپ ملاقات کرتے رہے اور اپنے ہاتھ سے تمغے بھی پہناتے رہے

شہنشاہ ہونے کے بعد آپنے اپنی والدۂ متوفیہ کی عزت و توقیر اور قیام یادگار میں جو کوشش کی ہے وہ بھی خاص طور پر سراہنے کے لائق ہے

۲۶ جون سنہ ۱۹۰۲ء جو پہلے آپ کی تاجپوشی کی تاریخ قرار دی گئی تھی اس سے دو روز قبل آپ دنبل جگر سے سخت علیل ہو گئے۔ جس سے لاچار تاریخ بدلنی پڑی۔

یہ بیماری سنہ ۱۸۷۱ء کی بیماری کی طرح بالکل مایوس کرنے والی تھی۔ مگر آخر الامر حق تعالےٰ نے رحم فرما کر آپ کو صحت عطا فرمائی۔ جس کے بعد آپ قریب قریب کے مقامات میں ہواخوری کے لئے سیر و سفر فرماتے رہے۔ (ان امور کا اگلے باب میں ذکر ہوگا)



باب دوم

شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم کی تخت نشینی و تاجپوشی انگلستان

فصل اوّل

مراسم و لوازم جانشینی پر سرسری نظر

مراسم جانشینی کی قدامت - جس طرح باپ کے بعد بیٹے کی جانشینی کی رسم دنیا میں پیدائش آدم سے تا ایندم مختلف اقوام عالم میں مختلف طریقوں سے رائج چلی آتی ہے - ایسا ہی مشہور سرداروں اور حکمرانوں میں بھی ایک کے بعد دوسرے کے جانشین ہونے کی رسم اسیوقت سے قایم ہے - جبسے دنیا میں بادشاہت یا حکمرانی کی بنیاد پڑی ہے - کیونکہ سوائے اسکے انتظام سلطنت محال تھا - جانشینی کی مراسم مذاہب و ملل مختلفہ میں مختلف طریقوں کے ساتھ مروّج ہیں مگر بالعموم تمام اقوام میں اس سے پہلے جانشینی اور تاجپوشی سرسری طور پر ایک ہی وقت میں فی الفور ہوجایا کرتی تھی - کیونکہ کسی حکمران کے مرنے کے بعد اگر تاج و تخت چند روز کے لئے بالکل لاوارثی کیحالت میں چھوڑدیا جائے تو سلطنتی کاروبار میں عجیب غریب انقلاب پیدا ہوجائیں - لہذا اسمیں اسقدر جلدی کرنے کا رواج رہا ہے - کہ ادہر ایک نے آنکھیں بند کیں - ادہر دوسرے نے جلوس فرمایا - اور جلوس کے بعد پھر کہیں جا کے متوفی کا

جنازہ اُٹھایا گیا۔ مگر چونکہ اس جلدبازی میں نہ تو کسی شان و شوکت اور مسرّت و بہجت کا اظہار ہو سکتا تھا۔ اور نہ کسی تازہ سانحہ و حادثۂ موت کے بعد ایسا ہونا مناسب بھی معلوم ہوتا تھا۔ اسلئے زمانہ کی جدّت طرازی نے اسکے دو حصّے کر دئے جنکے مطابق جانشینی یا تخت نشینی تو فوراً ہی اُسیوقت عمل میں آجاتی ہے۔ اور تاجپوشی کے لئے اثناءِ وقفہ دیکر کوئی تاریخ مقرر کیجاتی ہے۔ جسمیں اپنے ہاں کے ملکی و قومی سردار اور اعیان و انصار کے علاوہ باجگذار سلطنتوں کے حکمران یا نائب اور دوستدار حکومتوں کے سفیر بھی بسہولیّت شریک ہو سکیں چنانچہ اسی دستور کی پابندی انگلستان میں بھی کیجاتی ہے۔

انگلستان کی مراسم تخت نشینی و تاجپوشی۔ یوروپ میں جو مراسم تخت نشینی و تاجپوشی مروج ہیں وہ غالباً بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں کیونکہ جو مراسم تخت نشینی کے وقت عیسائیوں میں برتی جاتی ہیں۔ اُن کا آغاز بنی اسرائیل سے ہی ہوا تھا۔ چنانچہ آبائے اسرائیل میں ہی پہلے پہل حضرت سموئیلؑ نے ساول کو بادشاہ مقرر کرتے وقت اُسکے سر پر روغن زیتون سے مسح کیا تھا۔ اور جب داؤدؑ نے اپنے فرزند رشید حضرت سلیمانؑ کو اپنا جانشین مقرر کیا تو صدوق کاہن اور ناتن نے اُن کو بھی بدستور ممسوح کر کے نرسنگھا پھونکنے سے انکی بادشاہت کا اعلان فرمایا اور حاضرین کے جم غفیر نے ایکساتھ آواز نکالی کہ "سلیمان بادشاہ سلامت رہے" اسکے علاوہ رسم جوبلی کا اتبدا بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوا ہے۔ جو کسی قدر تغیر کے ساتھ عیسائی حکومتوںمیں ابتک مروّج ہے یوروپ میں جب اس رسم کا پہلے پہل آغاز ہوا تو چونکہ اُس وقت

رومن کیتھولک فرقہ عیسوی کا زور وشور تھا۔ اسلئے تاج پہنانا بھی پوپ
آوف روما کا ہی کام سمجھا جاتا تھا۔ جو مذہب عیسوی میں خدا کا نایب اور
اور روح القدس کا مہبط مانا جاتا تھا (اور غالباً فرقہ مذکور میں اب بھی ویسا
ہی سمجھا جاتا ہے) چنانچہ دستور بندھگیا تھا۔ کہ جب کوئی اُمید وار تاج و
تخت روما الکبرے میں پوپ کے حضور حاضر ہوتا تو شہر کے دروازہ پر
تمام عمائدین بادشاہ سے ملک نیکی اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی
قسم لے کر اسکو با عزاز تمام اندر لے جاتے۔ جسکے بعد دوسرے
دن پوپ صاحب سینٹ پیٹر گرجا میں تشریف لیجاکر حسب قاعدہ روغن
زیتون وبلسان و دارچینی کے ایک مرکب تیل سے اُسے ممسوح کر کے تاج
پہناتے۔ اور ترقی سمجہائی جاتی۔ یہ تیل تاجپوش کے سر۔ ہتھیلیوں سینہ
اور کلائیوں۔ کاندھوں اور پیشانی کے علاوہ تاج پر بھی ملا جاتا تھا۔ بلکہ
پہلے تو اسکی اسقدر تقدیس مدنظر ہوتی تھی۔ کہ تیل ملنے کے بعد اوڑھنی
کی طرح ایک سفید ٹوپی اوڑھاکر اسپر تاج رکھا جاتا تھا جو ایک ہفتہ تک
برابر اس خیال سے سر پر رکھی رہتی۔ کہ تیل بخوبی جذب ہو جائے چنانچہ
یہ تمام رواج مذہبی طور پر عرصہ تک یوروپ کی عیسائی سلطنتوں میں رائج
رہے۔ مگر آخر الامر جب زمانہ کے زبردست ہاتھوں نے پوپ صاحب
کی جکڑ بندیوں سے نجات حاصل کی۔ تو تاجپوشی کی مراسم بھی ہر
سلطنت کے مقامی شاہی گرجاؤں میں ادا ہونے لگیں۔ چنانچہ انگلستان میں
یہ رسم ویسٹ منسٹر ایبی میں۔ اور روس میں ماسکو کے شاہی گرجا میں
اور جرمن میں آکس لاچپل کے گرجا میں ادا ہوتی ہے۔ ایڈورڈ کنفیسر
سے پہلے تاجپوشان انگلستان کے لئے ویسٹ منسٹر ایبی کی کوئی

تخصیص نہ تھی۔ بلکہ ونچسٹر۔ باتھ اور کنگسٹن کے گرجاؤں میں سے جہاں بادشاہ سلامت کی مرضی ہوتی یہ رسم ادا ہوجایا کرتی تھی۔ لیکن ایڈورڈ کنفیسر نے اسکے لئے ویسٹ منسٹر ایبی (گرجا) اور بشپ اوف کنٹربری (اسقف اعظم) کی تخصیص قائم کردی۔ جسکے بعد ایکدفعہ جبکہ ہنری چہارم کی تاجپوشی بشپ اوف یارک کے ہاتھ سے ہوگئی تھی۔ تو اسپر اسقدر تشویش پھیل گئی۔ کہ بشپ اوف یارک خارج از برادری کئے گئے۔ اور بادشاہ کی تاجپوشی پھر نئے سر سے کی گئی۔ چنانچہ اسکے بعد سے ابتک یہی قاعدہ چلا آتا ہے۔ کہ بادشاہِ انگلستان کی تاجپوشی بشپ اوف کنٹربری کے ہاتھ سے ہوتی ہے اور بادشاہ بیگم کی بشپ اوف یارک کے ہاتھ سے۔

حلف کا التزام۔ تخت نشینی اور تاجپوشی سے پہلے بادشاہ کو حلف اٹھانی پڑتی ہے۔ کہ "میں پارلیمنٹِ انگلستان کے نافذ کردہ قوانین کے ساتھ ملک میں عدل و انصاف سے حکومت کروں گا۔ اور مذہبی پیشواؤں کے حقوق کو محفوظ اور ان کے مناصب و مدارج کو مصئون رکھوں گا اور پروٹسٹنٹ (اصلاح یافتہ) مذہب کی حمایت کروں گا۔ وغیرہ وغیرہ"


الحاصل تخت نشینی و تاجپوشی کی مراسم اسقدر دیرینہ اور ہر ملک ملت میں اسطرح رائج ہیں کہ جن کو اب تک بھی ویسے ہی شوق و ذوق کے ساتھ لازمی طور پہ ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے تھا۔

اسکے بعد تفہیم ناظرین کے لئے اب غالباً تخت و تاج انگلستان کے متعلق کسیقدر تاریخی حالات درج کرنے ضروری ہیں۔ جن کا مجمل بیان ذیل میں کیا جاتا ہے۔ تاکہ ناظرین پورے طور پہ تاج و تخت کی قدامت اور تاریخ سے ماہر ہوجائیں۔

تخت فارسی میں شاہی کُرسی کو کہتے ہیں اور یہ لفظ شاہی نشست گاہ کے لئے کچھ ایسا مختص ہوگیا ہے کہ کوئی دوسرا امیر یا متموّل شخص اسکو اپنی کرسی پر استعمال نہیں کرسکتا۔ اسکا رواج بھی جہانتک دیکھا جاتا ہے بہت پُرانا معلوم ہوتا ہے چنانچہ سلیمان علیہ السّلام کا بھی تخت تھا۔ جن سے گویا تاجپوشی کی رسم کا ابتدا ہوا ہے۔ لیکن ملکی معاشرت و مراسم کے لحاظ سے اسکی صورتیں البتہ جداگانہ ہوتی رہی ہیں۔ گو خالص اسلام نے کسی تخت کو رواج نہیں دیا۔ مگر ممبر کا رواج بتاتا ہے کہ سادہ وضعی سے ہی سہی۔ مگر اسکی ضرورت کو اسلام نے بھی تسلیم کرلیا ہے کیونکہ ممبر پر بھی کسی زمانہ میں وُہی لوگ کھڑے ہو سکتے تھے۔ جن کو علمی یا حکومتی امتیاز ہوتا تھا۔ اور خیر القرون کے بعد تو بادشاہوں کے لئے ممبر کی بجائے تخت کا کھُلے طور پر رواج ہوگیا تھا۔ چنانچہ خلفائے عباسیہ کے شاندار تخت اسکے شاہد ناطق ہیں۔ ہندوؤں میں مسلمانوں سے گو پہلے صرف گدّی کا رواج تھا۔ جسکو بڑے بڑے تکلّفات سے بنایا جاتا تھا مگر راجہ رام چندرجی وغیرہ کے تخت بھی تھے۔ جو نہایت اعلیٰ درجہ کے بنائے گئے تھے۔ اور اب بھی ہندوؤں میں شاہی گدّی ایسی وضع سے بنائی جاتی ہے۔ اور ایسی مرتفع جگہ اسکے لئے تجویز ہوتی ہے۔ کہ اُس سے تخت کی صورت صاف طور پر نمایاں ہوجاتی ہے۔ غرضکہ اسکا رواج بھی جیسے کہ ہر ملک و ملت میں قریباً یکساں جاری ہے۔ ویسے ہی انگلستان میں بھی ہے جو قسم اور حسب دستور جیسا کہ تاج قدیم ہر وقت نہیں پہنا جاتا بلکہ صرف ایک دفعہ تاجپوشی ہونے کے وقت اُسکو تبرکاً سر پر رکھا جاتا ہے ویسے ہی تختِ شاہی پر خاص خاص مواقعات پر ہی جلوس

ہوتا ہے اور بعد ازاں بادشاہ کے مذاق کے مطابق اسکی روزانہ نشست کے لیئے الگ کرسیاں وغیرہ طیار ہو جاتی ہیں۔ الغرض تخت و تاج دونوں لوازمات شاہی سے ہیں۔ اور ایک ہی وقت میں جائز حقدار کے ورثہ میں پہنچتے ہیں۔ مگر بمقتضائے وقت تخت پر جلوس تو فوراً عمل میں آجاتا ہے اور تاج کچھ عرصہ بعد سر پر رکھا جاتا ہے۔


تختِ جلوس شاہی۔ انگلستان کے تختِ شاہی کی تصویر جس پر اپنی والدہ متوفیہ کی جگہ شہنشاہ معظّم نے پہلے ۲۴ جنوری سنہ ۱۹۰۱ء کو اور پھر بوقتِ تاجپوشی ۹۔ اگست سنہ ۱۹۰۲ء کو جلوس فرمایا ہے درج ذیل ہے



اسکے دونوں بازو سونے کے پتّروں سے منڈھے ہوئے ہیں۔ جن کے


منہ شیر کی صورت کے بنائے گئے ہیں۔ پیٹھ کی طرف تکیہ گاہ کے اوپر شاہی (کوٹ آف آرمز) نشان بھی سنہری بنا ہوا ہے۔ اور نشست کی جگہ نہایت اعلےٰ کپڑے سے مرتب کی گئی ہے۔ (تاجپوشی کے دن ویسٹ منسٹر ایبی کے درمیانی ہال کے وسط میں ایک مرتفع چبوترے پر (جسکی پانچ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں) اسی تخت پر آپ نے خادمانِ دین اور شہزادگان و امراء سے اپنی اطاعت کی حلف لی تھی) لیکن خاص تاجپوشی کے دن اس تخت پر جلوس فرما ہونے سے پہلے وارثِ تاج و تخت کو تین اور تاریخی کرسیوں پر بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور ان نشستوں کو بھی مذہبی رسوم ہی میں داخل سمجھنا چاہیئے۔

کرسی امتیاز۔ پہلی کرسی جسکو انگریزی میں ریکگ نیشن چیر کہتے ہیں۔ کرسی امتیاز ہے۔ جسپر بیٹھنے سے گویا تاجدارِ سلطنت کا بادشاہ ہونا تسلیم کرلیا جاتا ہے۔ (یہہ کرسی تخت کے سامنے بچھائی گئی تھی)



کرسی لطانیہ۔ اس کے بعد دوسری کرسی پر بیٹھنا ہوتا ہے جو کرسی لطانیہ

کے نام سے موسوم ہے۔ کیونکہ اسی پر بیٹھ کر نمازِ سلطانیہ کی ادائگی عمل میں آتی ہے اور اسی پر وعظ سُنا جاتا ہے۔ اسکی صورت یہ ہے۔



یہ دونوں کرسیاں جن کا نقشہ اوپر مذکور ہوا دوہری دوہری بنائی جاتی ہیں۔ جن میں سے ایک بادشاہ ذیجاہ کی نشست کے لئے ہوتی ہے اور دوسری ملکہ کے لئے۔ دونوں کرسیوں کے روبرو ایک ایک چھوٹا مونڈھا نفیس کپڑے سے منڈھا ہوا رکھا جاتا ہے۔ تاکہ نماز دُعا کے وقت انپر گھٹنے ٹیکے جاسکیں۔ جن کی صورتیں دکھا دی گئی ہیں۔


تاجپوشی کی کُرسی - تیسری کرسی تاجپوشی وُہ تاریخی کرسی ہے۔ جو بڑی مُتبرک و مقدّس سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں سکون کا وُہ پتھر نصب ہے جس کو خوش قسمتی کا پتھرؔ کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کی نسبت روایت ہے۔ کہ یہی اُسوقت حضرت یعقوبؑ کے سرہانے رکھا ہوا تھا جب انہیں الہامی خواب نظر آیا تھا۔ سنہ ۱۵۱۳ء میں ٹرجیس نامی ایک سکاٹلینڈ کے شہزادے نے منسٹر کے آئرش بادشاہوں سے اپنی تاجپوشی

کے لئے حاصل کیا تھا۔ اور پھر کینیتھ دوم اسکوڈن سٹف نیگ سے سکون میں لایا تھا موجودہ تاریخ جو کچھ اُسکا پتہ دیتی ہے ۔ وہ یہ ہے کہ شاہ ایڈورڈ اوّل نے اسکو سکون سے لاکر ایک کرسی میں دجو غالباً یہی ہوگی نصب کیا تھا۔ سکاٹلینڈ والوں کو اس پتھر کی مبارکی پر جسقدر اعتقاد ہے وہ اُن کے اِس طرزِ عمل سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ جسے وہ لوگ انگلستان کے ساتھ متواتر جنگ و جدل اور صلح و صفائی اختیار کرنے پر ہر دفعہ اسی کی طلبگاری سے ظاہر کرتے رہے لیکن اہالیانِ انگلستان کو بھی اِس پتھر سے جو محبت و اعتقاد ہے۔ اُسکا بدیہی ثبوت یہ ہے۔ کہ جب شاہنشاہ ایڈورڈ سوم نے مندرجہ ذیل فرمان استقفان وخادمان ویسٹ منسٹر ایبی (گرجا) کے نام جاری کیا۔ کہ

نقل فرمان :- ایڈورڈ سوم بفضلِ خدا شاہ انگلینڈ و امیر آئرلینڈ و ڈیوک اوف ایکوٹمین کی جانب سے ویسٹ منسٹر ایبی کے استقفون کو بعد سلام واضح ہو۔ کہ گذشتہ اجلاس پارلیمینٹ منعقدہ نارتھمپٹن میں مابدولت نے معہ کونسل اِس امر کو منظور فرمایا ہے۔ کہ وہ پتھر جسپر شاہانِ سکاٹلینڈ اپنی تاجپوشی کے وقت بیٹھا کرتے تھے اور اب آپ کی حفاظت میں ہے۔ اسکو سکاٹلینڈ بھیجدیا جائے۔ لہذا ہم نے لنڈن کے شریفوں کو حکم دیا ہے کہ مذکورہ بالا پتھر آپ لوگوں سے لیکر ہماری مادرِ مہربان ملکۂ انگلستان کے پاس لے جائیں لہذا آپ کو بھی تحریر کیا جاتا ہے۔ کہ جسوقت شریف ہائے مذکور آپکے پاس آئیں باخذ رسید فوراً بلا عذر انکو پتھر مذکور دیدیا جائے زیادہ تاکید فقط مرقومہ یکم جولائی ہمارے دوم سن جلوسی کو بثبت

مہر و دستخط ہمارے مقام بوڈس سے جاری ہوا"

مگر باوصف ایسے فرمانوں کے پتھر مذکور لنڈن سے کبھی باہر نہ گیا حتےٰ کہ ۱۶۰۳ء[1] کو سکاٹلینڈ والوں کی۔ یہ روایت کہ "جہاں یہ پتھر ہوگا وہیں سکاٹلینڈ کا بادشاہ تاجپوش ہوگا" یہیں انگلستان میں پوری ہوئی۔ اور جیمس ششم کو سکاٹلینڈ سے لاکر یہیں لنڈن میں جیمس اوّل کے نام سے تختِ انگلستان پر بٹھایا گیا۔ غرضکہ آجتک سوائے ایک دفعہ کے (یعنے اولیور کرامول کے متولی سلطنت قرار دینے کے وقت) اس تاریخی کرسی تاجپوشی کو ایبی سے باہر نہیں لیجایا گیا۔ اسکی تصویر یہ ہے۔



[1] ملکہ ایلی زبتھ کے مرنے پر جب تختِ سلطنت ہنری ہفتم کی بڑی بیٹی مارگرٹ کی اولاد میں منتقل ہوا تو چونکہ اسکی اولاد میں سے جیمس ششم سکاٹلینڈ میں حکومت کر رہا تھا۔ اسی کو وہاں سے انگلستان لاکر تخت نشین کیا گیا۔ اور انگلستان میں چونکہ جیمس کے نام سے پہلے کوئی بادشاہ نہ گذرا تھا۔ اسلئے اسکو جیمس اول کہتے تھے یہی وہ بادشاہ ہے جو سکاٹلینڈ اور انگلستان کا واحد مقبولہ حکمران ہوا تھا۔

تاج فارسی زبان میں شاہی ٹوپی کو کہتے ہیں۔ مگر یہ ٹوپی کوئی معمولی چیز نہیں۔ اسکی تمنّا میں بڑے بڑے اولوالعزموں کے سر ندر ہو گئے اور یہ سوائے خوش نصیب فتحمندوں کے کسی کو میسّر نہ ہوئی۔ تاج دراصل ایک ایسا نشان ہے کہ جس سر پر رکھا جائے اُسکو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں اسکا رواج ایک زمانہ دراز سے چلا آتا ہے پہلے پہل جب تک دنیا کو اتنے اسباب پر دسترس نہ تھی۔ اور صرف بدن ڈھانکنے سے غرض ہوا کرتی تھی۔ تاج بھی قدرتی پھولوں سے بنایا جاتا تھا۔ یعنے کسی درخت کی کوئی نرم سی شاخ لے کے سر کے گرد لپیٹ لی اور اس حلقہ میں جا بجا قدرتی پھول لٹکا یا لگا لئے اور بس۔ پھر جب زمانہ نے اور ترقی کی تو لوہے یا کسی اور چیز کا پٹی نما حلقہ بنا کر مصنوعی گل بوٹے لگنے شروع ہوئے۔ اور پھر اسکے بعد وہ سونے یا جواہرات سے بننے لگا۔ مگر صورت قریباً پٹی کی سی رہی۔ اسکے بعد کچھ قومی جذبات اسمیں شامل ہونے لگے۔ لیکن ہندوستان میں قریباً یہی صورت رہی۔ کہ شاہی زرّین پگڑی کے اوپر ایک پٹی مرصع بالماس و جواہر اوپر لپیٹ دی جاتی اور پگڑی کے اگلے حصّہ میں سرو کی شکل کا ایک جیغہ (کلغی) لگایا جاتا۔ اور حسب استطاعت جواہرات کی لڑیاں پگڑی کے پیچوں کے تناسب سے سجائی جاتیں۔ خالص اسلام میں تاج کا کوئی مذکور نہیں نہ آنحضرت اور خلفائے راشدین نے کبھی تاج پہنا۔ مگر رفتہ رفتہ مسلمانوں میں بھی یہ خیال آموجود ہوا اور ایسے ایسے عجیب و غریب تاج طیار ہوئے کہ شاید ہی کسی دوسری قوم نے پہنے ہوں۔

انگلستان میں پہلے پہل ایک گول حلقہ سونے کا بادشاہ کے

سر پہ رکھا ہوتا تھا۔ جو اندر سے بالکل خالی ہوا کرتا تھا اور اسکے آگے اور پیچھے
بند میخیں سونے کی لگی ہوتی تھیں جس سے عیسوی تاج کی خصوصیت
ہوجائے۔ ولیم اوّل نے اسمیں چار میخیں آگے پیچھے دائیں بائیں
اس طرح کی لگا کر ✣ کسیقدر خوبصورتی پیدا کی۔ ہنری اوّل نے
اسکے حلقہ میں جواہرات کی جڑت کو رواج دیا۔ اور اس کے بعد
بھی ہر بادشاہ کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا رہا۔ ہنری پنجم نے اس حلقہ
اور پھول نما میخوں پہ ایک محرابی دائرہ بنوایا جسکے سرے پر صلیب
کی سی صورت بنائی اور اُس محرابی دائرہ سے کرۂ ارض مراد رکھا
گویا تاجدار عیسوی بادشاہتِ عالم کا مالک ہے۔ بعدۂ اس کے
جانشین تاج شاہی کی خوبصورتی کے لئے اور بھی ایجاد و اختراع
کرتے رہے۔ چنانچہ ہنری ہشتم نے تاج کے نیچے ایک مخملی ٹوپی
لگانے کا طریق رواج دیا۔ ملکہ الزبتھ کے تاجوں کی خوبصورتی اور
خوشنمائی کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ جسنے کئی قسم کے تاج مختلف اوقات میں
بنوائے تھے لیکن ملکہ وکٹوریا کا جو تاج تھا وُہ ان سب پر سبقت
لے گیا۔ کیونکہ اسمیں کوہ نور جیسا نایاب ہیرا اور سیاہ پوش شہزادہ
انگلستان کا وُہ قیمتی الماس (جواس نے ۲۶۔ اگست ۱۳۴۶ء کو مشہور کریسی
کی لڑائی کے وقت اور ہنری پنجم نے ۲۵۔ اکتوبر ۱۴۱۵ء کو اجن کورٹ
کے مشہور معرکہ کے وقت پہنا تھا) جگمگا رہے تھے۔ اور ماسوائے اسکے
اسقدر جواہرات کا جڑاؤ کیا گیا تھا کہ جن سب کی تعداد تین ہزار بتائی
گئی ہے۔ اسپر لطف یہ کہ تاج مذکور کو ایک نازک بدن عورت کے
استعمال کے لیئے حتی المقدور نہایت ہلکا بنایا گیا تھا یعنے اس کا وزن


مع سونا چاندی اور جواہرات وغیرہ کے جملہ اُنتالیس اونس یا ڈھائی
تھا۔ حالانکہ اِس سے پہلے کا تاج جو جارج چہارم نے بنوایا تھا۔ وزن
میں ساڑھے پانچ پونڈ تھا۔

انگلستان میں تاجپوشی کیوقت جو تاج بادشاہ کے زیب سر
کیا جاتا ہے۔ وُہ سینٹ ایڈورڈ کا پُرانا تاریخی تاج ہے اور مشہور ہے
شاہ الفرڈ۔ ایڈورڈ کنفیسر نے اسی سے اپنے سر مزیّن کئے تھے
اصلیت یوں ہے کہ وُہ تاج تو ۱۶۴۹ء کی جمہوری سلطنت میں تلف
ہو گیا تھا۔ البتہ ۱۶۶۲ء میں چارلس دوم کی تاجپوشی کے واسطے
رابرٹ وائنر نے ویسی ہی قطع وضع اور شکل و صورت کا مرصّع بہ جو
تاج بنا دیا تھا۔ اور پھر جب شاہ ولیم اور ملکہ میری کی تاجپوشی کے دن
آئے تو معلوم ہوا کہ اسکے بھی جواہرات کسی طرح نکال لئے جا چکے
ہیں۔ بہرحال یہ تاریخی تاج وہی ہے جسکی موجودہ صورت ۱۶۸۹ء
سے یکساں چلی آتی ہے۔ اس تاج میں موتی۔ ہیرے۔ یاقوت۔ زمرد
نیلم۔ کثیر تعداد میں جڑے ہوئے ہیں اور چوٹی پر ایک خوشنما سنہرا
پھول بنا کر اسپر ایک زریں پٹی دکھائی ہے۔ اور اسی پھول میں
ایک سونے کی صلیب اُٹھا کر اسپر اعلےٰ قسم کے جواہرات کی جڑت
ہو چکی ہے اور تین بڑے بڑے نایاب موتی صلیب کے یمین و یسار
اور اوپر لٹک رہے ہیں۔ غرضکہ یہی وُہ تاج ہے جسکو وقت تاجپوشی
نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایک مکلّف زردوز مسند نما کپڑے پر
رکھ کر بادشاہ کے روبرو لاتے اور پھر آرچ بشپ اوف کنٹربری
ہاتھ سے اُن کے سر پر رکھتے ہیں۔ جسکے بعد پھر اُس کی ضرورت

رہتی۔ کیونکہ ہر ایک تاجدار اپنے لئے اپنی طبیعت اور مذاق کے مطابق نیا تاج طیار کرا کے پہنتا ہے۔ چنانچہ وہ نیا تاج ادائے مراسم کے بعد ویسٹ منسٹرایبی دگرجا) سے رخصت کے وقت سے لیکر جبتک بادشاہ سلامت کی مرضی ہو اُن کے زیب سر رہتا ہے۔

انگلستان کے تاریخی تاجِ شاہی کے تذکرے میں یوروپ کی دوسری عیسائی تاجدار سلطنتوں کے تاجوں کا ذکر بھی غالباً نہایت موزون ہوگا۔ جسکے مطابق پُرانی وضع کا تاج شاہ اٹلی کے پاس بیان کیا جاتا ہے جو شاہِ لیمبرٹ کے تاج کا ہمشکل بنایا گیا ہے۔ اور شاہ لیمبرٹ کے آہنی تاج کو موّرخین انگریزی یہ تقدیس دیتے ہیں کہ اُس کا حلقہ اُن میخوں میں سے ایک میخ کا بنا ہُوا ہے۔ جو مسیح ؑ کی صلیب میں مستعمل ہوئی تھیں اور اُسی لوہے کے پٹّی نما حلقے کے اوپر سونے کا شش پہل اٹھائو دے کر اسکو ختم کیا گیا ہے۔ اسکے علاوہ رومانیا کے تاج میں یہ خصوصیت ہے۔ کہ ۱۸۷۷ء کے جنگ پلونا میں جو ترکی توپیں اِن کے ہاتھ آئی تھیں اُنہیں کے لوہے میں سے اُنہوں نے اپنا تاج بنایا ہے شہنشاہ جرمن کے پاس بھی بحیثیت شاہِ پرشیا ایک قیمتی تاج موجود ہے۔ جو فریڈرک اوّل کے لئے طیار ہوا تھا۔ لیکن قیصر جرمن خود کوئی تاج نہیں پہنتے۔ علاوہ ازیں تاجدارانِ یوروپ میں سے شاہ پرتگال کا تاج خاصتاً قابل ذکر ہے۔ جو غالباً دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی سمجھا گیا ہے یعنے اسمیں دیگر جواہرات کے سوا ایک بہت بڑا ہیرا براگنزا نامی بھی نصب ہے۔ جسکی قیمت پندرہ لاکھ پونڈ آنکی جاچکی ہے۔ شاہانِ سکاٹلینڈ کا تاج بھی بہت خوبصورت اور قیمتی مشہور ہے۔ مگر ایکٹ اتحاد کے

روسے یہ قرار پاچکا ہے کہ وہ سکاچ سرحد سے اِدھر نہ آنے پائے۔
اب ملک معظّم ایڈورڈ ہفتم کے اُس خاص تاج کا ذکر کیا جاتا ہے جو حضور ممدوح نے الحال اپنے لئے طیار کرایا ہے اور جو کم خرچ و بالانشین کا پُورا پُورا نمونہ ہے - یہ تاج کلہم ایک لاکھ پونڈ یا پندرہ لاکھ روپے قیمت کا ہے - مگر اسکی خوشنمائی اور شانداری بہت بڑھی ہوئی ہے - جو نقشہ ذیل سے کسیقدر ظاہر ہو جائے گی -




اسکے دائرے میں بیس ہیرے فی عدد پندرہ پندرہ سو پونڈ قیمت کے جڑے اُن کے نیچے چوّن چھوٹے ہیرے فی عدد ایک ایک سو پونڈ قیمتی جڑے گئے ہیں - وسط تاج میں اوپر کیطرف دو بڑے الماس ہیں جنکی قیمت تیس تیس ہزار روپیہ ہے - تاج کے بالائی دائرے میں آگے پیچھے دائیں بائیں چار مرصّع صلیبیں قائم کرکے ہر ایک صلیب میں

پچیس پچیس الماس قیمتی بارہ ہزار پونڈ لگائے ہیں۔ اور صلیبوں کے بالائی حصہ پر چار چار بڑے الماس جنکی قیمت فی عدد ایک ہزار پونڈ ہے نصب کرکے اوپر کی جانب بارہ الماسوں کا ایک پھول بنا دیا ہے جس کی مجموعی قیمت دس ہزار پونڈ ہے۔ اسکے سوا اٹھارہ چھوٹے قد کے ہیروں کی بھی جڑت کی گئی ہے۔ جن کی قیمت تیس ہزار روپیہ محراب پر جو موتی اور ہیرے لگے ہیں۔ ان کی قیمت دس ہزار ہے۔ ماسوا اس کے پانچ ہزار پونڈ کے چھوٹے ہیرے جابجا حسب موقع جڑے گئے ہیں۔ اور ابتدائی حلقے میں جو دو قطاریں موتیوں کی ہیں۔ انکی قیمت تین ہزار پونڈ یا پینتالیس ہزار روپیہ ہے۔ اور سونا چاندی اسکے علاوہ ہے۔


ملکۂ الگزنڈرا کا تاج بھی ان کے حکم سے کیرنگٹن اوف ریجنٹ سٹریٹ نے نہایت شاندار قیمتی اور پرلے درجہ کا سبک بنایا ہے اسکی موٹائی ڈیڑھ انچ ہے۔ لیکن وزن صرف کچھ اوپر بائیس اونس جو کل ڈیڑھ پونڈ ہوا جس سے اتنا سبک پہلے کوئی تاج نہیں بنا۔ اس تاج کا نقشہ بھی درجِ کتاب کیا جاتا ہے۔ جسکے دیکھنے سے اسکی شانداری کا پتہ لگ جائے گا۔ اسمیں ہیروں کی جڑت اسقدر متصل لگئی ہے کہ سونا چاندی کہیں نظر نہیں آتے۔ حالانکہ اس کا اندرونی حصہ پختگی کیلئے خالص سونے کا بنایا گیا ہے اور بیرونی طرف چاندی کا پترا جڑکے (کیونکہ چاندی ہی ایک ایسی دھات ہے جو جواہرات کی چمک دمک اور خوشنمائی کو بحال رکھ سکتی ہے) اسپر بالکل پاس پاس ہیرے موتی اور یاقوت وغیرہ ایسے جما دئے ہیں کہ چاندی کی زمین نظر


نہیں آتی ۔ اسکے ابتدائی حلقے میں تین قطاریں خوشنما جواہرات کی قایم کر دی گئی ہیں ۔ اور آٹھ خوبصورت محرابیں اٹھاکر اوپر چار صلیبیں دکھائی ہیں ۔ ہر ایک محراب تین لڑیوں کا بنایا گیا ہے ۔ اور درمیانی لڑی تو نہایت اعلےٰ جواہرات سے گوندھی گئی ہے ۔ اوپر کی چار صلیبوں میں سے اگلی صلیب میں کوہ نور نامی ہیرا دمک رہا ہے ۔ اور باقی تین صلیبوں میں بھی ایسے ہی تاریخی اور نایاب ہیرے چمک رہے ہیں ۔ جنہوں نے پکھراجی رنگ کی مخملی ٹوپی کو ڈھانپ لیا ہے ۔ غرضکہ ابتداء سے انتہاء تک کوئی جگہ جواہرات سے خالی نہیں رہ گئی ۔ جن سے تاج مذکور ایک بقعۂ نور معلوم ہوتا ہے ۔ اسکے کل ہیروں وغیرہ کی تعداد تین ہزار چھ سو اٹھاسی شمار کی گئی ہے یعنے ملکہ وکٹوریا کے تاج سے بھی چھ سو اٹھاسی زیادہ ۔



پرنس اوف ویلز (شہزادہ ولیعہد بہادر) کا تاج خالص سونے کا ہوتا ہے۔ اور اسپر جواہرات نہیں لگائے جاتے۔ اِس لئے اسکی تفصیل کی کچھ ضرورت نہیں۔ لیکن چونکہ انگلستان میں شہنشاہ کے سوا دوسرے پرنس۔ ڈیوک وغیرہ بھی تاج پہنتے ہیں۔ اِسلئے انکی جداگانہ صورتیں اسموقع پر دکھا دینی مناسب معلوم ہوتی ہیں۔ جو یہ ہیں۔


تاج پرنس آف ویلز بہادر



تاجِ ڈیوک صاحبان


تاجِ شہزادگانِ خاندانِ شاہی


تاجِ ارل صاحبان


تاجِ مارکوئس صاحبان


تاجِ بیرن صاحبان


تاجِ کونٹ صاحبان

فصل دوم

ملک معظم کی تخت نشینی

۲۲ جنوری سنہ ۱۹۰۱ع کو جبکہ ملکہ متوفیہ کے گرد و پیش تمام اہالیان خاندان لڑکے لڑکیاں۔ پوتے پوتیاں۔ نواسے نواسیاں۔ حتےکہ قیصر جرمن تک موجود تھے۔ اور دم بدم انکی علالت اور نزع کی خبریں مشتہر ہو رہی تھیں۔ ساڑھے ۶ بجے شام کے ان کے پیمانۂ عمر کے لبریز ہونے پر قضا و قدر نے ورثۂ نادری یعنی سلطنت متحدہ گریٹ برٹن و آئرلینڈ وغیرہ معہ ہندوستان و نو آبادیوں کی زمام حکومت ملک معظم ایڈورڈ ہفتم کے سپرد کی۔ اللہ اکبر! اس عالم کائنات کو حق سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خوشی و غم اور رنج و راحت کے متضاد و مختلف منظروں کا جامع بنایا ہے

کسی کا کندہ نگینہ پہ نام ہوتا ہے ۔۔۔ کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے
عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر ۔۔۔ کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے

یوں تو اس واقعہ کی اطلاع اسی وقت تمام شہر لنڈن میں ہو گئی تھی بلکہ تار نے دور و نزدیک ممالک میں بھی آناً فاناً پہنچانی شروع کر دی تھی۔ مگر ضابطہ کے طور پر بادشاہ سلامت نے سب سے پہلے نو بجے شب کے لنڈن کے لارڈ میئر (معتمد قومی) کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ اسوقت کا نقشہ کھینچنا سخت مشکل ہے۔ کہ دنیا پر ایک عام تاریکی اور سنسنی چھا رہی تھی اور تمام لوگ جلدی جلدی سے قصر اسبورن کو تعزیت شاہی کے لئے جا رہے تھے

اِن میں سے عوام تو باہر سے ہی خبریں سنکے چلے آتے تھے۔ اور خواص ملاقاتی کتاب پر اپنے اپنے نام لکھکر واپس آجاتے تھے اور صرف اخصّ الخواص رکن ہائے سلطنت کو بادشاہِ ذیجاہ سے زبانی اظہارِ تعزیت کا موقع ملتا تھا۔ اور یہ سلسلہ بائیسویں کی شام سے برابر تیئیسویں تک بلاکم وکاست جاری تھا۔ چنانچہ بالآخر ۲۳ ویں کی شام کو ملکِ معظم نے ملکہ متوفیہ کی لاش کو قصرِ آسبورن سے لنڈن کے محل ونڈسر میں لانے اور اُسکے چوکی پہرے اور بزرگداشت کے احکام جاری فرمانے کے بعد خود بھی معہ ڈیوک اوف کیناٹ اور پرنس کرسچین اور ڈیوک اوف فائیف بہادر کے لنڈن تشریف لاکر محلِ ونڈسر میں اقامت فرمائی۔ اُسی دن آپکی باضابطہ جانشینی کا اعلان سینٹ جیمس کورٹ سے عمائدین دینی ودنیوی کے دستخط سے مرتب ہوا۔ اور اگلے دن ۲۴ جنوری سنہ ۱۹۰۱ء یوم پنجشنبہ کی صبح کو شایع بھی کیا گیا جسکے لئے ملکِ معظم قاعدہ کے موافق محل سینٹ جیمس میں تشریف لے گئے جہاں وزرا وعمائدین سلطنت اور ممبران پریوی کونسل اور خادمانِ دین ایک سو تیس کی تعداد میں موجود تھے۔ دوسرے افسروں اور عوام کا تو شمار ہی کون کرسکتا ہے۔ شاہی تخت کے قریب ممبرانِ خاندانِ شاہی اور آرچ بشپ اوف کنٹربری۔ لارڈ چینسلر۔ ڈیوک اوف ڈیونشائر۔ لارڈ سالسبری وزیر اعظم ارل مارشل وغیرہ وغیرہ جلیل القدر اعیان واکابران برطانیہ کی جگہیں تھیں۔ جنہوں نے آپ کی تشریف آوری پر شائستہ مگر خاموش اور مؤدبانہ استقبال کے بعد آپ کو عزت وتعظیم کے ساتھ ریسیو کیا۔ اور معمولی افسروں کے سلام کے بعد آپنے

حضور میں وُہ اعلان سُنایا گیا۔ جو آپ کی جانشینی کے متعلق باضابطہ مرتب ہوا تھا۔ اور جو یہ ہے :۔

اعلان منجانب عمائد دینی و دنیوی

"ازانجا کہ خداوند قادر مطلق کی مشیت سے ہماری سابق والیۂ سلطنت ملکہ وکٹوریہ (نیک یاد) کو جوار رحمت میں جگہ ملی ہے۔ اور چونکہ جناب ممدوحہ کی وفات سے سلطنت متحدہ برطانیہ کلاں و آئرلینڈ کا شہنشاہی تاج بلا شرکت غیرے جائز طور پر شہزادۂ عالیمقام والا جاہ البرٹ[ل] ایڈورڈ کے

ل اگرچہ آپ کا نام البرٹ ایڈورڈ تھا مگر اس لحاظ سے کہ شاہزادہ البرٹ (آپکے والد ماجد) کو مخالفین اور معاندین سے اکثر تکلیفیں اُٹھانی پڑی تھیں۔ شہنشاہ کی والدہ ملکہ وکٹوریا نے آپ نے آخری وقت میں آپ کو نصیحت کی تھی کہ اپنے نیک نام والد کا نام اپنے نام سے علیحدہ کردینا تاکہ ایک تو مصائب سے جو انہیں سامنا پڑے اور دوسرے اس لئے کہ آفاق کا انتہائی تعلقات سے ہمیشہ علیحدہ ہی رہے۔ علاوہ ازیں اسی خاندان میں سے چھ ایڈورڈ آپ سے پہلے تخت انگلستان پر بیٹھ چکے تھے۔ چنانچہ ایڈورڈ اوّل سنہ ۱۲۷۲ء سے سنہ ۱۳۰۷ء تک حکمران رہا۔ جس نے انگلستان کے جنوب مغربی حصہ صوبہ ویلز کو فتح کرکے نیز ولیعہد سلطنت کو جاگیر میں دیدینے سے پرنس آف ویلز کا خطاب دیا جو اب تک برابر اسیطرح چلا آتا ہے اور اسی کے وقت میں سکاٹلینڈ بھی فتح ہوا۔ اور اسی نے سنہ ۱۲۹۷ء میں ان عہدناموں کی تجدید و تصدیق کی جنکے رو سے سوائے پارلیمنٹ کی منظوری کے بادشاہ کوئی جدید ٹیکس نہ لگا یا عائد نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ایڈورڈ دوم سنہ ۱۳۰۷ء میں اس کا جانشین ہوکر سنہ ۱۳۲۷ء تک حکمران رہا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا ایڈورڈ سوم سنہ ۱۳۲۷ء سے سنہ ۱۳۷۷ء تک جلوس فرما رہا۔ اس کا عہد بہادری کا زمانہ کہلاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو امراء کے ذمہ بوقت جنگ فراہمی فوج کا کام تھا اور جس سے ہمیشہ خرابیاں نکلا کرتی تھیں۔ اس نے وہ طریق موقوف کرکے باقاعدہ فوج سلطنت کی طرف سے مقرر تنخواہ ملازم رکھی۔ اور فوجی فنون ضرب و حرب میں بھی بہت کچھ ترقی کی۔ فرانس اور سکاٹ لینڈ والوں سے اکثر اسکی لڑائیاں ہوئیں۔ چنانچہ سیاہ پوش شہزادہ (بلیک پرنس) اس کا بیٹا بھی انہیں جنگوں کی نذر ہوکر اس سے ایک سال پہلے مرگیا۔ جس کو انگریزی قوم بڑی محبت سے یاد کرتی ہے۔ بحری قوت کا عروج بھی اسی کے

(بقیہ حاشیہ آئندہ)

میراث میں آیا ہے۔ لہذا ہم ارکان دینی و دنیوی اس سلطنت کے مع
ملکہ متوفیہ کی پریوی کونسل و کثیر التعداد و دیگر خاص خاص اشخاص و نیز
لارڈ میئر و ایلڈرمین و ساکنان شہر لنڈن بذریعہ اعلان ہذا اسوقت متفق اللفظ
و یک زبان و یکدل ہو کر مشتہر کرتے اور اعلان دیتے ہیں کہ خدا
کے فضل سے عالیمقام والا جاہ شہزادہ البرٹ ایڈورڈ بباعث وفات
ہماری سابق والیہ سلطنت (نیک یاد گے) اب ہمارے جائز اور حقدار ایڈورڈ
ہفتم بلا شرکت غیرے سلطنت متحدہ برطانیہ کلاں و آئرلینڈ و حامی دین اور
قیصر ہند ہو گئے ہیں ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دلی اور عاجزانہ خلوص سے
انکے ساتھ پوری عقیدت رکھیں گے اور انکی ہمیشہ فرمانبرداری کریں گے اور
خدا تعالے سے جسکے حکم سے بادشاہ اور ملکہ حکومت کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ وہ
شہزادہ ایڈورڈ ہفتم کو تخت سلطنت پر بیٹھنے کیلئے سال ہائے دراز تک خوش و خورم رکھے

مورخہ ۲۳ جنوری سنہ ۱۹۰۱ء

مقام کورٹ سینٹ جیمس"

وقت میں شروع ہوا اور مذہب پروٹسٹنٹ (اصلاح یافتہ) بھی اسی کے وقت سے ترقی کرنے لگا
اسکے بعد رچرڈ دوم ہنری چہارم پنجم و ششم حکومت کرتے رہے یہانتک کہ پھر سنہ ۱۴۶۱ء میں ایڈورڈ
چہارم تخت نشین ہو کر سنہ ۱۴۸۳ء تک حکمران رہا جسکے بعد اسکا نو دس سال بیٹا ایڈورڈ پنجم صرف
۹ ہفتے تخت نشین رہ سکا اور بعدہ اسکے بیرحم چچا نے (جو متوالی سلطنت تھا) اسکو مروا دیا۔
زاں بعد سلطنت دوسرے نام کے بادشاہوں کے قبضہ میں جاتی رہی تا آنکہ ہنری ہشتم کا
بیٹا سنہ ۱۵۴۷ء میں ایڈورڈ ششم کے نام سے تخت نشین ہو کر سنہ ۱۵۵۳ء تک حکمرانی کرتا رہا۔
اور پھر ملکہ میری و ملکہ الزبتھ وغیرہ سلطنت کرتی رہیں جسکے بعد تقدیر نے سنہ ۱۸۳۷ء میں
ملکہ وکٹوریہ کو تاج پہنایا ۲۲ جنوری سنہ ۱۹۰۱ء کو آپکے لخت جگر البرٹ ایڈورڈ ہفتم کو تخت شاہی پر
بٹھایا پس یہ ایڈورڈ ہفتم کا نام چونکہ اس خاندانی سلسلہ کا یادگار تھا لہذا آپ نے بھی
اسی تاریخ سے اپنا نام صرف ایڈورڈ ہفتم لکھنا شروع کیا اور اپنی تقریر میں اسکا اعلان فرما دیا

اسکے بعد آپنے اعلان مذکور کے مشتہر کرنیکا حکم دیا۔ پھر تمکین اور سنجیدہ مگر حزین لب و لہجہ میں حسب ذیل مختصر تقریر فرمائی۔ جو پہلے سے مرتب کی ہوئی تھی اور جسکو تمام حاضرین نے نہایت ادب و خاموشی سے سماع کیا۔

ملک معظم کی پہلی تقریر

"اراکین خاندان شاہی ۔ اُمراء و شرفاء!

یہ سب سے زیادہ رنج دہ موقع ہے کہ جسپر مجھے آج کہ آپ سے خطاب کرنیکا اتفاق ہوا ہے۔ میرا پہلا اور افسوسناک فرض یہ ہے کہ آپکو اپنی عزیز والدہ ملکہ معظمہ کی وفات سے اطلاع دوں میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ اور کل قوم بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل دنیا میرے ساتھ اس ناقابل تلافی نقصان پر دلی ہمدردی کرتی ہے جو ہم سب نے برداشت کیا ہے غالباً اب اس امر کے بیان کی چنداں ضرورت نہیں رہی کہ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوگی کہ اُن کے نقش قدم پر چلوں کیونکہ جو بھاری بوجھ مجھ پر اب وارد ہوتا ہے اسکو اپنے اوپر لینے میں میرا مصمم ارادہ ہے کہ ایک آئینی بادشاہ اس لفظ کے ٹھیک ٹھیک معنوں میں بنکے دکھاؤں اور جب تک میرے جسم میں جان ہے ہمیشہ اپنی رعایا کی بہتری اور بہبودی میں کوشاں رہوں۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنا نام ایڈورڈ رکھوں جسکے قبل ازیں میرے چھ بزرگ موسوم رہ چکے ہیں۔ ایسا کرنے میں میں البرٹ کے نام کی بیقدری نہیں کرتا جو مجکو اپنے بزرگ اور دانا والد سے (جنکی وفات کا ہمیشہ رنج رہیگا۔ اور جو تمام دنیا کے اتفاق رائے سے بجا طور پر البرٹ صالح کے نام سے مشہور تھے) میراث میں آیا ہے بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ نام یگانہ رہے۔

آخیر میں میں یقین کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اور قوم ان اہم فرائض کی

انجام دہی میں میری امداد کرے گی جو اب میرے میراث میں آئے ہیں اور جن کی ادائگی میں میرا مصمم ارادہ ہے کہ بقیہ زندگی میں اپنی کل طاقت کو صرف کر دوں"

اِسکے خاتمہ پر لارڈ سالسبری نے آپ کو شاہی حلف دلوائی جسمیں آپنے اقرار فرمایا کہ" میں پارلیمنٹ کے منظور شدہ قوانین و دستورات کے ساتھ حکومت کروں گا۔ اور پروٹسٹنٹ مذہب کو بحال رکھوں گا" بعد ازاں وزرائے سلطنت نے پھر آپکے حضور میں پیش کرکے آپکی اطاعت و فرمانبرداری کا حلف اُٹھایا۔ اور آپنے بدستور وہ مواہیر اِن کے سپرد فرمائیں۔ اور شاہی توپ خانہ سے اکاسٹی اتوا پکی شاہی سلامی سر ہوکے یہ ابتدائی جلسہ تخت نشینی ختم کیا گیا۔ اور ہر طرف سے خدا بادشاہ کو سلامت رکھے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر عام طور پر اعلان سُنانے کے لئے ایک مختصر مگر شاندار جلوس مشہور مقاماتِ شہر میں روانہ ہوا۔ جسکے آگے آگے لارڈ رابرٹس فیلڈ مارشل مع سٹاف کے اپنی پوری وردی میں جلوہ گر تھے۔ اِن کے بعد چیف ہیرالڈ (ملقب قیصری) ارل مارشل کی ماتحتی میں ایک ہی قسم کی زرق برق پوشاکیں زیب تن کئے ہوئے جا رہے تھے۔ سات ہزار فوج بھی متعین ہو چکی تھی۔ غرضیکہ اِس شان و شکوہ کے ساتھ بآوازِ بلند آپ کی تخت نشینی کا اعلان سُنایا جاتا رہا اور ہر ہر مقام پر زور و شور کے چیرز ہوتے رہے یہی اعلان مع حضور ممدوح کی تقریر دلپذیر کے تمام ممالک محروسہ میں بذریعہ تار بھیجدیا گیا تھا۔ چنانچہ ۲۵ - اور ۲۶ جنوری کی دو تاریخوں میں قریباً تمام ایسے مقامات میں جہاں تار جا سکتی تھی یہ اعلان اُس مقام کے افسر اعلےٰ نے رعایا کے جمِ غفیر کو سُنا دیا تھا۔ اور جو مقامات تار اور ریل سے بعید تھے

جوں جوں وہاں خبریں پہنچتی رہیں اسی اعلان کا شیوع ہوتا رہا۔

پارلیمنٹ میں اطلاع۔ ۲۵ جنوری سنہ ۱۹۰۱ء کو بادشاہ ذیجاہ نے معہ بادشاہ بیگم کے ایوانِ پارلیمنٹ کے طبقۂ امرا میں رونق افروز ہوکر مختصر الفاظ میں اپنی والدہ مکرمہ کی وفات کا ذکر فرمایا۔ جسپر لارڈ سالسبری وزیر اعظم نے ملکہ متوفیہ کی وفات پر تعزیت اور آپکی تخت نشینی کی تہنیت کا ریزولیوشن پیش کرتے ہوئے ملکہ متوفیہ کے اوصافِ حسنہ اور آپ کے نیک امیدوں کی توقع کا اظہار کیا۔ اور ارل کیمبرلی کی تائید سے رزولیوشن موصوف کے پاس ہونے پر اجلاس برخاست کیاگیا۔ ایساہی ہوس اوف کامنز و طبقۂ عوام میں جب سپیکر نے ملکہ کے ارتحال اور آپکے جانشین ہونیکا وحال بیان کیا۔ تو مسٹر بالفور نے لارڈ سالسبری کیطرح یہاں بھی تعزیت و تہنیت کی تجویز پیش کی۔ جو مسٹر ہنری بنربین کی تائید سے پاس ہوئی۔ اور اسیوقت اجلاس کا خاتمہ ہوا۔

اصلاح دعا۔ اسکے بعد ارل مارشل لنڈن نے بذریعۂ اعلان مشتہر کیا۔ کہ

"دعا کی کتاب میں ملکہ معظمہ کی متعلقہ دعاؤں میں مندرجۂ ذیل تبدیلیاں کیجائیں کہ بجائے ملکہ عظمہ وکٹوریا ہماری ساورین لیڈی وخاتون عالیمرتبت کے اعلےٰحضرت ایڈورڈ ہفتم ہمارا ساورین کنگ و شاہِ عالی مرتبت کے الفاظ پڑھے جائیں۔ اور خاندانِ شاہی کی متعلقہ دعاؤں میں بجائے البرٹ ایڈورڈ پرنس اوف ویلز کے یہ الفاظ بولے جائیں۔ علیا حضرت ملکہ الگزنڈرا اور پرنس جارج ڈیوک اوف کارنوال و یارک و انکی بیگم ڈچز اوف کارنوال اینڈ یارک"۔

اسکے بعد ۲ فروری سنہ ۱۹۰۱ء کی شام کو ملکہ متوفیہ کی تدفین عمل

میں آئی جس سے فراغت کے بعد آپنے ہندوستانی والیان ریاست کے نام اپنا مندرجہ ذیل پیام روانہ فرمایا۔

پیام شاہی

از انجاکہ ہم نے اپنی پیاری والدہ کی اندوہناک وفات حسرت آیات سے وُہ تخت میراث میں پایا ہے جو مدید اور قدیم سلسلہ سے ہم تک پہونچا ہے۔ لہٰذا ہم دیسی ریاستوں کے حکمران رؤساء اور اپنی سلطنت کے باشندگان کو سلام و پیام بھیجنے کی آرزو کرتے ہیں۔ اور ان کی بہبودی کے واسطے ہماری جو دلی تمنا ہے اُس کی نسبت اُنہیں یقین دلانا چاہتے ہیں۔ کہ ہماری نامور مقدم جانشین جنکی وفات کا ہمیں دلی رنج والم ہے اس ملک کی پہلی شہنشاہ تھیں جنہوں نے معاملات ہند کی ملک داری بلا واسطہ اپنے ہاتھوں میں لی اور اس وسیع ملک کی گورنمنٹ کیساتھ اپنی قریبی وابستگی کے باعث شہنشاہ کا خطاب بھی اختیار فرمایا نیز ہندوستان کے متعلق تمام امور سے کوئین امپرس ہمیشہ گہری ذاتی دلچسپی رکھتی تھیں اور اس ملک کے کروڑہا باشندے ان کی ذات اور تخت سے جو اُنس رکھتے تھے۔ اُس سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں۔ جس کا نمایاں ثبوت اُنہیں اپنی مدید اور بہتم بالشان حکومت کے پچھلے سالوں میں حکمران شاہزادگان کے جنگ جنوبی افریقہ کے واسطے بخیب اور بیشتر یاتک امداد کے پیش کرنے سے اور دیسی افواج نے اپنے ملک کی حدود کے باہر بہادرانہ خدمات کے ادا کرنے سے دیا ہے۔ ہم اُنکی خواہش اور اُن کی رضامندی سے ہندوستان گئے تھے۔ اور ہم نے حکمران شاہزادگان اور اس مشہور و قدیم سلطنت کے لوگوں اور شہروں سے ذاتی واقفیت

حاصل کی تھی۔ اسوقت ہمارے دل پر جو گہرا اثر پیدا ہوا تھا۔ ہم اسکو کبھی نہیں بھولینگے۔ اور کوئن امپرس اوّل کے نقشِ قدم پر چلنے سے اپنی رعایائے ہند کے تمام مدارج کی فلاح و بہبودی کے واسطے ساعی و سرگرم رہیں گے۔اور اُنکی لازوال وفاداری اور اُنس کے (جو کوئن امپرس اوّل کو حاصل تھی) لائق ثابت ہوں گے۔

(دستخط) ایڈورڈ۔ آر۔ اور آئی۔

ونڈسر کیسل۔ ۴۔ فروری سنہ ۱۹۰۱ء"

افتتاحِ پارلیمنٹ - ۱۴ فروری سنہ ۱۹۰۱ء کو آپنے اپنے دستِ مبارک سے بحیثیتِ شہنشاہ ہند و انگلینڈ ہونے کے پارلیمنٹِ انگلستان کا افتتاح فرمایا اور قاعدہ کے موافق افتتاح سے پہلے بارِ دگر حلف اُٹھائی جبیں حسبِ دستور رسمِ عشائے ربانی کی ادائیگی بھی ساتھ ہی عمل میں آئی۔ جوقت آپ شاہی گاڑی پر سوار ہوکر معہ شہنشاہ بیگم کے پارلیمنٹ کے ہوس اوف لارڈز میں تشریف لے گئے تو فیلڈ مارشل کی پوشاک شہنشاہ کے زیب تن تھی اور ملکۂ الگزنڈرا نہایت بیش قیمت زرو جواہر سے آراستہ ہورہی تھیں آپ کی یہ ابتدائی تقریر اگرچہ بالکل سادہ تھی اور تاریخ تاجپوشی سے بظاہر اس کا کوئی تعلق بھی معلوم نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ پہلی بار پارلیمنٹ کا کھولنا اور اُسمیں اپنی پولیسی کا اظہار کرنا بھی تخت نشینی کا جزو لاینفک قرار دیا جاچکا ہے۔ اسلئے رعایا کو اپنے نئے بادشاہ کے سلطنتی خیالات سُننے کا اشتیاق تھا۔ لہذا یہاں بھی اُس کا ماحصل درج کیا جاتا ہے۔

شاہی تقریر "ہماری مادرِ مہربان ملکہ متوفیہ نے اپنے طرزِ عمل سے دنیا میں ایک بےعدیل مثال قایم کردی ہے کہ شہنشاہوں کو کیسا ہونا چاہیئے۔ پس ہماری دلی خواہش ہے کہ

اُن کے نقشِ قدم پر چلیں۔ الحال ہمارے تعلقات تمام سلاطین سے دوستانہ ہیں۔ جنگِ جنوبی افریقہ تاحال ختم نہیں ہوئی۔ لیکن دشمنوں کے دارالخلافے ہمارے قبضہ میں آگئے ہیں۔ اور ایسی تدابیر عمل میں لائی جائینگی جنسے برٹش افواج مؤثر طور پر دشمنوں کی سرکوبی کرنے کے قابل ہوں۔ اِس وقت جو مصر کے جابجا ہو رہے ہیں انہیں بہت جلد ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ ایسا ہونے کے بغیر لبرل انتظام کیا جانا ناممکن ہے۔ پیکن کی تسخیر اور سفارتگاہوں کے محاصرہ سے مخلصی میں افواجِ ہند نے بہت بھاری امداد دی ہے جسکے بعد چینیوں نے یوروپین سلطنتوں کے مقابلہ پر اسلحہ پھینک دئے اور دربارِ چین کے ساتھ مصالحت کی نسبت بات چیت ہو رہی ہے۔

اگرچہ ہمیں فرزند ارجمند سے جُدا ہونا گوارا نہیں۔ لیکن پھر بھی حسب خواہش ملکۂ متوفیہ کے ڈیوک آف یارک آسٹریلیا جاتے ہیں جو سمندر پر اپنی رعایا کے ساتھ خاص دلچسپی کا ثبوت دینگے۔ اور نیوزیلینڈ اور کینیڈا تک سفر کرینگے۔ عین موقع پر بارشوں سے ہندوستان میں اموات اور قحط کی تکالیف میں توافاقہ ہوگیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ پریزیڈنسی بمبئی کے بعض حصوں میں تاحال تکلیف بدستور چلی جاتی ہے۔ جسکے دفعیہ کے واسطے شاہی افسر ہمہ تن مصروف ہیں۔ بحری اور ملیٹری ضرورتوں اور بالخصوص جنوبی افریقہ کی جنگ نے تخمینوں کو بہت کچھ بڑھا دیا ہے۔ اور آیندہ ملیٹری افواج کو زیادہ تر تقویت دینے اور انہیں زیادہ تر مفید کرنے کے واسطے کوشش کیجانے گی"

اِس کے ساتھ اسقدر اَور بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ جس گاڑی

پر اُسدن بادشاہ ذیجاہ اور ملکۂ الگزینڈرا محل بکنگھم سے سوار ہو کر گرجا جاتے ہوئے پارلیمنٹ کو تشریف لے گئے تھے۔ وُہ گاڑی بھی ایک تاریخی گاڑی ہے۔ جسپر سوائے ایسی ایسی اہم تقریبات کے معمولی طور پر شاہی سواری نہیں نکلا کرتی۔ یہ گاڑی جارج سوم کے وقت طیار ہوئی تھی۔ جس پر لاکھ روپیہ صرف آیا تھا۔ اسپر مختلف خیالی بامعنی تصاویر اور قومی و ملکی نشانات بنے ہوئے ہیں۔ درمیانی کھڑکی (دروازہ داخلہ گاڑی) پر شاہی نشانات منقش ہیں۔ اور آس پاس کی کھڑکیوں میں سے ایک پر طبقۂ گارٹر کا نشان اور دوسری پر سینٹ جارج کی شبیہ بنی ہوئی ہے چھت کے چاروں طرف سکاٹلینڈ والوں اور آئرلینڈ والوں کے قومی نشانات اُبھرے ہوئے دکھائے ہیں۔ اور چھت کے اوپر عین وسط میں تاج انگلستان اور عصائے سلطنت کی سُنہری صورتیں بنائی گئی ہیں۔ پوشش ساری گاڑی کی گلابی مخمل سے ہوئی ہے۔ جس کے حاشیہ پر طلائی لیس لگا ہے۔ اور جا بجا حسب موقع سُنہری پھُندنے آویزاں کئے گئے ہیں۔ اس کا ارتفاع بارہ فٹ۔ عرض آٹھ فٹ چار انچ اور پہیّوں کا قطر چھ فٹ ۴۔ انچ ہے۔ اس گاڑی پر جہاں انگلستان و آئرلینڈ وغیرہ کے نشانات منقوش ہیں۔ وہاں ہندوستان کا کوئی نشان نہیں بنایا گیا۔ جس کی ضرورت کو تسلیم کرکے غالباً ملکِ معظم آئندہ اس کمی کو پُورا فرمائینگے۔

افتتاح پارلیمنٹ سے پہلے حلف اُٹھاتے وقت عمل عشائے ربانی کی ادائگی میں چونکہ چارلس دوم کے وقت سے قانونی طور پر ہر نئے تاجدار کو مذہب پروٹسٹنٹ کی حمایت اور معتقدات رومن کیتھولک کے

اپنی برأت کے لئے مندرجہ ذیل فقرات بھی کہنے پڑتے ہیں جو حسبِ دستور ملکِ معظم کو بھی کہنے پڑے۔

"میں صدق دل سے اور باقرار صانع خدا تعالےٰ کو شاہد قرار دیکے تصدیق اور اعلان کرتا ہوں کہ میرا اعتقاد ہے کہ عشائے ربّانی یعنے روٹی اور شراب کی کسی جزو میں مسیح علیہ السلام کا خون اور گوشت نہیں بنتا۔ اسوقت جبکہ کوئی شخص اُسے خدا کے نام پہ پاک اور وقف کردے یا اُس کے بعد اور کنواری مریم یا دیگر سینٹوں سے استمداد اور اُنکی پرستش اور نیز رسمِ قربانی ختم جو فی زمانہ فرقہ رومن کیتھولک میں رائج ہے وہ محض توہمات اور بُت پرستی ہے۔ میَں خدا کے حضور میں تصدیق اور اعلان کرتا ہوں کہ میں نے یہ اقرار یا اسکا کوئی جزو سیدھے اور معمولی معنوں میں کیا ہے جو میرے سامنے پڑھے گئے ہیں۔ اور جیسا کہ عام انگلستان کے پروٹسٹنٹ اُس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اور اس میں میَں نے کوئی ٹال نے کی نیّت نہیں رکھی۔ اور نہ درپردہ اپنے دل میں کوئی بات پوشیدہ رکھی اور نہ اسکے واسطے پہلے ہی پوپ یا کسی اور شخص سے اجازت حاصل کی اور نہ آیندہ ایسی اجازت کے حصول کی اُمید پر یہ اعلان کیا اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ خدا تعالیٰ یا کوئی شخص مجھے اِس اعلان یا اِس کے کسی جزو سے بری الذمہ کرد ے گا۔ اگرچہ پوپ یا کوئی شخص یا اشخاص اسکو منسوخ کریں یا قرار دیں کہ یہ اعلان ابتدا ہی سے کالعدم تھا۔"

اِن فقرات کا استعمال چونکہ علے الاعلان سب حاضرین کے روبرو کیا جاتا ہے۔ اور اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ جبمیں اِسقدر تعصب و تنفر ایک ہم مذہب فرقہ سے کیا جاتا تھے۔ اِسلئے اُن تمام لارڈوں اور

معززینِ رومن کیتھولک نے جو اس عمل کے وقت موجود تھے اس رسم کی ناگواری کے متعلق اپنے مذہبی پیشوا فادر[1] واہن کی سرکردگی سے لارڈ چانسلر کیخدمت میں اُسیدن ایک عرضداشت بھیجی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے

"آج افتتاحِ پارلیمنٹ کے موقع پر اعلیٰحضرت ایڈورڈ ہفتم کو عقائے ربانی کے خلاف اُن الفاظ کا اعادہ کرنا پڑا جو چارلس دوم کے وقت موضوع ہوئے تھے۔ جب مذہبی اختلاف بہت زوروں پر تھا۔ کچھ دن ہوئے ہیں کہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک یادداشت اس غرض سے بھیجی تھی کہ اگر ممکن ہو تو اُن الفاظ میں کچھ اصلاح کیجائے جس کا جواب آپنے یہ دیا تھا کہ ایسا ہونا بدوں ایکٹ پارلیمنٹ کے ناممکن ہے اور اس لئے ہماری کوششیں محض بے سود ہونگی۔ خود بادشاہِ وقت کو اس میں کوئی اختیار نہیں اور قانون موجودہ کے روسے وُہ مجبور ہے کہ انہیں الفاظ کی تکرار کرے۔ ہمیں امید ہے کہ خود اعلےٰحضرت خوشی سے ایسے الفاظ کے اعادہ سے سبکدوش ہونا پسند فرماتے جن سے عام رعایا بہت برسوں سے ایکٹ پارلیمنٹ کے روسے سبکدوش ہوچکی ہے۔ اگرچہ قانون کی پیروی سے ہمیں انکار نہیں مگر اس موقع پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آج اگرچہ ہم بجاآوریٔ خدمت اور تعمیل ارشاد کی غرض سے افتتاحِ پارلیمنٹ کے موقع پر ہوس اوف لارڈس میں حاضر ہوئے مگر اِن دِل آزار الفاظ کا سُننا ہمیں نہایت شاق تھا۔ اور یہ فقرے اعلیٰحضرت کی لاکھوں جاں نثار رعایا کو سخت ناگوار ہیں جو وفاداری اور نمکحلالی میں دیگر رعایا سے کسی طرح کم نہیں"

[1] مذہب رومن کیتھولک کے پیرو اپنے پادریوں کو فادر کہتے ہیں ۱۲

اِس عرضداشت کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاجپوشی کی تقریب پر اِس فرقہ کو پھر کسی شکایت پیدا ہونے کا موقع نہیں دیا گیا - بہرحال اِن مراسم تخت نشینی - حلفِ سلطنتی اور بالآخر افتتاحِ پارلیمنٹ کے بعد آپ مسلّمہ اور مصدقہ طور پر شہنشاہ ہند و انگلینڈ وغیرہ ہو گئے -

چونکہ ملکِ معظم کی باضابطہ تخت نشینی کا مختصر تذکرہ ہو چکا ہے - اسلئے اب یہ بھی دکھانا ضروری ہے کہ اِس انقلاب عظیم کے بعد آپکے اقتدار و اختیار میں کیا کچھ ترقیات ہوئی ہیں -

اقتدار - یہ ایک مسلّمہ اور عام مشہور بات ہے کہ سلطنت انگریزی اتنے بڑے وسیع رقبۂ ارض میں پھیلی ہوئی ہے - کہ جسپر آفتاب کبھی غروب نہیں ہوتا جسکی مختصر تصریح یہ ہے کہ اِس دولتِ قاہرہ کا رقبہ قریب سوا کروڑ مربع میل انگریزی کے ہے جسمیں ایک پورا برِ اعظم - سو جزیرہ نما - پانسو راسیں - ایکہزار جھیلیں - سو ہزار دریا - اور دس ہزار جزیرے شامل ہیں - اور اسکا محاصل ساڑھے بائیس کروڑ پونڈ یا ساڑھے تین ارب روپیہ ہے - اور یہ وہ آمدنی اور رقبہ ہے - جسکی برابری اسوقت دنیا کی کوئی سلطنت نہیں کرسکتی - یعنے قریباً تمام دنیا کی ایک چوتھائی شہنشاہِ ذیجاہ کے زیرِ نگیں ہے جو فرانس سے ۴۳ گنا اور جرمن سے ۲۵ گنا اور اضلاع متحدہ امریکہ سے ساڑھے ۳ گنا - اور حتٰے کہ سارے یورپ کے مجموعی رقبہ سے بھی تین گنا زیادہ ہے - آبادی کا یہ حال ہے کہ سلطنتِ روس جو دنیا میں سب سے بڑی رقبہ والی سلطنت ہے - اُس سے بھی حکومت انگریزی کے زیر سایۂ سہ چند آبادی ہے - بحری طاقت کا یہ حال ہے کہ دنیا کے ہر سو جہازوں میں ستّر جہاز ایسے ہیں جن پر

انگریزی جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ پس شہنشاہِ بحر و بر کا صحیح اطلاق اگر دنیا کے کسی بادشاہ پہ ہو سکتا ہے تو سلطنتِ انگریزی کا بادشاہ و شہنشاہ ہی سب سے پہلے اُسکا مُستحق نظر آئے گا۔

اختیار۔ دنیا میں عموماً جمہوری اور شخصی سلطنتوں کا رواج ہے۔ جمہوری میں بادشاہ محض برائے وزن بیت۔ اور شخصی میں بمنزلہ نائب خدا کے تمام اختیارات کا واحد مالک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سلطنتِ انگریزی اِن دونوں قسم کی حکومتوں کی معجون مرکب گورنمنٹ ہے۔ اسلئے یہاں دونوں طریقوں سے نرالا ڈھنگ نظر آتا ہے۔ مگر اِس میں بھی بادشاہ کو جسقدر اختیارات حاصل ہیں۔ وُہ کسی دوسری قوّت کو ہرگز ہرگز میسّر نہیں ہو سکتے۔

بادشاہ سلامت ہر شخص کو بیرنٹ کا خطاب دے سکتے ہیں جسکو چاہیں وزارت پر مقرّر فرما سکتے ہیں۔ سلطنت کے تمام ملازموں کو یک لخت مقرر اور موقوف کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کو اپنی مرضئ واحد پہ منظور یا نامنظور کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کے سکّوں کو مسکوک کرنے یا بند کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ ہر عہد نامہ کو منظور یا نامنظور کر سکتے ہیں۔ ہر سلطنت کو اپنے حضور میں سفیر طلب کرنے کی عزّت اور تمام سفیروں کو یک لخت واپسی کی ذِلّت دے سکتے ہیں۔ تمام قیدیوں کو (باستثنائے مذہبی سزا یافتوں) کے رہائی بخش سکتے۔ اور تمام افواج کو بوقت ضرورت ایک جگہ طلب کر سکتے ہیں۔ تمام بحری و بری افواج کو موقوف یا بحال فرما سکتے اور تمام بحری و بری آلات حرب و ضرب ایک شخص کو بخش یا بیچ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ضرورت کے وقت ہر فرد رعایا

کو جنگی خدمت کے لئے مجبوراً درجہاز یا اور ضروری سامان کو ضبط فرما سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں بحیثیت **حامئ دین عیسوی** ہونے کے وُہ تمام بشپوں اور پادریوں کے سردار ہیں اور جب کوئی بشپ مرجائے تو جب تک کسی دوسرے کو اسکی جگہ نامزد نہ کریں۔ بذاتِ خود اِس عُہدے کے قائمقام متصوّر ہوتے ہیں کوئی جرم وگناہ اُن کے وجود سے سرزد نہیں ہوسکتا گویا پیدائشی معصُوم مانے گئے ہیں۔ اور کوئی قانون اِن کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔

اِس کے ساتھ اُن بندشوں کا ذکر بھی نامناسب نہ ہوگا۔ جو پارلیمنٹ نے شاہی اختیارات پر لگا رکھی ہیں اور وُہ یہ ہیں۔ کہ خزانۂ عامرہ کو بادشاہ کوئی رقم بلا منظوریٔ پارلیمنٹ ادا کرنے کا حکم نہیں دے سکتا اور مروّجہ قوانین کے برخلاف کوئی حکم سوائے پارلیمنٹ کی منظوری کے جاری نہیں کرسکتا۔ ایسا ہی کسی متعہد عُہدہ دار قوم کو جلاوطنی کی سزا بھی نہیں دے سکتا۔ اور کسی شخص کو بدستِ خود گرفتار بھی نہیں کرسکتا۔ وُہ گو تمام اعلےٰ سے اعلےٰ عدالتوں کے فیصلوں کو اپنے حکم سے منسوخ کرسکتا ہے۔ مگر ججوں کے فیصلہ یا ڈگری میں مداخلت نہیں فرما سکتا۔ لیکن باوصف اِن قیود کے بھی بادشاہی قوت ہی پارلیمنٹ۔ فوج اور خزانہ کی سب سے بڑی مالک متصوّر ہوتی ہے۔

ملکِ معظم کا سالانہ وظیفہ۔ قانونِ انگلستان کے رو سے جو اراضیات اور محالات تاجدار کے اخراجات خاص کے لئے وقف ہوچکی ہیں چونکہ وُہ بھی پارلیمنٹ کو ہی تفویض ہوجاتی ہیں۔ لہذا انکے معاوضہ میں پارلیمنٹ بحالاتِ زمانہ کوئی ایسی معقول رقم خزانہ سے اپنے بادشاہِ ذیجاہ کے اخراجات کے

لئے منظور کردیتی ہے۔ جو اُس کے منصب رفیع اور ضروریاتِ وسیع کے لائق ہو۔ چنانچہ ملکہ وکٹوریا متوفیہ نے جب وہ محالات حسبِ قاعدۂ مستمرہ پارلیمنٹ کو تفویض فرماتے۔ تو گو اِن کی اصلی آمدنی دو لاکھ دس ہزار پاونڈ سالانہ تھی۔ لیکن پارلیمنٹ نے ملکہ کے مصارف اور ضروریات کے لحاظ سے اُن کے سالانہ اخراجات کے لئے تین لاکھ پچاسی ہزار پونڈ تجویز کئے۔ اسکے علاوہ ان کو ڈچی اوف لنکاسٹر وغیرہ کے نام سے بھی معقول آمدنی تھی۔ جسپر لوگوں کا خیال تھا کہ اِن کے پاس بہت بڑی دولت جمع ہوگئی ہے۔ لیکن ۱۸۸۹ء میں بصدارت ڈبلیو ایچ سمتھ صاحب جو کمیٹی شاہی اخراجات کی جانچ پڑتال کے لئے مقرر ہوئی تھی اُسکو معلوم ہوا کہ ملکہ معظمہ کے پاس کوئی زائد پس انداز موجود نہیں ہے کیونکہ شاہ روس۔ شاہ فرانس۔ شاہ فارس اور ایسے ہی دوسرے عالیقدر فرمانرواؤں کی مہمانداری میں علاوہ سلطنت کے روپے کے اُنہوں نے خود بھی آٹھ لاکھ چوبیس ہزار پونڈ وقتاً فوقتاً صرف فرمائے ہیں۔ غرضکہ وہ وظائف جو ملکہ متوفیہ کے لئے مقرر تھے۔ باوصف اِسکے عورت ذات ہونے کے بھی جب کچھ زیادہ ثابت نہ ہوئے۔ تو ملکِ معظم ایڈورڈ ہفتم کے لئے کس طرح مکتفی ہوسکتے جو بلحاظ مرد ہونے کے اُن سے زیادہ اپنے سلامی بھی رکھتے ہیں۔ اور بلحاظ شاہی خاندانوں کی یوروپ میں آمدورفت کی زیادتی کے بھی اب وہ کیفیت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اور ماسوائے اس کے زمانہ کی ضروریات بھی اسقدر بڑھ گئی ہیں کہ جس سے کسی کو گریز و گزیر نہیں ہوسکتا۔ لہذا مارچ ۱۹۰۱ء میں ملکِ معظم کے باضابطہ حکمران ہوجانے کے بعد آپکے وظیفہ کا

معاملہ پیش ہوا۔ اور تمام حالات پہ غور کر کے فیصلہ ہوا کہ ملکِ معظم کا وظیفہ پانچ لاکھ ستر ہزار۔ پاونڈ یعنے پچاسی لاکھ روپیہ سالانہ مقرر کیا جائے چنانچہ اب آپ کو وہی وظیفہ ملتا ہے۔

وظیفہ شاہانہ کے علاوہ حضور ممدوح اس کثیر جائیداد کے بھی مالک ہوئے ہیں۔ جو ملکہ معظمہ متوفیہ کے ترکہ میں آپ کو پہنچی ہے مگر اس جائیداد کی تعداد اور مالیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے کیونکہ دستورِ شاہی کے مطابق بادشاہی وصیت ناموں کو عدالت میں پیش یا رجسٹری ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا ملکہ متوفیہ جو کچھ ہی لکھ گئی ہونگی۔ اور جو جو اشیاء آپکے یا آپکے بھائی صاحب کے لئے تجویز فرما گئی ہونگی۔ اس کی تشریح سوائے بادشاہ سلامت یا شاہی خاندان کے ممبروں کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔

ملکہ محتشمہ کے لئے یہ قرار دیا گیا ہے کہ خدانخواستہ اگر وہ بیوہ ہو جائیں تو اُن کو ستر ہزار پونڈ سالانہ وظیفہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ملکِ معظم کی دختران نیک اختران میں سے ہر ایک کے لئے اٹھارہ اٹھارہ ہزار پونڈ یعنے ۲ لاکھ ستر ہزار روپے کا سالانہ وظیفہ مقرر کیا گیا ہے۔

اسی ضمن میں یہ بھی لکھہ دینا ضروری ہے کہ بادشاہ سلامت اپنے محل کے نوکروں کی نسبت ہر طرح کے عدالتی احکام بھی خود ہی دینے کے مجاز ہیں۔ جسکی کوئی اپیل نہیں ہو سکتی اور اس طرح بادشاہ ذیجاہ کے پرائیویٹ حالات اور مقدمات بھی عدالت میں پیش ہونے سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جو بالکل ٹھیک اور مناسب تجویز ہے۔ کیونکہ ایسے مقدمات کا معمولی عدالتوں میں ارجاع مصلحت کے خلاف ہوا کرتا ہے۔

شاہی القاب وخطاب - پارلیمنٹ انگلستان کی حسب ضابطہ منظوری کے بعد شاہی القاب و خطاب کے متعلق ملک معظم کا مندرجہ ذیل اعلان شاہی ۴-نومبر ۱۹۰۱ء کے سرکاری لندن گزٹ میں بدیں الفاظ شائع کیا گیا۔

از پیشگاہ والا پائیگاہ - اعلیٰحضرت ملک معظم ادام اللہ اقبالہم

اعلانِ شاہی

ایڈورڈ - (آر) (آئی)

ہر گاہ پارلیمنٹ کے گذشتہ اجلاس میں ایک ایکٹ بنام "ایکٹ بدیں غرض کہ اعلیٰحضرت - والامنزلت ملک معظم ادام اللہ اقبالہم اپنے القاب وخطابات شاہی میں بغرض اظہار اعتراف اپنی مملکت ہائے ماوراء البحر کے اضافہ کر سکیں" صادر ہوا تھا اور اس ایکٹ میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ مابدولت کے لئے یہ امر جائز ہوگا کہ اپنی مملکت ہائے ماوراء البحر کی مذکورہ بالا اعتراف کی غرض سے بذریعہ اپنے ایسے اعلانِ شاہی کے جو سلطنت متحدہ کی مُہر عظیم القدر سے مزین ہو کر ایکٹ مذکور کے صادر ہونے سے چھ مہینے کے اندر جاری کیا جائے۔ اُن القاب و خطابات میں جو سلطنت متحدہ اور اُسکے متعلقہ ممالک کے تاج شاہنشاہی کے متعلق فی الحال ہیں۔ مابدولت ایسا اضافہ فرمائیں جو مابدولت واقبال کو مناسب معلوم ہو اور ہر گاہ مابدولت کے موجودہ القاب وخطابات زبان لاطینی میں "ایڈورڈس سپتم دیئی گریشیا برٹینیارم ریکس فائیڈی ڈیفنسر انڈیئی امپریٹر" اور زبان انگریزی میں "ایڈورڈ ہفتم بائی دی گریس اوف گاڈ اوف دی یونائیٹڈ کنگڈم اوف گریٹ بریٹین

اینڈ آئرلینڈ کنگ ڈیفینڈر اوف دی فیتھ امپرر آف انڈیا" (ایڈورڈ ہفتم بہ افضال الٰہی ملک معظم سلطنت متحدہ برطانیہ عظمٰی و آئرلینڈ۔ حامی دین۔ قیصر ہند") ہیں۔ مابدولت نے بہ صلاح و مشورہ اپنی پریوی کونسل کے یہ ارشاد و اعلان کرنا مناسب تصوّر فرمایا ہے۔ اور اِس تحریر کی رو سے بہ صلاح و مشورہ مذکورۃ الصدر یہ ارشاد و اعلان فرماتے ہیں کہ آیندہ جہاں تک بآسانی ہو سکے کل موقعوں پر اور کل وثیقہ جات میں جن میں مابدولت کے القاب و خطابات استعمال ہوتے ہیں۔ اُن القاب و خطاب میں جو فی الحال سلطنت متحدہ اور اس کے متعلقہ ممالک کے تاج شاہنشاہی کے متعلق ہیں۔ اضافۂ ذیل کیا جائے یعنی زبان لاطینی میں بعد لفظ برٹینیارم کے الفاظ ایٹ ٹریرم"۔ ٹرنسمیرینارم کوئی ان ڈیشنی سنٹ برٹینکا" اور زبان انگریزی میں الفاظ" اوف دی یونائیٹڈ کنگڈم اوف گریٹ بریٹن اینڈ آئرلینڈ" (سلطنت متحدہ برطانیہ عظمٰی و آئرلینڈ) کے بعد یہ الفاظ" اینڈ اوف دی برٹش ڈومینینس بیانڈ دی سیز" (و برٹش مملکت ہائے ماوراء البحر)

اور یہ بھی مابدولت و اقبال کی خوشی اور رضائے خاطر ہے کہ کل سکہ ہائے طلائی و نقرئی و مسی جو فی الحال سلطنت متحدہ کے سکہ ہائے رائج و جائز ہیں اور کل سکہ ہائے طلائی و نقرئی و مسی جو آج کی تاریخ یا اس کے بعد اسی قسم کے نقشوں کے ساتھ مابدولت کے حکم سے مسکوک کئے جائیں باوجود اضافہ مذکور کے جو مابدولت کے القاب و خطابات میں ہُوا ہے سلطنت متحدہ مذکور کے رائج و جائز سکے سمجھے

اور مانے جائیں اور ما بدولت کی یہ بھی خوشی اور رضا مندی خاطر ہے کہ کل سکّہ جات جو سلطنت متحدہ مذکور کے کسی ممالک متعلقہ کے لیے مسکوک کیے جائیں اور ان میں جاری ہوں اور ما بدولت کے اعلان شاہی کے ذریعہ سے فرداً فرداً ممالکِ مذکور کے رائج اور جائز سکے قرار دیئے جائیں اور جن پر ما بدولت کے القاب یا خطابات یا اُن کا کوئی جزو یا اجزاء ثبت ہوں اور کل سکّہ جات جو بعد ازیں مطابق ایسے اعلان شاہی کے مسکوک اور جاری کیے جائیں باوجود اضافہ مذکرہ بالا کے فرداً فرداً ممالک متعلقہ مذکور کے بدستور سکّہ ہائے جائز و رائج اسوقت تک رہیں گے جب تک کہ اس بارہ میں ما بدولت و اقبال کی کچھ اور مرضی ظاہر نہ کی جائے۔

ما بدولت کی پیشگاہ سینٹ جیمس آج چوتھی تاریخ ماہ نومبر ۱۹۰۱ء میں ما بدولت کے جلوس کے پہلے سال میں صادر ہوا۔

خدا تعالےٰ حضرت ملک معظم کو سلامت با کرامت رکھے۔

شہزادہ ولیعہد بہادر کے لقاب و خطاب۔ اسکے بعد پرنس آف ویلز شہزادہ ولیعہد بہادر کے القاب و خطابات کے متعلق اشتہار مندرجہ ذیل لنڈن گزٹ غیر معمولی مورخہ ۹ نومبر ۱۹۰۱ء میں شائع کیا گیا۔

اعلان شاہی

وائیٹ ہال۔ ۹ نومبر ۱۹۰۱ء

اعلیٰ حضرت ملکِ معظم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فرمانِ شاہی بہ ثبتِ مہرِ عظیم القدر اس غرض سے صادر کیا جائے کہ ہز رائل ہائینس پرنس جارج

فریڈرک ارنیسٹ ایلبرٹ ڈیوک اوف کارنوال و یارک ڈیوک اوف رودسے۔ پرنس اوف سیکس کوبرگ وگوتھا و ڈیوک اوف سیکسنی ارل اوف کیرک و انورنیس۔ بیرن اوف رلیفریو و کیلارنی۔ لارڈ آف دی آئیلس وگریٹ اسٹیورڈ اوف اسکاٹلینڈ کے جی وکے۔ ٹی وکے پی وجی۔ سی۔ ایم جی وجی۔ سی۔ ای۔ آر۔ پرنس اوف ویلس اور ارل اوف چیسٹر مقرر کئے جائیں۔

سکہ جات سلطنت پر بھی مالک معظم کی تصویر اور نام کے مسکوک کرنے کے احکام وفرمان حسب قاعدہ اسکے بعد جاری فرمائے گئے اور قرار دیا گیا کہ ایسے تمام سکہ جات اور اسٹامپ۔ کورٹ فیس اور ڈاک کے ٹکٹ جو سلطنت انگلشیہ کے ممالک مختلفہ میں مختلف قیمتوں اور صورتوں کے مروج ہیں۔ بادشاہ ذیجاہ کے تاجپوشی ہونے کی تاریخ سے جاری ہوں۔ تاکہ اس عرصہ میں ٹکٹوں اور اسٹامپوں وغیرہ کا وہ سٹاک بھی ختم ہوجائے جو پہلے سے جمع تھا۔ اور ماسوائے اس کے آغاز سکہ جات وغیرہ کو تاجپوشی کی تاریخ کا مبارک اعزاز بھی حاصل ہوجائے۔ چنانچہ ٹکسالوں اور سٹامپ وٹکٹ ڈاک وغیرہ چھاپنے والے کارخانوں میں اسیطرح کے احکام صادر فرمائے گئے

فصل سوم

تاجپوشی شاہی کی تیاریاں

تخت نشینی سے تاجپوشی کا فاصلہ اسقدر لمبا ہے کہ جس سے خواہ مخواہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ آخر اِس دیر کی کیا وجہ ہوئی؟ لہذا سب سے پہلے اسکو لکھا جاتا ہے کہ یہ تعویق کئی ایک وجوہات سے عمل میں آئی تھی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ملکِ معظم کو اپنی والدہ متوفیہ کی بزرگداشت اسقدر مرکوزِ خاطر تھی کہ اُنہوں نے اِن کے ماتم کی میعاد متوسلانِ خاندان اور ارا کینِ سلطنت کے لئے سال بھر کامل مقرر فرمائی تھی۔ جس کے اندر ایسے جشنِ مسرت کا انعقاد بلکہ طیاری بھی ٹھیک نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ اِس واقعہ کے بعد چوتھی اگست سنہ ۱۹۰۱ء کو بادشاہ سلامت کی ہمشیرہ صاحبہ پرنسس فریڈرک جو شاہ جرمنی کی والدہ ہوتی تھیں اُن کا انتقال ہو گیا۔ جنکی تکفین و تدفین کی شمولیت کے لئے حضور ممدوح کو خود جرمن جانا پڑا۔ پس بہن کا غم بھی ایسی فرحت و بشاشت کی تقریب کی اجازت نہ دیتا تھا۔ اور پھر اسکے بعد ستمبر سنہ ۱۹۰۱ء میں مسٹر میکنلے پریزیڈنٹ امریکہ کے مارے جانے کا واقعہ بھی بادشاہ ذیجاہ کے لئے بباعثِ اتحادِ دولتین کے کچھ کم گراں نہ تھا۔ تیسری وجہ یہ کہ جنگ ٹرنسوال جو ملکہ متوفیہ کے وقت آخر میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ ان کے بعد بہت شد و مد سے چھڑ گیا۔ جس سے روز انگریزی قوم اور بوئرس کے مقتولین کی لمبی فہرست گوشگذار ہوتی رہتی تھی۔ اور جنگ مذکور گویا ایک

قومی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اسلیئے اس پریشانی کے عالم میں ایسی شادمانی کی تقریب کا سرانجام بھی سخت نامناسب تھا۔ جیسا انگریزی اخبارات نے بھی لکھنا شروع کر دیا تھا کہ ایسے وقت میں جبکہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں اس جشن کا انعقاد کسی طرح مناسب نہیں۔ اور خود بادشاہ سلامت نے بھی فرما دیا تھا کہ تاجپوشی سے پہلے اس جنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ پس بظاہر یہی وجوہات تھیں کہ جن کے باعث تخت نشینی سے تاجپوشی کا اسقدر فاصلہ ہو گیا۔ چنانچہ ان سے فراغت پاتے ہی اس تقریب سعید کی تیاری شروع ہو گئی جسکے مطابق **تاریخ تاجپوشی** ۲۶ جون سنہ ۱۹۰۲ء مقرر کر کے مارچ سنہ ۱۹۰۲ء میں سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا۔

اخراجات تاجپوشی۔ ملکہ وکٹوریا کی تاجپوشی کے وقت انہتر ہزار چار سو ایک پاؤنڈ یعنے دس لاکھ اکتالیس ہزار پچاسی روپیہ خرچ آیا تھا اور ولیم چہارم کی تاجپوشی میں تنتالیس ہزار ایک سو انسٹھ پونڈ۔ اور جارج چہارم کی تاجپوشی پر دو لاکھ تنتالیس ہزار تین سو اٹھاسی پونڈ خرچ ہوئے تھے۔ ان سب حالات پر نظر کر کے پارلیمنٹ نے اپنے بادشاہ عالم پناہ کی تاجپوشی کے لیئے سوا لاکھ پونڈ یا پونے اُنیس لاکھ روپیہ منظور کیا جو خیر الامور اوسطہا کی دلیل تھا۔ لیکن ایک انگریزی اخبار لکھتا ہے کہ طلائی لیسوں۔ درباری تلواروں اور موٹر کار گاڑیوں پر پینتیس لاکھ اور آرائشی جلسوں میں پونے دو کروڑ روپیہ صرف ہوا ہے۔ حالانکہ بظاہر اس بیان میں اور پارلیمنٹ کی منظور کردہ رقم میں کوئی تطابق نہیں معلوم ہوتا۔ مگر قیاس چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی منظور کردہ رقم میں صرف مراسم تاجپوشی کا خرچ ہوگا اور جن اخراجات کا ذکر اخبار نے کیا ہے وہ علیحدہ علیحدہ محکموں اور

مجالس نے کئے ہوں گے۔
باضابطہ تجاویز۔ اس جشن مسرت کے لئے قرار پائی تھیں۔ ان میں دعوت۔ روشنی۔ آتشبازی۔ جلوس اور ریویو اس اعلےٰ پیمانہ پر قرار دئے گئے تھے۔ کہ **دعوت غربا**ء کیلئے ساڑھے چار لاکھ روپیہ منظور کیا گیا۔ تاکہ اس سے پانچ لاکھ غربا نہایت عمدگی کے ساتھ پیٹ بھر سکیں **روشنی** کے لئے علاوہ سرکاری محلات ومقامات شہر کے یہ قرار دیا گیا کہ تین ہزار الاؤ مختلف بلند مقامات پر جلائے جائیں۔ تاکہ اس یادگاری روشنی سے جنگل تک کی اراضیات بھی منور ہوجائیں۔ اور یہ بھی ساتھ ہی فیصلہ ہوا کہ روشنی گیس کی کیجاوے۔
آتشبازی کے لئے یہ اہتمام کیا گیا کہ شائد اس سے زیادہ کہیں نہ کیا گیا ہو۔ کیونکہ ایک لاکھ تیس ہزار کی آتشبازی منظور ہوئی جس میں مُحیِّر کی صنعت گری کا خاتمہ کردیا گیا تھا۔
جلوس کے واسطے یہ حکم دیا گیا کہ علاوہ اسدن بری فوجی جلوس کے ایک بحری جلوس بھی کیا جاوے جس میں انگریزی جہازات کے علاوہ دیگر یوروپین سلطنتوں کے جہاز بھی شامل ہوں۔ غرضکہ فوجی جلوس میں چھ ہزار بحری فوج۔ تیس ہزار پیادہ فوج۔ دواسپی توپخانے اور پندرہ میدانی توپخانوں کی حاضری کا حکم جاری کیا گیا۔ جنگی جہازات میں تمام یوروپین طاقتوں کے ایک ایک جہاز اور جاپان کے دو منظور کئے گئے۔
فوجی ریویو بھی اس قسم کا تجویز کیا گیا کہ کسی بادشاہ کو نصیب ہُوا ہوگا یعنے ہر مقام کے سپاہی اس میں موجود ہوں۔ چنانچہ ہندی اور نوآبادیوں کی فوجوں کے قائمقام بھی اس میں طلب کئے گئے۔ اور بحری ریویو کا

بھی ایسا ہی شاندار انتظام کیا گیا کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔

مہمانانِ تاجپوشی کا احصا کس طرح ہو سکتا ہے۔ جسکے لئے ہر ایک یوروپین کی سلطنت اور دیگر سلاطین عظام کو لکھا گیا کہ جو صاحبان خود تشریف لانا چاہیں خود آئیں۔ ورنہ اپنے اپنے نائب اظہارِ اتحاد کے لئے شمولیتِ جشن کے لئے بھیجدیں۔ ان کے علاوہ سلطنت کے اکابرین اور امرا و روسا کو بھی مدعو کیا گیا۔ اور ہندوستان سے بھی بعض سربرآوردہ رؤسا و امراء طلب کئے گئے۔ چنانچہ ایسے رؤسا ذیشان کے نام نامی درج ذیل کئے جاتے ہیں۔ اِن کے سوا اور بھی چند اصحاب کو دعوت دی گئی تھی۔ مثلاً ہز ہائینس مہارانا صاحب اودے پور۔ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب نابھہ۔ ہز ہائینس نواب صاحب بہادر والی بہاولپور وغیرہ بھی مدعو ہوئے تھے۔ اور قائمقامان امرائے ہندوستان میں سے بھی دو ایک اور صاحب یاد فرمائے گئے تھے مگر یہ صاحبان بوجوہات خاص جا نہیں سکے۔ اسلئے یہاں صرف اُنہیں روسا و امرا کے اسمائے گرامی نقل کئے جاتے ہیں جو شاملِ تقریب ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی اِن حضرات کی جائے قیام اور جو جو افسران گورنمنٹ اُنکی مہمانی کے لئے مقرر تھے اِن کی بھی تصریح کر دی گئی ہے۔

فہرست والیانِ ریاست

نمبر شمار	اسمائے والیانِ ریاست	اسمائے ہمراہیاں	جائے قیام لنڈن	نام سرکاری میزبان
۱	کرنیل ہز ہائینس مہاراجہ دھیراج سر مادھو راؤ صاحب سندھیا جی سی ایس آئی۔ مہاراجہ گوالیار	۱۔ لفٹنٹ کرنیل اے ایم کرافٹس صاحب سی آئی ای آئی ایم ایس۔ ۲۔ مسٹر جے ڈبلیو ڈی جانسٹن صاحب انسپکٹر جنرل سررشتہ تعلیم ریاست ۳۔ میجر کلیمنٹ فلور صاحب ملٹری سکرٹری ۴۔ سردار اپاجی راؤ صاحب شیتولے۔ ۵۔ سردار کاشی راؤ صاحب سردے۔ ۶۔ سردار بہادر سی ایس آئی کمانڈر کیف۔ ۷۔ میجر کرشنا راؤ صاحب سیندھیا۔ ۸۔ میجر گنپت راؤ صاحب بالے	۹۳ بکنگھم گیٹ۔	ایس ڈبلیو لفٹنٹ کرنیل جے ایچ نیوال

نمبر شمار	اسمائے والیان ریاست	اسمائے ہمراہیان	جائے قیام لندن	نام سرکاری مہمانداران
۲	ہز ہائینس مہاراجہ دھیراج سر مادھو سنگھ بہادر جی سی ایس آئی۔ جی سی آئی ای۔ جی سی وی او۔ مہاراجہ جے پور	۱- پوجاری سری ٹھاکر جی۔ ۲- راؤ راجہ مادھو سنگھ بہادر والی سیکر باجگذار جے پور۔ ۳- ٹھاکر دیبی سنگھ رئیس چومو۔ ۴- راجہ اودے سنگھ۔ ۵- بابو سنسار چندر سین ممبر کونسل۔ ۶- راؤ بہادر دھنپت رائے سردار بہادر سی آئی ای سپرنٹنڈنٹ ٹرانسپورٹ کور۔ ۷- ٹھاکر ہری سنگھ سپرنٹنڈنٹ ٹھگی ڈکیتی۔	مورے لاج کیمپڈن ہل کنسنگٹن	کرنل ایس ایس جیکب۔
۳	ہز ہائینس سر شاہو چھترپتی مہاراجہ صاحب جی سی ایس آئی [illegible] مہاراجہ کولہاپور	۱- مہربان پیراجی راؤ گھاٹگے سرجے راؤ وزیر رئیس کاگل (کلاں)، جاگیردار و برادر نسبتی مہاراجہ۔ ۲- راؤ بہادر آر وی سب نس بی اے دیوان کولہاپور۔ ۳- مہربان ملہار راؤ گائیکواڑ [illegible] سردار و مصاحب مہاراجہ صاحب۔ ۴- راؤ صاحب کے اے گائیکواڑ پرائیویٹ سکرٹری۔ ۵- ڈی ایم بھورکر میڈیکل آفیسر۔	[illegible]	میجر [illegible]۔
۴	ہز ہائینس مہاراجہ سر [illegible] سنگھ صاحب بہادر [illegible]	۱- کنور پرتھی سنگھ صاحب۔ ۲- کنور سردار سنگھ صاحب۔ ۳- کنور رنجیت سنگھ صاحب۔ ۴- ٹھاکر ہری سنگھ صاحب۔ ۵- ٹھاکر گوپ سنگھ صاحب۔ ۶- ٹھاکر بخت آور سنگھ صاحب۔ ۷- ٹھاکر ساول سنگھ صاحب۔ ۸- مسٹر [illegible] سکرٹری۔	۱۹ [illegible]	میجر [illegible]۔

نمبر	اسمائے والیان ریاست	اسمائے همراهیان	جائے قیام لشکر	نام سرکاری میزبان
۵	کرنل ہز ہائینس مہاراجہ سر [illegible] صاحب جی سی ایس آئی [illegible] ایل ایل ڈی [illegible]	مہاراج کشن سنگھ جی برادر زادہ اور ایڈیکانگ مہاراجہ صاحب - ۲ - مہاراج کمار رتن سنگھ جی بھائی کا پوتا اور ایڈیکانگ - ۳ - ٹھاکر بہادر سنگھ جی سسودی راجپوت - ۴ - ٹھاکر صاحب بیدی کے بھائی اور ایڈیکانگ اور ملٹری سکرٹری - ۵ - جمعدار کشور سنگھ جی بھٹی راجپوت - ۶ - بھیات ٹھاکر صاحب گور واقعہ مارواڑ ایڈیکانگ اور ملٹری سکرٹری - ۷ - جمعدار گردھاری سنگھ جی راٹھور راجپوت جمعدار باڈیگارڈ مہاراجہ صاحب	[illegible]	میجر اے ایف پنہی صاحب سی آئی ای
۶	لفٹنٹ کرنل ہز ہائینس مہاراجہ سر نرپندر نراین بہادر جی سی آئی ای سی بی اے ڈی سی مہاراجہ کوچ بہار	۱ - مسٹر جے ایل سین ایڈیکانگ - ۲ - مسٹر این سی سین ایڈیکانگ -	[illegible]	[illegible]
۷	ہز ہائینس سر سلطان محمد شاہ آغا خان صاحب بہادر	ان کے ہمراہیوں کے اسماء معلوم نہیں ہوسکے		

فہرست امرائے قائمقامان ہند

نمبر	اسمائے مہمانان	نام مقام
۱	مہاراج کمار پرودیت کمار ٹیگور	کلکتہ
۲	سر جمشیدجی جی جی بھائی بیرونٹ جے پی (مع لیڈی جمشیدجی)	بمبئی
۳	راجہ سر سوئے رام سوامی مدلیر نائٹ سی آئی ای	مدراس

نمبر شمار	اسمائے مہمانان	احاطہ
۴	مہاراجہ سری راؤ دی آنریبل سر ونکٹ اسوی ٹلاچلاپتی رنگا راؤ بہادر کے سی آئی ای راجہ بوبلی۔	مدراس
۵	مہربان گنپت راؤ مادھو راؤ ونچورکر۔	بمبئی
۶	دی آنریبل آصف قدر سید واصف علی مرزا بہادر والی مرشد آباد	بنگال
۷	دی آنریبل نواب ممتاز الدولہ محمد فیاض علی خاں رئیس پہاسو ضلع بلند شہر۔	صوبجات متحدہ آگرہ و اودھ
۸	آنریبل فتح علی خاں قزلباش صاحب رئیس اعظم پنجاب لاہور	پنجاب
۹	گنگا دھر راؤ مادھو چٹ نویس سی آئی ای پریزیڈنٹ ناگپور میونسپلٹی۔	ممالک متوسط
۱۰	رائے جگن ناتھ بروا بہادر۔	آسام
۱۱	مونگ آن کنگ سی آئی ای۔ اے ٹی ایم۔	برہما
۱۲	راجہ پرتاب بہادر سنگھ تعلقہ دار پرتاب گڈھ اودھ معہ رانی صاحبہ	اودھ
۱۳	لفٹننٹ کرنیل نواب محمد اسلم خاں سی آئی ای خان بہادر پشاور	صوبہ سرحدی
۱۴	کنور سر ہرنام سنگھ کے سی۔ آئی ای کپورتھلہ (معہ لیڈی صاحبہ) } نمبر ۱۴ و ۱۵ [illegible]	پنجاب
۱۵	سر بابا کھیم سنگھ بیدی کے سی آئی ای۔ راولپنڈی	پنجاب

یہ سب صاحبان ایک عالیشان ہوٹل واقعہ ویسٹ منسٹر ایس ڈبلیو میں جو آرمس ہوٹل کے نام سے موسوم ہے۔ ٹھہرائے گئے۔ جن کے انتظام قیام و طعام و سواری کے لئے ڈاکٹر جان پولن صاحب ایل۔ ایل۔ ڈی اور شرکت جلسہ ہائے درباری کے لئے اے ڈی جیرل صاحب پولیٹیکل آفیسر کو مقرر کیا گیا تھا۔

ہندی فوج اسکے علاوہ تھی۔ جسکے ایکہزار جوان اس وقت انتخاب سے

چنے گئے تھے کہ جس سے بہتر انتخاب واقعی ناممکن تھا۔ یعنے اسمیں ہندوستان
بھر کی مندرجہ ذیل اقوام کے لوگ نہایت تحقیق کے ساتھ شامل کئے گئے
جو فوجی ملازمت میں شامل ہیں۔ (۱) سکھ (۲) ڈوگرے (۳) آفریدی
(۴) راجپوت (۵) جاٹ (۶) مرہٹہ دکھنی (۷) مرہٹہ کنکانی (۸) برہمن
(۹) گورکھا (۱۰) گڑہوالی (۱۱) تامل (۱۲) موپلہ (۱۳) میر (۱۴) ہزاری
پٹھان (۱۵) بلوچی پٹھان (۱۶) ملتانی پٹھان (۱۷) پنجابی مسلمان (۱۸)
مدراسی مسلمان (۱۹) ہندوستانی مسلمان (۲۰) دکھنی مسلمان۔ یعنے
بیس مختلف اوضاع واطوار کے قائمقامان۔ ان میں کل ڈہائی سو سوار
اور سات سو پیادہ لئے گئے۔ جو تقسیم ذیل سے معلوم ہو سکیں گے۔

فوج رسالہ میں سکھ جوان ۱۰ ویں بنگال لانسرز سے۔ ڈوگرہ ۱۱ ویں بنگال لانسرز سے۔ پٹھان فوج گائڈز سے۔ ملتانی پٹھان ۱۵ ویں بنگال لانسرز سے۔ پنجابی مسلمان ۱۸ ویں بنگال لانسرز سے۔ جاٹ ۱۴ ویں بنگال لانسرز سے۔ ہندوستانی مسلمان اول بنگال لانسرز سے۔ مرہٹہ اوّل بمبئی لانسرز سے۔ راجپوت سوم رسالہ بمبئی سے۔ مدراسی مسلمان اوّل مدراس لانسرز سے۔ دکھنی مسلمان اوّل لانسرز حیدرآباد کنٹنجنٹ سے۔ حضور وائسرائے اور گورنران بمبئی ومدراس کی افواج باڈی گارڈ سے۔ خاص خاص فرقوں کے قائمقام اور اسیطرح افواج سفرمینا سے بھی۔ افواج پیادہ کے قائمقام ڈوگرہ سپاہی ۳۸ ویں پلٹن ڈوگرہ سے۔ سکھ ۱۵ ویں پلٹن سکھ سے۔ پنجابی مسلمان ۲۳ ویں پلٹن پنجاب سے۔ پٹھان ۲۰ ویں پلٹن پنجاب سے۔ آفریدی اوّل پلٹن پنجاب سے۔ براہمن اوّل پلٹن براہمن سے۔ جاٹ وسویں پلٹن جاٹ سے۔ ہندوستانی مسلمان ۷ ویں پلٹن بنگالہ سے

راجپوت، ویں پلٹن راجپوت سے - گورکھا دوم پلٹن گورکھا سے - گڑھوالی ۳۹ ویں پلٹن گڑھوال رائفلز سے - تامل اوّل پلٹن مدراس سے - موپلہ دوم بٹالین موپلہ رائیفلز سے - مدراسی مسلمان ۸۰ ویں پلٹن مدراس سے مرہٹہ (دکھنی)، اوّل پلٹن گرنیڈیئر بمبئی سے - میر مرو ارہ بٹالین سے - ہزارہ ۱۲۴ ویں پلٹن بلوچستان سے - بلوچی ۲۹ ویں پلٹن بلوچ سے - کوکنی مرہٹہ سوم لائٹ پلٹن بمبئی سے - حیدر آباد دکھنی مسلمان اوّل پلٹن حیدر آباد کنٹنجنٹ سے - اسکے سوا ایک دیسی ہسپتال پچاس بستر کا کہ بوقت ضرورت کار آمد ہو - شاگرد پیشہ ندارد - ہاں ایک ایک برٹش افسر کے ساتھ ایک خدمتگار - فوجی دستہ کے تمام جوانوں کے لئے خیمہ جات بھی ساتھ تھے - اور یہ سب لوگ دورانِ غیر حاضری میں رخصت فرلو پر متصور کئے گئے تھے - ریل اور جہازی کرایہ سب کا سرکار نے دیا - برٹش افسران کو سوائے خورونوش اور تنخواہ کے خاص الاونس پندرہ روپیہ (ایک پونڈ) یومیہ - دیسی افسران کو پورا کھانا پینا پوری تنخواہ اور ساڑھے سات روپیہ یومیہ الاونس علاوہ - نان کمیشنڈ افسران وسپاہیان کو بالترتیب پانچ شلنگ اور دو شلنگ یومیہ - یعنے نان کمیشنڈ افسران کو پونے چار روپیہ اور سپاہیوں کو ڈیڑھ روپیہ یومیہ - ان میں سے رسالہ اور سوار پلٹن والوں کو گھوڑے وغیرہ اور توپخانہ والوں کو توپیں وغیرہ ولایت سے دی گئیں اور اس طرح جو سپاہی روانگی کے لئے منتخب ہوئے قبل روانگی کے ڈاکٹری امتحان کیا گیا کہ صحت عمدہ ہے اور اس سے اطمینان کے بعد سب کو تین تین ماہ کی تنخواہیں بھی پیشگی عطا کی گئیں - ایک سو جوان امپریل سروس ٹروپس سے بھی چنے گئے - یعنے اُس فوج

سے جو روسائے ہند نے اعانت شاہی کے لئے طیار کی ہے۔ انکی کمان یہاں سے کپتان ڈاسن صاحب متعلقہ امپیریل ٹروپس کے سپرد ہوئی اور ولایت میں ہندی اور نوآبادیوں کے کنٹنجنٹ کی سپہ سالاری ڈیوک اوف کیناٹ بہادر برادرِ شاہِ ذیجاہ کے نام سے منسوب کی گئی۔ یہاں سے حیدرآباد کے نواب میجر افسر الدولہ بہادر اور ناہن کے کنور بکرم سنگھ صاحب بھی کپتان صاحب کے ساتھ معین و مددگار مقرر کر دئے گئے تھے جس سے اس فوج کی شانداری اور بھی دوبالا ہو گئی تھی۔

امپیریل سروس میں جن ریاستوں سے فوجی قائمقام لئے گئے اُن کی تفصیل یہ ہے۔ سپاہیانِ رسالہ پٹیالہ۔ جودھپور۔ الور۔ بھوپال گوالیار۔ اندور۔ میسور۔ نوانگر۔ رامپور۔ بھاونگر۔ جوناگڈھ۔ کشمیر اور حیدرآباد سے۔ توپخانہ کشمیر سے۔ سفر مینا کشمیر۔ سرمور۔ مالیرکوٹلہ۔ فریدکوٹ سے۔ پیادہ کشمیر۔ پٹیالہ۔ جیند۔ نابھہ۔ کپورتھلہ۔ الور۔ بھرت پور سے۔ ان میں ۱۱۳ افسرانِ رسالہ۔ ۳۔ کپتنی افسران۔ ۱۵۔ نن کمیشنڈ افسران اور ۲۶ منتخب سپاہیان شامل تھے۔

نوآبادیوں کی طرف سے ڈھائی ہزار سپاہ طلب کی گئی تھی جسمیں ۲۶ نوآبادوں کے فوجی قائمقام موجود تھے۔ ان میں سنگاپور۔ ہانگ کانگ بورنیو۔ سیلون۔ سٹریٹس اور دیہالری کے قائمقام بھی شامل تھے۔ اور ان کی اعلےٰ کمان بھی ولایت میں ڈیوک اوف کیناٹ بہادر برادر ملکِ معظم کے سپرد ہو چکی تھی۔ اِن سپاہیوں کے طویل قدوقامت اور مختلف اوضاع واطوار بھی دیکھنے والوں کے لئے ایک عجیب نظارہ پیدا کر دیتے تھے۔

لنڈن کی آرایش وزیبایش اواخر مئی ۱۹۰۲ء سے لیکر اواخر جون تک واقعی لائق دید تھی۔ کہ باشندگان وتاجران وشرفاء وامراء شہر نے مکانات کی سجاوٹ سے اُسکو ایک نئی دُلہن کی طرح سجا رکھا تھا۔ اور اسکے علاوہ مفید یادگاروں کے قیام واستحکام اور باتباعِ خیالِ بادشاہی غریبوں کے خورونوش کے اہتمام میں وُہ سرگرمی دکھا رکھی ہتی کہ جس سے ان کی سچی خوشی خود بخود ظاہر ہورہی تھی اور کوئی شبہ نہیں کہ اسطرح کا اظہارِ خلوص انگلستان کے سراپا آزاد باشندوں کی طرف سے بادشاہ سلامت کی خالص ہر دلعزیزی کا قطعی ثبوت تھا۔ جس کے اظہار کی ملکۂ متوفیہ جیسی اقبالمند حکمرانہ کے کھوئے جانے اور جنگ ٹرانسوال کے دردناک مصائب اُٹھانے کے بعد انگلستان سے بہت کم توقع ہوسکتی تھی۔ لیکن لنڈن کی پبلک نے ثابت کردیا کہ اُن ہموم وآلام کا نعم البدل اگر ان کے نزدیک کوئی چیز ہوسکتی ہتی تو وُہ صرف شاہِ معظّم کی ہی تقریب تہنیت تھی۔ جسکی خوشی میں کہیں تو وہ مسرّت انگیز جلسوں کے انعقاد میں اور کہیں تہنیت ناموں کے ایجاد میں مصروف ہورہے تھے۔

لنڈن کی تیاری۔ شہر لنڈن کی آبادی قریباً پچاس لاکھ اشخاص کی ہے جو دنیا میں کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ رقبہ بھی چھ سو نوّے میل کے قریب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا وسیع شہر دنیا کو کہاں ملسکتا ہے اسی پر قیاس ہوسکتا ہے کہ اتنے بڑے وسیع اور آباد مقام میں تنے چند مہمانوں کے چلے جانے یا کسی جلسۂ مسرّت کے قائم ہوجانے سے محسوس بھی تو نہیں ہوسکتا۔ کہ کوئی آیا ہے یا نہیں اور کوئی جلسہ ہے بھی یا کیا؟ مگر وُہ اہالیانِ لنڈن کا اپنا ہی جوشِ وفاداری تھا۔ جو برابر ایک

سرے سے دوسرے تک گرمجوشی پھیلا رہا تھا - اور معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی بڑے شاندار جلسہ کے لئے طیار ہو رہا ہے - چنانچہ تاجروں اور صناعوں نے مہینوں پہلے سے اس جشن کے لئے مال منگانا اور بنانا شروع کر رکھا تھا - حتے کہ جب ایک نجومی کی یہ پیشگوئی شایع ہوئی کہ "ستاروں کی چال کے بموجب ۲۲ جون سنہ ۱۹۱۱ء کو ملکِ معظم کی تاجپوشی عمل میں نہ آسکے گی" اور اسپر ایک تجارتی بیمہ کمپنی نے اطمینان عوام کے لئے اعلان جاری کیا کہ "جو لوگ ۲۲ جون کی تاجپوشی کے لئے کوئی مال طیار کر رہے ہوں - وہ اگر اپنے منافع کا دس فیصدی ہمارے ہاں داخل کر دیں - تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تاریخ تاجپوشی کے ٹل جانے پر اگر انہیں کوئی نقصان پہنچے گا تو اسکے ہم ذمہ دار ہو جائینگے" تو اس پر اسقدر درخواستیں کمپنیٔ مذکور کے پاس پہنچیں کہ بالآخر ان کو اپنا رجسٹر بند کرنا پڑا - حالانکہ بیمہ کرانے والے صرف متوہم اشخاص ہی ہو سکتے ہیں نہ کہ عام وخاص - پس اسی سے اس طیاری کا اندازہ ہو سکتا ہے - جو اس جشن مسرت کے لئے اہالیانِ لنڈن کر رہے تھے -

مہمانانِ تاجپوشی کا ورود - اواخر مئی سے لیکر وسط جون تک تمام تواریخ مختلف تمام اطراف واکناف عالم سے مہمانانِ تاجپوشی لنڈن پہنچ گئے تھے - جن میں علاوہ یوروپ کی سلطنتوں کے نائبوں کے جاپان کے ولیعہدِ سلطنت - موراکو کے نائب سید المہدی - زنجبار کے سلطان سید علی - چین کے نائب شہزادے اور حبشہ کے نائب اس تقریب معزز صاحبان بھی پہنچ چکے تھے - لیکن مہمانانِ دول غیر کے حالات وغیرہ سے ہماری کتاب کو کچھ زیادہ دلچسپی نہ ہوگی لہٰذا صرف ہندی مہمانوں کے

تذکرہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ جسکی مختصر کیفیت یہ ہے کہ ہندی والیانِ ریاست تو باوقاتِ مختلف متعدد جہازوں میں تشریف لے گئے تھے۔ البتہ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب جے پور اس خاص اہتمام سے گئے تھے کہ ایک پورا جہاز اپنے آمد و رفت کے لئے ڈیڑھ لاکھ روپے پر کرایہ کر لیا تھا جسکو پہلے تو دریائے گنگا کے پانی سے دُھلوا کر اپنے معتقدات کے موافق پاک و صاف کیا گیا۔ اور پھر اُسکے اندر ایک مختصر سا مندر بھی بنا یا گیا۔ مہاراجہ صاحب کے معمولی ملازمان جو سو سے کم نہ تھے اور سبھی ہندو تھے۔ اور وہی مہاراجہ صاحب کی ہر ضرورت کو رفع کیا کرتے تھے۔ اناج۔ ترکاریاں دال۔ سب سامان خورد و نوش یہاں سے چھ مہینے کے لئے ساتھ رکھ لیا گیا تھا۔ اور ریذیڈنٹ صاحب سے پہلے یہ عہد لے لیا گیا تھا۔ کہ کسی انگریزی دعوت میں مہاراجہ صاحب شریک نہ ہوں گے۔ غرضکہ یہ اہتمام اسقدر زائد تھا۔ اور مہاراجہ صاحب کا اسپر اسقدر خرچ آیا۔ کہ شائد دوسرے دو چار رئیسوں کا خرچ اسکے برابر ہو۔ مگر انہوں نے اپنے زعم میں دہرم کو قایم رکھ کے شمولیت جشن سے جو خلوص دکھایا ہے وہ خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ضرور ہے۔

دوسرے والیان ریاست بھی پورے ٹھاٹھ سے تشریف لے گئے تھے۔ اِن کے ہمراہیوں کے نام جو لکھے گئے ہیں۔ یہ صرف وہ نام ہیں جو ان کی ذیل میں بطورِ مہمانِ سرکار داخل تھے۔ ورنہ نوکر چاکر بیسیوں اُن کے ساتھ اِن کے علاوہ تھے۔

ہندی قائم مقامانِ اُمرا میں سے بعض تو ایک ہی جہاز میں بمبئی سے روانہ ہو کر لنڈن پہنچے مگر بعض صاحبان خاص ضروریات کے لئے الگ الگ بھی تشریف لے گئے

اور اِن سب کے ساتھ بھی اِنکے قدرِ بلند کے موافق ہمراہی اور عملہ کافی موجود تھا۔ چنانچہ پنجاب کے قائمقام لفٹیننٹ گورنر نواب فتح علیخاں صاحب قزلباش کے ساتھ اِن کے عزیز سردار علی حسین خاں صاحب بیرسٹر و اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کے علاوہ اہل عملہ بھی گئے ہوئے تھے۔ اسی سے باقی رؤسا کا بھی حال سمجھ لینا چاہیئے۔ غرضکہ یہ صاحبان بھی جب بخیریت تمام لنڈن پہنچ گئے۔ تو نہایت اعزاز کے ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے رسیو کئے گئے۔

ہز ہائنیس سر سلطان آغا خان صاحب بالقابہٗ جو قوم خوجگان کے سرپرست اور پیشوا ہیں انکی شرکتِ جشن خاص معنی رکھتی تھی۔ کیونکہ اِن کو انکی قوم قریباً ویسا ہی سمجھتی ہے۔ جیسا رومن کیتھولک پوپ اوف روما کو جانتے ہیں۔ یہ اپنے لاکھوں پیرووں کیطرف سے ایک ایڈریس بھی لے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر جسقدر انکی عزت ہوئی۔ اسکی تشریح کی ضرورت نہیں شاہی ملاقاتوں میں ایک شاہی ایڈیکانگ اِن کی رہنمائی کے لئے مقرر تھا۔ اور اسی پر کیا منحصر ہے۔ یہ صاحب ایسے جلیل المراتب ہیں کہ گورنمنٹ انگریزی کے علاوہ جرمن اور ٹرکی میں بھی اِن کی کمال توقیر ہوتی رہی ہے۔ اور آپ وہاں کے اعلےٰ خطاب ہائے اعزاز سے بھی برابر معزز ہوتے رہے ہیں۔ غرضکہ ایسے جلیل القدر مہمانوں کی شمولیتِ جشن ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے۔ کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اِن صاحبوں کو کرایہ آمدو رفت وغیرہ سب سرکار سے ملنے کا حکم تھا مگر بہت کم اصحاب نے اس عطیہ سے فائدہ اُٹھایا۔ اور عموماً اپنا ہی روپیہ خرچ کرنا مُبارک تصوّر فرمایا۔ چنانچہ اس دلی خلوص کا یہ اثر ہُوا کہ اہل ولایت نے بھی اِن صاحبوں کو ہر طرح سے بنظرِ قدر دانی دیکھ کر کمال

تپاک و اعزاز کا اظہار فرمایا - اور ہندی مہمان جسقدر عرصہ لنڈن میں رہے
انکی دلچسپی اور اعزاز کے لئے امراو اعیانِ سلطنت پبلک اور خود گورنمنٹ
کی طرف سے متعدد جلسے ہوتے رہے - اور اِن کی شمولیّت کو بلاتخصیص
سبنے ایک فالِ نیک تصوّر کیا - چنانچہ سٹرڈے ریویو ایک معزّز انگریزی
پرچہ نے اِن کی نسبت مندرجہ ذیل خیالات ظاہر کئے -

" اِس سے پہلے مشرقی ممالک نے تختِ انگلستان کے ساتھ کبھی اِسقدر
اظہارِ اطاعت نہیں کیا - جیسا کہ اب ہندوستانی حکمرانوں نے برٹش
سلطنت کے دوسرے افسروں کے ساتھ ملکر ادائے خدمات سے
ظاہر فرمایا ہے - اس کارروائی کے پولیٹیکل نتائج بہت بڑے عمیق
ثابت ہونگے - جو انگلستان کے فخر کے لئے کچھ کم نہیں ہیں لیکن
ہم کو بھی اِن والیانِ ریاست کے رسم و رواج اور مذہبی[1] قیود کی
نسبت ایسی پولیسی اختیار کرنی چاہیئے - کہ جس سے اُن کو کسی معمولی
شکایت کا بھی موقع نہ مل سکے - کیونکہ اگر یہ کوئی بھی شکایت لیکے
گئے - تو اُسکا دھبّہ ہمیشہ ہمپر رہے گا "

اور کوئی بھی شبہ نہیں کہ واقعی طور پر انگلستان نے اِن
صاحبوں کی نسبت بزعم خود بڑی قدردانی کا اظہار کیا - چنانچہ
کیمبرج یونیورسٹی کی ڈگریاں - ۲۷ مئی ۱۹۰۲ء کو کیمبرج یونیورسٹی
نے بیرن ہیاشی - ہزہائینس مہاراجہ صاحب گوالیار - اور ہزہائینس مہاراجہ

---

[1] مہاراجہ صاحب جے پور کی قیود مذہبی کی طرف اشارہ ہے - جو اہلیانِ انگلستان
کے نزدیک بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی تھیں -

صاحب کو لاٹپور۔ اور سر ولیٹ رہوے اور سر ہنری جانسٹن کو اپنے ہاں کی اعزازی ڈگریاں بڑے فخر سے پیش کیں۔

ملکِ معظّم کی سالگرہ کا دن اگرچہ ۹ نومبر تھا۔ مگر انہیں ایام میں آپنے لنڈن کے موسم کے اعتبار پر حکم جاری فرمایا تھا کہ انگلستان میں یہ تقریب برائے آیندہ ۳۰ مئی کو ادا ہوا کرے۔ اور دیگر ممالک میں بدستور ۹ نومبر کو۔ اور اس حکم کے بعد یہی پہلی سالگرہ تھی۔ جو ان ایام فرحت فرجام میں واقع ہوئی تھی۔ لہذا جس قدر بھی ہندی امرا پہنچے ہوئے تھے انہیں ان کو نہایت اعزاز سے شریک کیا گیا۔

مہاراجہ ایڈر کو خطاب۔ ۱۴ جون سنہ ۱۹۰۲ء کو ملکِ معظم نے ایوان بکنگھم میں ایک فوجی دربار منعقد کر کے مہاراجہ سر پرتاب سنگھ صاحب جی سی ایس آئی کو نائیٹ ہڈ کا خطاب معہ ایک چینی تمغہ کے عطا فرمایا۔ اور نیز ہندوستانی رؤسا و امرا کی نسبت کلمات خوشنودی بیان فرمائے۔

آخری نقلی جلوس جو ۱۴ جون سنہ ۱۹۰۲ء کو نکالا گیا تھا۔ اس میں بھی مہاراجہ پرتاب سنگھ صاحب اور دیگر رؤسا موجود شامل تھے۔ اور اسی لحاظ سے اسکی آب و تاب بھی بہت بڑھی چڑھی ہوئی تھی۔

چرچ پریڈ ۱۰ جون سنہ ۱۹۰۲ء کو جس اعلےٰ پیمانہ پر ہوئی اُس کو وہی آنکھیں خوب جانتی ہیں۔ جو اسوقت اس منظر کو دیکھ رہی ہوں گی۔ تیس ہزار فوج اس میں موجود تھی۔ ملک معظّم خود بھی شریک ہونے کو

لہ اسوقت تک یہی صاحبان وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ البتہ ایک مہاراجہ ایڈر بھی تھے مگر ان کو بہادری کی ڈگری کی ضرورت تھی نہ علمی ڈگری کی۔ ۱۲

تھے۔ مگر بوجہ زکام اور درد کمر تشریف نہ لا سکے۔ اور انکی جگہ پرنس اوف ویلز شہزادہ ولیعہد بہادر نے جاکر فوج شاہی کا علیمہ لیا۔ یہاں ایک مرتفع چبوترہ شاہی نشست کے لئے بنایا گیا تھا۔ جسپر شہزادہ ولیعہد بہادر اور ملکہ الگزنڈرا دامت حشمتہا رونق افروز ہوئیں۔ اور ہندی رؤسا و امراء کا نہایت محبت و اخلاق سے سلام لیا۔ اسی دن اس سے فراغت کے بعد شب کو ملک معظم نے ایک بڑی مکلّف ڈنر پارٹی ایوانِ ونڈسر میں دے کر اپنے مہمانوں کو معزز فرمایا۔

لارڈ النلو کی دعوت ۔ ۱۶ کو لارڈ اور لیڈی النلو نے مہمانانِ تاجپوشی کو مدعو کیا۔ جس میں اکثر ہندی رؤسا و امرا بھی شامل تھے۔ اور نہایت گرمجوشی سے اِن کا خیر مقدم کیا جاتا تھا۔

رائل ایشیاٹک سوسائٹی کی دعوت ۔ ۱۷ جون ۱۹۰۲ء کو رائل ایشیاٹک سوسائٹی انگلستان و آئرلینڈ کی طرف سے ہوائٹ ہال میں ہندوستانی رؤسا و امراء کو جو عظیم الشان دعوت دی گئی تھی۔ وُہ بھی تاریخی طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے۔ لارڈ رے صاحب گورنر بمبئی اِسکے صدر نشین قرار دیے گئے۔ شاملین میں لارڈ جارج ہملٹن سکرٹری اوف سٹیٹ۔ ڈیوک اوف کیناٹ بہادر۔ لارڈ رابرٹس صاحب اور تمام بڑے بڑے لارڈ اور ارل موجود تھے۔ مختلف ممالک کے جملہ تین سو اعلیٰ مہمان اس دعوت میں مدعو کئے گئے تھے۔ لیکن اصل مقصود ہندوستانی رؤسا و امراء کی وفاداری کی نمائش تھی۔ چنانچہ اختتام ڈنر (کھانا) پر لارڈ رے صاحب نے ملکِ معظم کا جام صحت تجویز کیا۔ اور اسکے بعد شاہی خاندان کا جام صحت منظور کیا گیا تو ڈیوک اوف کیناٹ نے اُٹھ کھڑے ہو کر نہایت شستگی کیساتھ

ارشاد فرمایا۔ کہ

" اس جامِ صحت اور سوسائٹی کے محبّانہ خیالات کے لئے خاندان شاہی کی طرف سے میں اظہارِ شکریہ کرتا ہوں اور چونکہ مجھے سات سال تک ہندوستان میں رہنے اور بہت سے حکّام اور والیانِ ریاست سے ملنے کا موقع مل چکا ہے۔ اس لئے آج اُن صاحبوں کو یہاں موجود پاکر جو خلوص میرے دل میں پیدا ہوگیا ہے۔ وُہ کسی بیان کا محتاج نہیں بادشاہِ ذیجاہ اور سلطنتِ عظمےٰ کی وفاداری میں جو اعلےٰ خدمات اِن صاحبوں نے ادا کی ہیں۔اِن کے تمغے اِن کے سینوں سے لٹک کر انکی ایسی عمدہ یاد دلا رہے ہیں کہ بایدٔ و شایدٔ۔ ہیمٹن کورٹ میں ویسی افواج کا نظّارہ جیسا کچھ خوش آیند اور پُرفخر ہے مجھے لارڈ رابرٹس صاحب کی موجودگی میں اسکی نسبت کچھ زیادہ کہنے کی حاجت نہیں۔مگر یہہ ایک امرِ واقعہ ہے کہ یہ ہندوستانی فوج جو ہر قسم کی اقوام اور ہر ملت و مذہب کا مجموعہ یہاں موجود ہے۔ دنیا کی تاریخ میں شائد اسکی کوئی نظیر نہیں ملسکتی۔کہ یہ سب مختلف المذاہب اور مختلف الاقوام فوج ایک ہی بادشاہ کے نام پر فدا ہونے اور ایک ہی سلطنت کی خدمتیں کرنے میں بالکل متحد اور متعہد ہیں۔ اور چونکہ ہندوستان وُہ ملک ہے جسکی تمام خاندان شاہی کو ذاتی طور پر معرفی ہے حتّیٰ کہ ملک معظّم بھی اُسے خود دیکھ چکے ہیں۔ اور شہزادہ ولیعہد بھی عنقریب اس میں جانے والے ہیں۔ اسلئے یہ کہنا کہ اسکی طرف سے ایسے اسباب و وفاداری کی فراہمی بادشاہ کو کسقدر خوش کرنے والی ہوگی۔ ایک پُر صداقت بات ہے"

اسکے بعد پھر ہندوستانی مہمانوں کا جامِ صحت تجویز ہوا۔ جس پر ہر طرف سے

پُورے زور و شور کے ساتھ چیرز ہوئے۔ اور مہاراجہ صاحب گوالیار (سندھیا) نے کھڑے ہو کر ایک اعلےٰ درجہ کی تقریر میں مندرجۂ ذیل خیالات ظاہر فرمائے۔

"پہلے تو اس محبت کے لئے آپ صاحبوں کا شکریہ ہم پر واجب ہے جو آپ نے ہمارے جامِ صحت کے تجویز کرنے میں برتی ہے۔ اور پھر یہ گذارش ہے۔ کہ ہم لوگ جو اپنے شہنشاہ ذیجاہ کے جشن تاجپوشی کی شرکت کو یہاں آئے ہیں۔ اس مہمان نوازی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو یہاں کی گئی ہے۔ اور سچ تو یوں ہے کہ آپ لوگوں اور انگلستان کی پبلک جماعتوں کی جانب سے جو عنایات ہم پر کی گئی ہیں۔ اُنھوں نے ہمارے دل پر گہرا اثر کر لیا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم یہاں سیر و تماشہ کا خوب لُطف حاصل کر رہے ہیں۔ ایک کمزور خیال ہے۔ بلکہ میرے خیال میں ہم یہاں آ کر سلطنتِ انگلستان کی عظمت و حشمت کے لاانتہا وسائل اور یہاں کی پبلک کی خوبیوں کے مطالعہ میں مصروف ہیں جنمیں سوائے موسمی دقت کے اور کوئی بات مارج نہیں مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ میں ملکہ متوفیہ کی ۱۸۹۷ء والی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر بوجہ اُن مصائب کے نہ آسکا جو اسوقت میری ریاست پر مسلط ہو رہے تھے۔ اور اسکا افسوس تا عمر مجھکو رہے گا کہ میں نے اُس ملکہ کی آخری زیارت نہ کی جسکے نام کی تمام ہندوستان عظمت کرتا ہے۔ مگر اب شہنشاہ کے پیغامِ دعوت نے مجھے یہاں آنے کا فخر بخشا ہے۔ آپ نے ہندوستانی رؤسا کی مہمانداری اور فیاضی اور اپنی ریاستوں کے اعلےٰ نظم و نسق کرنے کے متعلق جن خوش آئیند الفاظ میں ذکر کیا ہے غالباً گوالیار بھی اسی ذیل میں آنے

کے قابل ہے۔ آپ نے تعلیم نسوان کے متعلق میری نسبت جو کچھ کہا ہے اسکے متعلق یہ کہنا ضروری ہے کہ لڑکوں کو تو بوجہ خیالِ ملازمت یا پیشہ وری کے تعلیم اپنی طرف خود بخود متوجّہ کرلیتی ہے۔ لیکن لڑکیوں کو چونکہ اسکی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلئے اسمیں مجھے بہت جلد پوری کامیابی کی اُمید نہیں۔ البتہ جب ہماری رعایا اِس راستہ سے جو اُن کے لئے کھولا گیا ہے آشنا ہوجائے گی تو یہ دقتیں بھی رفع ہوجائیں گی۔ گو میری ریاست میں جو مدارس تعلیم نسوان کے لئے کھولے گئے ہیں۔ اور جو مدرسہ امرا کی لڑکیوں کی تعلیم کے لئے جاری ہُوا ہے۔ اِن کی کامیابی پر مجھے خود بھی تعجب ضرور آتا ہے۔ کیونکہ ایک کثیر گروہ لڑکیوں کو پردے میں رکھنے کا عادی ہے۔ بہرحال تعلیم و تعلّم کے متعلق ہم ہندوستانی رئیس اگر کسی تعریف کے مستحق ہیں۔ تو اسکے محرک حضور وائیسرائے **لارڈ کرزن بہادر** ہیں۔ جو اِن معاملات پر دلی توجّہ فرماتے ہیں۔ آپ ہی چیفز کالجوں کے متعلقہ کانفرنس کے صدر نشین ہوئے تھے۔ اور آپ نے ہی **امپیریل کیڈٹ کور** کے انتظام سے اُن عالیخاندان اور بہادر رؤساء کے ادائے خدمات کی طرح اندازی کی ہے۔ جو فوجی زندگی بسر کرنے کے شائق ہیں۔ اور میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی تجویز رؤسائے ہند کے وفادار بنانے اور سرگرم کار رکھنے کی نہیں ہوسکتی۔ جو ناچیز خدمات جنگ میں مجھسے ادا ہوسکیں۔ میں انکو فخر کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ کیونکہ میں سلطنت کی اعانت میں خود شریک جنگ ہوا تھا۔ اور ایسا ہی جو دوست میرے اس معرکہ میں سرگرم پیکار تھے۔ اُن کو بھی یہاں دیکھکر میں جسقدر خوش ہوا ہوں۔ اِس کے

اظہار کی ضرورت نہیں۔ آخر میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کا آج کی شب اس معزز مہانداری کے لئے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔"

اِن کے بعد سر جمشید جی جیجی بھائی نے بھی ایک مختصر تقریر میں ہندوستان کی وفاداری برطانیہ کا ذکر کیا۔ اور مہاراجہ کرنل سر پرتاب سنگھ صاحب والی ایڈر نے بھی اردو زبان میں برٹش سلطنت کے جاہ وجلال اور اپنے نمک حلال ہونے کا مذکور فرمایا۔

بعد ازاں ارل اوف ایلجن و کنکاڈین کی تحریک پر امپریل افواج کا جامِ صحت تجویز ہوا۔ جسکے لئے ارل رابرٹس صاحب نے کھڑے ہوکر فرمایا۔ کہ

"اگرچہ پولیٹیکل وجوہات سے ہمارے بادشاہ ذیجاہ کو اس فوج کی جنگی امداد کی حاجت نہیں پڑی (گو ہندوستان اس سے بخوبی فایدہ اُٹھا رہا ہے) لیکن مہم چین میں یہ امر صاف روشن ہوگیا ہے۔ کہ کِسقدر اعلےٰ درجہ کی قابلیت اِن افواج نے بہم پہنچائی ہے۔ اور خوش قسمتی سے وہی ہندی مہمان اسوقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ جن کو یہ دیکھکر خوشی ہوگی کہ جنوبی افریقہ میں صُلح کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ بوئر بالکل سکھوں کے مشابہ ایک جنگجو اور بہادر قوم ہے۔ مگر ہمیں اُمید ہے کہ وُہ اب نہ صرف سلطنت کے وفادار ہی ہوجائیں گے بلکہ قابلِ اعتبار دوست ہوکر دکھا دیں گے۔ بہرحال میں امپریل افواج کی خدمات کے لئے بڑے زور سے اِس جام صحت کی تائید کرتا ہوں۔"

اِس کے بعد لارڈ جارج ہملٹن صاحب نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی کا جامِ صحت تجویز کیا اور جلسہ برخاست ہوا۔

اِس جلسہ کا ذکر اِس لیے یہاں کیا گیا ہے کہ انگلستان کے قریباً تمام معزز اخبارات نے اسکو بڑا قیمتی جلسہ تصوّر کیا تھا۔ اور واقعی اِن میں جو تقریریں ہوئیں وُہ پولیٹیکل طور پر بڑی پُرفخر و معنی خیز تہیں۔ مہاراجہ گوالیار وُہ رئیس ہیں۔ جن کی رعایا تیس لاکھ اور رقبہ تیس ہزار مربع میل ہے۔ مہاراجہ کولاپور وُہ شخص ہیں جن کی ریاست کا رقبہ اٹھائیس ہزار میل اور آبادی ۸ لاکھ ہے۔ اور یہ وُہ رقبے ہیں کہ یوروپ کی سلطنتوں کو بھی میسّر نہیں۔ اِسکے علاوہ مہاراجہ گوالیار اُس خاندان سے ہیں۔ جس سے کسی زمانہ میں گورنمنٹ متعدد لڑائیاں لڑ چکی ہے۔ پس اِنکی تقریر میں گورنمنٹ کی اِسقدر عظمت و حشمت کا اعتراف اور اپنے خلوص و ارادت کا اظہار واقعی بڑی قابل قدر بات ہے۔

ونچسٹر کی دعوت۔ ایسا ہی لارڈ نارتھ بروک۔ لارڈ لفٹنٹ ہمپشائر و ہائی سٹوارٹ ونچسٹر اور لارڈ الڈرمن نے بہی ونچسٹر میں ہندی رؤسا و امراء کو پُرتکلّف دعوت دی جسمیں مہاراجہ صاحبان سیندھیا۔ کولاپور ایڈر۔ اور سر سُلطان آغاخان بہادر بھی شریک تھے۔ ہندی رؤساء و امراجب اپنی ملکی پوشاک زیب تن کرکے جاتے تھے تو اِن کی گاڑیوں کے دیکھنے کو ایک مخلوق جمع ہوجاتی تہی۔ ہر جگہ چیرز بلند ہوتے تھے۔ کالج ہال میں بڑی بڑی معنی خیز سپیچیں ہوئیں۔ پرنسپل کالج نے لاطن زبان میں سپیچ دی۔ جسکے جواب میں مہاراجہ صاحب سندھیا نے انگریزی تقریر فرمائی۔ اور مہاراجہ صاحب کولاپور نے مرہٹی زبان میں تقریر کرتے وقت بیان کیا کہ اگرچہ غیر زبان میں تقریر کرنا اچھا معلوم نہیں ہوتا مگر میں نے اِس خیال سے مرہٹی میں تقریر کی ہے کہ مرہٹی اور

لاطن دونوں سنسکرت سے نکلی ہیں۔ اور سنسکرت وہ زبان ہے جو اسی حکمران کے مطیع ومنقاد ہونے کا فخر رکھتی ہے۔

متعدد دعوتیں۔ اسی طرح مسٹر پیٹرک پلیفرڈ۔ کرنل لمسڈن نے گرفٹن گیلری میں ہندوستانی رؤسا وامراء کے اعزاز میں ایک جلسۂ بال (ناچ) دیا جسمیں کئی ایک آزادخیال رؤسا شامل تھے۔ اور ایسا ہی اَور بھی متعدد دعوتیں اور جلسے اِن صاحبوں کے اعزاز میں دیئے جاتے رہے۔ چنانچہ لارڈ سالسبری صاحب وزیرِ اعظم نے بھی ایک شائستہ دعوت کا اہتمام فرمایا۔ اسمیں یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ مہاراجہ صاحب جے پور جو اپنی قدیم مراسم کے پابند تھے۔ وہ اور بھی دلچسپی سے دیکھے جاتے تھے۔ اور انگلستان کے باشندے اُن کی مراسم مذہبی پر عجیب عجیب ریمارک کرتے تھے۔ غالباً ولایت میں جسقدر اِن کے فوٹو لئے گئے ہیں۔ کسی دوسرے رئیس کے نہیں لئے گئے۔ آپ انگریزی دعوتوں میں قطعاً شریک نہ ہوتے تھے۔ بعدِ فراغت طعام اِن میں جو جلسہ ہوا کرتا تھا اسمیں جلوہ افروز ہوجاتے تھے۔ آخرکار ایک پنچ اُن کو دیا گیا اور اس موقع کی بھی تصویر لی گئی۔ ہندوستانی برتنوں اور کھانے پکانے کے طریق پخت وپز کی تصویریں بھی فوٹوگرافروں نے بڑے شوق سے کھینچیں۔ ہندوستانی رؤسا بھی بڑے مزے سے اِس دلچسپی کو دیکھتے تھے۔ موسم البتہ نہایت سرد تھا جسکے باعث اجنبی مہمانوں کو کسیقدر تکلیف اُٹھانی پڑتی تھی۔ اگرچہ سامان پوشش سب صاحبوں کے پاس وافر موجود تھا۔ مگر غیر معمولی سردی اور غیر ملک

کی آب و ہوا تکلیف رساں تھی اور بالخصوص ایسی سخت سردی میں جبکہ ابر اور کہر چاروں طرف مسلط ہو رہی ہو ہندوستانی وضع کی پوشاک پہننا اور بھی وقت طلب امر تھا۔

لطیفہ۔ چونکہ لنڈن میں اِن ایام میں سورج کئی دن تک نہ نکلا تھا۔ اِسلئے ایک پارسی صاحب نے (جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اِس سے متاثر ہوکر ایک دن فرمایا کہ "یہ تو ہم پہلے سے مانے ہوئے تھے کہ انگریزی سلطنت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں آکر اب اسکو بھی مان گئے ہیں کہ خاص لنڈن میں اُسے طلوع ہونے کی فرصت ہی نہیں ملتی"

ہندوستانی روساء و امراء کے ساتھ چونکہ ہندی فوج کا تذکرہ بھی ضروری ہے اسلئے کسی قدر کیفیت اسکے متعلق بھی درج کیجاتی ہے

ہندی فوج کا قیام لنڈن اور تماشائیوں کا ہجوم۔ ہندی فوج ۳ مئی ۱۹۰۲ء کو بمبئی سے ہارڈنج نامی جہاز پر سوار ہوکر رات کے دس بجے روانہ ولایت ہوئی۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جہاز اس عالیشان دستہ کے لائق بخوبی آراستہ و پیراستہ تھا۔ جس نے ۱۲ جون کو بخیر و عافیت اس فوجی دستہ کو انگلینڈ کے کنارے جا لگایا۔ بندر سوتھمٹن پر جب یہ لوگ جہاز سے اوتارے گئے۔ تو بارش نہایت زور و شور سے ہو رہی تھی۔ مگر چونکہ لنڈن کی عمارتیں بالعموم پتھر کی بنی ہوئی ہیں اور فرش بھی ایسا کیا گیا ہے کہ کیچڑ نہ ہو سکے۔ اسلئے وہاں کے لوگ بارش میں بھی بلاتکلف چلتے پھرتے اور دُنیا کے کام دھندے برابر کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہندی فوج کے دیکھنے کو بھی خلقت کا وہ ہجوم تھا کہ شاید یہاں کسی جلیل القدر فرمانروا کے

آنے پر بھی اُس سے زیادہ نہ ہوتا ہو۔ بیشمار زن و مرد چھتری لگائے ان غریب الدیار لوگوں کے قد و قامت اور شکل و صورت دیکھنے کو جمع ہو گئے تھے۔ اور چونکہ ابھی تک اِن کے قیام کا کوئی انتظام نہ ہوا تھا۔ اسلئے دو دن اِن کو اسی سٹیشن میں پڑے رہنا پڑا۔ آخر الامر جب محل ہمپٹن کورٹ کے میدان میں انکے خیمے لگوا دیئے گئے تو بسواری ریل یہ فوجی گروہ ہم اجون کو اپنے کیمپ میں جاکر فروکش ہوا۔ سامان اگرچہ ساتھ تھا مگر لنڈن کی سخت سردی کے لحاظ سے فی کس دو دو کمبل اوڑھنے کو اور آگ تاپنے کو کوئلے مزید براں وہاں سے بھی دلئے گئے۔ تماشائیوں کا یہ ہجوم تھا کہ یہ لوگ یہاں سے گوڑیِن میں سوار ہو کر گئے تھے۔ مگر رستے میں دیکھنے والے برابر قطار در قطار موجود تھے۔ ہمپٹن کورٹ کے سٹیشن سے اِن کے کیمپ کا جو ایک میل فاصلہ تھا۔ وہاں بھی بے شمار مخلوق کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اور خوشی کے نعروں اور رومال اُچھالنے سے اِن کے ورود فرحت آمود پر برابر اظہارِ مسرت کرتی جاتی تھی۔ بلکہ لنڈن والوں کا اشتیاق اسقدر بڑھا ہوا تھا کہ اِن کے کیمپ میں بھی ہر وقت دیکھنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ باوجودیکہ ہر شخص کو کیمپ میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ اور بلا پاس لئے کوئی اندر آنہ سکتا تھا۔ مگر پھر بھی تماشائیوں کی وہ کثرت رہتی تھی۔ کہ اگر پاس کی بندش نہ ہوتی تو خود سپاہیوں کو جگہ ملنی مشکل ہو جاتی۔ فوٹوگراف ہر وقت تصویریں اُتارنے میں مصروف تھے۔ جو فوراً کھینچتی اور دھڑا دھڑ بکی چلی جاتی تھیں۔ لوگ اِن کی صورتیں اس دلچسپی سے دیکھتے تھے۔ غالباً اس سے زیادہ کسی اجنبی کے آنے پر ہندوستان میں بھی تو نہ ہوتا ہوگا۔ مسٹر بھارتی ایک ہندی نژاد بھی جو آجکل وہیں ہیں

بیان ہے۔ کہ کئی آدمیوں نے مجھ سے دریافت کیا۔ کہ "کیا ہندوستان میں ایسی تن و توش کی اقوام آباد ہیں؟ اور اگر ایسی ہی ہیں تو ان پر ستر ہزار گورہ فوج کیسطرح حکومت قائم رکھ سکتی ہے؟" جسکا مسٹر بھارتی نے یہ جواب دیا۔ کہ "گورنمنٹ انہیں لوگوں کے ذریعہ وہاں حکومت کرتی ہے" اسی ذیل میں یہ بھی ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا کہ ماسپٹل جرنل ایک انگریزی پرچہ نے اس فوج کو دیکھ کر یہ رائے دی کہ "گورنمنٹ نے ان قوی الجثہ طویل القامت اور مہیب الصورت افواج کے بلانے میں بڑی غلطی کی ہے۔ کیونکہ جب وہ لوگ نحیف البدن اور دبلے پتلے یوروپینوں کو دیکھتے ہوں گے۔ تو اُن کو ضرور ایسی قوم کی حکومت ناگوار معلوم ہوگی۔ اور اس سے اُن کے دلوں میں بغاوت کا خیال پیدا ہو جائے گا" یہ رائے یہاں اسلئے نقل کی گئی ہے کہ ایک تو اس سے اُس دلچسپی کا پتہ لگ جائے۔ جو ہندی اور نو آبادیوں کی افواج کے متعلق باشندگان لنڈن میں پیدا ہوگئی تھی اور دوسرا یہ کہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ ہر جگہ خدا تعالے نے اپنی مخلوق میں ہر قسم کے بندے پیدا کئے ہیں۔ کچھ یوروپ اور ایشیا کی تخصیص نہیں۔ مضمون نگار بیچارے نے ہندیوں کی حکومت پرستی کی تاریخ سرے سے پڑھی ہی نہیں۔ کہ وہ ان کے خیالات سے آگاہ ہوتا اسکے سوا اُس نے اس موٹی سی بات کو بھی نہیں سوچا کہ ہندوستان یں بزورِ شمشیر ہی حکومت نہیں ہوتی۔ بلکہ علم و عقل کے زور پر ہوتی لے لئے کسی موٹی جسامت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔

ہرحال ان لوگوں کو جس دلچسپی سے اہالیانِ انگلستان نے ریسیو ت تاریخی واقعہ ہے۔ ہندی فوج کو عموماً ہر دوسرے دن لنڈن

کے بازاروں میں سیر کرنے کے لئے جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔

لطیفہ - ایک دن کا ذکر ہے کہ اس سیر میں فوج کے ساتھ ایک ہندوستانی خلیفہ (حجام) بھی موجود تھے - کسی انگریز باربر (حجام) کی دوکان آئی تو ہندی خلیفہ نے کہا "صاحب تم بھی حجامت بناتے ہو - ہم بھی حجامت بناتے ہیں"! کسی شوقین نے کہا - اچھا آؤ ہماری حجامت تو بناؤ - اُنہوں نے جھٹ اپنے اوزار نکال وہیں میدان میں اڈا جما مُونڈنا شروع کر دیا - شوقین کو حجامت پسند ہوئی - اسپر کئی اور بھی مُنڈوانے کو طیار ہو گئے - یہ مُونڈتے جاتے تھے - پبلک چیرز دیتی جاتی تھی - غرضیکہ دو گھنٹے تک وُہ سیر رہی کہ ہندی سپاہی اور انگریز تماشائی ہمیشہ خوشی کے ساتھ یاد رکھیں گے -

اسکے علاوہ جب یہ لوگ سیر کو جاتے تو انگریزوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محبت سے کاندھوں پر اُٹھا لیتے - مٹھائی دیتے - پیار کرتے تو اور بھی اِن کی قدر ہوتی - قصہ مختصر ہندی سپاہ لنڈن میں ایک تماشا بن گئی تھی - کہ جدھر جاتی شائقین دید کے ٹھٹ ٹھٹ موجود ہوتے - جو رومال ہلا ہلا کے اور چیرز دے دے کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے - سپاہی بھی خوش خوش ہر طرف پھرتے تھے اور انگلستان کے اس جوش مسرت سے بہت شادکام ہوتے تھے - بلکہ اس حالت میں اُن کو موسمی تکلیف بھی بھول گئی تھی -

ڈیوک اوف کینائٹ کا معائنہ فوجی - ۷ - اجون ۱۹۰۲ء کو ڈیوک اوف کیناٹ بہادر نے ہندی فوج کی پریڈ ملاحظہ فرمائی - جو اس لُطف کی تھی - کہ اُسکے دیکھنے کو عام تماشبین نہایت کثرت سے موجود ہو گئے تھے - بلکہ پریڈ

کرنے والی سپاہ ان کے مقابل بہت ہی قلیل معلوم ہوتی تھی۔ ڈیوک ممدوح
جب معہ سٹاف کے داخلِ پارک ہوئے تو اُسوقت کی تالی بازی کا نظارہ
کچھ اور بھی مسرت ناک ہوگیا تھا۔ پورے ایک گھنٹہ تک آپنے ملاحظہ پریڈ
فرماکر اپنی خوشنودی کے اظہار کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ" عنقریب
شاہِ معظم خود بھی اس کنٹنجنٹ کا ملاحظہ فرمائینگے اور اُسوقت میں آپکی
طرف سے انکا استقبال کروں گا"

لارڈ رابرٹس کا ملاحظہ۔ ۱۹ کو لارڈ رابرٹس نے اس چیدہ دستہ کا معہ
لیڈی صاحبہ ملاحظہ فرمایا۔ اُسدن ۱۷ سے بھی زیادہ ہجوم تھا۔ ہندی فوج
میدان ہمپٹن کورٹ میں دو رویہ کھڑی کردی گئی تھی۔ درمیان میں سے
لارڈ موصوف معہ لیڈی صاحبہ آہستہ آہستہ گذر رہے تھے۔ فوج کے پیچھے
کوئی دس دس قطاریں تماشائیوں کی جمی ہوئی تھیں۔ جن میں سے
کوئی تو انکی لنگی کو دیکھتا تھا۔ کوئی وردی کو ہاتھ لگا کے اسکی بناوٹ دیکھ رہا
تھا۔ کوئی بوٹوں کے مہمیز کو ٹٹول رہا تھا۔ الغرض اگرچہ لارڈ ممدوح افسرانِ
فوج سے مصافحہ فرماکر اپنی کمال پسندیدگی کے اظہار کے بعد مع الخیر واپس
تشریف لے گئے۔ مگر شائقین کا ہجوم ویسے کا ویسا ہی تھا۔

بیرن ہیاشی کی تشریف آوری۔ بیرن ہیاشی نائب جاپان بھی جو
لنڈن میں سفارت جاپان انجام دیتے ہیں ہندی فوج کے دیکھنے کو ہمپٹن
کورٹ میں تشریف لائے اور اس فوج کے طریق ماند و بود کو دیکھ کر اور
مختلف باتیں کرکے نہایت خوش خوش واپس ہوئے۔ ان کے سوا اور بھی
کئی صاحبان آ آ کر دیکھتے تھے۔ مگر ان کا ذکر اسلئے کیا گیا ہے کہ جاپان جو
اسوقت جنگی طاقت میں بہت بڑھا ہوا ہے اُسکے نائب بھی ہندی سپاہ

کی چستی دیکھ کر مان گئے تھے۔

امتحان روشنی۔ ۱۹ جون ۱۹۰۲ء کو اکثر مقامات پر کیا گیا۔ تو عجیب دلکش نظارہ نظر آیا۔ کہ تمام مکانات بقعۂ نور بن گئے۔ گیس کی روشنی اور پھر اس افراط کے ساتھ! باوصفیکہ صرف چند جگہ کی گئی تھی۔ مگر دن چڑھ گیا تھا بنک اوف انگلینڈ کی روشنی تو اُسے ایک شعلہ جوالہ بنا رہی تھی — ہندی والیانِ ریاست اور افسرانِ فوج نے بھی اسکی بہار بڑی دلچسپی سے دیکھی اور عام تماشائیوں کا تو یہ ہجوم تھا کہ رات بھر وہ اس کے لطفِ نظارہ اُٹھاتے پھرے

فلہم پیلیس کی رہائش۔ ۲۱ جون ۱۹۰۲ء کو ہندی سپاہ کو ایک ہفتہ کے لئے بشپ اوف لنڈن کے فلہم پیلیس میں رہنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ چھوٹے قد کے گھوڑے ان کی سواری کو عطا کئے گئے جن پر سوار ہو کر ۲۴ کو یہ سب لوگ فلہم پیلیس چلے گئے۔ جہاں بشپ صاحب نے نہایت اخلاق کے ساتھ سرداران فوج سے ملاقات کی۔ صاحب موصوف ایک میانہ قد کے نوجوان خوبصورت آدمی ہیں۔ ڈاڑھی مونچھ ندارد ہے۔ ۲۳ جون ۱۹۰۲ء کو ان کی پریڈ ہوئی۔ جس میں خلقت کا یہ ہجوم تھا کہ سپاہیوں کو اپنے فنونِ ضرب و حرب بہت ہی احتیاط سے دکھانے پڑتے تھے۔ کیونکہ کثرتِ شائقین سے ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی شخص گھوڑے کے تلے نہ آجائے۔ فوٹو اسدن بھی اس کثرت سے لئے گئے۔ کہ جن کا کوئی حد حساب نہیں کرسکتا۔

فصل چہارم

ناگہانی بیماری کے باعث التواء اور پھر شفا

۱۳- جون ۱۹۰۲ء کو بروز جمعہ کسی قدر تکان معلوم ہونے پر ملک معظم کی طبع معلےٰ اکسلمند ہوگئی تہی - جسکی وجہ سے آپنے رات کا کھانا دیر کرکے تناول فرمایا تھا - مگر دوسرے دن کسیقدر دردِ کمر کی بھی شکایت پیدا ہوئی - چنانچہ ڈاکٹر سر فرانسس لیکنگ صاحب طبیب شاہی مشورہ کے لئے طلب ہوئے اور انکی دوا سے قدرے افاقہ بھی ہوا - چنانچہ آپ نے بسواری گاڑی الڈرشارٹ میں تشریف لیجاکر ملکہ محتشمہ کے ساتھ کھانا بھی کھایا - لیکن نصف شب گذرنے پر پھر دردِ کمر کا دَورہ ہوا - اور بدستور سر فرانسس لیکنگ نے اسکے لئے مسکنّات کا استعمال کرایا اور پھر بدستور افاقہ کی صورت نظر آئی - لیکن سر فرانسس لیکنگ نے مرض کو قابلِ مشورہ قرار دے کر سر ٹامس بارلو اپنے ہم جلیس شاہی ڈاکٹر کو بھی بذریعہ تار وہیں طلب کرلیا - جنہوں نے بمقام الڈرشارٹ حاضر ہوکر ۱۵ کا دن آپکی حضوری میں صرف کرکے ملاحظۂ حالات کیا اور ۱۶ - کو دونوں ڈاکٹروں کے مشورہ کے مطابق بادشاہ سلامت نے ایوان ونڈسر میں مراجعت فرمائی جسکے بعد ۱۷ کو انہیں صاحبوں کے مشورہ سے آپ کی خدمت میں زیادہ مصروفیت سے باز رہنے کے لئے عرض کیا گیا - چنانچہ آپنے قریب شام صرف ہواخوری پر اکتفا فرمایا - اور کوئی کام نہیں کیا - مگر جب ۱۸ کو سر فریڈرک ٹریوس ایک تیسرے طبیب شاہی نے آپ کی نبض دیکھی - تو نبض میں حرارت

اور دائیں طرف آماس کا پتہ لگا کر دواسئے مناسب کا استعمال کرایا چنانچہ ۱۹-۲۰ اور ۲۱ تاریخ کو اطمینان ہوگیا کہ اب آماس نہیں رہا۔ اور بخار بھی جاتا رہا ہے۔ ۲۳ تاریخ کو آپ بذریعہ ریل ایوان ونڈسر سے لنڈن تشریف لائے۔ لیکن انفراغ مہام کے بعد واپس ہونے پر جب سر فریڈرک ٹروس نے پھر آپ کا معائنہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں آماس تھا وہاں پیپ بھر گئی ہے۔ اور کوئی چارہ سوائے عمل جراحی کے باقی نہیں رہا۔ جسپر ۲۴ کو لارڈ لسٹر اور سر تامس سمتھ سے مشورہ کے بعد عمل جراحی کو لازمی قرار دیا گیا۔ اور پانچوں شاہی طبیبوں کے مشورہ سے آپکے حضور میں اس تجویز کی اطلاع دی گئی جسکو یوں تو آپنے بخوشی منظور فرمالیا۔ لیکن عام مایوسی اور منتظرِ پبلک کے دلی حالات سے متاثر ہوکر ارشاد فرمایا کہ "میں اس سے سخت علاج کے لئے بھی طیار ہوں مگر کوئی تدبیر ایسی ہونی چاہیئے کہ تاجپوشی کے التواء سے لوگوں کو رنج نہ ہو۔ میں کھڑا نہ ہوسکوں یا بیٹھ نہ سکوں تو لیٹے لیٹے ہی رسوم ادا ہوجائیں" مگر ڈاکٹروں نے اسکی موافقت نہ کی۔ اور عرض کیا کہ اس عمل کے بعد آپ کو کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیئے اور ساتھ ہی یہ بھی گذارش کیا کہ اس میں دیر کرنے سے سخت خطرہ ہے۔ لہذا آپ کی منظوری سے ارل مارشل نے اعلان کیا کہ "بباعث بیماری کی مجبوری کے بادشاہ سلامت ۲۶ جون ۱۹۰۲ء کو رسوم تاجپوشی نہ ادا کرسکینگے" اس اعلان کا شائع ہونا تھا کہ تمام لوگوں میں ایک عام مایوسی اور سنسنی چھاگئی۔ اور اکثر لوگ (جن میں ہندی بھی شامل تھے) محل شاہی کی طرف دوڑ پڑے۔ اور جب تک عمل جراحی ختم نہ ہوا کسی نے وہاں سے

واپسی کا رُخ نہ کیا۔ چنانچہ بارہ بجے عملِ جراحی پوری کامیابی کے ساتھ عمل میں آیا۔ سر فریڈرک ٹراوس نے خود اپنے ہاتھ سے اس نازک کام کو انجام دیا تھا اور ساڑھے پانچ انچہ گہرا زخم دے کر گیارہ چھٹانک پیپ نکالی تھی۔ جسکے بعد ہر روز صبح دوپہر اور شام کو تین پرچے آپ کی صحت کے متعلق شائع ہونے لگے۔ جن سے دن بدن بیماری کے دور اور صحت کے نزدیک ہونے کی توقع بڑھتی رہی۔

ہندی امرا ورؤسا اور فوج نے اُس موقع پر اپنی سچی دعاؤں اور دلی ہمدردی کا جو ثبوت دیا۔ اُسکو اہالیانِ انگلستان بھی کبھی بھول نہیں سکتے۔ کیونکہ حاضر و غائب اِن لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ اپنے شہنشاہ کو صحیح و سلامت تاج پہنتا دیکھ سکیں۔ ۲۴ کی شام کو گرجا کی دُعا کے وقت بھی یہ سب صاحبان موجود تھے۔ اور ایک غیر مذہب بادشاہ کی خیرخواہی کے لئے یہ نظارہ واقعی تاریخی اثر رکھتا تھا اسکے علاوہ اِن لوگوں نے ملکِ معظم کی صحت یابی تک جلسہ ہائے تہنیت کی شرکت سے انکار کر کے بھی اپنے حُسنِ عقیدت کا اعلےٰ ثبوت دیا۔ اُسکا یہاں تک اثر ہوا کہ اگلے دن خود ڈیوک اوف کناٹ بہادر برادر بادشاہ ذیجاہ نے انکی فرودگاہ پر جا کر شہنشاہِ معظم کی نسبت بہترین اُمیدوں کی خوشخبری پہنچائی اور اِنکے اظہارِ خلوص کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔

تاجپوشی کے التوا سے جو نقصان ہوا۔ اُس کا اندازہ ایک یوروپین محقق پانچ لاکھ پونڈ اور دوسرے ساڑھے تین لاکھ پونڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو تجارتی نقصان سمجھنا چاہیئے۔ لوگوں کے دلوں کو جو رنج اس ناگہانی حادثہ سے پہونچا۔ اِسکی قیمت کوئی کیا لگا سکتا ہے۔ مگر چار و ناچار

سب نے اِس صدمہ کو صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کیا۔ اور ہر زبان سے سوائے ہمدردی کے کوئی لفظ اور ہر دل سے سوائے خیرخواہی کے کوئی دوسرا خیال ظاہر نہ ہوا۔ جو ملکِ معظم کی پوری ہردلعزیزی کی دلیل ہے۔

عملِ جراحی کے بعد جب ملکِ معظم کو ہوش آیا تو آپ نے پرنس اوف ویلز کو طلب فرما کر سب سے پہلے جو ارشاد کیا وُہ یہ تھا۔ کہ "کیا میری رعایا اِس مجبوری کے لئے مجھے معاف کرے گی؟" یہ الفاظ جیسے کچھ پُر خلوص تھے۔ ویسے ہی اُنھوں نے اثر بھی کیا۔ چنانچہ لوگ اَور بھی تہِ دل سے مصروفِ دُعا ہو گئے۔ لیکن چونکہ مرض کے زائل اور قوّت کے حاصل ہو جانے کی کوئی قطعی مہلت مقرر نہ ہو سکتی تھی۔ اسلئے آپ نے دَولِ غیر کے نائبوں اور جنگی جہازات کو رخصت کا حکم بخشا۔ بلکہ انگریزی جہاز بھی حاضری سے آزاد کر کے اپنے اپنے کاموں پر بھیج دیئے گئے لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ یکم اور دوم جولائی کے فوجی ریویو۔ چوتھی کا دربار اور پانچویں کی دعوت غربا بدستور اپنے اپنے اوقات مقررہ پر منعقد ہوں اور اِن میں کسی قسم کی تعویق نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس سے حاضرین اور منتظرین کو سخت بے لطفی ہوگی۔ اور غریبوں کی اُمیدوں پر پانی پھر جائے گا چنانچہ لوگوں کی دلجمعی کے لئے درباروں وغیرہ میں ملکِ معظم کی جگہ پرنس اوف ویلز بہادر کی صدارت تجویز ہوئی۔ جو واقعی ممکن تلافی کہی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں فہرستِ خطابات کے شائع کرنے کا حکم بھی وقتِ مقررہ پہ دیدیا گیا۔ جس کا مدعا یہ تھا کہ مستحقین کو حتی الامکان مایوس نہ کیا جائے۔

ہندی فوج اور شہنشاہ کی علالت - ۲۴ جون کو شاہِ عالم پناہ کی علالت اور عمل جراحی کی ضرورت کا جب اعلان ہوا۔ تو ہندی سپاہ فلہم پلیس میں مقیم تھی۔ بشپ اوف لنڈن نے افسرانِ فوج کو جب یہ خبر سنائی تو یہ سخت مضطرب ہوئے۔ اور اسی شام کو نماز با جماعت کے بعد مسلمانوں نے اور اپنے طریق کے موافق ہندوؤں نے اس جوش سے دعائیں کیں کہ ذاتی معاملہ پر بھی اس سے زیادہ ناممکن تھیں۔ بشپ اوف لنڈن کے سوا۔ اور بھی لوگ اس نظارے کو بڑے شوق اور محبت سے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ سب اہالیانِ انگلستان مان گئے۔ کہ ہندوستانی رعایا اپنے تاجدار سے اسقدر خلوص و محبت رکھتی ہے۔ کہ اس سے زیادہ قریباً ناممکن ہے۔ بہرحال خدا نے اِن غریب الدیار لوگوں کی دعائیں قبول فرماکر ملکِ معظم کو روبصحت فرمایا۔ اور دن بدن اُن کی صحت وسلامتی کی اُمیدیں قوی ہوتی گئیں۔ لیکن التواے جشنِ تاجپوشی کے باعث ۲۶ جون ۱۹۰۲ء کو یہ ہندی دستہ پھر بدستور ہیمپٹن کورٹ کو واپس ہوا۔ جو لنڈن سے بارہ میل کے فاصلہ پر ہے۔ گو باعتبار متصل آبادی کے اسکو بھی لنڈن ہی کہنا چاہیئے۔

ہندی فوج کی نمازِ جمعہ - ۲۷ جون ۱۹۰۲ء کو جمعہ کے دن فوج کے مسلمان سپاہیوں اور افسروں نے وہیں میدان ہیمپٹن کورٹ میں نمازِ جمعہ نہایت شان سے ادا کی۔ اس ملک میں اس طرح ایک اسلامی گروہ کا موجود ہوکر **اذان** کہنا ایک عجیب سین تھا۔ جس نے وہاں کے باشندوں کو خصوصیت کے ساتھ اودھر متوجہ کردیا تھا۔ اور وہ لوگ بڑے شوق سے جہانوں کے اس طریقِ عبادت کو دیکھنے کے لئے جمع

ہو گئے تھے۔ چنانچہ نماز کے بعد ملکِ معظم کے لئے دعائے صحت کی گئی۔

افسرانِ فوج کی وزیرِ ہند سے ملاقات۔ بعد ازاں انہیں دنوں میں لارڈ جارج ہملٹن بہادر وزیرِ ہند نے ہندی افسرانِ فوج کو انڈیا آفس میں طلب فرما کر ملاقات فرمائی۔ جسمیں بادشاہ ذیجاہ کی بیماری اور پھر امیدِ صحت کا تذکرہ کرکے انکو مفتخر فرمایا۔ لیکن چونکہ دولِ غیر کے مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ اسلئے ہندی افسروں نے اپنی دلی خواہش کا اظہار مناسب جانکر متفق اللفظ عرض کیا کہ ہمکو شہنشاہِ معظم کے صحت یاب اور تندرست و بامراد دیدارِ فرحت آثار سے مشرف ہونے تک ضرور یہاں ٹھہرایا جاوے جسکے جواب میں نواب وزیرِ ہند نے فرمایا۔ کہ "میں آپ کی اس التماس کو شاہِ عالم پناہ تک پہنچادوں گا۔ جسپر وہ جیسا مناسب سمجھیں گے حکم صادر فرمائینگے"۔ اسپر ہندی افسروں میں سے رسالدار میجر فخر الدین خاں صاحب نے عرض کیا۔ کہ "حضور! ہم لوگ کسی طرح بھی بغیر قدمبوسی اپنے شہنشاہِ ذیجاہ کے واپسی کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ہمیں بے نیل مرام واپس جانا پڑا تو ہم دریا میں جہاز پر سے کود کر اپنی جانیں دیدینگے۔ کیونکہ بغیر اپنے فرمانروا کے دیدارِ فیض آثار کے اپنے وطنوں کو واپس جانا ہم اپنی روسیاہی سمجھتے ہیں"۔

ہندی فوج کی بحری سیر۔ ۳۰ جون ۱۹۰۲ء کو ہندی فوج کو بحری جنگی جہازوں کے دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ ساؤتھمپٹن بندر سے یہ نظارہ شروع ہوا۔ اور ہندی فوج ایک جہاز میں بیٹھکر سیرِ دریا کو روانہ ہوئی۔ جسکے دو رویہ اعلےٰ سے اعلےٰ جنگی جہاز کھڑے ہوئے تھے جوان کے گذرنے پر باجوں کے بجانے اور جھنڈے دینے سے اپنا

دلی اظہارِ مسرت کرتے تھے - یہ جنگی جہاز بہت بڑے طویل و عریض بالعموم سیاہ رنگ کے تھے جن پر توپیں نصب تھیں اور برٹش جھنڈا لہرا رہا تھا

مجوزّہ پروگرام کی تکمیل

چونکہ بادشاہ سلامت نے ارشاد فرمادیا تھا کہ سوائے رسوماتِ تاجپوشی اور جلوس کے باقی تمام امور اوقاتِ معیّنہ پر پرنس اوف ویلز (شہزادہ ولیعہد) بہادر کی شرکت سے عمل میں آجائیں اسلئے سب سے پہلے ۲۶ جون ۱۹۰۲ء کے سرکاری گزٹ میں فہرستِ خطابات شایع ہوئی۔ دَولِ غیر اور یوروپ کے خطاب یافتگان کے نام سے چونکہ ناظرینِ کتاب ہذا کو کچھ زیادہ دلچسپی نہ ہوسکے گی۔ اسلئے ولایت کے صرف بعض مشہور ناموروں کے نام لکھ کے یہاں ہندوستان کے اعزاز یافتوں کی پوری فہرست درج کی جاتی ہے۔

فہرست اعزاز یافتگان تاجپوشی لنڈن

ولایتی خطابات کی فہرست بہت طُول طویل ہے۔ مگر مشہور اہل ولایت میں سے جن کو ناظرین کتاب بھی جانتے ہوں گے۔

آرڈر اوف میرٹ کا درجہ۔ لارڈ رابرٹس بہادر بالقابہ۔ لارڈ ولزلی۔ لارڈ کچنر۔ مسٹر مارلے۔ مسٹر واٹس مصوّر۔ لارڈ لسٹر طبیب شاہی۔ امیر البحر کیپل و امیر البحر سیمور صاحبان وغیرہ کو۔ اور

نائیٹ کا خطاب۔ مسٹر برنارڈ ایڈیٹر لنڈن پنچ۔ ڈاکٹر کونان ڈائل مشہور ناولسٹ وغیرہ وغیرہ کو۔ اور

پریوی کونسلری کا اعزاز۔ سرانٹانی مکڈانل سابق لفٹننٹ گورنر صوبجات متحدہ آگرہ و سرالفرڈلائل صاحب لفٹننٹ گورنر پنجاب وغیرہ وغیرہ کو دیا گیا۔

ہندوستانی فہرست خطابات

جی۔سی۔آئی۔ای۔ ہزہائنیس سر سلطان آغاخاں صاحب۔کے۔سی آئی۔ای۔رئیس اعظم بمبئی۔سرہنری واٹرفیلڈ۔کے۔سی۔ایس۔آئی۔سی۔بی سکرٹری محکمہ فنانشل انڈیا آفس لنڈن۔

کے۔سی۔ایس۔آئی۔ آنریبل کرنل بارسی۔ایس۔آئی رزیڈنٹ ریاست حیدرآباد دکن۔آنریبل مسٹر جان سینڈمن کاٹن سی۔ایس آئی (سابق) چیف کمشنر آسام۔ آنرادتی شیشایا شاستری سی۔ایس۔آئی۔

سی۔ایس۔آئی۔ آنریبل مسٹر ریلے ممبر کونسل حضور گورنر جنرل بہادر آنریبل مسٹر ٹامسن ممبر کونسل مدراس۔آنریبل مسٹر بمپ فیلڈ قائمقام چیف کمشنر آسام۔لفٹننٹ کرنل تھارنٹن سابق ریزیڈنٹ ریاست ہائے راجپوتانہ ہارٹلی کینڈی کمشنر پولیس بمبئی۔ایڈورڈ چارلس اوزینی نپشن یافتہ سولسروس ہند۔ایڈون گرانٹ برلن ڈائرکٹر جنرل ذخائر انڈیا آفس لنڈن۔

کے۔سی۔آئی۔ای۔ ہزہائنیس مہاراجہ ادہیراج سپہدار الملک ملکھان سنگھ بہادر فرمانروائے ریاست چرکھاری۔ آنریبل مہاراجہ رامیشور سنگھ بہادر والی دربھنگہ ممبر کونسل حضور گورنر جنرل بہادر۔ طامس ہائی ہسم صاحب سی آئی ای سکرٹری صیغہ تعمیرات گورنمنٹ ہند صیغہ آبپاشی۔ شاہراہ و مکانات تاربرقی وانسپکٹر جنرل آبپاشی حال متعینہ سپیشل ڈیوٹی کمیشن آبپاشی ہند۔کرنل سموئل سوفنش جیکب سی۔آئی۔ای سپرنٹنڈنگ انجنیئر ریاست جے پور

اعزازی کے۔سی۔آئی۔ای۔ ہزایکسیلینسی محتشم الدولہ مجیر الملک

حسین قلیخاں بہادر وزیر صیغہ تار برقی ایران۔

سی۔ آئی۔ ای۔ آنریبل راؤ بہادر سی جامیولنگم مدلیر ز انڈ ممبر قانونی کونسل مدراس۔ الگزنڈر شیٹس قائمقام جج وکمشنر اضلاع وادی آسام۔ لفٹنٹ کرنل لنڈرسے بیٹ انسپکٹر جنرل جیلخانجات پنجاب۔ آنریبل لالگمارٹ میتھو سینٹ کلیر سپرنٹنڈنٹ انجینیر وسیکرٹری صیغہ تعمیرات ممالک متوسط جان بنیثن سابق قایم مقام چیف انجینیر وسکرٹری گورنمنٹ برہما۔ مارشل ریڈسٹو دائرکٹر بمبئی۔ راؤ بہادر پنڈت سکھدیو پرشاد ممبر کونسل ریاست جودھپور۔ سٹیوارٹ مشفرڈ فریزر صاحب اتالیق عالیجناب مہاراجہ صاحب میسور۔ جان گارڈن لارینر ڈپٹی کمشنر پنجاب حال متعینہ محسود وبلوکیڈ۔ میجر ہربرٹ شوورز پولیٹیکل ایجنٹ قلات وتگران درہ بولان۔ میجر پرسی ذکریا کاکس پولیٹیکل ایجنٹ مسقط۔ بابو نلمن بہاری سرکار کمشنر بندر کلکتہ۔ میجر جنرل شامیر سکرٹری محتاج خانہ غریب الوطنان بغرض پرورش باشندگان ایشیاء لنڈن۔

مہامہوپدھیایا۔ پنڈت راجہ کشن تار کانچانہ ضلع ندیا۔ کمار۔ بابو رامیسور مالیہ ساکن ہوڑہ۔

دیوان بہادر۔ راؤ بہادر نیم پلی سیوا راؤ ساکن منگلور علاقہ مدراس

خان بہادر۔ آنریبل مولوی سید محمد ڈپٹی مجسٹریٹ وڈپٹی کلکٹر ہوڑہ خان عبدالغفور خان صاحب خان زیدہ قایم مقام ڈویژنل جج پنجاب۔ میر علی مراد ولد میر واحد بخش سندرانی سردار فرقہ تلا مرانی سندھ۔ شیخ انتظام الدین شیخوپور۔ ضلع بداین۔ قاضی فصیح الدین پنشن یافتہ ڈپٹی مجسٹریٹ میرٹھ۔ عبداللطیف اسسٹنٹ انجینیر صیغہ تعمیرات مدراس محمد حبیب اللہ خان ہاسپٹل اسسٹنٹ درجہ اوّل۔ سابق متعینہ

شفاخانہ محکمہ نمک شمالی ہند۔ سانبھر۔

راؤبہادر۔ بلونت راؤ تریمباک صاحب دیوان سیتا مئو۔ ہرگوبندداس دوارکاداس کانٹا والہ سابق ڈائرکٹر تعلیم زبانِ ملکی ریاست بڑودہ۔ آنا سوامی مُدلیئر ممبر میونسپلٹی سول و ملٹری سٹیشن بنگلور۔ ایم آر رائی لوڈکرشنا داس بالمکنداس گرودداس۔ رام کرشن راؤ اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ناگپور۔ جارج طامس وربجیز ڈپٹی کلکٹر خزانہ کالیکٹ۔

رائے بہادر۔ بابو اوپندرا چندر ملک سابق سب جج پٹنہ۔ بابو ٹنگنا تھ سنگھ ساکن بارھی ضلع مونگیر۔ بابو اونول چندر چٹرجی ڈپٹی مجسٹریٹ وڈپٹی کلکٹر ہوڑہ۔ بابو جادو ناتھ موز مدار چیرمین میونسپلٹی جے پور۔ صوبیدار میجر سوہاواسنگھ راولیا رتن بیساک لکچرر میڈیکل سکول آگرہ۔ لالہ امراؤ سنگھ صاحب انسپکٹر مدارس حلقہ دہلی۔ چندی پرشاد صاحب مالگزار چاندہ (ممالک متوسط) سرت چندر سانیال سول جج ناگپور۔

خان صاحب۔ میاں خان سردار فرقہ کبزئی علاقہ زہوب۔ صوبیدار میجر محمد اکبر خاں صاحب سرحدی جنگی پولیس ڈیرہ اسمٰعیلخاں۔ منشی سیف اللہ خاں صاحب ڈپٹی کلکٹر کان پور۔ بانگی عبدالقادر صاحب امبار علاقہ مدراس۔ شیخ محمد ابراہیم صاحب انجنیئر پونا۔ محمد ہاشم ولد پنّوں زمیندار سونغر (سندھ) ایڈلجی رستم جی نگر والا احمدنگر۔ شیخ عبدالرحمٰن مالگزار اشٹہ۔ سیّد سردار شاہ گیلانی متعلق ڈیمرنیری کالج لاہور۔

راؤصاحب۔ ایم آر دیئی خا والا کونڈ لارایا ڈگرونیشن یافتہ ڈپٹی تحصیلدار وسب مجسٹریٹ چھوواورم۔ بابو برج لال وائس پریسیڈنٹ کوٹہ میونسپلٹی گوپال جگن ناتھ ٹھاکرے ساکن تھانہ علاقہ بمبئی۔ بالیشا تپا نقیراتپا باڑی ساکن

گاڈوک احاطہ بمبئی - تاراچند جیرامداس سندھ حیدرآباد - خوشحال راؤ گنپت راؤ ولیشمکھ اندور و برار -

رائے صاحب - لالہ موہن لال آنریری مجسٹریٹ - ممبر میونسپلٹی و مالک مطبع رائے صاحب گلاب سنگھ لاہور - بابو درگا کمار باسو ہیڈ ماسٹر مدرسہ سرکاری سلہٹ - نانک چند ہیڈ ماسٹر ہائی سکول ساگر - پنڈت دیاکشن کول پرائیویٹ سکرٹری ہزہائنس مہاراجہ صاحب بہادر کشمیر - بابو اوپندرا ناتھ کانجی لال مدرسہ جنگلات - مہتہ ارجن داس اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس پنجاب - مراری لال اسسٹنٹ سرجن ضلع الہ آباد -

سردار - بطور اعزاز ذاتی - جناب محمد رفیق خاں صاحب پولیٹیکل نیٹو اسسٹنٹ سرجن -

برہما کا خاص خطاب (درجہ اوّل) مونگ انگساہین (۲) سیوک و سول جج ہینزاڈو

برہما کا خاص خطاب (درجہ دوم) مونگ پوپیے (۲) سیوک سب ڈویژنل افسر شویبو

برہما کا خاص خطاب (درجہ سوم) مونگ کیازین یو سیوک ٹاؤن سب اسسٹنٹ بین لون -

تمغہ قیصر ہند درجہ اوّل - جناب راجہ بھگوان بخش سنگھ صاحب رئیس امیٹھی ضلع سلطانپور - سی - ایم کیمپین صاحب چیف انجینئر سکرٹری صیغہ تعمیرات (شاخ مکانات و شاہراہ) پنجاب گورنمنٹ - کپتان طامس ولیم آرچر فلوٹن صاحب (انڈین میڈیکل سروس) پلیگ افسر الہ آباد - ولفرڈ ہنری لاک صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس خاندیس - چارلس ایڈلف ہیم انڈین سول سروس مجسٹریٹ و کلکٹر گیا - لفٹنٹ کرنل جان لیوپولڈ پوینڈر سول سرجن ناگپور ناسین کو سرکاری آرمیکی اولجبٹ برہما - ایڈگر تھرسٹن سپرنٹنڈنٹ

سرکاری عجائب خانہ مدراس۔

تمغۂ قیصرِ ہند درجہ دوم - کپتان ارنسٹ بارٹن پولیٹیکل ایجنٹ بھوپاور (وسط ہند) پادری ولیم ہنری بلیک پرنسپل سینٹ پیٹرز کالج تنجور - میجر طامس فیرنیچ متعلقہ ۷۴ کالی پلٹن مدراس۔ ایسٹ ہل صاحب مجسٹریٹ و کلکٹر ممبر میونسپلٹی مولمین دربرہما اونریری لفٹنٹ جیمس ہنٹر سب انجنیر میسور - خان بہادر قاضی فرزند احمد آنریری مجسٹریٹ گیا - رائے بہادر کرشن ملائی سپرنٹنڈنٹ ریاست دھار - کپتان ریلف ہنری میڈکس ڈاکٹر و سپرنٹنڈنٹ پریذیڈنسی جیل کلکتہ - خان بہادر مانک جی خورشید جی نریمان اسسٹنٹ سکرٹری صیغہ مالگذاری گورنمنٹ بمبئی - راجیشور لال بی - اے آگزکٹو انجنیر وانڈر سکرٹری گورنمنٹ ممالک متوسط - موتی رام - شوقی رام اودانی ایم - اے بیرسٹر کراچی مس مارگریٹ فورس ایم ڈی امریکین مشن صوبجات متحدہ آگرہ و آودہ - پادری جارج ڈبلیو پارک میتھوڈسٹ مشن بمبئی - جوزف سیموئل سابق ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس ہوڑہ - لاوینیل لنڈن ٹامکنس ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پنجاب۔

اس فہرست کی بابت روایت ہے کہ شہنشاہ معظم نے ایسے خود ہی مرتب فرمایا تھا - جو اگر صحیح ہے تو ملک معظم کی اعلے درجہ کی معلومات کی ایک بدیہی شہادت ہے۔

۳۰ جون کی روشنی - ۳۰ جون کو چونکہ بادشاہ ذیجاہ مرض کے شدید خطرات سے نکل آئے تھے جو اس سے پہلے لازمی طور پر لگے ہوئے تھے - اس لئے اس خوشی میں وہ تین ہزار الاؤ روشن کئے گئے جو موقع تاجپوشی کے لئے بڑے اعلے پیمانہ سے تجویز ہوئے تھے اور جن کی تیاری قابل دید تھی۔

کولونیل کنٹنجنٹ کا ریویو - یکم جولائی کو میدان ہارس گارڈ میں چھتیس

نوآبادیوں کے قائمقاموں کا ریویو زیر کمان ڈیوک اوف کیناٹ بہادر
کے نہایت شان و شوکت سے عمل میں آیا۔ اِن نوآبادیوں میں سنگاپور
ہانگ کانگ۔ بورنیو۔ سیلون۔ سٹریٹس اور ویہالوی کے کنٹنجنٹ بھی
موجود تھے۔ تمام معزز امراے و وزرائے سلطنت اور ولیعہد جاپان۔
شہزادگان خاندان اور دیگر ممالک کے مہمان و ہندی رئوسا امراء اِس
موقع پر مدعو کئے تھے۔ نوآبادی کی فوج تعداد میں صرف ڈھائی ہزار
تھی۔ لیکن اُن کی تازہ خدماتِ جنگ ٹرنسوال کے باعث اِن کو پبلک
ایک خاص توجہ سے دیکھتی تھی۔ ہز رائل ہائنس پرنس اوف ویلز نے
اِن سب کا سلام شائستہ طریق پر لے کر اپنے دست خاص سے اُن
افسروں کو تمغہ جات عطا فرمائے جو اِن کی خدمات کے صلہ میں اِس موقع
پر اُن کو دینے تجویز ہوچکے تھے۔ یہ نظارہ اس ترکیب سے اور بھی
شاندار ہوگیا تھا کہ جبوقت آپ کسی کو تمغہ عطا فرماتے تھے۔ ایک فوجی
افسر بآوازِ بلند اُس شخص کا نام معہ اُسکی اِس خدمت کے سُنا دیتا
تھا جسکے صلہ میں اُسکو تمغہ دیا جاتا ہے اور تمغہ دینے کے بعد شہزادہ ولیعہد
بہادر تمغہ یافتہ کو بدستِ خاص مصافحہ کرنے کی عزت سے بھی معزز فرماتے
جاتے تھے۔ جس سے سپاہیوں کا دل بالشوں بڑھ جاتا تھا اور صرف
یہی مصافحہ اُسکو تمغہ سے بہت زیادہ سربلند کر دیتا تھا۔ ملکہ محتشمہ بھی اِس
پریڈ میں نہایت شان و شوکت سے ایک لینڈو گاڑی میں تشریف لائی
ہوئی تھیں اور تمغہ یافتوں کو نہایت اخلاق و مروت سے سر جھکا کر سلام کا
جواب دیتی جاتی تھیں۔ ملکِ معظم کی بیماری کے بعد یہی پہلا موقع تھا
جبمیں ملکہ محتشمہ بذات واحد تشریف لائی تھیں۔ اِس لئے لوگ آپ کی

تشریف آوری کو بہت غنیمت سمجھ کر کمال محظوظ ہوئے۔ اور کونیل کنٹنجنٹ کو بھی اس سے بڑا افتخار حاصل ہوا۔

ہندی فوج کا ریویو۔ دوسری جولائی ۱۹۱۱ء کو ہارس گارڈ کے میدان میں نہایت اہتمام کے ساتھ کیا گیا۔ اس موقع پر بھی تمام ممبران خاندان شاہی تمام وزرا و امرائے سلطنت اور تمام سفرائے دول غیر اور ہندوستان کے مہمان شریک تھے۔ پرنس اوف ویلز بہادر معہ اپنی بیگم صاحبہ کے نہایت شاندار لباس سے تشریف لائے ہوئے تھے اور ملکہ معظمہ بھی نہایت تپاک سے جلوہ فرما ہوئی تھیں۔ جو چبوترہ خاندان شاہی کے لئے بنایا گیا تھا اسی پر ہندی مہمانوں کو بھی جگہ دے کر سربلند کیا گیا۔ کولڈ سٹریم اور آئرش گارڈز کی گورہ افواج انگلستان کے باجے ہندی فوج کے جلوس کے ساتھ کر دیئے گئے تھے۔ جو ان کی قیام گاہ سے پریڈ تک اور پھر یہاں سے قیام گاہ تک ان کے ہمرکاب تھے اور ان کی شمولیت ان کے نظارہ کو دلچسپ بنا رہی تھی کیونکہ ہندی فوج کا شمار معہ والنٹیروں کے صرف بارہ سو افراد کا تھا جو نہایت معمولی تعداد ہے مگر ہندی رؤسا کی زرق برق پوشاکیں اور ان لوگوں کے کشیدہ قد اور سپاہیانہ صورتیں اُن کی شانداری کو اور بھی بڑھا دیتی تھیں۔ اور قلت کا کوئی اثر معلوم نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ہز رائل ہائنس پرنس اوف ویلز نے انکی سلامی لینے کے بعد اظہار خوشنودی فرمایا کہ اسی موقع پر مہاراجہ سر پرتاب سنگہ والی ایڈر۔ مہاراجہ صاحب بیکانیر میجر کاکس کو خدمات چین کے لئے اپنے ہاتھ سے تمغے عنایت فرمائے۔ الغرض ہندی سپاہ کی پریڈ پر خاندان شاہی سے لیکر عوام تک نہایت محظوظ ہوئے۔ کیونکہ اتفاقاً اُس دن مطلع بھی صاف تھا۔ اور ہندی سپاہیوں

کی پریڈ کی دھوم سُنکر مخلوق ہجوم در ہجوم آئی ہوئی تھی جو ان لوگوں کے فوجی فنون دیکھکر کمال خوش ہوئی - البتہ اسقدر افسوس لوگوں کو رہ گیا کہ اگر ہندی اور نو آبادیوں کی افواج کی ایک ساتھ پریڈ کرائی جاتی تو زیادہ لُطف ہوتا مگر بعض مصلحتوں سے ایسا نہیں کیا گیا - یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ اس موقع پر بھی ہندی افسروں نے شہزادہ عالم سے درخواست کی کہ ہم لوگ شاہِ عالم پناہ کی زیارت کئے بغیر واپس ہونا نہیں چاہتے - اور بخوشی اُسوقت کے انتظار میں لنڈن ٹھہرنے کو حاضر ہیں جب تک بادشاہ سلامت تندرست ہوکر تاجپوش نہ ہوجائیں چنانچہ انکی یہ عرض شرفِ قبولیت بھی پاگئی -

لارڈ لینسڈون کی دعوت - اس شاندار پریڈ سے فراغت کے بعد اُسی شب لارڈ لینسڈون صاحب بہادر وزیر خارجیہ (سابق گورنر جنرل ہند) نے مہمانانِ تاجپوشی کو اپنے ہاں ایک پرتکلّف دعوت دی - جس میں ہندی رؤسا امراء بھی شامل تھے - جن میں سے اکثر کو لارڈ ممدوح سے ذاتی تعارف حاصل تھا - اسلئے اس دعوت کا لُطف اور بھی دوبالا ہوگیا تھا - بالخصوص لیڈی لینسڈون کا اخلاق و اہتمام سب لوگوں کو اور بھی مسرور کرنیوالا تھا - ادھر شہنشاہِ معظّم کی صحت کی خبریں اطمینان بخش سُنی جارہی تھیں - اسلئے ان دعوتوں کا لُطف اور بھی بڑھ جاتا تھا -

پرنس اوف ویلز بہادر کا دربارِ لیوی - ۴ جولائی ۱۹۰۲ء کو نو بجے رات کے انڈیا آفس میں اعلےٰ پیمانہ پر مہمانانِ تاجپوشی کو ایک پوشاک پارٹی دی گئی جسکے لئے پہلے سے تیاریاں ہورہی تھیں یہ دراصل شہزادہ اعظم کا ایک دربارِ لیوی تھا - ہندی رؤسا و امراء افواج کے سوا دیگر

ممالک کے معزز مہمان اور شہزادے اور حکمران جو اس موقع پر لنڈن تشریف لائے ہوئے تھے۔ سب اس میں شریک کیے گئے تھے اور گو اس حیثیت سے اسکو مہمانانِ تاجپوشی کی دعوت کہنا چاہیئے۔ لیکن چونکہ انڈیا اوفس میں اس دعوت کا دیا جانا محض ہندی رؤسا کے باعث ہی قرار پایا تھا اور بصورتِ صحت بھی دن ہندی رؤسا کے شاہی سلام کا قرار پا چکا تھا۔ اسلئے اِسکو مہمانان ہند کی دعوت ہی کہا گیا ہے۔ انڈیا اوفس ایک وسیع عمارت ہے جسمیں یہ دربار نما پارٹی تجویز ہوئی تھی۔ اور اگرچہ باعتبار اپنی عظمت و شان اور رفعت و وسعت کے وہ پہلے سے ہی ایک بڑا عالیقدر محل ہے۔ مگر بالخصوص اس موقع کے لیے تو اُس کو اور بھی درست کرا کے ایسی شاندار صورت میں بدل دیا گیا تھا کہ اب کیفیت ہی کچھ اور نظر آتی تھی۔ وسط صحن میں جو شامیانہ کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ خاص طور پر لائق دید تھا جسمیں چاند اور ستارے پوری صنعت گری سے ایسی طرح دکھائے گئے تھے کہ اصلی کا دھوکا ہوتا تھا۔ کیونکہ اُن چاند اور ستاروں کو مصنوعی طور پر روشن بھی کر دیا گیا تھا تاکہ انکی چمک دمک اصلیت کا رنگ بھی دکھلا دے۔ فرنیچر کی آرائش بھی انا بیہ طرز کی پوری نفاست سے کی گئی تھی۔ غرضکہ پورا پورا شاہی تکلف و اہتمام دکھایا گیا تھا۔ دربار ہال میں مہمانوں کی چوکیوں کے پیچھے ہندی فوج قطار در قطار ایسی شانداری سے کھڑی کی گئی تھی کہ جسکا نظارہ بڑا ہی خوش آیند معلوم ہوتا تھا۔ تین ہزار مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا جنمیں سے ہر ایک بڑھی چڑھی پوشاکوں سے ملبوس عزت و وقار کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ چنانچہ سب صاحبان کے آجانے کے بعد ۱۱ بجے شب کے ملکِ معظم کی جگہ ہز رائل ہائنس پرنس آف ویلز

بہادر نے تشریف لاکر کرسئی امارت کو مشرف فرمایا جو ایک مرتفع چبوترے پر بہایت شان و شوکت سے رکھی گئی تھی۔ اور سب سے پہلے ہندوستانی رؤسا و امراء ایک ایک کرکے اِن کے حضور میں پیش کیے گئے جنہوں نے حسب قاعدہ زمین دوز سلام سے آداب بجایا اور حضور ممدوح بھی نہایت اخلاق سے ہر ایک صاحب کے سلام کا بخندہ پیشانی جواب دیتے رہے اسکے بعد افسرانِ فوج پیش ہوئے جو اظہارِ وفاداری کے لئے فوجی طریق پر اپنی اپنی تلواریں شہزادۂ عالم کے حضور میں پیش کرتے تھے اور آپ اِن پر ہاتھ رکھ کر واپس فرماتے جاتے تھے۔ یہ سماں جیسا کچھ پر شوکت ہو سکتا ہے ناظرین اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف ایسے ایسے جلیل القدر والیانِ ریاست اور دوسری طرف ایسے چیدہ قائمقامان افواج کا اظہارِ اطاعت کے لئے سرِ تسلیم خم کرکے ہندوستان کے عظیم الشان ملک کی طرف سے اُس کے دل و جان سے مطیع و منقادِ تختِ انگلستان ہونے کا ایسا بدیہی ثبوت دیدینا تھا کہ جس سے بڑھ کر نا ممکن کہا جا سکتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس کا حاضرینِ دربار سفرائے دول غیر و مہمانِ ولایت پر جو گہرا اثر ہوا ہوگا وہ بڑا ہی قابل قدر ہوگا۔ گیارہ بجے شب سے بارہ بجے تک کامل ایک گھنٹہ پرنس اوف ویلز بہادر زینت افروزِ دربار رہ کر واپس تشریف لے گئے۔ جنکے بعد علے قدر مراتب مہمان صاحبان بھی اپنے اپنے ٹھکانوں کو روانہ ہوئے۔ اور اگلے روز شہزادہ ولیعہد بہادر کے پرائیویٹ سکرٹری نے اس شاندار استقبال کے لئے فوجی افسروں کی نسبت شہزادہ عالم کیطرف سے اظہارِ خوشنودی کی ایک چٹھی وزیر ہند کے نام لکھ بھیجی جو پانچویں جولائی ۱۹۰۲ء کو اُردو میں چھپوا کر

افواج میں تقسیم کردی گئی۔ اور جسکی نقل یہ ہے۔

بنام کرنل سٹنلی صاحب کمانڈنگ فوج ہند

منجانب لارڈ جارج ہملٹن وزیر ہند

"پیارے کرنل سٹنلی صاحب بہادر! لفِ ہذا میں اُس چٹھی کی نقل آپ کے پاس روانہ کرتا ہوں۔ جو پرنس اوف ویلز کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ براہِ مہربانی آپ اپنے کُل ماتحتوں میں اِسکے مضمون کو ظاہر فرماویں۔ اور مَیں خود بھی آپ کا اور آپکے ماتحت افسرانِ فوج کا تہِ دل سے اِس امر کے لئے شکر گذار ہوں۔ کہ جو کام اِن کو دیا گیا۔ اُس کو اُنہوں نے قابلِ تعریف انجام دیا۔

آپ کا سچا دوست جارج ہملٹن وزیر ہند"

نقل چٹھی مورخہ ۵ جولائی ۱۹۰۲ء - مقام یارک ہوس واقعہ محل سینٹ جیمس

"میرے پیارے جارج ہملٹن!

پرنس اوف ویلز بہادر اور ڈیوک اوف کیناٹ بہادر نے مجھسے خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ آپ کا اور لیڈی جارج ہملٹن صاحبہ کا اس قابلِ تعریف استقبال کے لئے شکریہ ادا کروں جو کل رات ہم لوگوں کا کیا گیا تھا۔ شہزادۂ عالم کا خیال ہے کہ ایسا عمدہ انتظام اور استقبالی نظارہ اُنہوں نے عمر بھر میں پہلی مرتبہ کل ہی دیکھا ہے۔ چنانچہ آج شام جب شہزادۂ عالم ملکِ معظم سے نیاز حاصل کرینگے تو سب کیفیت اُنکی خدمت میں بھی عرض کردی جائے گی۔

آپ کا سچا آرتھر بگ"

اِس سے خود بخود اِس اثر کا اندازہ ہوسکتا ہے جو اِس دربار نے

خود حکمران جماعت پر کر دیا تھا۔ چنانچہ اگلے روز لارڈ جارج ہملٹن نے بھی ایک سوال کے جواب میں بیان کیا کہ انڈیا اوفس والی لیوی محض ایوننگ پارٹی نہ تھی۔ بلکہ اس سے بہت بڑے پولیٹیکل نتائج نکلتے تھے اور نکلیں گے۔

شاہی دعوت۔ ۵ جولائی کو پانچ لاکھ غربا کو جو عظیم الشان دعوت دینی تجویز ہو چکی تھی وہ پورے اہتمام بلیغ کے ساتھ لنڈن میں دی گئی تھی کہ دعوت کا انتظام دیکھنے اور غربا کو شرفِ سلام سے مشرف کرنے کے لئے پرنس اوف ویلز بہادر معہ پرنسس صاحبہ اور ڈیوک اوف کینٹ بہادر معہ اپنی بیگم صاحبہ کے اور دوسرے خاندان شاہی کے ارکین بھی بنفسِ نفیس تشریف لے گئے تھے۔ اس سے بڑھ کے دلچسپی شاہی کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ ملکِ معظم نے خود بھی بدستخطِ خاص لارڈ میئر کو ایک خط لکھ کے روانہ فرمایا۔ کہ "میری دلی خواہش یہ ہے کہ غربا کا آج کا دن نہایت فرحت و شادمانی میں کٹے"۔ اس دعوت کا خرچ ساڑھے چار لاکھ روپیہ اندازہ کیا گیا ہے جس میں پانچ قسم کا کھانا مہیا کیا گیا تھا۔ اور جس کے لئے پچیس لاکھ رکابیاں اور بیس لاکھ چھری کانٹے اور دس لاکھ چمچ کام میں لائے گئے تھے۔ اس میں اندازاً فی نفر ایک پونڈ گوشت۔ چار اونس آلو۔ چار اونس چانول۔ دو اونس پنیر۔ ایک ایک قاش ڈبل روٹی کی مکھن کے ساتھ لگی ہوئی اور میوہ جات اس کے علاوہ دئے گئے تھے۔ پینے کے لئے بھی پانی کی جگہ ایک مفرح عرق یا شربت دیا گیا تھا۔ جو نشے سے بالکل پاک تھا۔ یہ دعوت مختلف مقاماتِ شہر پر دی گئی تھی کیونکہ ایک جگہ اتنے ہجوم کا سمانا سخت مشکل بلکہ ناممکن تھا بلکہ یتیم خانوں اور غریب خانوں میں تو وہیں بیٹھے بٹھائے ملکی یکتائی دعوت

کا سامان بھیجدیا گیا تھا۔ غرضکہ انتظام اس اعلےٰ پیمانہ کا تھا۔ جس سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائی۔ اور سب نے نہایت سہولیت اور آرام کے ساتھ کھانا کھالیا۔ بلکہ شاملین کو پرنس اوف ویلز بہادر اور دیگر اراکینِ خاندان شاہی کے شرفِ سلام سے مشرف ہونے کا موقع بھی نہایت عمدگی سے مل گیا۔ جس سے یہ دعوت اِن کے لئے اور بھی باعثِ فخر ہوگئی تھی بہرحال یہ دعوت ملکِ معظم کے منشاء دلی کے موافق غریبوں کو دلی خوشی بیں دن گذارنے کے لئے پوری کامیاب ثابت ہوئی۔

ملکِ معظم کی صحت۔ ۳۰ جون ۱۹۰۲ء کو ڈاکٹری تشخیص کے مطابق مشتہر کردیا گیا۔ کہ بفضلِ الٰہی بادشاہ سلامت ہرطرح کے مہیب خطرات سے نکل آئے ہیں۔ جسکے بعد زخم میں انگور بھرنا شروع ہوا۔ اور آپ دن بدن تندرست ہوتے چلے گئے۔

یہ بھی لکھدینا ضروری ہے کہ شہنشاہِ معظم کی بیماری کی خبر جسوقت ہندوستان اور دیگر ممالک میں پہنچی تو انگلستان کی طرح ہر جگہ اپنے فوری اثر سے سب کو متاثر کرتی گئی۔ بالخصوص ہندوستان میں تو اِس قدر اسپر اضطراب تشویش اور ہمدردانہ خیالات کا اظہار ہوا کہ یقیناً خاص انگلستان بلکہ خاندان شاہی میں بھی اُس سے زیادہ نہ ہوا ہوگا۔ جس نے اِس خبر کو سُنا۔ فوراً دستِ دُعا اٹھائے اور شافی مُطلق کے روبرو اپنے شہنشاہ کی صحت کے لئے گڑگڑانا شروع کیا۔ چنانچہ احکم الحاکمینِ حقیقی نے اپنے عاجز بندوں کی دُعائیں قبول فرمائیں۔ اور شہنشاہ کو عروسِ صحت سے ہم آغوش کیا۔ اور ہز اکسلینسی دی وائسرائے ہند نے ۶ جولائی ۱۹۰۲ء کو آپ کے حضور میں مندرجہ ذیل تار روانہ فرمایا۔

منجانب وائسرائے ہند بحضور شہنشاہِ معظم

منمقام شملہ بمقام لنڈن۔

"چونکہ طبی پرچوں کے مطابق اب خدا کے فضل و کرم سے ذاتِ والا مرض کے خطرات سے نجات پاگئی ہے۔ اسلئے میں اس عظیم الشان ملک کیطرف سے تہ دل سے مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ اس ملک میں قبل ازیں عوام و خاص کو کبھی اسقدر فکر و تردد پیدا نہیں ہوا۔ جیسے کہ حضور کی خبرِ علالت سے ہوگیا تھا۔ اور اسی مناسبت سے اب اُنکو حضور کی صحت یابی نے بھی ویسا ہی خوش اور مطمئن کردیا ہے۔ اور ہماری سچی دعا ہے۔ کہ خدا حضور کو جلد تر صحت کامل عطاء فرما کر عرصۂ دراز تک حکمرانی کے لئے زندہ رکھے۔"

شہنشاہِ معظم نے اسی دن اسکا یہ مختصر جواب بذریعہ تار ارسال فرمایا

منجانب شہنشاہِ معظم بنام وائسرائے ہند

"آپکے دلی ہمدردی اور عقیدت سے لبریز پیغام تار نے ہم کو بہت متاثر کیا جواباً ارقام ہے کہ اگرچہ اینجانب کی صحت آہستگی سے ترقی کررہی ہے مگر یہ ترقی استحکام کے ساتھ مطمئن کرنے والی ہے۔"

اسکے بعد رفتہ رفتہ آپ کی صحت ترقی کرتی گئی اور آپ تبدیلی آب و ہوا کے لئے بحری سیر کو تشریف لے گئے جس سے آپ کو معقول فائدہ بھی پہنچا اور بالآخر بالکل تندرست ہوگئے۔

پرنس اوف ویلز کی ملاقات۔ ۱۱ جولائی ۱۹۰۲ء کو پرنس اوف ویلز بہادر نے۔ ہندی مہمانوں کو اپنے ایوانِ عالیشان میں اعزاز ملاقات بخشا **مہمانان تاجپوشی کی دعوت۔** اسی دن ایوانِ گلڈ ہال میں ایک بڑے

ﭘﯿﻤﺎﻧﮧ کی مکلف دعوت مہمانانِ تاجپوشی کو دی گئی۔ جس میں چھ سو مہمان شامل تھے۔ شہزادگانِ خاندانِ شاہی اور چیدہ اراکینِ سلطنت اور عمائدینِ دولت سبھی موجود تھے۔ لارڈ کرومر سپہ سالار افواج مصر سر جے ڈبلیو رجوے گورنر سیلون اور تمام مشاہیر ملک تشریف لائے ہوئے تھے۔ تجویز تو یہ قرار پا چکی تھی۔ کہ مسٹر چیمبرلین اس جلسۂ دعوت کے میر مجلس ہوتے مگر انکی علالت کے باعث لارڈ آنسلو صاحب کرسیٔ صدارت پر متمکن ہوئے معمولی سپیچوں کے بعد مہمانوں کا جام صحت تجویز کیا گیا جسکے شکریہ میں مہاراجہ صاحب کولاپور نے ایک برجستہ تقریر فرما کر ایسے جلسوں کو بنیادِ اتحاد کے لئے نہایت مؤثر بیان کیا۔ اور ہندی مہمانوں کے شکریہ اور اظہار وفاداری کا مستحسن الفاظ میں ذکر فرمایا۔ جسکے بعد سر جیمس رجوے صاحب نے نو آبادیوں کے مہمانوں کی جانب سے ایک عمدہ تقریر میں ایسے ہی مضامین بیان فرمائے۔ اور جلسہ برخاست ہوا۔

اسکے بعد بھی لنڈن کارپوریشن نے فتح ٹرانسوال کی خوشی میں ۱۲ جولائی کو جو دعوت دی اُسمیں بھی ہندوستان و نو آبادی ہا کے مہمان مدعو کئے۔ علاوہ صدرِ معظم لارڈ سالسبری صاحب وزیر اعظم انگلشیہ نے بھی ہندی مہمانوں کو اپنی طرف سے خاص دعوت دی۔ اور اسیطرح اور بھی کئی اراکین نے بذریعہ دعوت اپنی دلچسپی کا اظہار فرمایا جنکی تفصیل کی کچھ ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔

۱۵۔ جولائی کے بعد شہنشاہِ معظم کی صحت کی پختہ اُمیدیں لیکر اکثر مہمانانِ تاجپوشی آس پاس کے مختلف مقامات کی سیر کو چلے گئے۔ وَدِلِ عہد کے مہمان قریب قریب سبھی رخصت کر دئے گئے۔ اور قرار دیا گیا کہ آئندہ جشن کے لئے اب سلاطین غیر کو بلاوے کے رقعے بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

فصل پنجم

جشن تاجپوشی کی تکمیل

دوبارہ طیّاریاں۔ چونکہ عملِ جراحی کے بعد ملک معظم کی صحت بفضلِ الہی دن بدن ترقی کر رہی تھی۔ اور بحری آب و ہوا آپ کو بالکل موافق آکر تندرستی و تنومندی کی مطمئن خبریں دے رہی تھی۔ اسلئے سرکاری طور پر یہ خبریں نکل چکی تھیں۔ کہ "۹ اگست میں تاجپوشی کی تقریب ادا کیجائے گی" مگر دل شکستہ اور متوہم لوگ اعتبار نہ کرتے تھے۔ اور اُن کا اعتبار نہ کرنا کچھ بیجا بھی نہ تھا۔ کیونکہ بادشاہ سلامت باضابطہ طور پر فرمانروائے سلطنت ہوکے ڈیڑھ برس سے کام کر رہے تھے۔ اور یہ تقریب جو صرف بطور اظہارِ مسرت یا بخیال بقائے رسم قدیم باقی تھی۔ اگر ڈاکٹر صاحبان کسی قدر اور بھی اسمیں التواء ڈال دیتے تو تعجب کیا تھا۔ مگر ملکِ معظم کو اپنی رعایا کی خوشنودی چونکہ ہر وقت مدِ نظر رہی ہے۔ لہذا صحت کے درست اور قابلِ اطمینان ہونے پر آپنے بتاریخ ۲۶ جولائی ۱۹۰۲ء پریوی کونسلروں کو جہازِ شاہی میں طلب فرماکر اِس تقریب سعید کے لئے ۹۔ اگست ۱۹۰۲ء کے تقرّر اور اسدن کی تعطیلِ عام کے احکام صادر فرمائے۔ جو فی الفور گزٹ میں درج ہوکر مشتہر ہو گئے۔ اور پبلک میں پھر از سرِ نو مبارک تحریکیں پیدا ہوگئیں۔ اور بالخصوص جو ہندی مہمان اور نو آبادیوں کے کنٹنجنٹ یا نئے چند دیگر ممالک کے مہمان ابر روزِ بہجت افروز کی انتظار میں ولایت بیٹھے ہوئے تھے۔ اُن کے لئے تو یہ خبر عید کی خبر

سے بھی زیادہ فرحت بخش تھی۔ چنانچہ سب صاحبان اس تقریبِ تہنیت کی شمولیت کے لئے پھر سے طیار ہو گئے۔ اور بجھے ہوئے دلوں میں پھر ایک دفعہ مسرت و شادمانی کا ولولہ پیدا ہو گیا۔

تغیراتِ زمانہ - ایک ایشیائی شاعر نے وقت کے قیمتی اور منقلب ہونے اور زمانہ کے ندرت پسند اور متغیر ہونے کے مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کہ ؎

بیک ساعت بیک لحظہ بیک دم
دگرگوں مے شود احوالِ عالم

اور یہاں تو ساعت و لحظہ کیا پورے ڈیڑھ مہینے کا وقفہ ہو چکا تھا۔ پھر کس طرح اُس کا اثر نہ ہوتا۔ پس یہاں بھی عجیب عجیب تغیرات وقوع پذیر ہوئے۔ یعنے خاص تقریبِ تاجپوشی کے متعلق تو یہ کہ بڑے بڑے مہمانانِ دول غیر مدت سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے تھے۔ جہازات کا عدیم المثال جلوسی بیڑا بھی متفرق ہو گیا تھا۔ اِسکے علاوہ خاص بادشاہ سلامت کی طبع معلّے کا خیال کر کے مراسم وادعیاتِ تاجپوشی میں مذہبی پیشواؤں نے بھی اختصار منظور کر لیا تھا۔ اور دنیا بھر میں آپ کی تاجپوشی کی دل سے تمنا ہو رہی تھی۔ کیونکہ آپ کی بیماری نے عام لوگوں کو پہلے سے بھی زیادہ خیرطلب اور ہمدرد بنا لیا تھا۔ یہ تو اس رسم کے متعلق مذکور ہوا۔ سلطنتی حالات میں جو تغیرات ہوئے۔ وہ اور بھی زیادہ وزندار تھے گو بفضلِ الٰہی اُن کو فالِ نیک اور ملکِ معظم کے آثارِ یُمن و برکت ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سب سلطنت کے لئے بہتری کی صورتیں تھیں۔ ان میں کے بڑے بڑے واقعات یہ ہیں کہ لارڈ سالسبری وزیرِ اعظم نے

مُدتوں کی وزارت کے بعد بوجہ ضعف پیری اپنا استعفےٰ داخل کرکے اپنی مشہور شخصیت کو خدمت سرکاری سے سبکدوش کردیا تھا اور اب عنانِ وزارت ایک چلتے ہوئے با اثر سپیکر اور پولیٹیشن شخص مسٹر بلفور[۱] کے ہاتھوں میں آگئی تھی۔ مسٹر چیمبرلین نہ صرف بیماری سے ہی اچھے ہوگئے تھے۔ بلکہ اب بجائے اعتراضات کی بوچھاڑ کے اُن کی تعریفیں ہوتی تھیں۔ ٹرنسوال کا ناگوار اور زہرہ گداز جنگ فتح کرکے لارڈ کچنر مظفر و منصور ۵۔ اگست کو لنڈن میں پہنچ کر مبارکبادیں لے رہے تھے۔ اور بوئروں کے سرغنہ جنرل اور کرنل اظہارِ اطاعت کے لئے آستانۂ شاہی پر حاضر ہو رہے تھے۔ آئرلینڈ کے اخبارات بادشاہِ ذیجاہ کی نیکنامی پر اوچھے قلمی حملے کرنے سے قوم کے مطعون ہو کے سرنگون اور خاموش ہو چکے تھے۔ غرضکہ جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اگرچہ بہتری اور مبارکی کی طرف تغیرات کا رجحان تھا۔ مگر زمانہ بدل ضرور گیا تھا۔ بہرحال اِس تقریب سعید کے لئے یہ موقع بہت مناسب و موزون تھا۔ چنانچہ بفضلِ الٰہی پھر خوشی کا باجہ بجنے لگا۔ اور مسرت کی ریل پیل ہونے لگی۔

شاہِ عالم پناہ کی مراجعت لنڈن۔ بیماری کے بعد ڈاکٹروں کی رائے پر بادشاہ سلامت بحری ہواخوری کے لئے لنڈن کے باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ اور اس تبدیلی آب و ہوا سے معقول فوائد بھی انہوں نے اُٹھائے تھے۔ مگر اب چونکہ رسم تاجپوشی کے لئے آپ کی تشریف آوری ضروریات سے تھی۔ اسلئے آپ نے ۹۔ اگست سنہ ۱۹۰۲ء کو پورٹسموتھ

---

[۱] یہ صاحب لارڈ سالسبری کے بھتیجے ہیں اور پہلے پارلیمنٹ میں عہدۂ سپیکر شاہی ممتاز تھے۱۲

میں جنگی جہازوں کی سلامی لی۔ اور پھر براہ وکٹوریا ۷۔ کو ایوان بکنگہم میں جلوہ آرائی فرمائی۔ وکٹوریا سے آپ ایک کھلی لینڈو گاڑی میں بالکل سادگی کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ چونکہ پبلک کو آپ کے دیدارِ فرحت آثار کی ازحد تمنا تھی۔ رستے میں لوگوں کا ہجوم بےشمار تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی یہ حالت دیکھ کے گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی تھی۔ تاکہ مشتاقانِ جمال اپنے خیال میں بخوبی کامیاب ہو جائیں۔

نواب وزیر ہند کا دربار ۔ ۸۔ اگست ۱۹۱۱ء کو انڈیا آفس کے عالیشان محل میں لارڈ جارج ہملٹن صاحب بالقابہ وزیر ہند نے تمام والیانِ ریاست و مہمانانِ ہندوستان و افسرانِ ہندی افواج کو اپنے دربار میں طلب فرما کر معزز فرمایا۔ اس وقت کی کیفیت بھی عجیب غریب تھی۔ کہ ہندی رؤسا و امرا و شجاع نواب وزیر ہند کی زبانی مراسم تاجپوشی کی کیفیت اور اپنے نشست و برخاست کی نسبت ہدایت سُنکے خوشی سے اپنے جاموں میں پھولے نہ سماتے تھے۔ کیونکہ ابھی تقریب سعید کی دید اور اپنے شہنشاہ کی صحت کے نوید کے لئے یہ سب صاحبان اپنے ملک۔ اپنے کاروبار اور اپنی سوسائٹی سے دور دست غریب الوطن بنے ہوئے تھے۔ پس ان سب کے لئے یہ دربار واقعی دربار اور اصلی معنوں میں فرحت آثار تھا جو بخیر و خوبی ختم ہوا۔ اور سب صاحبان اپنے اپنے فرودگاہوں پر پہنچ کر اگلے دن کے لئے تیاری کرنے لگے۔

تاجپوشی کے دن صبح صبح شاہی اتواپ کی سلامی نے اس تقریب سعید کی خوشخبری پہنچا کر مخلوق میں جو چہل پہل کر دی تھی اسکا

ہر شخص خود اندازہ کر سکتا ہے۔ اسلئے یہاں کارروائی کی تفصیل پر اکتفا کی جاتی ہے۔


ایبی کی وجہ تسمیہ۔ ابتداء میں ویسٹ منسٹر کے نام سے ایک شہر برلبِ دریائے ٹامس آباد تھا۔ جس کا اُس زمانہ میں شہر لنڈن سے ایک میل کا فاصلہ تھا۔ مگر اسکے بعد دارالسلطنت لنڈن کی وسعت نے اسکو بھی اپنا ہی ایک حصہ قرار دے لیا۔ ایک ہزار سال ہوئے۔ جب شاہ ایڈگر نے ویسٹ منسٹر کے شہر میں ایک عالیشان گرجا تعمیر کیا تھا۔ جو اُسوقت کے مراسم مذہبی کے مطابق ایک راہب خانہ کیطرح ایبی سے ملحق کیا گیا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اسکا نام ویسٹ منسٹر ایبی مشہور ہے۔ بعدازاں بھی وقتاً فوقتاً چونکہ اکثر بادشاہانِ انگلستان اسکی فراخی اور شانداری کے لئے مصارفِ کثیر برداشت کرتے رہے ہیں۔ اسلئے یہ تاریخی عمارت دن بدن قابلِ دید ہوتی چلی گئی۔ اور اب ایک عرصہ سے بادشاہانِ انگلستان کی رسمِ تاجپوشی خاص اسی گرجا میں ادا کیجاتی ہے۔ بلکہ بعدِ وفات اگر کسی شخص کو بادشاہ سلامت یا پارلیمنٹ یا پیشوایانِ دین کوئی عزت دے سکتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے۔ کہ کسی کی لاش کو اس میں دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس میں بیتر ملکہ اور بادشاہ اور کثیر التعداد مشہور مُدبر۔ سپہ سالار شاعر اور مشاہیر مدفون ہیں۔ جنمیں سے ایک کئی ایک کے سٹیچو بھی نصب ہو چکے ہیں۔

تاجپوشی کے دن ایبی کا اندرونی نظارہ۔ جیسا کچھ پُرشوکت اور فوق البھڑک تھا۔ غالباً قبل ازاں اسکو یہ عروج میسر نہ ہوا ہوگا۔ کیونکہ


تختِ انگلستان کو وُہ امن و امان اور اقتدار و اختیار جو ملک معظم کی تاجپوشی کے وقت حاصل تھا۔ اور سلطنتِ انگلشیہ کو وُہ وسعت و رفعت جو اِسوقت میسر ہے۔ پہلے کبھی نہ ہوئی تہی۔ اسکے سوا فیشن کی تراش خراش اور لباسوں میں جو تکلفات اِسوقت کیئے جاتے ہیں۔ اِس سے ساٹھ سال پیشتر ایسے نہ پائے جاتے تھے۔ تاجپوشی کا وقت اگرچہ بارہ بجے دن کا مقرر ہوچکا تھا۔ مگر سات بجے صبح سے ابی کا دروازہ کُھلنے کے ساتھ ہی درباریوں اور مہمانوں۔ رئیسوں۔ امیروں کا داخلہ اسمیں شروع ہوگیا تھا۔ بلکہ کئی ایک لوگ تو دروازہ کُھلنے سے بہت پہلے کے منتظر کھڑے تھے۔

گیلری نشست کا طریق بالکل ویسا ہی سمجھنا چاہیئے جیسا کہ اکثر تھیٹروں میں ہوتا ہے۔ یا جیسا کہ دربار دہلی میں تھا۔ یعنے ہر چہار طرف بنچیں اِس ترکیب سے بچھائی گئی تہیں۔ کہ پہلی سے دوسری کسیقدر اونچی۔ اور دوسری سے تیسری کسیقدر بلند تھی۔ تاکہ پہلی بنچ پر بیٹھنے والے اور آخری بنچ پر نشست رکھنے والے صاحبان قریباً تمام کیفیت کو برابر دیکھ سکیں۔ کثرتِ شائقین کے خیال سے ایسی بنچیں اُن سٹیچوؤں (بتوں) کے اردگرد اور اوپر بھی لگا دی گئی تہیں جو متوفیوں کے مدفنوں پر نصب ہوچکے ہیں جنوبی دالان میں بڑے بڑے عالیقدر لارڈوں۔ ارلوں۔ ڈیوکوں۔ مارکوئیسوں بیرنوں وغیرہ کی نشست تھی۔ جو اپنی پوری درباری پوشاکوں میں شامل ہوئے تھے اور جن میں ہر عمر کے لوگ باعتبار اپنی قدامت و مناصب کے شریک تھے۔ چنانچہ اُن میں بالنگبروس و سینٹ جان نامی ایک صرف چھ سال کا وسکونٹ بھی موجود تھا

نقشہ زمینی ویسٹ منسٹر (جہاں تاجپوشی عمل میں آئی)



نقشہ عمارتی
(ویسٹ منسٹر ایبی اندرونی حصّہ)



مقابل کے دالان کے شروع میں امراء وزرا کی باعظمت خاتونوں کو جگہ دی گئی تھی۔ جو نہایت سج دھج کے ساتھ بن ٹھن کر اپنے تاج سر پر رکھے ہوئے چمکدار اور خوشنما لباسوں سے ملبس اپنے لمبے لمبے گونوں سے باد بہاری کا نقشہ کھینچتی ہوئیں ایک عجیب انداز دلربایانہ کے ساتھ درمیانی ہال میں سے ہوکر اپنی اپنی نشستوں پر پہنچی تھیں اور جنمیں بھی ہر عمر کی عورتیں باعتبار اپنی عظمت و قدامت کے شریک تھیں۔ چنانچہ انہیں میں بیرونس کلفٹن صرف تین سالہ لڑکی بھی موجود تھی۔ اِن معزز بیگمات کی نشستوں سے اوپر کی طرف ممبران ہاؤس اوف کامنز (طبقہ عوام) اور اِنکی لیڈیوں کو بٹھایا گیا تھا۔ جن کی نظر قربانگاہ پر کسی قدر کم پڑتی تھی۔ ایسا ہی چھ ہزار معززین و شرفاء مشرقی دروازے کے موڑ دیں کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو اگرچہ رسومات تاجپوشی کو تو نہ دیکھ سکتے تھے۔ مگر شاندار سواریوں کی آمد و رفت کے نظارے اور خوشی کے نعروں کی خوش آیند بازگشت اور باجہ کی سُریلی آواز انکو بخوبی خوش کر دیتی تھی درمیانی وسیع ہال میں اعلےٰ درجہ کے نیلگوں قالینوں کا مکلّف فرش ہو رہا تھا۔ جسکے وسط میں قربان گاہ کا مقدّس مقام نظر آرہا تھا۔ جسکے ساتھ آج کی بہت سی رسومات وابستہ تھیں۔ اس مقام کے آس پاس شاہی خاندان اور شہزادگان دول غیر اور بعض خاص خاص اکابران و اعیان سلطنت کے لئے نشستیں بنادی گئی تھیں۔ اور ایک طرف دُعا و مناجات کی شرکت کے لئے باجہ نوازوں کو بھی جگہ دی گئی تھی۔ ہندوستانی والیانِ ریاست و امراء اور سر آغا خان بہادر کو بھی جنوبی دالان کے آگے جہاں

بڑے بڑے مُدبّرانِ سلطنت مثل لارڈ سالسبری اور سفرا و قائمقامانِ دولِ غیر بیٹھے ہوئے تھے۔ قربانگاہ کے قریب کی نشستوں میں بٹھایا گیا تھا۔ شاملین دربار کی چندھیا دینی والی پوشاکوں اور عجیب و غریب طرح کی وضعوں کا بیان کن الفاظ میں ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر شخص اعلےٰ سے اعلےٰ پوشاک زیب تن کئے ہوئے اپنی پوری شانداری کا اظہار کر رہا تھا۔ باستثنائے اُن ممبرانِ ہوس اوف کامنز کے جو اقوام و ممالک غیر کے باشندے تھے اور پہلے سے اپنی ملکی پوشاکوں میں حاضری کی اجازت لے چکے تھے، سب کو صبح کی پوشاک میں آنے کا حکم تھا۔ البتہ ممالک بعیدہ کے باشندے اپنے اپنے ملکی لباسوں سے ملبوس تھے۔ چنانچہ ان میں سے بالخصوص ایک مُسلمان صاحب جو بڑا شاندار عمامہ باندھے مع اپنی نقاب پوش خاتون کے تشریف لائے تھے۔ خاص دلچسپی سے دیکھے جاتے تھے جن کو پہلے تو بالائی بنچوں پر نشست دی گئی تھی۔ مگر پھر اس خیال سے کہ کیفیت "تاجپوشی کو بخوبی دیکھ سکیں۔ ہوس اوف کامنز کے ممبروں کی ابتدائی قطار میں بٹھا دئیے گئے۔ لیکن وہاں بھی جب اُنکو اپنے مطلب میں مایوسی کا احتمال ہُوا تو منتظمین نے کمالِ مہربانی سے اُن کو مہمانانِ دول غیر کی ذیل میں جگہ دیدی۔ دول غیر کے مہمانوں میں سب سے پہلے داخلہ راس مقنن صاحب سفیر ابی سینیا کا ہوا جو اپنی انوکھی وضع کے لحاظ سے لوگوں میں بڑی توجہ سے دیکھے جاتے رہے۔ کیونکہ آپنے سر پر ایک ایسی طلائی گول پگڑی رکھی ہوئی تھی جسکے اردگرد سنہری جھالریں لٹک رہی تھیں۔ بُوٹ سب کے حسبِ قاعدہ


سیاہ تھے۔ مگر ایک شخص خاکی بوٹ پہن کر بھی آئے ہوئے تھے جن پر سب کی بڑی متعجبانہ نظریں اٹھتی تھیں کیونکہ یہ بات آئین دربار کے برخلاف تھی۔ ان صاحب کا نام مسٹر لیبر تھا۔ اور یہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ شاملین دربار میں اگر معرکۂ بلیک لاوا[1] کے بہادروں کی شانداری کا ذکر نہ کیا جائے گا تو غالباً اُن کی حق تلفی ہوگی۔ یہ بہادر سپاہی اپنے سیاہ کوٹوں پر بہادری کے مختلف تمغے لٹکائے اور سفید ڈاڑھیاں بڑھائے اس سپاہیانہ انداز سے داخلِ دربار ہوئے تھے کہ ہر طرف سے بڑے زور کے ساتھ چیرز بلند ہونے لگے۔

ایمی کا بیرونی نظارہ۔ ایمی کے بیرونی میدان کے سامنے فوج شاہی کے پُر شوکت جماؤ کا نظارہ جیسا کچھ باعظمت اور خوشنما معلوم ہوتا تھا اسکے بیان کی چنداں ضرورت نہیں۔ مگر اُس کے علاوہ عام تماشائیوں کا بھی وہ ہجوم تھا کہ جسکا شمار سخت مشکل ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کرکے صرف ایمی کے صحن کو دیکھا جائے تو وہ بھی اسدن ایک دلفریب دُلہن کا رُوپ بھرے ہوئے تھا۔ ہزارہا گھوڑا گاڑیاں۔ جن میں بند، کُھلی اور کئی کئی قسموں کی عجیب غریب گاڑیاں شامل تھیں۔ موٹر کار سواریاں اور بائیسکلیں اسقدر تھیں۔ کہ اگرچہ ان کے کھڑے ہونے کے لیئے دوسری جگہ مقرر کی گئی تھی۔ مگر صرف درباریوں کی آمد پر آنے

[1] جنگ کریمیا کے سلسلہ میں بلیک لاوا کی لڑائی ۲۵۔ اکتوبر ۱۸۵۴ء کو روس اور انگریزوں کے درمیان ہوئی تھی جس میں روسیوں کو پسپا کر دیا گیا تھا۔ اور یہ سپاہی اس جنگ کے فتحمند بہادروں میں تھے۔ ۱۲

سیاہ تھے
سب کی بڑی
برخلاف تھی۔
شاملین دربار
ذکر نہ کیا جائے
سیاہ کوٹوں
بڑھائے اس
سے بڑے ز
ایبی کا بیرو
کے پُر شوکت
اس کے بیان کی
کا بھی وُہ ہجوم
کر کے صرف
دُلہن کا رُوپ
کھلی اور کتنی کو
اور بائیسکلیں
دوسری جگہ

لہ جنگ کریہ



ویسٹ منسٹر ایبی کا بیرونی نظارہ

کے لیے جو انکو ایسی تاک رسائی ہوتی تھی تو ایسی سے تمام صحن اٹا ہوا نظر آتا تھا۔ اِن گاڑیوں کی کثرت دیکھ کر لوگ متعجب ہوتے تھے کہ آخر اسقدر در باریوں کے لئے ایسی میں جگہ کہاں سے پیدا ہو جائے گی۔ اور اسپر یہ اور بھی لطف تھا کہ باوصف گاڑیوں کی اس کثرت کے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ صرف لارڈ پیلہم کلنٹن کی گاڑی سے ایک شاہی گاڑی کا تصادم ہوا۔ جسمیں لارڈ پیلہم کی گاڑی کے گھوڑے بے قابو ہوکر دولتیاں جھاڑتے ہوئے نیچے گر گئے۔ یہ حادثہ وایٹ ہال کے قریب واقع ہوا تھا۔ جہاں ہندی افواج پیادہ استادہ تھیں۔ چنانچہ اس گاڑی کی دھکا پیل میں دس ہندی سپاہیوں کو چوٹیں بھی آئیں جنمیں سے چار مجروح ہوئے۔ اسکے سوا کوئی اور حادثہ رونما نہیں ہوا جو پولیس کے عمدہ انتظام کی دلیل تھا۔

اِن لکھوکھا تماشائیوں کے سوا جنہوں نے اپنی نشستوں کا خود انتظام کیا تھا۔ پرنس اوف ویلز بہادر نے البرٹ ہوس کے باغ میں ایک ہزار سے زیادہ تیامی اور بیماروں کو اپنا مہمان فرمایا تھا۔ تاکہ وہ لوگ جن کا بظاہر کوئی وسیلہ جلوس دیکھنے کا نظر نہیں آتا۔ خود مہمان شاہی ہوکر جلوس کی تمام و کمال کیفیت نہایت بے تکلفی اور پوری آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ اِن میں ۳۲۶ تو فونڈلی ہاسپٹل کے بیمار تھے۔ ۹۵ یتیم خانہ سوداگران بحری کے لڑکے لڑکیاں۔ ۱۳۸ کلیڈونیں اسیلم کے۔ ۲۰۰ لڑکیاں پرنس میری ویلم ہوم واقعہ ایڈ لسٹن کی اور دو سو باون لڑکے نیشنل رفیوج کے تھے۔

شائقین جلوس کا اژدہام اور سرکاری انتظام۔ پامال بازار سینٹ جیمس سٹریٹ اور پکاڈلی کے رستے سے چونکہ تاجپوشی کے بعد ملک معظم کا جلوس

سواری جانا تجویز ہوا تھا - لہذا اس تمام رستے میں خلقت کا اژدحام اسقدر ہو گیا تھا کہ بلا مبالغہ لنڈن جیسے فراخ شہر کے بازار جا ندار مخلوق کی تہ بہ تہ دیواروں سے اٹے ہوئے نظر آتے تھے جلوس شاہی اگرچہ اِن مقامات پر دو اور تین بجے بعد دوپہر کے پہنچا تھا - مگر علے الصباح لوگوں نے دو طرفہ جگہیں روک لی تھیں - بلکہ معمّر اشخاص اور بالخصوص بوڑھی عورتیں تو دو بجے رات سے ہی کیمپ سٹول (کھڑے ہونے یا بیٹھنے کے موندھے) اور کھانے پینے کا سامان لے کر جا پہنچے تھے - صفائی اور پولیس کا اہتمام اعلےٰ درجہ کا قابلِ تعریف تھا - اور اسپر تفریح ناظرین کے لئے مندرجہ ذیل مقامات پر دلفریب شاہی باجے کے دستے بھی مقرر کئے گئے تھے -

۱- ایتھنم اور یونائیٹڈ سروس کلب کے درمیانی میدان میں - شاہی باجہ -
۲- کاکسپر سٹریٹ پر - ۱۲ ویں لینسرز کا باجہ -
۳- واٹر لو پلیس میں - رائل ارٹلری کا باجہ -
۴- پارلیمنٹری چوک میں - رائل ملٹری سکول اوف میوزک کا باجہ -
۵- ایڈمیرلٹی پر - رائل میرنس کا باجہ -
۶- ہارس گارڈ و پریڈ پر دسویں ہارس کا باجہ -
۷- گرالویز پلیس میں - دوسری لائیف گارڈ کا باجہ -
۸- کینٹین آرک کے قریب - رائل انجنرس کا باجہ -

اِن کے علاوہ ویسٹ منسٹر ایبی کے قریب گارڈس ہنڈیلہ کا مشہور و معروف باجہ وہ بہار دکھا رہا تھا کہ جو قابلِ دید تھی نہ لائق شنید - کیونکہ وہ تو اسکے جوہر دکھانے کا محل خاص ہی تھا - لیکن دوسرے مقامات پر

باجہ نوازوں نے حاضرین کے خوش کرنے اور اپنا کمال دکھانے میں اسقدر کوشش کی تھی کہ شائقین میں سے کسی نے بھی اس مدت انتظار کو بُرا نہیں جانا۔

درباریوں کی سواریاں تو ساڑھے آٹھ بجے صبح سے ہی بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ ایبی کی طرف جانی شروع ہو گئی تھیں۔ جنکی گاڑیاں گھوڑے اور گاڑی نشین صاحبان واقعی قابل دید بنے ہوئے تھے۔ اور جن کو مشتاق پبلک بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن

ممبران خاندان شاہی کی سواری آٹھ گاڑیوں میں محل بکنگھم سے ساڑھے دس بجے روانہ ہوئی۔ جس میں پرنسس لوئیسا (ڈچس اوف فائیف) اور پرنسس وکٹوریا بادشاہ سلامت کی دختران نیک اختران اور پرنسس ماؤ (پرنسس چارلس آف ڈنمارک) اور لیڈی الگزنڈرا اوف ملک معظّم کی نواسی اور کئی ایک دوسری باعظمت خاتونان ذی وقار سوار تھیں۔

شہزادہ ولیعہد کی سواری۔ پونے گیارہ بجے دن کے پرنس اوف ویلز مع پرنسس اوف ویلز (بانوے ولیعہد بہادر) کے اپنے سٹاف سمیت تین گاڑیوں میں ہوس اوف یارک سے سوار ہوئے۔ جنکی اردل میں رائل ہارس گارڈس کے فوجی دستے آگے اور پیچھے رُعب وجلال شاہی برساتے جاتے تھے۔ پہلی گاڑی میں اونریبل ڈی کیپل اور کینڈر سیکسٹ صاحبان داروغگان بیوتات اور لفٹنٹ کرنل سر اے۔ جے بگ پرائیویٹ سکرٹری اور لفٹنٹ کرنل اونریبل سر ڈبلیو کیرینگٹن کنٹرولر وخزانچی سوار تھے۔ دوسری گاڑی میں لارڈ ونلاک منتظم خوابگاہ ولیعہد

بہادر۔ لارڈ اوف بیڈ چیمبر۔ ارل آرف شیفٹسری چیمبر لین۔ لیڈی لیگن و لیڈی ایواڈ گسٹریل منتظمات خوابگاہ ولیعہد بانو صاحبہ سوار تھیں۔ جن کے بعد تیسری گاڑی میں خود بنفس نفیس شہزادہ ولیعہد بہادر معہ جناب بیگم صاحبہ کے رونق افروز تھے۔ اور پھر ممبران خاندان کی چار گاڑیوں کے بعد آنریری انڈین ایڈیکانگ صاحبان یعنے لفٹنٹ کرنل ہز ہائینس مہاراجہ سر نیپندر نراین بھوپ بہادر جی سی ایس آئی سی بی ایڈیکانگ مہاراجہ کوچ بہار۔ میجر جنرل ہز ہائینس مہاراجہ سر پرتاب سنگھ جی سی۔ ایس آئی کے سی۔ بی۔ ایڈیکانگ ایل ایل ڈی مہاراجہ ایدر۔ اور کرنل ہز ہائینس مہاراج دھیراج مہاراجہ سر مادہو راؤ سندھیا جی۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ ایڈیکانگ مہاراجہ گوالیار بسواری اسپ جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے اور بڑے بڑے فوجی قائمقام حضرات جلوہ فرما تھے۔ جن کے پیچھے تین مشہور اور ممتاز جنگی پہلوان جن کو یورپ اور بالخصوص انگلینڈ کا مایۂ ناز کہنا چاہیئے۔ اپنا علیحدہ گروپ بنائے ہوئے جا رہے تھے۔ ان تینوں تہمتنوں کے نام سر ایڈورڈ سیمور۔ لارڈ کچنر اور میجر جنرل سر الفرڈ گیسلی مشہور معرکہ آرائے چین ہیں۔ یہ تینوں صاحبان بھی بڑے جاہ وجلال کے ساتھ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جن میں سے بالخصوص لارڈ کچنر صاحب فاتح ٹرانسوال کی طرف خاص شوق سے نگاہیں اُٹھ رہی تھیں۔ کیونکہ صاحب موصوف ابھی تازہ تازہ ٹرانسوال کا مشہور و معروف جنگ فتح کرکے ۵۔ اگست ۱۹۰۲ء کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ لندن میں داخل ہوئے تھے۔ لارڈ ممدوح سُرخ رنگ کی وردی پہنے اور پروں والی بلند و بالا ٹوپی اوڑھے اس شان بہادری سے سینہ نکالے جا رہے

سکھے کہ خود بخود اُن کا انداز ہی لوگوں کو انکی صرفی کرا دیتا تھا۔

شاہِ عالم پناہ کی سواری۔ ٹھیک گیارہ بجے دن کے ملک معظم ایڈورڈ ہفتم دام حشمتہم کی شاہی گاڑی محل بکنگہم سے برآمد ہوئی۔ جسمیں بادشاہ سلامت کے ساتھ جناب ملکہ محتشمہ الگزنڈرا صاحبہ پورے شان و اعزاز سے لباس شاہانہ زیب بر کئے ہوئے سوار تھیں۔ اور تمام اعیان و اکابران سلطنت رکاب فیض انتساب میں جا رہے تھے۔ جسوقت آپ کی گاڑی کے گھوڑوں کا پہلا قدم ایوان بکنگہم سے باہر نکلا۔ اسیوقت توپخانہ سے شاہی سلامی سر ہوئی۔ اور تمام منتظرین دیدار نہایت شوق سے آپکے روئے مبارک دیکھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ آپ بھی نہایت خوشی اور تبسم کے ساتھ وفادار رعایا کے سلام لیتے ہوئے آہستہ آہستہ ٹھیک گیارہ بجے پر پچیس منٹ ایبی میں داخل ہوئے۔

ایبی میں داخلہ کی نسبت وہی تناسب ملحوظ رکھنا چاہیئے جو سواریوں کا دکھا دیا گیا ہے۔ یعنے ممبرانِ خاندان شاہی آپسے آدہ گھنٹہ پہلے اور شہزادہ ولیعہد بہادر پندرہ منٹ پہلے پہنچکر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ چنانچہ پرنس اور پرنسس اوف ویلز کے لئے طبقۂ امرا کے سامنے جو نشستیں بنائی گئی تہیں وہ اسپر جلوہ فرما ہو چکے تھے اور ڈیوک اوف کناٹ بہادر تو بسواری موٹر کار پہلے سے علیحدہ ہی تشریف لا چکے تھے۔

ملکہ محتشمہ بادشاہ ذیجاہ سے دو منٹ پہلے رونق افزائے ایبی ہوئی تھیں۔ اور اسدن آپنے وُہ نایاب جوڑا پہنا ہوا تھا جسپر ہندوستان کی موجودہ صنعت گری ختم کی گئی تھی۔ اور اسکی چمک دمک اور پھبن کا اندازہ

وہی آنکھیں کر سکتی ہیں جو اُسوقت اِس نظارے کو دیکھ رہی تھیں مگر مختصر یہ کہ نگاہ کو اسپر ٹکنا محال ہو گیا تھا۔ اسپر مزید براں آپ کے گون کی درازی تو کچھ اور ہی سماں دکھلا رہی تھی۔ جسکو ڈچس اوف بکلیو افسر توشہ خانہ جنسی تھامے ہوئے جا رہی تھیں اور اِن کے بعد چار اور معززین بھی اسی دامن کو اُٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ اور اِن کے پیچھے بارہ خواصیں پر تکلف لباس پہنے ہوئے پوری آن بان کے ساتھ شانِ حسن دکھاتی جا رہی تھیں۔ غرضکہ اِس درازدامنی نے دروازۂ داخلہ سے لیکر قربانگاہ کے قریب تک ایک عجیب جھلملاہٹ کا دریا بہا رکھا تھا۔ جس سے سب کو ملکہ زمان کی تشریف آوری خود بخود معلوم ہو رہی تھی۔ القصہ جب اس انداز شاہانہ سے ملکہ محتشمہ ایبی میں داخل ہوئیں تو ایبی کے سکول کے لڑکوں نے نہایت خوش آہنگی کے ساتھ یہ دعائیہ ترانہ گایا " خدا ملکہ الگزنڈرا کو رکھے تا ابد باقی "

اِن کے بعد خود حضور پُرنور خدیو گیہان ملک معظم کا داخلہ ہوا جو لباس شاہانہ زیب بر کئے اور ایک لمبا مکلف لبادہ شاہی اوڑھے ہوئے تشریف فرما ہوئے جسکو کئی ایک معززین نے اُٹھایا ہوا تھا اور بادشاہ ذی جاہ نہایت متانت مگر ایسی چال سے چل رہے تھے۔ جس سے کسیقدر تکان کی حالت محسوس ہوتی تھی۔ حالانکہ آپ کا چہرہ بالکل تر و تازہ تھا۔ جن کو تمام اعیان و اکابران سلطنت اور عمائدین دینی و دنیوی نے دلی خلوص و تپاک و ادب کے ساتھ لے جا کے ایبی کے اُس چھوٹے سے کمرہ میں آرام کے لیئے اقامت فرمایا۔ جو قربان گاہ کے پاس پچھلی طرف خاص اسی مطلب کے لیئے بنا ہوا تھا۔ آپکے ورود بہجت آمود پر کسیقدر جیرز بیر چہار

طرف سے بلند ہوئے۔ اِن کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ جسکے ساتھ لڑکوں نے بھی بدستور آپکے لئے یہ دعائیہ ترانا گایا۔ کہ

"خدا ایڈورڈ ہفتم کو رکھے زندہ ہمیشہ تک"

تاجپوشی کا نظارہ۔ ناظرین کتاب دربار کی ترتیب نشستوں کی ترکیب اور اندرونی و بیرونی نقشوں کو کسی قدر دیکھ چکے ہیں۔ پس اب کہ ساڑھے گیارہ بجے دن کا وقت ہے۔ تاجپوشی کی طیاریاں ہو رہی ہیں۔ سب اعیان و اکابرین ملک اپنی اپنی نشستوں پر خاموش بیٹھے ہیں۔ البتہ صرف وہ شخص جن کو بادشاہ گر کہنا چاہیئے لمبے لمبے چغے اوڑھے ہوئے ہال میں اِدہر اُدہر گشت لگا رہے ہیں۔ جن کے لبادوں کے دامن بھی حسب قاعدہ ویسے ہی دراز و طویل ہیں۔ جیسے کہ چاہئیں اِن میں سے ایک تو **لارڈ سالسبری صاحب** سالخوردہ وزیر اعظم انگلستان ہیں جنکا دامن انہیں کے خاندان کے ایک خورد سال بچے نے اُٹھا کر ان کے پیچھے چلنے کی عزت حاصل کر رکھی ہے۔ اور دوسرے صاحب **ڈیوک اوف ڈیونشائر** ہیں۔ جن کا دامن بھی انہیں کے ایک خاندانی لڑکے دکیونڈش نے اُٹھایا ہوا ہے۔ جسکے بعد ٹھیک گیارہ بجے پچپن منٹ گذرے رسوم تاجپوشی کی بجاآوری کے لئے بادشاہ سلامت اُس مختصر کمرے سے برآمد ہو کر رونق افزائے ہال ہو گئے۔

تاجپوشی کے مراسم و لوازم و مناظر شمار میں اُنیس ہیں جن کا مختصر بیان ضروری سمجھ کر درج ذیل کیا جاتا ہے۔

پہلے۔ آغاز کارروائی کی طیاری۔ جسمیں ایبی کے مغربی دروازہ پر عمائدین دینی کا آپ کی پیشوائی کے لئے کھڑے ہونا۔ اور آپ کی تشریف آوری۔

دوسرے۔ آپ کے داخلہ کے لیے مغربی دروازہ کا کھلنا اور داخل ہوتے ہی اس مذہبی گیت کا آپ کے خیر مقدم میں گایا جانا۔ جسکا مطلب یہ تھا۔ کہ


"خدا کے گھر میں آنے کا ارادہ کیا ہی اچھا ہے"

تیسرے۔ آرک بشپ اوف کنٹربری (صدر اسقف) کا بادشاہ سلامت کو نظارہ گاہ میں عام و خاص کے روبرو یہ الفاظ پیش کرنا۔ کہ "صاحبان! میں آپکے سامنے شاہِ ایڈورڈ ہفتم کو (جو اس سلطنت کا بے شک و شبہ جائز بادشاہ ہے) پیش کرتا ہوں۔ کیا آپ لوگ جو اس مبارک دن کی تعظیم و تکریم کے لئے یہاں جمع ہیں۔ اسکے (بادشاہ) اظہار اطاعت کو طیار ہیں؟" اسپر چاروں طرف سے نعرہ ہائے مسرت کا گونجنا۔ جو گویا پادری صاحب کے سوال کا اثبات میں جواب تھا۔ اور پھر بادشاہ سلامت کا مع ملکہ کے قربانگاہ کے جنوبی طرف جاکر چوکیٔ امتیاز پر جلوہ گر ہونا۔


یہ سماں ایسا لائق دید تھا کہ جسکو مختصر الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ پبلک کے متعلق یہی ایک ایسی رسم تھی۔ جس سے اُن کے خیالات کا پتہ چل سکتا ہے۔ جہاں آئرلینڈ کے کٹّر دل ممبران اور لبرل صاحبان بتعداد کثیر موجود ہوں۔ وہاں اسقف اعظم کے سوال کا اثباتی جواب جیسا کچھ قابل قدر ہو سکتا ہے خود بخود ظاہر ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ جس مسرت اور خلوص کے ساتھ یمین و یسار اور تحت و فوق کے حاضرین میں سے ہر شخص کے مُنہ سے کہ

"خدا اس بادشاہ کو ہمیشہ رکھیو تا ابد قائم"

کے الفاظ نکلے وہ مالک معظم کی سچی ہر دلعزیزی کا ایسا قیمتی ثبوت تھا کہ جسکی ہر بادشاہ توقع نہیں کر سکتا۔



نشانات شاہی
کرۂ ارض عصا وغیرہ


تیل رکھنے کا برتن
چمچ
شمشیر عدل
تلوار رحم
عصائے شاہی
انگشتری
کرۂ ارض صلیب

چوتھے۔ تمام امرا و اعیان سلطنت کا جو نشان نے کے حاضر تھے تمام نشانات کا (ماسوائے تلواروں کے) قربان گاہ پر رکھ دینا۔ اور نماز لطانیہ کی ادائگی کے لئے بادشاہ سلامت اور بادشاہ بیگم کا کرسی ہائے لطانیہ پر نشست فرما ہونا۔

پانچویں۔ نماز عشائے ربانی کے ابتدائی حصہ کا مع مختصر دعاؤں کے ادا ہونا۔ جن میں حسب قرارداد سابق بہت کچھ تخفیف ملحوظ رکھی گئی تھی تاکہ آپ کو کسل و تکلیف نہ ہو۔

چھٹے۔ بادشاہ سلامت کا ارغوانی ٹوپی اوڑھنا اور باجہ نوازوں کا نماز لطانیہ کی دعاؤں کا گانا۔ جن میں آپ کو عند الضرورت گھٹنے بھی ٹیکنے پڑتے تھے اسوقت بشپ اوف ڈرہم آپکے دائیں طرف اور بشپ آف باتھ اور لارڈ گریٹ چیمبرلین بائیں طرف کھڑے ہوئے تھے۔

ساتویں۔ قربانگاہ پر بادشاہ سلامت کا اس استقلال کے ساتھ حلف اُٹھانا کہ میں سچے دل سے وعدہ کرکے حلف اُٹھاتا ہوں۔ کہ میں دعایا پر پارلیمنٹ کے منظور شدہ قوانین اور اسکے دیگر آئین و دستورات کے مطابق حکمرانی کروں گا۔ اور میں خدا کے شرائع یعنے انجیل کی تلقین اور پروٹسٹنٹ (اصلاح یافتہ) مذہب کو جو قانوناً قائم ہو چکا ہے بحال رکھوں گا۔

آٹھویں۔ بادشاہ سلامت کا ایڈورڈ کنفیسر کی کرسئی تاجپوشی پر متمکن ہو کر ممسوح ہونا۔ اسوقت چار اشخاص یعنے لارڈ ڈربی۔ لارڈ کیڈوگن اور لارڈ روزبری و لارڈ سپنسر صاحبان نایٹ اوف دی گارٹر ایک زری دوز ریشمی شامیانہ آپکے سر پر لگائے ہوئے تھے۔ یہیں وہ مقدس تیل

آپکے سر وغیرہ پر لگایا گیا۔ جو اس رسم کا اصلی اور قدیمی اصول تھا یہ تیل اکتیس مرکبات سے بنایا گیا تھا۔ اور ایک نوانچ طویل عقابی صورت کے زرین برتن میں (جسمیں ۶ اونس تیل کی گنجائش تھی) قربان گاہ پر رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ قربانگاہ سے یہ عقابی صورت کا ظرف ڈین اوف ولیسٹ منسٹر نے اٹھاکر اور چمچ میں چمچ کیطرف سے تیل اونڈیل کر جب بشپ اوف کنٹربری کو دیا تو انہوں سنے بادشاہ سلامت کے سر۔ چھاتی اور ہتھیلیوں پر صلیبی شکل میں ڈالتے ہوئے مندرجہ ذیل فقرات کہے۔

اس مقدس تیل سے تیرا سر بادشاہوں۔ راہبوں۔ اور کاہنوں کی طرح جیسے سلیمان کو صدوق کاہن اور ناتن نبی نے ممسوح کیا تھا۔ ممسوح ہو اور ویسا ہی تو ان لوگوں پر مسوح و مبارک ہوکر مقدس حکمران رہے۔ جنہیں خداوند نے تیری حکومت و اختیار میں سونپا ہے۔ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔

اسکے بعد آپ کو ایک باریک فلیلن کا خفتان پہنایا گیا (جو بے آستینوں کے تھا) اور پھر ایک زرین چوغہ جسمیں ارغوانی رنگ کی دھاریاں عجیب بہار دکھا رہی تھیں اڑھایا گیا۔

نویں۔ تلواروں اور عصاؤں کا بادشاہ سلامت کو سونپنا جسمیں لارڈ گریٹ چیمبرلین نے قربانگاہ پر سے لاکر عصاوں کو آپ کی ایڑیوں سے چھوانے کے بعد تیس انچ طویل اور دو انچ عریض تلوار سلطنت (جو قرمزی رنگ کے مخملی میان میں کی ہوئی تھی) آپ کی کمر سے بندھوائی گئی

ءٔ چھاتی پر ڈالتے ہوئے چھاتی اور ہتھیلیوں پر ڈالتے ہوئے ہتھیلیاں کہدی جاتی تھیں!

اور آرچ بشپ اوف کنٹربری نے کہا "آپ تلوار سے عدل و انصاف کو ترقی دے اور شرارتوں کو قطع فرما۔ خدا کے کلیسا کی حفاظت کر بیواؤں اور یتیموں کی امداد کر کے برباد شدوں کو آباد کر۔ خرابیوں کی اصلاح فرما۔ تاکہ اِن نیکیوں کے باعث تو بزرگی و مبارکی پا کے مسیح کے ساتھ ابدی سلطنت میں ہم جلیس ہو" مگر اس تقریر کے وقت آرک بشپ کی آواز ایسی بھرا گئی تھی۔ کہ آپ نے یتیموں رانڈوں کی جگہ رنڈدں کا لفظ کہہ دیا۔ جسپر بڑا مذاق ہوا۔

دسویں۔ عبائے شاہی اور پٹلا پہنایا جاکر کرۂ ارض کا دیا جانا جسکی تفصیل یہ ہے۔ کہ آپ کو ایک طلئی عبائے بادشاہی پہنائی جاکر سوا گز لمبا اور تین انچ چوڑا پٹلا کسوایا گیا۔ جسکے بو تام تبرکاً لارڈ گریٹ چیمبرلین نے ملائے اور اسکے بعد آرچ بشپ نے آپکے ہاتھ کرۂ ارض دیکر (جسکے اوپر صلیب کی صورت بنی ہوئی تھی) مندرجہ ذیل فقرات کہے۔

"خدا تجھے راستی کی پوشاک اور نجات کے جُبّے سے ملبوس کرے۔ یہہ کرۂ ارض جسپر صلیب نصب ہے۔ اپنا نصب العین بنا کے بخوبی خیال کر کہ تمام دنیا مسیح اور ہمارے شفیع کی ہی بادشاہت کے زیر اثر ہے"

گیارہویں۔ انگشتری حمایت اور عصائے سلطنت اور فاختہ والی عصا کا ملک معظم کو دیا جانا۔ یہ انگوٹھی بطور نشان امین الملت ہونے کے مذہب کیتھولک کی حمایت کے لئے پہنائی جاتی ہے۔ چنانچہ اسکے پہنائے جانے کے بعد سُنہری عصائے سلطنت (جو دو فٹ نو انچ طویل ہے) بطور بادشاہی طاقت و عدل کے نشان کے آپ کو دیا گیا۔ اور پھر لارڈ اوف دی میر اوف وارکسوپ نے آپ کو دستانے پہنائے اور

پھر تین فٹ لمبا عصاء جسپر فاختہ کی شکل بنی ہوئی ہے، بطور نشان رحم اور قیام مساوات کے آپکے زیب دست کیا گیا۔

بارہویں۔ تاج شاہی کا پہنایا جانا۔ جو آرچ بشپ اوف کنٹربری نے ٹھیک بارہ بجے پر چالیس منٹ آپکے زیب سر کیا۔ مگر جلدی میں آرچ بشپ کے ضعف پیری کے باعث سر پر ٹھیک نہ جم سکا اسلئے بشپ ممدوح نے لمحہ بھر میں اٹھا کر دوسری بار درستی سے بٹھا دیا۔ جس کے ساتھ ہی تمام امراء اور اُنکی خاتونوں نے بھی اپنے اپنے تاج سروں پر رکھ لیئے (جو قبل ازیں سروں سے اوتار کر اُنہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے) اسوقت برقی روشنی نے دفعتاً اپنا چہرہ دکھلانے سے ایسی کو روز روشن سے بھی زیادہ مجلے کر دکھایا ٗ تمرتیاں چھکنے اور گھنٹیاں بجنے لگیں۔ توپوں نے شاہی سلامی سر کرنی شروع کردی۔ اور سکول کے لڑکوں اور تمام حاضرین نے ان دعائیہ نعروں سے آسمان سر پر اُٹھالیا ع

"خدا ایڈورڈ ہفتم کو رکھے مدّت تلک قائم"

تیرہویں۔ بادشاہ سلامت کو بائبل کا دیا جانا جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کیطرف سے بادشاہ کے لئے ہدیہ مذہبی تھا۔ چنانچہ اس کا نسخہ بھی مثل دیگر نشانوں کے قربان گاہ پر رکھا ہوا تھا۔ جہاں سے اُٹھا کر آرچ بشپ اوف کنٹربری نے مندرجہ ذیل الفاظ سے آپ کی نذر کیا۔

"اے ہمارے مہربان بادشاہ! ہم تجھے یہ کتاب نذر میں دیتے ہیں۔ جو سب دنیا بھر کی اشیاء سے قیمتی ہے۔ کیونکہ اس میں خدا کے زندہ اقوال ہیں اور یہی شاہی شرع ہے۔"

چودھویں - بادشاہ سلامت کے حق میں دعائے خیر و برکت کا ہونا جسکو صدر اسقف نے مندرجہ ذیل فقرات میں ادا کیا تھا۔

" خدا تجھے سرسبز ملک۔ خوش آیند ماہ و سال۔ تندرست زندگی اور خوشگوار موسم نصیب کرے فتحمند فوجیں اور بیڑے۔ پُرامن سلطنت اور متدین وضاع رعایا عطا فرمائے "

پندرہویں - تخت شاہی پر جلوہ گری۔ جبکہ آپ کو تمام بڑے بڑے بشپوں اور عمائدین دین نے متمکن کرایا۔

سولہویں - مراسم اظہار اطاعت کی بجا آوری۔ جسمیں سب سے پہلے آرچ بشپ اوف کنٹربری نے بادشاہ سلامت کے روبرو گھٹنے ٹیک کر یہ الفاظ کہے۔ کہ

" میں ڈاکٹر ٹمپل آرچ بشپ اوف کنٹربری معہ اپنے ہم پیشہ بشپوں کے ہمیشہ تجھ سے جو ہمارا بادشاہ اور خداوند ہے اور تیرے وارثوں سے جو سلطنت متحدہ برطانیہ کلاں و آئرلینڈ وغیرہ کے بادشاہ ہونگے پوری وفاداری اور صدق رکھوں گا - جو اراضیات و حقوق کلیسا کے متعلق میرے یا میرے ہم جماعتوں کے قبضہ و اختیار میں ہیں میں انکی خدمات کی بجا آوری کو تسلیم کرتا ہوں اور بجا لاتا رہوں گا۔ اسمیں خدا میرا مددگار ہے "

اسکے بعد انہوں نے بادشاہ سلامت کے بائیں رخسار پر بوسہ دیا صدر اسقف صاحب اکاسی سال کے عمر خوردہ شخص ہیں - اس تمام کارروائی میں چونکہ انہیں کا حصہ زیادہ تھا - اسلئے وہ اسقدر تھک گئے تھے کہ گھٹنے ٹیکنے کے بعد اُٹھنا اُن کو مشکل ہو گیا تھا - چنانچہ ملک معظم نے ہاتھ بڑھا کر انکو اُٹھنے میں سہارا دیا - ان کے بعد دوسرے جلیل القدر

بشپوں اور خادمانِ دین نے گھٹنے ٹیک کر یہی الفاظ کہے۔ اور پھر ممبرانِ خاندان کی باری آئی۔ جن میں سب سے پہلے پرنس اوف ویلز (شہزادہ ولیعہد) بہادر تشریف لائے۔ اور اپنا تاج اوتار کر پورے ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیکنے کے بعد ایک لکھے ہوئے کاغذ پر سے حلفی الفاظ ادا کر کے پھر کھڑے ہو کر حسب قاعدہ بادشاہ کے بائیں رخسار پر بوسہ دیا۔ یہ نظارہ ایسا دلکش تھا کہ دیکھنے والوں پر اسکا بڑا ہی اثر ہوا۔ اور خود ملک معظم پر بھی اسقدر اثر ہوا۔ کہ جب پرنس موصوف اوائے رسم کے بعد چلنے لگے تو آپ نے خود ہاتھ بڑھا کر اِن کو اپنی طرف کھینچا اور خود بھی ان کے رخسار پر بوسہ دیدیا۔ اسکے بعد ڈیوک اوف کیناٹ بہادر برادرِ نامدارِ شاہِ ذی وقار نے مقررہ طریق پر رسم ادا کی۔ اور پھر تمام اہالیانِ خاندان اس کا اعادہ کرتے گئے۔ جن کے پیچھے امراء و اعیانِ سلطنت کی باری تھی جن میں سے ہر ایک جماعت کے ایک ایک قائمقام نے اس رسم کو ادا کیا۔ چنانچہ ڈیوکوں کی طرف سے ڈیوک اوف نارفوک۔ مارکوئیسوں کی طرف سے مارکوئیس اوف ونچسٹر۔ ارلوں کی طرف سے آرل آف شریوزبری۔ وسکونٹوں کی طرف سے وسکونٹ فیک لینڈ اور لارڈوں کی طرف سے لارڈ ڈیروز نے مندرجہ ذیل مضمون سے اس رسم کو پورا کیا۔

"میں (فلاں ڈیوک یا مارکوئیس یا ارل وغیرہ) جو فلاں جاگیر کا قابض اور سردار ہوں۔ ہمہ تن دل و جان سے آپ کی متابعت اور فرمانبردار غلامی کا اقرار کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ کامل صداقت و وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو آپ کی رضا جوئی میں اور اپنی نفرت کو آپ کے مقابل ہر قسم

کے لوگوں کی مدافعت میں صرف کروں گا۔ اس میں خدا میری مدد کرے"

سترہویں۔ ملکہ معظمہ الگزینڈرا کی تاجپوشی جو آرچ بشپ اوف یارک کے ہاتھ سے چند منٹوں میں بادشاہ سلامت کی طرح ہو گئی تھی۔ جس طرح بادشاہ سلامت کے سر پر چار گارڈوں نے شامیانہ لگایا تھا ویسے ہی ممسوح کرتے وقت ملکہ کے سر پر بھی چار عالیقدر بیگمات نے زردوزی شامیانہ تان رکھا تھا۔ جن کے نام یہ ہیں۔ ڈچس اوف مالبرو۔ ڈچس اوف پورٹ لینڈ۔ ڈچس اوف سدرلینڈ۔ اور ڈچس اوف مونٹ روز۔ رسومات مذہبی بھی قریباً وہی تھیں جو شاہ معظم کی تاجپوشی کے وقت عمل میں آئی تھیں۔ فرق یہ تھا کہ بادشاہ سلامت کو دو عصائے شاہی دیئے گئے تھے۔ اور ملکہ کو ایک عصاء اور ایک ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چھڑی دی گئی تھی۔ جسکے اوپر فاختہ کی صورت بنی ہوئی تھی۔ بہرحال اس سے فراغت پا کے ملکہ معظمہ بادشاہ سلامت کے روبرو اظہار اطاعت کے لئے جھکنے کے بعد اُس تخت پر بیٹھ گئیں جو انکی نشست کے لئے تخت شاہی کے پہلو میں بچھا ہوا تھا۔

اٹھارہویں۔ رسم عشائے ربانی کی ادائگی۔ جو ایک دلچسپ مذہبی نظارہ تھا۔ اور جبمیں بادشاہ اور ملکہ قربانگاہ کے قریب دوزانو ہو کے مصروف دعا ہو گئے تھے۔ باجا بھی خوب رنگ دکھا رہا تھا۔ کہ آرچ بشپ اوف کنٹربری نے اپنے تھرتھراتے ہوئے ہاتھوں سے روٹی کا ٹکڑا اور ڈین اوف ویسٹ منیسٹر نے پیالہ دونوں کے روبرو پیش کیا +

اُنیسویں۔ خاتمہ جلسہ۔ جسمیں ملک معظّم اور ملکہ محتشمہ ویسٹ منسٹر ایبی سے سینٹ ایڈورڈ چیپل (شاہی گرجا) میں تشریف لے گئے۔ اسوقت آپ کے آگے آگے چار تلواریں تھیں جن میں سے ایک سے مراد شمشیر سلطنت دوسری سے (جو کُند ہوتی ہے) شمشیر رحم۔ تیسری سے تلوار انصاف روحانی اور چوتھی سے تلوار انصاف دنیوی لی جاتی ہے۔

ایڈورڈ چیپل میں بادشاہ سلامت نے جنوبی دروازہ سے اور ملکہ نے شمالی دروازہ سے داخل ہوکر سوائے عصاؤں کے باقی تمام سامان قربانگاہ پر رکھدیا۔ اور بعد میں وہ بھی آرچ بشپ کے حوالے کئے گئے۔ جنہوں نے ان کو باادب تمام قربان گاہ پر رکھا۔ اور بادشاہ سلامت نے پہلا لبادہ شاہی اوتار کے ایک مخمل کی ارغوانی پوشاک شاہانہ زیب تن فرمائی۔ اور اپنا تاج شاہی پہنے ہوئے آرچ بشپ کے ہاتھ سے دونوں عصا لے کر مغربی دروازہ سے برآمد ہوکر پھر رونق افروز ایبی ہوئے۔ اور جب تخت پر جلوہ فرما ہوئے۔ تو آرچ بشپ نے مذہبی طور پر مبارک باد عرض کی کہ "مستحکم اور مستقل ہوکر پورے استقلال و استحکام سے اس جلالتماٰب گدی پر مدتوں تک جلوہ گر رہ" جس پر ہر طرف سے نعرہ ہائے مسرت بلند ہوئے اور شاہ ذی جاہ مع ملکہ انگلستان کے بسواری گردونِ شاہی پورے جاہ وحشم اور تزک واحتشام کیساتھ روانہ محل ہوئے۔

رستہ میں مخلوق کا جو ہجوم تھا۔ اور جسقدر دعائیہ کلمات بے ساختہ اور بلاتصنع ہر شخص کی زبان سے نکل رہے تھے۔ اور جس تعداد میں مصنوعی دروازے اور مختلف نشانات آرایش موجود تھے۔ اُن کا

شمار و بیان طوالت طلب ہے۔ مختصر طور پر سمجھہ لینا چاہیئے کہ جو لوگ بارہ بارہ گھنٹے سے اسی موقع کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور محل شاہی سے روانہ ہونے۔ تاج شاہی سر پر رکھنے اور پھر فراغت کے بعد سوار ہونے پر توپوں کی سلامی اُن کو پہلے سے شاہی خیر مقدم کے لئے خبردار کر رہی تہی۔ اُنہوں نے اس جلوس میمنت مانوس کو کس شوق اور چاؤ سے ریسیو کیا ہوگا۔ مختصر یہ کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی دونوں طرف سے ہر در و دیوار اور ہجوم بے شمار شوق سے گوہر دعا نثار کر رہا تھا اور اس تقریب مسرت کی ایک عام خوشی کا سمندر تھا۔ جو ہر طرف سے بڑے زور و شور سے موجیں مارتا دکھائی دے رہا تھا۔ بادشاہِ جہان اور ملکۂ دوران بھی اس سماں کو دیکھہ کر کمال مسرور ہو رہے تھے اور سلامیوں کو نہایت اخلاق و محبت کے ساتھ سر جھکا جھکا کر جواب دینے سے شاد کام کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ اسی ٹھاٹھہ سے آپ کا جلوس مع الخیر ایوان بکنگھم میں داخل ہوا۔ اور جلوسی ہمراہیان اپنے اپنے ٹھکانوں کو واپس ہو گئے۔ شاہی سواری گذرنے کے بعد لاتعداد تماشائیوں کا ہجوم اس طرح بیدھڑک ہل کھڑا ہوا۔ کہ ڈنڈیوں اور دوسرے آیندو روند کی گاڑیوں کو ان بازاروں میں گذرنے کو جگہ نہ ملتی تہی جسکے انتظام سے پولیس بھی معذور تھی۔ آخر کار لمبے انتظار کے بعد ایسی گاڑیوں کو رستہ ملا۔ جو ہجوم کے باعث رکی پڑی تھیں۔ اسکے بعد ہجوم خلائق کا اژدحام بازاروں سے منتشر ہوکے محل شاہی پہ ہو گیا تھا۔ جن کی خوشی خاطر کے لئے پانچ بجے شام کے بادشاہ سلامت اور ملکہ محتشمہ نے پھر صحن میں جلوہ فرما ہوکر سب کا مؤدبانہ سلام لیا۔ اور سب کو اپنے جمالِ جہاں آرا سے مسرور و شاد کام فرمایا

اس تمام کارروائی میں آپ کی صحت نہایت اچھی حالت میں پائی گئی۔ اور کسی جگہ کسل و تکلیف کا مذکور آپ نے نہیں فرمایا۔ بلکہ بعض دوسرے آدمیوں کو آپ اُٹھانے بٹھانے میں سہارا بھی دیتے رہے جس سے تمام شبہات جو آپ کی صحت کی نسبت تھے مبدّل بہ خوشی ہوگئے

اُسی دن مہاراج کمار ٹیگور بنگال کے قایمقام نے ہندی مہمانانِ تاجپوشی کی طرف سے ایک ایڈریس نواب وزیر ہند کی وساطت سے ملک معظم کی تاجپوشی کی مبارکباد اور اپنی عزت افزائی کے شکریہ میں پیش فرمایا۔

ہندوستان میں بھی اُسدن قریباً ہر ضلع اور ہر ریاست میں خوشی کے جلسے بڑے کرّوفر سے ہوئے۔ علاوہ متعدد ایڈریسوں کے معزز میونسپل کمیٹیوں اور مستند جماعتوں اور مشہور رئیسوں کی طرف سے شہنشاہ معظم کی خدمت میں تہنیت نامے بھیجے گئے تھے تحائف بھی بےشمار جاتے مگر چونکہ وائسرائے ہند نے اپنے ایک اعلان کے ذریعہ ابتدائے جنوری سنہ ۱۹۰۲ء میں ہی مشتہر کردیا تھا کہ کوئی شخص تاجپوشی لنڈن کی تقریب پر کوئی تحفہ یا ایڈریس سوائے لوکل گورنمنٹ کی سفارش اور گورنمنٹ ہند کی منظوری کے ولایت نہ بھیجے۔ اور ایسا ہی اظہارِ مسرت کے لئے بھی حکم تھا۔ کہ وہ یکم جنوری سنہ ۱۹۰۳ء کو ہی کی جائے۔ مگر پھر بھی لوگوں کا شوق غالب رہا۔ اور قریباً ہر صدر مقام پر جلسہ ہائے تہنیت اور چراغان بڑے اہتمام سے منعقد ہوئے۔ اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور تقسیم پارچات میں بھی اکثر دریادل حضرات نے دادِ فیاضی دی۔ ایڈرسوں میں بالخصوص نواب بیگم صاحبہ مرشدآباد کا ایڈریس خاص قابلِ ذکر ہے۔ جو خاتونانِ ہندوستان کی طرف سے بھیجا گیا تھا

اور جو غالباً پہلی مثال عورتوں کی طرف سے اظہار وفاداری برطانیہ کی سمجھنی چاہیے۔

شاہی چہرے کے ٹکٹوں اور سکّوں کا اجرا بھی اسی دن سے شروع ہوگیا۔ اور اگرچہ یہ ٹکٹ عام طور پر ہمیشہ کار آمد ہونے والے تھے مگر اُس دن اس کثرت سے ان کی خریداری ہوئی کہ ڈاکخانوں میں وار نہ آتا تھا۔

روشنی کی بہار۔ اسی دن رات کو تمام لنڈن میں اس کثرت سے روشنی ہوئی کہ اُس سے پہلے کسی تقریب پر اسقدر نہ ہوئی ہوگی۔ تمام لنڈن ایک بقعۂ نور بنا ہوا تھا۔ سرکاری محلات و مکانات پر تو سرکاری اخراجات سے روشنی ہوئی تھی۔ مگر عام سوداگروں اور دوکانداروں نے خود بڑے بڑے اہتمام کئے تھے۔ روشنی تمام بجلی کی تھی جسکی چکاچوند نے ایک عجیب سماں باندھ دیا تھا۔ موسم بھی معتدل اور خوشگوار ہوگیا تھا۔ جس نے اور بھی لُطف پیدا کر رکھا تھا۔ شوقینوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ بازاروں میں اس عجیب غریب اور نایاب روشنی کی بہاریں دیکھتے پھرتے تھے۔ اور بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ کم سے کم آدھی مخلوق نے اس شب تمام رات روشنی کی سیر دیکھنے میں ہی گذاری ہوگی۔ ہندی مہمانوں نے بھی اس سیر کا بخوبی لُطف اُٹھایا۔ اور ہندی اور نو آبادیوں کی افواج نے بھی خوب دل کھول کر بہاریں لوٹیں۔ غرضکہ جسقدر ۲۰ جون کو لوگوں کو مایوسی ہوئی تھی۔ اس موقع پر اُس سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہوگئی مگر لُطف یہ تھا کہ باوصف کثرت ناظرین کے غل غپاڑا کوئی نہ تھا۔

پیام شاہی - اسیدن ملک معظم کیطرف سے ایک پیام اپنی رعایا کے نام اس مضمون کا جاری ہوا - کہ

"تاجپوشی کی تقریب سعید کے متعلق جو ہماری زندگی کا ایک اہم اور سنجیدہ واقعہ ہوا ہے - ہماری خواہش ہے - کہ اپنی تمام رعایا کی نسبت جو خاص ہمارے وطن اور نوآبادیوں اور ہندوستان میں آباد ہے اور جس نے اپنی عمیق ہمدردی مابدولت کی خطرناک بیماری کے ایام میں ظاہر کی ہے اپنا دلی شکریہ ظاہر کریں کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے ایام بیماری میں جو ناگہانی طور پر ظاہر ہوگئی تھی - اُن سب کو سخت تکلیف اور رنج کا مقابلہ کرنا پڑا ہے کیونکہ کہ وہ اس تقریب کو مقررہ تاریخ پر نہایت فرحت و شادمانی سے منانا چاہتے تھے - اور پھر اسکے ناگزیر طور پر ٹل جانے سے اُنہوں نے قابلِ تعریف صبر اور اعتدال کا لحاظ رکھ کر دلی خلوص سے ہماری صحت و سلامتی کی دعاؤں میں مصروفیت دکھائی - پس اب اُن سب کو خوشی ہوگی - کہ خداوند تعالے نے انکی دعائیں قبول فرماکر ہماری زندگی کو تمام خطرات سے بچایا اور ہم کو صحت و طاقت عطا فرمائی - جس کا سچا شکریہ یہ ہے کہ ہم اُن فرائض کو بوجہ احسن انجام دیں جو بلحاظ ایسی وسیع سلطنت کی فرمانروائی کے ہم پر عاید ہوتے ہیں"

بوئر جنرلوں کو اعزاز نیاز - ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء کو اتوار کا دن تمام گرجاؤں میں شکرانہ کی نمازوں اور دعاؤں کے دلچسپ اور مؤثر نظارے میں گذرا - اور پھر اسی دن تیسرے پہر بادشاہ سلامت نے بوئر جنرلوں کو اعزاز نیاز عطا فرمایا -

قصر آسبورن کا قوم کو عطا ہونا - ۱۱-اگست ۱۹۰۲ء کو دو شنبہ کے دن بادشاہ سلامت کا اعلان بدیں مضمون صادر ہوا۔ کہ

"محل آسبورن جو ملکہ وکٹوریا متوفیہ کی ایک عزیز یادگار ہے۔ ملک معظم اسکو انہیں کے پیارے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لئے قوم کی نذر کرتے اور حکم دیتے ہیں کہ سوائے ان کمروں کے جن میں ملکہ متوفیہ بذات خاص رہایش رکھا کرتی تھیں - باقی تمام وسیع عمارات اور اسکے متعلقات قومی مطالب کے لئے وقف کئے جائیں - اور وہ بحری و بری فوجی افسر جنہوں نے ملکی خدمات میں اپنی عزیز صحتیں کھوئی ہیں - اس میں رہنے سے اپنی گم شدہ صحتوں کو واپس منگا کر فائدہ اٹھائیں"

اسی شب لنڈن میں پھر روشنی کی گئی - جو نوراً علےٰ نور تھی۔

سترہ لاکھ کا تحفہ - ۱۲-اگست ۱۹۰۲ء کو لارڈ میر لنڈن نے شاہ جمجاہ کے حضور میں حاضر ہو کر سترہ لاکھ روپے (ایک لاکھ ساٹھ ہزار پونڈ) کا ایک چک قوم کی طرف سے ان کے غسل صحت کرنے اور تاج پوش ہونے کی خوشی میں بطور نذر پیش کیا - جسکو آپ نے بخوشی منظور فرما کر ارشاد فرمایا کہ - اس روپیہ سے شفا خانوں کا قرضہ اتارا جائے گا - جس میں ما بدولت خود بھی امداد فرمائینگے - اور ہماری خواہش ہے - کہ اپنے وطن کے ہسپتالوں کو اعلےٰ پیمانہ پر پہنچانے میں ہر طرح کی کوشش کیجائے" اس ارادہ سے آپ کی فیاضی اور نیک دلی جسقدر عیاں ہے - اس کے بیان کی ضرورت نہیں - حقیقت یہ ہے کہ متعدد بار آپ کو اور آپکے خاندان کو چونکہ صعب و سخت امراض سے سابقہ پڑتا رہا ہے - اس لئے

آپ طبابت کے بہت بڑے قدردان ہوگئے ہیں۔ جسکو اُمید ہے کہ اپنے وقت میں معراج کمال پر پہنچا دینگے۔ غیر اسکے بعد ہندی والیان ریاست کو بھی اعزاز ملاقات بخشا گیا۔ اور ان کی دلی خوشی اور وفاداری کے اظہار پر اپنا اطمینان اور شکریہ ظاہر فرمایا۔

نئی وزارت کا تقرر۔ اسی دن بادشاہ سلامت نے مسٹر بالفور کو وزارت عُظمےٰ کی خدمت سپرد فرماکر نئی مجلس وزراء مقرر فرمائی۔ چنانچہ مندرجہ ذیل صاحبان اسمامیں نامزد ہوئے۔

مسٹر بالفور۔ فسٹ لارڈ اوف ٹریژری و پریوی سیل
لارڈ ہالسبری۔ چانسلر خزانہ
ڈیوک اوف ڈیون شائر۔ پریزیڈنٹ کونسل
رائٹ آنریبل رآکرس ڈگلس۔ وزیر صیغہ داخلیہ
لارڈ لینسڈون۔ وزیر صیغہ خارجیہ
مسٹر چیمبرلین۔ وزیر نوآبادی ہا
مسٹر براڈرک۔ وزیر صیغہ جنگ
لارڈ جارج ہملٹن۔ وزیر ہند
لارڈ سلبورن۔ فسٹ لارڈ ایڈمیرلیٹی (امیرالبحر)
مسٹر ریچی۔ چانسلر اوف اکسچکر
لارڈ آسبرن۔ لارڈ کونسلر اوف آئرلینڈ
مسٹر وندہیم۔ سکرٹری آئرلینڈ
مسٹر جوالڈ بالفور۔ وزیر سکاٹ لینڈ
لارڈ بالفور اوف برلے۔ پریزیڈنٹ صیغہ تجارت

مسٹر ڈبلیو ایچ لانگ ۔	پریزیڈنٹ لوکل گورنمنٹ بورڈ
مسٹر ڈبلیو ایچ ہنری ۔	پریزیڈنٹ صیغہ زراعت
لارڈ لنڈن ڈیری ۔	وزیر صیغہ تعلیم
مسٹر آسٹن چیمبرلین ۔	پوسٹماسٹر جنرل

ہندی فوج کا سلام شاہی - ۱۳ - اگست ۱۹۰۲ء کو قصر بکنگھم میں ہندی فوج کو ملاحظہ فرماکر سر بلند فرمایا گیا اس موقع پر بھی ہندی والیانِ ریاست اور مہمانانِ تاجپوشی بھی موجود تھے اور ممبران خاندان شاہی بھی جلوہ گر ہو رہے تھے ۔ قریب عصر بادشاہ والاجاہ نے محل سے باغ میں برآمد ہو کر معزز مہمانوں سے بجوشی مصافحہ فرمایا ۔ اور اسکے بعد فوج کے چیدہ افسروں کو بدست خاص تاجپوشی کا تمغہ مرحمت فرمایا ۔ جس کے بعد مابقے فوج کو پرنس اوف ویلز بہادر نے تمغہ جات ایک ایک کرکے عطا کئے ۔ تمغہ دلانے کے وقت لارڈ رابرٹس صاحب بہادر ہر ایک سپاہی اور افسر کا نام و نسب باواز بلند بیان فرماتے جاتے تھے ۔ اور فوجی قائمقام تمغہ حاصل کرکے باآئین شایستہ ملک معظم اور ملکہ محتشمہ کو سلام کرتے جاتے تھے ۔ فوجی سپاہیوں کو اس اعزاز سے جسقدر مسرت ہوئی ۔ اسکا بیان نہیں ہو سکتا ۔ کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بصد آرزو ملک معظم کی آستانہ بوسی اور ان کے تندرست دیدار فیض آثار کی سب سے پہلے نہایت شدومد سے درخواست کی تھی تقسیم تمغہ جات کے بعد بادشاہ ذیجاہ نے مختصر الفاظ میں ہندی فوج کے طریق عمل اور لنڈن کی نسبت اظہار خوشنودی فرماکر ارشاد کیا کہ اُمید ہے کہ اب آپ لوگ بخوشی تمام اپنے اوطان کو واپس ہو نگے ۔

انہیں ایام میں لنڈن ٹائمس میں ایک چٹھی شایع ہوئی جو ہندی قایمقاموں نے لارڈ میئر کے نام بھیجی تھی۔ اور جسمیں اس جشن کی شرکت کے اہم نتایج پر غور کرکے خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ کہ آیندہ بھی ایسی تقریبات پر ہندی مہمانوں کو طلب کرکے اُس اتحاد و محبت کو روز افزوں ترقی دی جائیگی جو رعایا کو اپنے تاجدار کے ساتھ ہے چنانچہ اس کے جواب میں لارڈ میئر نے بھی اُس خلوص و اطاعت کا اعتراف کرکے جو مہمانانِ ہند کیطرف سے ظاہر ہوتی رہی تھی۔ اُنکے قیام ولایت کو نہایت مبارک فال تصور کیا۔ اور امید ظاہر کی۔ کہ اسیطرح آیندہ بھی ازدیاد تعلقات کی کوشش مرعی رہے گی۔

ملکہ متوفیہ کی یادگاریں ۱۵۔ اگست ۱۹۰۲ء کو بادشاہ ذیجاہ بنفس نفیس بندرگاہ سوتھمپٹن میں تشریف لیجاکر البرٹ نامی جہاز پر ایک برنجی تختی بدست خاص نصب فرمائی۔ جس کا کتبہ یہ تھا۔ کہ

"یکم و دوم فروری ۱۹۰۱ء کو اس جہاز پر ملکہ وکٹوریا کی لاش رکھی گئی تھی"۔ اور بجواب ایڈریس کے ارشاد فرمایا۔ کہ

"جو ورثہ ہمیں ملا ہے۔ اسکے بحال رکھنے اور ترقی دینے میں بدولت ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ اور اُس محبت و خلوص کے اثر کو جو ہماری رعایا نے ہماری ذات کی نسبت ظاہر کرنے سے ہمارے دلپر قایم کیا ہے ہمیشہ انکی بہی خواہی اور رفاہ جوئی سے ظاہر کرتے رہیں گے"۔


بحری ریویو۔ ۱۶۔ اگست ۱۹۰۲ء کو نہایت عظمت و شان اور خوبصورتی سے عمل میں آیا۔ جسمیں ایک سو آٹھ جہازات برٹش طاقت کا زبان حال سے اعلان کررہے تھے اور جھنڈیوں نشانوں کی سجاوٹ

سے ایک عجیب جوبن ان پر آگیا تھا۔ یہ تمام جہازات معہ اپنے سپاہیوں کے پوری مستعدی سے دو طرفہ کھڑے تھے۔ کہ شاہی جہاز معہ امیر البحروں کے بارہ بجے دن کے ان بیڑہ جہازات میں سے گذرا جسکے گذرتے ہی ہر طرف سے بے تعداد چیرز بلند ہوئے اور ہر ایک جہاز سے شاہی سلامی سر ہوتی رہی۔ ہندوستانی سپاہ اپنے جہاز ہارڈوینج نامی میں بیٹھکر اس کیفیت کو دیکھ رہی تھی۔ اور مہمانانِ سرکاری کے لئے بھی ایسا ہی انتظام ہو چکا تھا۔ کنارۂ دریا پر لاتعداد مخلوق اس شاندار ریویو کے دیکھنے کو جمع تھی۔ ادہر جہازات شاہی اور اُدہر مخلوق تماشائی کے ہیپ ہیپ ہُرّے ایک عجیب سماں پیدا کر رہے تھے۔ جسکے دیکھنے سے شاہِ عالم پناہ نہایت محظوظ واپس ہوئے۔ شام کو جہازات پر روشنی کی گئی۔ جسکا لطف خاص طور پر لائق دید تھا۔ کیونکہ ان ہزار ہا جہازی ٹیلوں کو چراغاں نے بالکل ایک شعلہ جوالہ بنا دیا تھا۔ اور دریا میں عکس پڑنے سے تو کچھ اور ہی کیفیت نظر آتی تھی۔ باوصفیکہ آندھی کے باعث موسم قابلِ سیر نہ رہا تھا مگر پھر بھی ہجوم خلائق اس قدر تھا کہ شمار نہ ہو سکتا تھا۔

اس کے بعد کی تاریخوں میں ہندی مہمان بخوشی و خرمی تمام ولایت سے اپنے اپنے مقامات کو واپس ہوئے۔ بعض بعض صاحبان سیر یوروپ کو بھی روانہ ہوئے۔ مگر چونکہ تقریب تاجپوشی کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اس لئے اُن کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

جسقدر حالات اس وقت تک درج ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہ اجمالی طور پر ہی قلمبند ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی امید ہے کہ ان کے دیکھ لینے

کے بعد ناظرین کتاب اپنے شہنشاہ ذیجاہ کے سوانحات عمر اور تاجپوشی لنڈن کی ضروری کیفیات سے بے خبر نہ رہیں گے۔ اور دربار دھلی کے مفصّل حالات اب اور بھی دلچسپی سے پڑھیں گے۔ اور خود ہی اِن دونوں درباروں کی عظمت و اہمیت کا فرق سمجھ لینگے۔



حصہ دوم

دربار ہائے تاجپوشیِ ہندوستان

باب اوّل

دربارِ ہند کی اہمیت اور ابتدائی تجاویز

فصل اوّل

تمہیدی کارروائیاں

ہندوستان میں انعقادِ دربار کی ضرورت پر غالباً نہ تو کسی طول و طویل بحث کی ضرورت ہے اور نہ دلائل و براہین کی فراہمی کی حاجت سرزمینِ دہلی جس پر اس دربارِ گوہربار کا انعقاد تجویز ہوا تھا خود اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اس پر جس قدر فرمانروا آج تک حکومت کرتے رہے ہیں۔ قریباً ہر ایک ایسے جشن ہائے مسرت کا اہتمام بھی اپنے اپنے وقت

میں پوری شان و شوکت اور جاہ و تمکنت سے کرتا رہا ہے بلکہ یہ رسوم یہاں کی آب و گل میں یہاں تک داخل ہو چکی ہیں کہ اب بھی ہر ایک والئ ریاست اور جاگیر دار حسبِ موقع ایسی تقریبات کو نہایت شانداری اور عظمت کے ساتھ انجام دینا لوازمِ امارت و حکومت میں داخل سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے عام رعایا بھی ایسے درباروں اور جشنوں سے اسقدر مانوس و آشنا ہے کہ غالباً کسی دوسرے ملک کی رعایا کو ایسے معاملات میں اس قدر شغف و انہماک نہ ہوگا۔ کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جسمیں مختلف چھوٹے بڑے رئیس و امیر خود مختار ہوں یا بے اختیار کوئی نہ کوئی تاریخی وقعت ضرور رکھتے ہیں۔ اور پُرانے آئین و مراسم کے لحاظ سے اب تک ایسی تقریبات پر دل کھول کر خرچ اور اہتمام بلیغ کرنے کے عادی چلے آتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں شہنشاہِ کیوان بارگاہ کا تاجپوشی ہونا اگر صرف گزٹ کے ذریعہ مشتہر کر دیا جاتا۔ تو اہل ہند کی اس پرخلوص ارادت و عقیدت کو اظہار کا موقع نہ ملتا۔ جو ان کو تاج برطانیہ اور تخت انگلشیہ کے ساتھ مرکوز و ملحوظ ہے اور ایک ایسی قدیم رسم (جس کو لوازمِ سلطنت سے سمجھا جاتا ہے) کے چھوڑ دینے سے ان کے دلوں میں وہ ولولہ جو نئے بادشاہ کے نام کے ساتھ پیدا ہونا ضروریات سے ہے۔ کیونکر پیدا ہو سکتا۔ جس کی پولیٹیکل حیثیت سے بھی ہر سلطنت کو خواہش اور ضروریات ہوا کرتی ہے۔ اس کے

علاوہ ایسے درباروں کا انعقاد جبکہ بلا تفریقِ مذہب وملت ہر ملک وقوم میں ایک زمانہ دراز سے چلا آتا ہو۔ حتّےٰ کہ انگلستان کے باشندے بھی اسکی عظمت کے قائل ومعترف پائے جاتے ہوں تو پھر ہندوستان ہی میں اُس کا منعقد نہ ہونا (جو مدتوں سے ایسے درباروں کا خوگر ہے) واقعی بڑی کوتاہی ہوتی۔

ماسوائے اِس کے ہندوستان میں ابتدائے زمانہ سے آج تک گو کئی ایک مہاراجگانِ ذی اقتدار اور شاہانِ نامدار گدی نشین ہوکر شہنشاہِ ہند کہلاچکے ہیں۔ لیکن کسی کو ایسی وسیع سلطنت اور اتنی بڑی قابلِ قدر قوت حاصل نہیں ہوئی۔ جو گورنمنٹ انگریزی کو یکساں طور پر تمام ہندوستان میں بلا استثناء ہر مقام اور ہر جگہ پر میسّر ہے۔ حیدرآباد دکن یا مرہٹوں کے ملک میں جو اِس وقت بھی اپنی اپنی راج گدیوں پر قایم اور مستحکم ہیں۔ جو اثر اور عزت گورنمنٹ انگریزی کو حاصل ہے۔ اصولی طور پر اُس سے کچھ کم نہیں کہی جاسکتی جو اِس کی خاص اپنے علاقہ میں کی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہنشاہی کا لقب تاجِ برطانیہ کے ساتھ نہایت مناسب طور پر موزون ہوگیا ہے۔ کیونکہ یہاں کے مختلف خود مختار حکمرانوں پر جو اپنے اپنے علاقوں میں بمنزلہ بادشاہ کے فرمانروا ہیں۔ گورنمنٹ انگلشیہ کو بلا شک وشبہ حقوق شہنشاہی حاصل ہیں۔ ورنہ خاص انگلستان میں جو مدتِ مدید از عہدِ بعید سے اُس کا امن و مسکن ہے۔ ابھی تک وہ

خطابِ شہنشاہی سے مخاطب نہیں ہوئی۔ کیونکہ وہاں ایسے خودمختار والیانِ ریاست ہی موجود نہیں۔ جن کے ماتحت رکھنے سے اُسے حقوقِ شہنشاہی مل جاتے۔ علاوہ ازیں ہندوستان کا ملک باعتبار اپنے مختلف الاقوام مختلف المراسم اور مختلف المذاہب باشندوں کے ایک ایسا معجونِ مرکب ملک ہے کہ اس کے حکمران کو ان کی حکومت کے باعث واجبی طور پر بھی دعوئے شہنشاہی ہو سکتا ہے۔ جو انگلستان میں مشکل ہے کیونکہ وہاں صرف بادشاہ کے ہمقوم اور ہم مذہب لوگ آباد ہیں۔ جن میں وُہ قدرتی طور پہ بھی عزت رکھتا ہے۔ اور اس پر جب ہندوستان کے رقبہ آبادی اور محاصل کو دیکھا جائے تو وُہ بھی اس قدر وسیع اور عظیم الشان ہے کہ جس کے فرمانرواکو دنیا میں خاص طور پر ممتاز ہونا چاہیئے۔ پس ایک ایسے ملک میں جسکا زیرِ نگیں ہونا تاجِ برطانیہ کی عزت وعظمت کی بڑی بھاری دلیل ہو اور جسکی رعایا بھی صلح کل سلطنتِ انگریزی کو اپنے تمام فرمانروایانِ گذشتہ کا نعم البدل جانتی ہو۔ اگر یہ دربار منعقد نہ کیا جاتا تو ایک ناقابل تلافی فروگذاشت ہوتی۔ اسکے سوا جب ایسے درباروں کی علّت غائی کو دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس غرض سے ان کا انعقاد تجویز کیا گیا تھا کہ ملکی با اثر لوگ اور سردار اپنے نئے بادشاہ کے جلوسِ سلطنت سے باخبر ہوکر اُس کے حضور میں نذریں پیش کرنے سے اُس کی ذاتِ خاص کے ساتھ اپنی اطاعت و

فرمانبرداری کا اظہار کیا کریں جو قیام و استحکامِ سلطنت کا باعث ہوا کرتا ہے - پس اس لحاظ سے جس قدر ضرورت اسکی ہندوستان میں انعقاد کی تھی - غالباً انگلستان میں بھی نہ ہوگی - کیونکہ وہاں تو صرف بادشاہ سے ہمقوم اظہار اطاعت کرتے ہیں - جو قدرتی طور پر بھی اس کے مطیع ہونے کو مجبور ہوتے ہیں - لیکن یہاں مختلف المذاہب اور مختلف الاقوام سردار اور والیانِ ملک موجود ہیں - جن کے اظہار اطاعت کی مراسم کے ادا کرنے کو ایک بڑا باوقعت معاملہ کہنا چاہیئے - جس کے لیئے اس امر کی واجبی طور پر ضرورت تھی کہ شہنشاہ ذیجاہ خود تشریف لاکر ہندوستان کا تاجِ شہنشاہی اِن سب رؤسا و امرا کے روبرو اپنے زیبِ سر فرماتے جو باوصف صد ہمہ گر ہونے کے صرف اِن کی خیرخواہی وخیر اندیشی کے لئے دہلی میں جمع ہونے کو تھے - تاکہ اس نظارہ کی وقعت خود شہنشاہِ عالم پناہ کو بھی بخوبی محسوس ہو جاتی - کہ کس طرح اِن کو تمام ہندوستان کے باشندے دلی خلوص و تپاک کے ساتھ اپنا واقعی شہنشاہ سمجھتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کو بھی اُن کے دستِ خاص پر اپنا نقدِ اطاعت رکھنے میں ایک خاص امتیاز حاصل ہو جاتا - اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ اگر بوجہ انصرامِ مہامِ سلطنت یا تقاضائے عمر حضورِ ممدوح خود یہ تکلیف گوارا نہ فرما سکتے - تو ولیعہد سلطنت ہی اپنی تشریف آوری سے ہندوستان کو معزز و مفتخر فرما دیتے تاکہ ہندوستان والوں کو کچھ تو اپنی وفاداری کی

اور اطاعت شعاری کا لطف آجاتا مگر چونکہ گورنمنٹ ہمیشہ سے ہندوستان کا انتظام اپنے نائب السلطنتوں کے ذریعہ کراتی ہے جو ہر پانچویں سال پوری قوتِ انتخاب خرچ کرکے منتخب اور مقرر کئے جاتے ہیں اور وہی تمام رعایا برایا اور رؤسا و امرا کے ساتھ سلطنت کے متعلقہ امور میں مثل بادشاہ کے معاملات طے فرماتے اور ہر طرح کی معافیاں اور عہدنامے وغیرہ منظور کرتے ہیں۔ جس میں اُنکو پورے اختیاراتِ شاہانہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے مصلحت اسی میں دیکھی گئی۔ کہ نائبانِ شہنشاہی کے قیام جاہ و جلال کے لیے جب کبھی ایسی تقریبات بھی پیش آئیں تو ان کو بھی انہیں کی ذات سے انجام دلایا جائے۔ تاکہ نائبانِ سلطنت کے اعزاز و اکرام اور اُن کے اقوال و افعال کی عظمت و جلالت رؤسا و امرائے ہند کے دلوں پر ویسی ہی برقرار رہے۔ جیسے کہ چاہیئے اور وہ اُن کو اپنے شہنشاہ کا اصلی معنوں میں نائب و مختار سمجھنے میں کوئی شک و شبہ نہ لاسکیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں۔ جن کو بذاتہٖ ہندوستان کے باشندوں سے شب و روز واسطہ رہتا ہے۔

اس لئے اس دربار کی صدارت کے لئے بھی عالیجناب معلےٰ القاب ہز ایکسیلینسی دی رائٹ اونریبل لارڈ جارج نتھنیل بیرن کرزن صاحب بہادر جی۔ ایم۔ ایس۔ آئی۔ جی۔ ایم۔ آئی۔ ای وائسرائے و گورنر جنرل کشورِ ہند کی ذاتِ ستودہ صفات ہی منظور و منتخب فرمائی گئی۔ جو نیابت شہنشاہی کے علاوہ ہندوستانیوں میں بھی بسبب اپنی ہر دلعزیز کارکنی کے بڑی محبت سے دیکھے جاتے ہیں

دربار کے لئے دہلی کا انتخاب - اگرچہ نائب السلطنت کشور ہند کے قیام کے باعث ہندوستان کا دارالسلطنت کلکتہ شمار ہوتا ہے - مگر ہندوستان کی قدیمی اور اصلی راج دہانی اگر تلاش کی جائے تو دہلی ہی ملے گی - جس نے راجپوتوں مسلمانوں دیسیوں پر دیسیوں ہستے حکمرانوں کے کئی ایک انقلاب دیکھے اور ہر دفعہ اپنے تختگاہ ہونے کو برقرار رکھا ہندوستان میں جسقدر پرانے سے پرانے شہر موجود ہیں - دہلی سب سے پرانی ہے - کسی زمانہ میں اسکا نام اندرپرست ہوا کبھی دہلی اور کبھی شاہ جہان آباد قرار پایا - مگر اسکی دل آویزی اور قدامت ہمیشہ ممتاز ہوتی رہی - اور اگرچہ اسکو ہندوستان کی ناف تو نہیں کہا جا سکتا - مگر پھر بھی حسن اتفاق سے وہ ایسے مقام پر آباد ہے کہ جس کو ہر چہار اطراف ہند قریباً برابر برابر پڑتے ہیں - مثلاً کلکتہ دہلی سے ساڑھے نو سو میل ہے - تو بمبئی بھی ساڑھے آٹھ سو اور پشاور بھی قریباً سات سو ایسا ہی اجمیر - آگرہ - لکھنؤ کے مقامات بھی دو سو سے تین سو میل تک کے فاصلہ پر پڑتے ہیں - بخلاف اس کے اگر کلکتہ میں دربار کیا جاتا - تو بمبئی - مدراس پنجاب کے درباریوں کا سفر بہ نسبت دہلی کے دوگنا ہو جاتا - علاوہ اسکے ہندوستان کی مصدقہ اور مسلمہ تختگاہ کے سوا اگر کسی دوسری جگہ ایسے دربار منعقد کئے جائیں - تو شہنشاہی ہند کے ساتھ یہاں کے قدیم شاہان سلف کی جانشینی کا کام پورا نہ ہوتا - اور ایک نئے قسم کے دربار کی بنیاد قایم کرنی پڑتی - اسکے سوا ہندوستان میں اگر کوئی شہر نئے اور پرانے کمالات کا مرکز قرار دیا جا سکتا ہے

تو وُہ بھی دہلی ہی ہے۔ ایسی صورت میں ہندوستان میں سلطنت کی طرف سے ایسے عظیم الشان دربار کے لئے سوائے دہلی کے کسی دوسرے مقام کا تقرّر مناسب نہ ہوتا۔ چنانچہ اسی خیال سے لارڈ لٹن صاحب متوفّی سابق وائسرائے ہند نے ۱۸۷۷ء کے دربار قیصری کے لئے بھی دہلی کو ہی منتخب کیا تھا۔ اور انہیں وجوہات سے اس عدیم المثال دربار کے لئے **لارڈ کرزن صاحب بہادر** موجودہ وائسرائے ہند نے بھی دہلی کو ہی منتخب فرمایا۔

تاریخ دربار کا تقرّر۔ جس طرح تمام اقوام و ممالک میں اپنے اپنے سال کے آغاز کا دن نوروز سمجھا جا کر اسدن کو تہنیت کے درباروں یا عطا و بخشش میں صرف کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی انگریزی سلطنت یکم جنوری کو ایک دربار کے ذریعہ ملک کے سربرآوردہ اور مستحق اشخاص کو عطائے خطابات وغیرہ سے سربلند کرتی ہے اور ایسے دربار قریباً ہر صوبے میں ہوتے رہتے ہیں۔ گو رسمی طور پر معمولی ہونے کے باعث ان کا کچھ زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ۱۸۷۷ء کے دربار قیصری کے لئے بھی چونکہ کسی تاریخ کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ اس لئے لارڈ لٹن صاحب نے اس کے لئے بھی یکم جنوری کی تاریخ ہی منظور فرمائی تھی اور اسی بناء پر موجودہ وائسرائے بہادر نے اس دربار تاجپوشی کے لئے بھی یکم جنوری کی ہی تاریخ تجویز فرمائی۔ حالانکہ اس دربار کو دو تاریخوں کے ساتھ قدرتی خصوصیت اور مناسبت حاصل تھی۔ یعنے شہنشاہِ معظّم کی ولادت باسعادت کی تاریخ ۹ نومبر اور تخت نشینی کی ۲۴ جنوری تھی۔ جن میں سے کسی پر اگر اس دربار کا انعقاد ہوتا۔ تو

زیادہ موزوں ہو جاتا۔ مگر گورنمنٹ نے یکم جنوری کی ہی تاریخ منظور فرمائی۔ جسکے مطابق گویا یہ دربار سلطنتی جشن تاجپوشی کا رتبہ پاگیا۔ بہر حال اواخر اگست ۱۹۱۱ء میں گورنمنٹ ہند نے اس جشن کی تکمیل و ترتیب کے لئے ایک انتظامی دربار کمیٹی نامزد فرمائی۔ اور صاحبانِ ذیل کو اسکا ممبر و سکرٹری و پریزیڈنٹ مقرر فرمایا۔

دربار کمیٹی کے ارکان

۱۔ مسٹر بارنس صاحب بہادر بالقابہ فارن سکرٹری گورنمنٹ ہند۔ پریزیڈنٹ
۲۔ میجر ہڈسن صاحب بہادر بالقابہ۔ سکرٹری
۳۔ جنرل ہنری صاحب بہادر کوارٹر ماسٹر جنرل ممبر
۴۔ کرنل اوزیبل بیرنگ صاحب بہادر بالقابہ ملٹری سکرٹری "
۵۔ کرنل ہیٹسن صاحب بالقابہ انسپکٹر جنرل امپریل سروس ٹروپس "
۶۔ مسٹر گارڈن واکر صاحب بہادر بالقابہ کمشنر دہلی "
۷۔ مسٹر ہیکینبن صاحب چیف انجنیر پنجاب لاہور "

اس کمیٹی کے ماتحت ایک کارکن کمیٹی مقرر کی گئی۔ جس کے ممبر ڈپٹی کمشنر صاحب دہلی مقرر ہوئے۔ اور علاوہ اسکے ایک ٹکٹ اوفس کھولا گیا۔ جسکے انچارج مسٹر جارڈن صاحب کئے گئے۔ اور وقتاً فوقتاً کئی ایک اور یورپین افسران کی خدمات بھی اسی کاموں کے لئے منتقل ہوتی رہیں۔ چنانچہ تعمیرات کے جملہ کاموں کے سربراہ کار لالہ گنگا رام صاحب اگزکٹو انجنیر پنجاب مقرر کئے گئے۔ اور طیاری نقشہ جات اور شاہی کیمپوں کی آرائش کے متعلق بھائی رام سنگھ وائس پرنسپل آرٹس سکول کی خدمات لی گئیں۔ اور دربار ہال کا نقشہ مسٹر جیکب صاحب

کو بنانا تفویض ہوا - وغیرہ وغیرہ - اور پھر وقتاً فوقتاً حضور وائسرائے کا بنفسِ نفیس خود دہلی آ آکر انتظامات دربار کو دیکھنا مزید براں تھا چنانچہ دربار کے پہلے حضورِ ممدوح چھ دفعہ اس غرض کے لئے دہلی میں خود تشریف لا چکے تھے۔

دربار کا اعلان - ۱۴ فروری ۱۹۰۲ء کو نواب وائسرائے بہادر کی جانب سے انعقادِ دربار کا باضابطہ اعلان مندرجہ ذیل الفاظ میں شائع کیا گیا۔

صیغہ ریاست ہائے غیر
اشتہار نمبر ۶۳-الی ٹی اے

ہرگاہ اعلیٰ حضرت والا مکرمت شہنشاہِ والا پناہ ملکِ معظم ایڈورڈ ہفتم قیصرِ ہند ادام اللہ اقبالہم کے حضور مرحمت نشور سے فرمان ہائے شاہی مورخہ ۲۶ جون اور ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء بدیں اعلان صادر ہوئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت محتشم الیہم کی مرضی مبارک یہ ہے کہ اپنے اور اپنی دلی محبوبہ محترمہ ملکۃ الکبریٰ کے جلوس سعادت وعظمت مانوس کا جشن عظیم الشان میمنت اقتران ۲۶ جون ۱۹۰۲ء کو منعقد فرمائیں۔ لہٰذا اب اینجانب بمنصب وائسرائے وگورنر جنرل ہند اس تحریر کی رو سے جس پر ہمارے دستخط ومہر ثبت ہیں - یہ عام اعلان کرتے ہیں کہ اینجانب کا ارادہ ہے کہ یکم جنوری ۱۹۰۳ء کو دہلی میں ایک دربار شاہی اس غرض سے منعقد کریں کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی سلطنت ہند میں اس تقریب کی عظمت ومیمنت اور تشبیب کا اعلان کیا جائے۔

اینجانب کا یہ قصد ہے کہ اس دربارِ حشمت مدار میں اعلیٰ حضرت محتشم الیہم کی سلطنتِ ہند کے ہر ملک و حصہ سے گورنروں اور لفٹنٹ گورنروں اور منتظمان ملک کو۔ اور ان ریاست ہائے ہندوستانی کے شہزادوں اور والیانِ ملک اور امراء کو جو اعلیحضرت مفخر الیہم کے زیر حفاظت ہیں۔ اور اس سلطنتِ عظیم ہند کے کل ممالک کے سرگروہ معززین یوروپین و ہندوستانی دونوں کو بلایا جائے۔

اس تحریر کی رو سے اینجانب یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اینجانب فی الفور باجلاس کونسل ایسے احکام صادر کرینگے جو اس تقریب کی عظمت و اقتدار کے شایاں ہوں اور اس خواہش و تمنّا کے مطابق ہوں جو اعلیٰ حضرت محتشم الیہم کی رعایا کے ہر فرقہ و گروہ کے اشخاص کے دلوں میں اس بارہ میں ہے کہ وہ اپنی وفاداری و اطاعت شعاری کو ایسی عام تقریبات و طریقہ ہائے اظہار مسرت و نشاط سے ثابت و ظاہر کریں جو اس موقع جلیل الشان کے مناسب ہوں۔

آج بتاریخ ۱۴ فروری سنہ ۱۹۰۲ء بمقام کلکتہ مرتب ہوا۔

(دستخط لارڈ) کرزن

وائسرائے گورنر جنرل ہند"

درباری خاکہ

چونکہ ہندوستان میں پورے امن و امان کے زمانہ میں ۱۸۷۶ء کا دربار قیصری ہی گورنمنٹ انگریزی کی طرف سے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اسلئے اُسی کا خاکہ اِس دربار میں بھی منتظموں کا رہنما ہوسکتا تھا۔ جسمیں وُہ تمام مناسب اضافے بھی جو اِس دربار کے لئے موزون ہوسکتے تھے تجویز کئے گئے۔ اور گو یہہ دربار بجائے خود ہندوستان میں گورنمنٹ انگلشیہ کا پہلا دربار تاجپوشی ہی تھا۔ مگر پھر بھی ۱۸۷۶ء کے دربار قیصری کا اِس میں یہاں تک لحاظ رکھا گیا۔ کہ

دربار ہال کے لئے وُہی جگہ تجویز ہوئی۔ جو دربار قیصری کے موقع پر شہر سے پانچ میل کے فاصلہ پر منتخب ہوئی تھی۔ اور قرار دیا گیا۔ کہ اسکو اِسقدر وسیع تعمیر کیا جائے۔ کہ جسمیں بارہ ہزار درباریوں کی نشست ہوسکے حضور والیسرائے کا دایرۂ دولت بھی اسی مقام پر لگانا تجویز ہُوا۔ جہاں ۱۸۷۶ء کے وقت تھا۔ لیکن شانداری اُس سے بدرجہا زیادہ مدنظر تھی۔ چنانچہ قرار دیا گیا۔ کہ خاص حضور ممدوح کے قیام کے لئے ایک عالیشان پختہ کوٹھی تعمیر کیجائے۔

والیانِ ریاست کے کیمپوں کے لئے بھی بتغیرِ اندک وُہی مقامات پسند کئے گئے۔ جہاں پہلے ۱۸۷۶ء میں کیمپ نصب ہوئے تھے البتہ چونکہ اب کچھ زیادہ جم غفیر اور بھیڑ بھاڑ ان کے ساتھ نہ ہوسکتی تھی کیونکہ بعض جلیل القدر رئیسوں نے امپیریل سروس ٹروپس میں اپنے جنگی دستے گورنمنٹ کی نذر کر رکھے تھے۔ اور جو باقی تھے اُن کے

بھی اب باقیہ خیالاتِ نمائش بہت کم رہ گئے تھے - نیز اس موقع پر خط وکتابت کرکے پہلے سے فیصلہ کرلیا گیا تھا - کہ کسقدر اہلکار اور عملہ سپاہیاں ہر ایک کے ساتھ ہونے چاہئیں - لہذا ان کی نسبت یہ قرار دیا گیا - کہ ہر ایک والی ریاست کے حسبِ ضرورت اراضی اِن کے کیمپ کے لئے مخصوص کردیجائے - اور اگر یہ اراضی گورنمنٹ کی ہو - تو اُن سے کوئی کرایہ نہ لیا جائے - لیکن اگر کسی زمیندار کی ہو - تو فصلات کا معاوضہ رؤسا سے انکو دلا دیا جائے - زمینوں کی درستی - ہمواری - چمن بندی - کیمپوں کا نصب کرنا - انکی اندرونی سڑکوں کا درست کرنا بھی سب دیسی رئیسوں کے ہی متعلق رکھا گیا اور گورنمنٹ سے صرف ایک ایک پولیس اسٹیشن اُن کی حفاظت کے لئے اِن کے کیمپوں میں مقرر کرنا تجویز ہوا - البتہ جو جو سرکاری افسران مثل ریزیڈنٹ و پولیٹیکل ایجنٹ رؤساء ریاست نگرانی وغیرہ کے لئے مقرر تھے - اِن کے کیمپ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں نصب کرنے تجویز ہوئے -

امرائے ہند کے کیمپ کے واسطے بھی الگ الگ جگہ مقرر کردی گئی - اور اس کا بھی ایسا ہی انتظام کیا گیا -

مہمانوں کے لئے تین اقسام تجویز کئے گئے - ایک تو وہ کہ جن کا کیمپ کھانا - سواری سب سرکار کے ذمہ تھا - اس میں وائسرائے صاحب کے یوروپین مہمانوں کے علاوہ ایڈیٹرانِ اخبارات اور پنشنرانِ غدر بھی شامل تھے - دوسرے وہ جنکے کیمپ کا انتظام سرکار کی طرف سے تھا - اور خورد ونوش اور سواری وغیرہ کا وہ خود انتظام کرتے تھے -

اس میں بھی اکثر یورپین افیسر تھے۔ تیسرے وہ جن کے کیمپ کی جگہ بتا دینے سے گورنمنٹ کو سروکار تھا۔ اور باقی سب باتیں وہ اپنے خرچ اور انتظام سے کرتے تھے۔ اس میں تمام راجگان اور امرائے ہند کو سمجھنا چاہیئے۔ یہ تفریق کسی تعزز و تنزل کے اعتبار سے نہ رکھی گئی تھی بلکہ مہمانوں کی ضروریات کے اعتبار سے تھی۔ تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔

ڈاکخانوں اور تارگھروں کا انتظام بھی ایک بڑے پیمانہ پر کرنا ضروری تھا۔ کیونکہ صرف دہلی کے مقررہ ڈاکخانے اتنے بڑے وسیع اندازہ کی خط وکتابت کے کسی صورت میں متحمل نہ ہو سکتے تھے۔ اسلئے پنجاب سے کلارک۔ سارٹر۔ اور پیون اور تار والے ہزاروں کی تعداد میں طلب کرکے ہر ایک کیمپ میں الگ الگ ڈاکخانہ مقرر کرنے سے اس ضرورت کو پورا کر دیا گیا۔ اور ایک کتاب میں جملہ مہمانوں رئیسوں کے جائے قیام درج کرکے چٹھی رسانوں کی آسانی کے سوا عام لوگوں کے لئے بھی سہولیت مدنظر رکھی گئی۔ جسکی ایک لاکھ کاپیاں چھاپی گئیں تھیں جو صرف ایک ہی ہفتہ میں فروخت ہو گئیں۔ اور پھر دو دو تین تین روپے میں بھی بمشکل میسّر ہو سکیں۔ جن کی نسبت روایت ہے کہ ملازمانِ ڈاک نے پبلک ضروریات کا احساس کرکے اِن کو خود ہی بتعدادِ کثیر خرید رکھا تھا جنہوں نے محکمہ کی باضابطہ بکری کے بعد روپے نفع سے فروخت کیا۔ دربار کے صیغہ ڈاک کے پوسٹماسٹر جنرل رائے بہادر لالہ دولت رام صاحب مقرر کئے گئے تھے۔

سواریوں کے لئے گاڑیوں وغیرہ کی جسقدر ضرورت ایسے موقع پر ہو سکتی ہے کچھ پوشیدہ نہیں۔ مگر اس خیال سے کہ حتے الامکان خرچ

نہایت ہی کم ہو۔ ٹرنسپورٹ کے ذریعہ فوجی گاڑیاں اور چھکڑے سواری اور بار برداری کے لئے طلب کئے گئے۔ نیز ولایتی کارخانوں سے انگریز مہمانوں کے لئے بتعداد کثیر بائیسکلیں بھی خریدی گئیں۔ اور نرخ بھی معقول مقرر کردیا گیا یعنے درجہ اوّل کی گاڑی کے چالیس روپے درجہ دوم کے تیس روپے درجہ سوم کے پندرہ روپے اور درجہ چہارم یعنے یکہ کے دس روپے روزانہ اور یہ وہ کرایہ تھا کہ جس کے لالچ پر دور دور نزدیک سے کرایہ کی گاڑیاں وہاں پہنچنی شروع ہوگئیں۔

ریلوے انتظام کی اس موقع پر جسقدر ضرورت تھی۔ اس کے بیان کی ضرورت نہیں کہ خود روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ کیونکہ یہی ایک ایسا ذریعہ تھا۔ جس سے دہلی میں ہندوستان کی چاروں طرف کی مخلوق کھچکر آسکتی تھی۔ اسلئے تمام ریلوے لائنوں سے انتظام کیا گیا۔ کہ وہ ان ایام میں سپیشل ٹرینوں کا اہتمام کریں اور نیز سنٹرل کیمپ اور رؤسائے ریاست کے کیمپوں کے جسقدر نزدیک کوئی سٹیشن کھول سکیں ان کے کھولنے کا بھی بندوبست کریں کہ مہمانوں کو باربرداری وغیرہ کی تکالیف میں تخفیف ہوسکے۔ نیز جسقدر ممکن ہو کرایہ میں بھی تخفیف کردیں۔ چنانچہ اسکے مطابق ہر ایک ریلوے نے سپیشل ٹرینوں کا بھی انتظام کیا۔ اور سرائے روح اللہ۔ ویسٹ کیمپ۔ آزادپور۔ ٹیمپری۔ سنٹرل کیمپ۔ باولی۔ پنجابی سرائے اور سبزی منڈی کے نئے سٹیشن تجویز کردئے گئے۔ اور کرایہ میں یہ تخفیف منظور کی۔ کہ اوّل و دوم درجہ کے مسافروں کو ایک ہی طرف کے کرایہ میں واپسی ٹکٹ دئیے گئے۔ اور انٹرمیڈیٹ کلاس اور درجہ سوم والوں کو ایک طرف

کا پورا اور دوسری طرف کا آدھا کرایہ لے کر واپسی ٹکٹ دیئے۔ یہ ٹکٹ بالعموم ۸ دسمبر ۱۹۰۲ء سے ۲۰ جنوری ۱۹۰۳ء تک ایک مہینے کے لئے دا ہیئے جاتے تھے۔

لائیٹ دربار ریلوے۔ چونکہ دربار ہال۔ پولو گراؤنڈ اور سنٹرل کیمپ وغیرہ سب شہر سے معقول فاصلوں پر تجویز ہوئے تھے۔ لہذا ایک ہلکی سی دربار لائیٹ ریلوے کا بھی عارضی طور پر اجرا منظور ہوا جسکی سڑکوں کی درستی و طیاری کے لئے سفر مینا کی پلٹنیں مقرر ہوئیں۔

سامان خورد و نوش کے لئے بھی محکمہ ٹرنیسپورٹ کو آمادہ کیا گیا۔ کہ وہ تمام اجناس ضروری فراہم کر کے نرخ مقررہ منظور شدہ کے مطابق فروخت کیا کرے۔ اور نیز پکے پکائے کھانے کے ہوٹل بھی جاری کرنے کا بندوبست کر دیا گیا

درباری تقریبات کی تقسیم

چونکہ دربار قیصری ۱۸۷۷ء کے وقت ایام دربار میں جلوس سواری فوجی ریویو اور میو کالج کی کونسل کے مواقعات۔ علاوہ یوم دربار کے بڑی شان و شوکت سے عمل میں آئے تھے۔ اور یہ دربار تو اس سے بھی بہت شاندار کرنا مقصود تھا۔ اسلئے قرار دیا گیا۔ کہ

جلوس سواری شاہانہ اس شان و شوکت سے بھی کسیقدر زیادہ جاہ و جلال کے ساتھ نکالا جاوے۔ جیسا کہ ۱۸۷۷ء میں نکالا تھا چنانچہ قرار پایا کہ جلوس سواری سٹیشن سے کوئینس روڈ۔ لودہیاں روڈ۔ خاص روڈ۔ جامع مسجد کا چکر۔ ہسپتال کا چکر۔ اسپلینیڈ روڈ۔ چاندنی چوک۔ بازار فتحپوری۔ احمد بائی روڈ۔ ڈفرن برج۔ موری دروازہ۔ راجپو

پہاڑی کی سڑک زیریں اور پھر کھاڑی کے اوپر سے پنار فلیگ سٹاف سے گذرتا ہوا وائسرائے کے کیمپ میں داخل ہو۔ اور وائسرائے و ڈیوک اوف کیناٹ کے ہاتھیوں کے بعد دیسی رئیس اپنے اپنے ہاتھیوں پر پہلو بہ پہلو دو قطاروں میں شامل جلوس رہیں۔

روشنی اور آتشبازی کا بھی شل ولایت نہایت اعلےٰ درجہ کا انتظام سوچا گیا۔ چنانچہ روشنی کے لئے مسٹرز اوسلر اینڈ کو کو ٹھیکہ دیا گیا اور آتشبازی کے لئے مسٹرز براک اینڈ کو کو فرمائش دیگئی۔ روشنی برقی تجویز ہو چکی تھی۔ اور آتشبازی بھی ایسی ہی مدِ نظر تھی۔ جو شعبدہ بازی سے کم نہ ہو۔

فوجی ریویو کے لئے پوری سینتیس ہزار سرکاری فوج کے اجتماع کا حکم دیا گیا مگر اسمیں بھی یہ ملحوظ رکھا گیا کہ ہر قوم کی پلٹنیں اور رسالے وغیرہ موجود ہو جائیں۔ حالانکہ دربار قیصری پر صرف پندرہ ہزار فوج طلب کی گئی تھی۔

امپیریل سروس ٹروپس کا ریویو بھی اس ضمن میں قرار دیا گیا۔ اور یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ جو ۱۸۷۷ء کے دربار قیصری کو بالکل میسّر نہ ہوا تھا جس سے ہندوستانی رئیسوں کی وفاداری و جاں نثاری کا متفقہ و مسلّمہ ثبوت دکھانا مقصود تھا۔ اس کے سوا

دیسی رئیسوں کی جلوسی اردل کا معائنہ بھی ایک خاص دن پر رکھا گیا۔ تاکہ مختلف اوضاع و اطوار اور لباسوں کی بھی جھلک نظر آجائے۔

ستارۂ ہند کے بال اور دربار کے لئے قلعہ معلےٰ میں دیوان عام کی درستی اور اِسکے بالمقابل ایک عارضی دیوان بنانے کی تجویز کی گئی جو

نہایت کم خرچ بالانشین قسم کا ہو۔
پولو اور مختلف فوجی ورزشوں کے لئے بھی وقت مقرر کیا گیا۔ اور
اتوار کے دن کو متفقہ دعا و مناجات کے لئے رکھا گیا۔ ان سب کے
علاوہ ایک نئی بات بھی جو ۱۸۷۷ء کے دربار قیصری میں موجود نہ
تھی۔ منظور کی گئی۔ یعنے
نمائش صنعت و حرفت کا افتتاح بھی انہیں دنوں میں تجویز ہوا جسکے
لئے ڈاکٹر جارج واٹ صاحب کو سربراہ مقرر کیا گیا اور مسٹر پرسی براون صاحب
پرنسپل آرٹس سکول لاہور کو ایکامددگار مقرر کر کے اسمیں تمام ہندوستانی ساخت کی اشیاء کی فراہمی کا
حکم دیا گیا۔ اور چار لاکھ روپیہ اسکے اخراجات کیلئے منظور ہوا اگر بہت سی عاریتی اشیاء دیسی
ریاستوں سے بھی طلب ہونے لگیں۔ تاکہ یہ نمائش اعلےٰ سے
اعلےٰ ہندوستانی اشیاء کا مجموعہ بن سکے۔ اصل یوں ہے۔ کہ شہنشاہ
عالم پناہ چونکہ ایسی نمائشوں کے ہمیشہ سے بڑے بھاری معاون رہے
ہیں اور موجودہ وائسرائے ہند بھی حسن اتفاق سے ملکی صنعت و
حرفت کے بہت بڑے دلدادہ ہیں۔ اسلئے یہ موقع اس کے انعقاد
کے لئے نہایت ہی موزون و مناسب سمجھا گیا۔ جو فی الواقع ایک بے نظیر موقع
تھا۔ نمائش گاہ کی شاندار عمارت قدسیہ باغ کے پاس بیرون
کشمیری دروازہ بنانی تجویز کی گئی۔ اور وہ حصہ جس میں جواہرات کی
نمائش مقصود تھی ایسا پختہ بنانا تجویز ہوا کہ چوری چکاری کا ڈر نہ رہے
اشیائے نمائش کے لئے نہایت پابندی کے ساتھ یہ حکم دیا گیا
کہ سوائے خالص دیسی ساخت کے کوئی چیز ایسی اس میں داخل نہ ہو جو یورپین
صنعتوں کی تبدیلی سے اکثر اوقات پیدا کر لی جاتی ہے۔

ساماں نمائش کی تشخیص اور انعام کے لئے دو علیحدہ علیحدہ کمیٹیاں مقرر کی گئیں۔ جنکے ارکان صاحبان ذیل قرار دئے گئے۔ اور یہ بھی قرار دیا گیا کہ جو صناعان ہندوستان نمائش میں عملی طور پر اپنا کام دکھانا چاہیں۔ اُن سے کوئی کرایہ نہ لیا جائے۔ بلکہ جن کو ضرورت ہو کرایۂ آمدورفت بھی نمائش کے فنڈ سے دیا جائے۔

کمیٹی تشخیص کے ارکان

۱۔ کرنل سونٹن جیکب صاحب کے۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ ۲۔ کرنل سٹورٹ بیٹسن صاحب سی۔ بی۔ ۳۔ کرنل ٹی۔ ایم۔ ہنڈلے آئی۔ ایم۔ ایس ۴۔ مسٹر سی۔ ایل برنز صاحب۔ ۵۔ مسٹر ای۔ تھرسٹن صاحب ۶۔ کیولر گلیرڈی مسٹر آر ڈی میکنزی صاحب۔ ۷۔ منشی مدہوپ لال صاحب۔ ۸۔ بھائی رام سنگھ صاحب وائس پرنسپل میو آرٹس سکول لاہور ۹۔ مسٹر آر۔ اجنٹ آئی۔ سی۔ ایس۔ سیکرٹری

کمیٹی انعامی کے ارکان

۱۔ سر۔ ای۔ ٹی۔ جی۔ لا صاحب کے۔ سی۔ ایم۔ جی۔ ۲۔ ہز ہائینس راجہ صاحب کپورتھلہ۔ ۳۔ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب ٹپرہ۔ ۴۔ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر کوچ بہار۔ ۵۔ کرنل سر راجہ امر سنگھ صاحب بہادر سی۔ بی۔ کے۔ سی۔ ایس۔ آئی کمینڈر انچیف و وائس پریذیڈنٹ کشمیر ۶۔ سری راجہ بلدیو سنگھ صاحب والی ریاست پونچھ۔ ۷۔ راجہ بہادر رنجیت سنگھ صاحب والی ناشی پور۔ ۸۔ بابو ممنت ناتھ رائے صاحب چودھری سنتوش۔ ۹۔ بابو دھنپت سنگھ صاحب رئیس اعظم گڈہ۔

عام درباروں کا انعقاد

دہلی کے دربار کے لئے جو اعلیٰ پیمانہ اختیار کیا گیا تھا۔ اور جس کا کسی قدر خاکہ کھینچا جا چکا ہے۔ اگرچہ ایسا تھا کہ خود بخود اسکی طرف تمام ہندوستان کی توجہ ہو رہی تھی مگر پھر بھی چونکہ ایک ہی دربار سے باضابطہ اعلانِ تاجپوشی کا اشتہار درست نہ تھا۔ اسلئے نواب وائسرائے ہند نے اپنے رزولیوشن نمبری ۴۲۳۶ مورخہ ۲۸۔ اگست ۱۹۰۲ء میں دربار دہلی کے متعلق بالصراحت احکام دینے کے ساتھ اضلاع ہند میں بھی لوکل درباروں کے انعقاد کا منشا ظاہر فرمایا باستثنائے کلکتہ کے جسمیں فراغتِ دربار دہلی کے بعد خود صدر نشین ہونا منظور فرمایا اور اسی ضمن میں جن لوگوں نے گورنمنٹ کی واجبی خدمات کی ہوں ان کو سرٹیفکیٹ ہائے خوشنودی کے اعطاء کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ اور ایام دربار کی تعطیلوں کا بھی حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ اس ریزولیوشن کی نقل یہ ہے۔

ریزولیوشن گورنمنٹ ہند صیغہ ہوم " عالیجناب نواب وائسرائے و گورنر جنرل بہادر ہند نے ۱۴ فروری ۱۹۰۲ء کے ایک اشتہار میں اپنا یہ قصد ظاہر کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت ملکِ معظم ایڈورڈ ہفتم۔ قیصر ہند اور علیا حضرت ملکہ ایلیگزینڈرا کی تاجپوشی کی تقریب کے ملک ہند میں اعلان کرنے اور اُسکے متعلق خوشی اور خورمی ظاہر کرنے کے لئے ایک شہنشاہی دربار کرینگے یہ دربار تاجپوشی کا دہلی میں پہلی جنوری ۱۹۰۳ء کو ہوگا۔ اور اسکے بعد وہاں پر درمیان پہلی جنوری اور ۱۰ جنوری کے جس تاریخ کو کہ عالیجناب نواب وائسرائے و گورنر جنرل بہادر ہند وہاں سے

تشریف لیے جائینگے۔ دوسری عام تقریبیں بھی ہوں گی۔ اب عالیجناب نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل نیچے لکھے ہوئے حکم اس بارہ میں دیتے ہیں کہ اس بڑے اور مبارک موقع پر اس تاریخ (پہلی جنوری) کو اعلےٰ حضرت ملک معظم کی ساری سلطنت ملک ہند کے اور سب مقاموں میں سوائے کلکتہ کے کس طور پر اس تقریب کا اعلان اور اسکی خوشی کا اظہار کیا جانا چاہیئے۔ کلکتہ میں جو گورنمنٹ ہند کا صدر مقام ہے وہاں کے رہنے والوں کی خواہش کے بموجب اس تقریب کا اعلان اور اسکے متعلق خوشی کا ظاہر کرنا جنوری کے ختم ہونے کے قریب تک یعنی اسوقت تک ملتوی رکھا جائےگا جبکہ عالیجناب نواب وائسرائے وگورنر جنرل بہادر اور گورنمنٹ ہند کے ممبر وہاں پہنچ جائیں۔

عالیجناب نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل کی مرضی مبارک یہ ہے کہ اعلان شاہی کو جو مناسب وقت پر لوکل گورنمنٹوں اور منتظمان ملک کے پاس بھیج دیا جائےگا۔ ہر لوکل گورنمنٹ اور منتظم ملک کے صدر مقام میں اور ہر ضلع کے صدر مقام میں وہ اعلےٰ عہدہ دار ملکی جو اسوقت وہاں موجود ہوں زبان انگریزی میں اور ضلع کی زبان دیسی میں پہلی جنوری کو ایسے وقت پر جو آسانی کے لحاظ سے مناسب سمجھا جائے پڑھکر سنائے اور جہاں جہاں ہو سکے شاہی سلامی ۱۰۱ ضرب توپ کی سر کیجائے۔ یہ بات کہ کس وقت اعلان شاہی پڑھا جائےگا اُس تاریخ پر موقوف ہوگی جس پر کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر کا ہوگا۔ اور عید الفطر کا ہونا اس تاریخ پر موقوف ہے جس میں چاند نظر آئے۔ اگر عید ۳۱ دسمبر سنہ ۱۹۰۲ء کو ہو تو اعلان شاہی پہلی جنوری سنہ ۱۹۰۳ء کو دوپہر کے

وقت پڑھا جائے اور اگر عید پہلی جنوری کو ہو تو اعلان شاہی کا پڑھا جانا اُسوقت تک ملتوی رکھنا چاہیئے جو اس کے لئے ضروری ہو کہ مسلمان لوگ عیدگاہ میں نماز سے فارغ ہو کر جلسہ میں شریک ہوسکیں۔ جہاں جہاں آسانی سے دربار کرنے کا انتظام ہوسکے وہاں ایک دربار کر کے اسمیں اعلان شاہی پڑھا جانا چاہیئے اور اس دربار میں ایسے خطابوں یا اعزازوں کا جو وہاں کے لوگوں کو اعلےٰ حضرت ملک معظم قیصر ہند یا عالیجناب نواب وائسرائے و گورنر جنرل بہادر ہند کے حضور سے ملے ہوں اعلان کر دینا چاہیئے اور اگر اس قسم کے کوئی سارٹیفکٹ جن کا نیچے ذکر ہے لوکل گورنمنٹ یا منتظم ملک کے حضور سے دئے جائیں تو وہ بھی تقسیم کر دینے چاہئیں۔

جناب نواب گورنر جنرل بہادر با جلاس کونسل ہدایت فرماتے ہیں کہ شام کو ضلع کی کچہریوں کی عمارتوں اور تارگھروں اور ڈاکخانوں میں روشنی کی جائے اور سب لوکل جماعتوں سے اپنی اس مرضی کو ظاہر فرماتے ہیں کہ اُسیوقت میں وہ بھی اپنی عام عمارتوں میں روشنی کئے جانے کا انتظام کریں۔

یہ ہدایت کیجاتی ہے کہ جیسا کہ اُس موقع پر ہُوا تھا جبکہ علیا حضرت ملکہ معظمہ وکٹوریا مرحومہ نے خطاب قیصر ہند اختیار کیا تھا اور جیسا کہ اُن کی جوبلی کے موقع پر ۱۸۹۷ء میں ہوا تھا۔ لوکل گورنمنٹیں اور منتظمانِ ملک ہندوستانی معزز لوگوں کو سارٹیفکیٹ اس فارم (نمونہ) کے مطابق جو اس ریزولیوشن کے ساتھ شامل ہے عطا کریں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ یہ سارٹیفکٹ خوب سمجھ کر دیئے جائیں اور وہ ایسے ہی لوگوں کو

دیئے جائیں جنہوں نے حقیقت میں ایسے مفید کام کئے ہوں جو اس قابل ہوں
کہ انکی نسبت گورنمنٹ اپنی رضا مندی ظاہر کرے اور وُہ سارٹیفکیٹ
میں صاف طور پر لکھے جاسکیں - یہ بھی ضروری ہے کہ جو سارٹیفکیٹ
دیئے جائیں وُہ گنتی میں اتنے محدود ہوں کہ اُن کی اچھی طرح قدر کیجائے
جناب نواب گورنر جنرل بہادر با جلاس کونسل کی خاص مرضی
یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس تقریب کی خوشی سب لوگ (ادنےٰ اور
اعلےٰ) عام طور سے کریں اور غریب لوگ بھی اس میں شریک ہوں اور
سکول کے لڑکوں اور لڑکیوں کی دعوت اور تفریح کا سامان کرکے
تمام ملک میں مختلف قوموں کے دلوں پر اس مُبارک تقریب کا اثر ڈالا
جائے - اس بات سے عالیجناب نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل
خوش ہوں گے کہ پہلی جنوری ۱۹۰۳ء کو ضلع اور حصہ ضلع اور تحصیلی اور
تعلقوں کے سب صدر مقاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست
کیا جائے اور کم سے کم ہر لوکل گورنمنٹ اور منتظم ملک کے صدر مقام میں
سکول کے بچوں کی دعوت اور تفریح کا انتظام کیا جائے - اس کے
سوا عالیجناب نواب گورنر جنرل بہادر با جلاس کونسل کو اُمید ہے کہ
علاوہ اُن مقاموں کے جن کا ابھی ذکر ہوا اور جگہوں میں بھی محتاجوں
کو کھانا کھلانے یا سکول کے بچوں کی دعوت اور تفریح کا بندوبست کرنا
ممکن ہوگا - جسقدر زیادہ مقاموں میں اِن دونوں قسموں میں سے کسی
قسم کی دعوت یا دونوں قسم کی دعوتیں کیجائیں اُسیقدر زیادہ مناسب ہے
عالیجناب نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل کی رائے میں اُن دعوتوں
اور تفریح کے کاموں کا خرچ لوکل جماعتوں کے روپیہ سے اور عام طور پر لوگوں

کی فیاضی سے ہونا مناسب ہے کیونکہ گورنمنٹ ہند کی رائے میں اُن کے لئے اس موقع پر اپنی خیرخواہی اور وفاداری کے ظاہر کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ نہیں ہے کہ آتشبازی یا اور تفریح اور تماشے کی چیزوں کا جن سے سب لوگ خوش ہوں گے سامان کریں یا اُس جگہ کے غریب لوگوں کو جو جمع ہوں کھانا تقسیم کریں یا شہر یا قصبہ یا گاؤں کے سکول کے بچوں کی دعوت کریں۔

جنوری کی پہلی تاریخ کے بموجب ایکٹ دستاویزات قابل خرید و فروخت تعطیل قرار دی گئی ہے اور اس سے پہلے کے آٹھ دن میں پانچ دن اس ایکٹ کے بموجب تعطیلیں ہونگی۔ جناب نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل کو افسوس ہے کہ اُس عرصہ میں جبمیں دہلی میں اس تقریب کے متعلق خوشی کا جشن ہوگا اس ایکٹ کے بموجب اور تعطیلوں کا اعلان کرنا ممکن نہ ہوگا کیونکہ اس سے تمام ملک کے عام کاروبار میں ابتری اور تجارت پیشہ لوگوں کو دقت ہوگی۔ اسوجہ سے عالیجناب نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل نے یہ طے کر لیا ہے کہ اُس ایکٹ کے بموجب کسی اور تعطیل کا اعلان نہ کیا جائے مگر جناب موصوف ہدایت فرماتے ہیں کہ اس شرط کی پابندی سے کہ ضروری کام کے ہونے کا انتظام کر لیا جائے۔ سب سرکاری دفاتر جو گورنمنٹ ہند کے ماتحت ہیں سوائے اُن دفتروں کے جن کا کھلا رہنا تجارتی کاروبار کے مناسب طور پر انجام پانے کے لئے ضرور ہے ۲ جنوری سے ۹ جنوری سنہ ۱۹۰۳ء تک بشمول اُن دونوں تاریخوں کے بند رہیں اور جناب موصوف لوکل گورنمنٹوں اور منتظمان ملک سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسی قسم کے حکم اُن دفتروں کے لئے دیں جو اُن کے ماتحت ہیں۔

دستخط۔ جے۔ پی۔ ہیوٹ
سکرٹری گورنمنٹ ہند

فارم (نمونہ) سارٹیفکٹ کا۔ بموجب ارشاد عالیجناب نواب وائسرائے وگورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل کے یہ سارٹیفکٹ اعلیٰ حضرت والا مرتبت ملک معظم ایڈورڈ ہفتم قیصر ہند دام اقبالہم کی طرف سے (یہاں پر نام اور ولدیت اور تفصیل عہدہ یا پیشہ وغیرہ درج کرنا چاہئیے) کو (اس مقام پر نوعیت خدمات کی یا وُہ وجوہ جن کی بناء پر سارٹیفکٹ دیا جاتا ہے درج کرنی چاہئیں) کے صلہ میں عطا کیا جاتا ہے۔"

اخراجات دربار۔ جس پیمانہ پر دہلی کا یہ عظیم الشان دربار تجویز کیا گیا تھا۔ اسکے لئے جسقدر اخراجات کی ضرورت تھی۔ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ مگر نظر بحالاتِ ملک وائسرائے صاحب کی دلی خواہش یہی تھی۔ کہ جہاں تک کفایت سے کام لیا جانا ممکن ہو لیا جائے۔ چنانچہ بہت سی اشیاء عاریتاً منگائی گئیں۔ اور بہت سی کرایہ پر لی گئیں۔ صرف نہایت سستا سامان خرید نے یا مزدوری کے نقد دینے کی منظوری تھی۔ اور ان سب کفایت شعاریوں کی وائسرائے صاحب خود نگرانی رکھتے تھے مگر پھر بھی اِن معمولی اخراجات کے لئے گورنمنٹ کو ساڑھے سینتیس لاکھ روپیہ منظور کرنا پڑا۔ جسپر اکثر اہل الرائے نے اعتراض کئے۔ کہ ایسے وقت میں جبکہ ہندوستان متواتر قحط و وبا کے حملوں سے کمزور اور بے جان ہو رہا ہو۔ اسپر ایسے اخراجات کا بوجھ ڈال دینا جو نمائش کی غرض سے کئے جائیں کسی طرح جائز نہیں۔ چنانچہ اِن اعتراضوں کو ہندوستان کے اخبارات کے سوا انگلستانی اخبارات نے بھی بڑے شدومد سے

لکھنا شروع کیا۔ جسپر آخر کار ۵ ستمبر ۱۹۰۲ء کو واضعان آئین و قوانین کی کونسل میں نواب وائسرائے صاحب نے ایک مطول اور مدلل تقریر اس دربار کی اہمیت اور اسکے اخراجات کی ظاہری و باطنی صورت کے متعلق ارشاد فرمائی۔ اور جس میں نہ صرف اعتراضوں کا جواب ہی دیا بلکہ دربار کے متعلق بعض انکشافات بھی فرمائے۔ لہذا اُس کا ترجمہ بھی درج کتاب کیا جاتا ہے۔

تقریر حضور وائسرائے

"میں آج کے موقع سے اُن اہم فرائض یا مجمع فرائض کی نسبت جو دہلی میں ادا ہونے والے ہیں چند الفاظ بیان کرنے کا فائدہ اُٹھانا چاہتا ہوں جو آیندہ چند ماہ کے اندر ہماری توجہ بہت کچھ اپنی جانب مبذول کرائینگے اور جو غالباً خاندان مغلیہ کے قدیم دارالسلطنت میں آیندہ ماہ جنوری میں ایک بے نظیر گروہ ہندی اصحاب کا یکجا کر دینگے حضور شہنشاہِ معظم کی تاجپوشی ولایت میں بخیر و خوبی ہو چکی ہے اور آج وہ ہمارے ویسے ہی بادشاہ اور شہنشاہ ہیں جیسے ملکہ معظمہ کی وفات کے دوسرے روز تھے۔ کوئی رسم اُن کے خطابات میں ایزادگی نہیں کرسکتی ہے اور نہ اُن کے مرتبہ کو زیادہ جائز قرار دے سکتی ہے۔ پس سوال کیا جاسکتا ہے کہ پھر ہم کو ہندوستان میں آپ کی تاجپوشی کا جشن کیوں کرنا چاہیے؟ میں خیال کرتا ہوں کہ عام رائے نے اپنے اطمینان کے مطابق اس سوال کا جواب دیدیا ہے۔ مگر شاید مجھکو بھی اس جواب میں چند الفاظ اضافہ کرنے کی اجازت دی جائے گی وہ عملدرآمد جو بادشاہوں کو اپنی رعایا سے عام جشنوں میں

قربت میں لاتا ہے اور وہ اظہار مسرت جو اس اعلیٰ مرتبہ کے حصول کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ بلکہ عزیز اور متبرک خیال کیجاتی ہے ہندوستان یا حصص ہند کے ہر ایک شہنشاہ نے سلف میں ایسا ہی جشن کیا تھا۔ ہندوستان کا ہر ایک سردار بلکہ نظراً زمیندار اور رؤسا بھی پیش کئے جا سکتے ہیں جو ایسے جشن کرتے ہیں تخت نشینی کا دربار اس ملک میں ایک جانب سے دوسری جانب تک مسلمہ اور مقبول رسم ہے۔ پس جو بات ہمارے سوشل مراتب کے ہر ایک درجہ میں ہوتی آئی ہے۔ ضروری اور پسندیدہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کیحالت میں بھی وہ بدستور قائم رہے۔ یہی بالذات اس رسم میں بجالانے اس واقعہ کے کہ یہ صرف باضابطہ تسلیم کرنا اس امر کا ہے کہ ایک بادشاہ نے انتقال کیا اور دوسرا جانشین ہوا۔ اور کچھ زیادہ بھی پاتا ہوں گو کروڑ ہا رعایا کو جو دور و دراز پڑی ہے اور محدود زندگی بسر کر رہی ہے اُن کے لئے یہ جشن تاجپوشی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن شہنشاہ اور رعایا کے درمیان یکساں فوائد کا ثبوت جو یہ فرض پیش کرتا ہے اور جسکو یہ ہر وقت زندہ رکھتا ہے نہایت اہم و ضروری ہے۔ سوسائٹی نے ہر ایک زمانہ میں ایک ایسے سردار کی تلاش کی ہے جس کے روبرو وہ سر تسلیم خم کرنے کو مستعد ہوئی ہے اور بادشاہی ایک ایسا مقبول عام شغل ہے جسکو انھوں نے عام طور پر خوشی سے اختیار کر لیا مگر جسقدر اعزاز رعایا کی نظروں میں خوشی سے مقبول ہوتا ہے صرف ضابطہ و رسم کی پابندی سے نہیں ہوتا۔ جسقدر بادشاہ رعایا کا قائم مقام و نیز سردار ہوتا ہے۔ ایسی تقریبات سے بادشاہت و رعایا کا تعلق دونوں کے لئے

بیش قیمت ہو جاتا ہے ایک قوم کی زندگی و سرسبزی دنیا کے روبرو اُسکے شہنشاہ کی ذات میں پیش کیجاتی ہے اسکی ذات میں دو نو چیزیں متحد ہوتی ہیں اور وُہ ان دونو کی جانب سے گفتگو کرتا ہے۔ ہندوستان میں تاج برطانیہ کے زیر حکومت یہ پہلا موقع ہے جس میں یہ اتفاق ہوا ہے۔ کہ تمام بّرِ اعظم نے ایک شہنشاہ کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس قسم کے اتحاد سے قوم کی پولیٹیکل قوت اور اخلاقی شان بلاکسی مزاحمت کے بڑھجاتی ہے اور دنیا کی نگاہ میں اسکی اصلیت کے اظہار سے دونوں کی قدر افزائی ہوجاتی ہے۔ ایک اور امر ہے کہ جس کے لحاظ سے میں ایسے جشن میں ظاہری وقعت سے کچھ اور زیادہ خوبی پاتا ہوں اور وُہ یہ ہمارے اس ملک کی مختلف قسموں اور مختلف فرقوں اور مذاہب و ملت میں ایک ایسی بات جو ہم سب کو متحد کرتی ہے اور جو باتیں ہم میں اختلاف پیدا کرنے والی ہیں ان سب کو اتفاق کی زبردست قوت زیر کرتی ہے۔ وُہ بات صرف ایک حکمران کے ساتھ وفاداری کرنا اور ایک ہی سلطنت کے افراد ہونا اور ایک ہی سلطنت کے باشندے ہونا ہے۔ جس قدر زیادہ ہم کو اس امر کا حس ہوگا اسیقدر زیادہ ہمارے افراد کی زندگی اور اسیقدر زیادہ ہماری خوبی قسمت کا فیصلہ یقینی ہوگا۔ پس میں دہلی کی رسم کو ایک پاک اور شاندار عام رسم خیال کرتا ہوں جس سے اپنی قوت کا ثبوت ہمکو معلوم ہو جائے۔ اس سے صرف یہ تماشا کرنا مقصود نہیں ہے کہ چند گھنٹے تک ہمارے رؤسا یہاں کی شان دیکھکر چلے جائیں۔ اور بعد ازاں اسکو فراموش کردیں بلکہ میرے خیال میں لارڈ لٹن سابق وائسرائے نے جب عہد سلطنت برطانیہ میں پہلی مرتبہ ایسا دربار شاہی منعقد کیا

تھا جیسا منعقد کرنے کا ہمارا ابھی قصد ہے اور گو وہ دربار مختلف حالتوں میں اس مجوزہ دربار سے کم درجہ کا تھا لیکن اُسنے ایک ایسی نظیر پیش کر دی تھی کہ جس سے مدبّری اور جولانیٔ ذہانت کا ثبوت ملتا ہے مجھکو اسمیں شبہ نہیں ہے کہ یکم جنوری ۱۸۷۷ء کے شاہی دربار سے بہت کچھ فایدہ حاصل ہوا تھا اور خداوند تعالیٰ کی برکت سے میں اس امر کا یقین واثق رکھتا ہوں کہ بجنسہٖ بلکہ اُس سے بھی بڑھے ہوئے نتائج یکم جنوری ۱۹۰۳ء کے رسم دربار سے پیدا ہوں گے ۔ درحقیقت یہ موقع نہایت پاک اور تاریخی ہو جاتا اگر شہنشاہِ معظّم خود اس موقع پر موجود ہونے کے قابل ہوتے اور تمام ہندوستان کا مقدّس و مسلّمہ تاج اپنے سر پر رکھتے ۔ چنانچہ عرصہ دراز گذرا ہے جب ہم اوّلاً یہ تجاویز تیار کر رہے تھے تو میں نے یہ طرح اس دربار کا حضور پُر نور کی خدمت میں پیش کرنے کی جرأت کی تھی ۔ یہ خیال حضور کو نہایت پسند آیا تھا اور اسکے انجام دینے کے قابل ہونے میں اُن کو از حد خوشی ہوتی کیونکہ حضور ممدوح کو اس ملک سے ہمیشہ بہت اُلفت رہی ہے اور میں یہ بیان کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ حضور کو تمامی ہند کے اوّلین شہنشاہ ہونے کا اُسیقدر فخر حاصل ہے جسقدر ملکہ معظمہ متوفیہ کو یہاں کی اوّلین ملکہ ہونے کا فخر تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ وظایف سلطنت میں زیادہ تر مشغول رہنے سے حضور شہنشاہ معظم اُس قدر ہفتوں تک جتنے اس رسم کے لئے درکار رہیں گے انگلستان سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے ۔ جسکی وجہ سے حضور ممدوح اس خواہش کے پورا نہ کرنے اور انکار کرنے کے لئے مجبور ہوئے ورنہ آپ ضرور تشریف لاتے ۔ مگر میرے خیال میں دوسرے درجہ پر یہ خبر بھی نہایت خوشی سے

سنی جائے گی کہ حضور پُرنور نے اپنے بھائی ڈیوک اوف کیناٹ
کو آیندہ دربار میں بحیثیت قائمقام خاندانی شرکت کے لئے منتخب فرمایا ہے
حضور ڈیوک اور ڈچس صاحبہ کی موجودگی جنہوں نے اس ملک میں بہت
سے سال خوشوقتی سے صرف کئے ہیں اور جن کے ساتھ ہر طبقہ کی
رعایا بہت زیادہ الفت رکھتی ہے۔ ہماری کارروائیوں میں وہ شان
پیدا کر دے گی جو انکی عدم موجودگی میں ہرگز پیدا نہ ہوتی بالخصوص تمام ہند
میں شہنشاہ معظم کی ذاتی دلچسپی کا خیال گھر گھر میں پیدا ہو جائے گا اور
یہ محسوس کرینگے کہ بھائی کی موجودگی سے ایک طرح گویا خود شہنشاہ نے اپنے
آپ کو موجود فرما دیا کیونکہ ان کے امکان میں نہ رہا تھا کہ خود شریک ہوتے
یا شہزادہ ولیعہد بہادر کو شرکت کے لئے روانہ کرتے رجن کا ہم بعد میں خیر
مقدم کرنے کی امید کرتے ہیں) لہذا شہنشاہِ معظم نے ہندوستان
پر اپنی بے حد ہمدردی اور عنایات ثابت کرنے سے یہہ بہتر تدبیر نکالی
ماسوا اسکے ایک اور امر بھی ہے جسکے لحاظ سے میں خیال کرتا ہوں کہ ایک
ایسا منتخب مجمع جیسا کہ دہلی میں ہوگا نہایت مفید چیز ہے کیونکہ ہندوستان
میں کمزوری کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے
بالکل علیحدہ ہے۔ ہر ایک صوبہ ہر ایک دیسی ریاست اپنے ہمسایوں
سے کم یا زیادہ مستحکم سدِّ راہ سے مسدود ہے۔ ریل کی وسعت اور سوشل
قیود کی ترقی ان سدِّ راہوں کے توڑنے کی جانب رجوع ہے مگر پھر بھی
وہ اسوقت تک نہایت مستحکم ہیں۔ جو راجے جنوب میں رہتے ہیں
انہوں نے شاید ہی کبھی اپنی زندگی میں شمالی ریاستوں کی سیر
کی ہوگی یا ان کو دیکھا ہوگا۔ کیونکہ اس آخر الذکر گروہ میں شاید ایسے

سرداربھی شامل ہیں جو کبھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے - پس
ایسی حالت میں یہ بات نہایت عمدہ ہوگی کہ ان کو ایک دوسرے سے
شناسائی پیدا کرائی جائے اور وہ تبادلہ خیالات کریں مگر کوئی ایسا عمدہ
طریق سب کے یکجا ہونے کا ممکن نہ تھا جب تک سرکار کی جانب سے
ہی ان کو ایسا موقع نہ دیا جائے - اگر ہم براعظم یوروپ کیجانب نظر ڈالیں
تو ہمکو معلوم ہوگا کہ یکساں حقوق کی ترقی اور صلح کل مسائیل میں وہاں اُس
وقت سے کیسی ترقی ہوگئی ہے - جب سے یوروپ کے فرمانرواؤں نے
اہم مواقعات پر ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اختیار کرلیا ہے یہ اسی کا
نتیجہ ہے کہ جہاں سلف میں ذرہ سے شبہ پر وہ اپنی افواج میدان جنگ
میں لے آیا کرتے تھے وہاں آج وہ آپس میں گفتگوؤں میں فیصلہ کرلیتے
ہیں اور باضابطہ دعوتوں میں ایک دوسرے کا جام صحت نوش کرتے
ہیں - سلف میں یونان نے بھی ایک عجیب طریق سے ایسا ہی کیا تھا -
کیونکہ اس امر میں شبہ نہیں ہوسکتا ہے کہ وہ قومی حس جس نے ان
تمام ریاستونکو متحد کرکے اس قابل بنا دیا تھا کہ قدیم دنیا کی زبردست
جنگی سلطنتوں کے مقابلہ کی تاب لاسکیں زیادہ تر اس کو نشو و نما اُن
ہی ہیلینک مجمعوں میں ہوتی تھی جو آلمپک کھیلوں کے نام سے نامزد کیئے
جاتے تھے - اس ملک میں میں خیال کرتا ہوں کہ برٹش حکام کا مختلف
صوبجات سے آکر ایک دوسرے سے ملنا بھی اسیقدر مفید ہے - مدراس
میں بہت سے ایسے آدمی ہیں جنہوں نے پنجاب نہیں دیکھا ہے یا
بمبئی میں بھی ایسے ہیں جو بنگال سے ناواقف ہیں - ہندوستان میں صرف
وائسرائے ہی ایک ایسا آدمی ہے جسکو تمام ملک سے واقف ہونے کا موقع

حاصل ہے اور جو ایک دوسرے کا موازنہ کرکے جانچ کرسکتا ہے لوگ شکایت کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ میں یکسوئی نہیں ہے مگر میں اُن کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہندوستان میں طریقہ وتجاویز نظم ونسق کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا نہایت ہی عجیب بات ہے۔ گو میں وُہ شخص نہیں ہوں جو اُن کو بالکل مٹانا چاہتا ہو لیکن میں اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ دربار دہلی کا ایسا موقع جہاں سپاہی اور سویلین ہندوستان کے تمام حصّص سے آکر یکجا ہوں گے۔ (چند گھنٹوں یا ایک روز کے لئے نہیں بلکہ ۵ روز کے لئے) اور جہاں وُہ اپنے تجربات ایک دوسرے سے ملا سکتے اور تبادلہ خیالات کرسکتے ہیں اپنے سرکار سے اور اس نظم و نسق کے لئے جسمیں وُہ کام کر رہے ہیں غرضکہ دونوں کے حق میں بے انتہا فوائد سے معمور ثابت ہوگا۔ مجھکو یہی معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اپنے شہنشاہ کے سامنے سرِتسلیم خم کرنے کے یہ خاص فوائد اس دربار سے ہندوستان کو حاصل ہوں گے جیساکہ سب کو معلوم ہے۔ میں نے اس موقعہ سے عملی طور پر فائدہ حاصل کرنے کی اور بھی زیادہ کوشش کی ہے اسوقت ہندی دستکاریوں کی نمائش کا انتظام دہلی میں کرکے میں اعتماد کے ساتھ عوام کو اس امر کا یقین دلا سکتا ہوں کہ وُہ نمائش کی خوبی شان اور انواع واقسام کی چیزیں دیکھکر از حد خوش ہوں گے۔ آیا یہ امر صحیح ہے کہ ہندوستان کی قدیم دستکاریاں یوروپین مقابلہ سے مٹ رہی ہیں۔ یہ الزام بارہا وُہ لوگ عائد کیا کرتے ہیں جو خود اُن کو زندہ رکھنے کی مطلق کوشش نہیں کرتے ہیں یا وُہ اس بے پروائی سے مفقود ہو رہی ہیں۔ یا ہندوستان صرف جیساکہ مجھکو شک ہے ایک عالمگیر

قانون کی تمثیل پیش کرتا ہے لیکن یہ بات ضرور ہے جیسا بہت سے لوگوں نے مان لیا ہے کہ دستکاریاں اس حد تک مفقود نہیں ہوئی ہیں اور دستکار اب بھی ہندوستان میں باوجود موجودہ تجارتی معیار اور خراب مذاق کے ایسے موجود ہیں جو اگر اُن سے مانگ ہوتی تو خوشنما خوبصورت اور عجائب چیزیں بہم پہنچا سکتے ہیں۔ میں یہ ادعا نہیں کرسکتا کہ ایک نمائش کے قیام سے یہ بات پیدا کردوں گا لیکن اگر فی الحال اسکا ایسا وجود قایم ہوجائے جیسا کہ میں چاہتا ہوں اور اگر خراب وخستہ حالت میں نہ ہو تو ہم اس موقع کے ذریعہ سے اُن کو از سرنو زندہ کرنے اور ترقی دینے میں بہت کچھ کرسکتے ہیں کیونکہ میں اُمید کرتا ہوں کہ ہم دونوں باتیں کرسکتے ہیں۔ دنیا پر مشتہر کرسکتے ہیں کہ ہم کیا تیار کرنے کے قابل ہیں اور نیز یہ بات جو سب سے ضروری ہے کہ بنانے والوں کا حوصلہ بڑھائیں اور باشندگان ملک میں مذاقِ خریداری پیدا کریں۔ اب میں اس معاملہ کے ایک اور زیادہ عملی پہلو پر چند الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یعنے ہندوستان کی آمدنی پر اس کا کسقدر بار ڈالا جائے گا۔ میں نے وہ نقشجات دیکھے ہیں جو اسکے متعلق بنائے گئے ہیں اور اُنہوں نے مجھ ایسے سخت دل آدمی کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ بعض اطراف میں یہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ دربار کیوجہ سے ہندوستان پر کم از کم ایک کروڑ روپیہ کا بار پڑے گا اور ایک ذمہ وار اخبار میں میری نظر سے گذرا کہ لارڈ کرزن فضول نشان اور تماشے میں ۳ کروڑ روپیہ ضایع کرنے والے ہیں۔ اکثر اوقات خاصکر میری آگاہی کے لئے ہمارے قدیم دوست نیرو کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ جب

روم میں آگ لگی ہوئی تھی تو وہ حضرت بانسری بجا رہے تھے۔

خیر اوّل تو میں اس رجحان کو بُرا سمجھتا ہوں کہ سرکار کے ہر ایک کام پر خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اسکی واہیات جانچ روپیہ آنے اور پیسوں سے کیجاوے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کے لئے بہت کچھ صرفہ بھی کم ہے اور اسی طرح اور باتیں بھی ہیں جن کے لئے بہت کم صرفہ کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اس امر کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان تنگ خیالات کا اثر ہر ایک شخص پر نہ پڑے گا۔ لیکن بہر حال اس دلیل میں بہت کچھ صداقت اور سنجیدگی ہے کہ خواہ کیسا ہی ضروری اور پسندیدہ کام ہو لیکن پبلک کا روپیہ اس میں فضول برباد نہ کرنا چاہیئے۔ یہ عذر مجھکو ایسا معقول معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کا معقول جواب دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ عذر دو فرقہ کے اصحاب کیجانب سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو خیال کرتے ہیں کہ جب حصص ہند قحط و گرانی میں مبتلا ہیں تو دہلی میں مطلق روپیہ صرف نہ کرنا چاہیئے۔ اور دوسرا وہ لوگ جن کو یہ فکر ہے کہ اگر روپیہ صرف کیا جاتا ہے تو زیادہ صرف نہ ہو۔ میں پہلے فرقہ کے متعلق اولاً بحث کرونگا یہ بات سچ ہے کہ چند ہفتوں کا عرصہ گذرتا ہے کہ ہمکو سخت فکر اور پریشانی تھی کہ دیکھئے گجرات۔ حصص دکن۔ اجمیر۔ اور بعض صوبہ جات وسطی ہند اور پنجاب میں ہمارے لئے کیا ہونے والا ہے لیکن میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جب سے میں ہندوستان میں آیا ہوں گذشتہ تین ہفتے میں نے نہایت بشاشی کے ساتھ گذارے ہیں۔ کیونکہ اُن خطوں میں جہاں بارش کی ضرورت تھی۔ متواتر باران رحمت ہونے سے یقیناً ہم کو آئندہ

موسم سرما میں اصلی اور وسیع قحط کے خوف سے نجات مل گئی ہے۔ اور گو ہمکو کہیں کہیں آفت کا سامنا بھی ہو لیکن ایک قومی آفت کی شکل میں کوئی بات ہم کو خوف نہیں دلا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ بارش نہ ہوئی یا اب بھی میری یہ پیشین گوئی غلط ہے تو کیا کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی یہ فرض کر سکتا ہے کہ چونکہ ہم کئی لاکھ روپیہ دہلی میں صرف کرنے والے ہیں۔ لہذا دیگر حصص ہند میں قحط زدوں کی امداد اور پرورش کے لئے ضرورت سے ایک پیسہ بھی کم صرف ہوگا؟ ۱۸۹۹ء کے قحط کے شروع میں میں نے گورنمنٹ کی جانب سے اس امر کا یقین دلایا تھا کہ مصائب قحط کم کرنے اور انسان کی جان بچانے کے لئے ایک روپیہ بھی نہ بچایا جاوے گا۔ چنانچہ اس وعدہ کو ہم نے ایمانداری کے ساتھ پورا کیا اور اگر اسوقت یا دربار دہلی کے وقت قحط نازل ہو تو ہم کو سرکاری خزانہ سے ایک آنہ بھی لینا نہ چاہیئے جو غربا کی امداد میں صرف ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا خیال ہمکو سب سے زیادہ ہے اور ہمکو یہ خیال کرنا چاہیئے کہ اُن کا لحاظ رکھنا ہی ایک عزت کا فرض ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں معترضین کے دوسرے فرقہ کا جواب دیتا ہوں جنہوں نے اس امر کو تو تسلیم کر لیا ہے کہ دربار میں ضرور کچھ خرچ ہونا چاہئے۔ لیکن اُن کو یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرفہ بہت بڑھ جاوے مجھکو اسقدر یاد ہے کہ ۱۸۷۶ء میں لارڈ لٹن کے زمانہ کے موقع پر بھی ایسے ہی اعتراضات ہوتے تھے اور اسوقت اس سرزمین میں قحط بھی پڑا ہوا تھا اور ہندوستانی اخبارات و نیز ولایت کی پارلیمنٹ میں لارڈ لٹن کی فضول خرچی کی زور و شور کے ساتھ ملامت بھی ہوئی تھی مگر پھر بھی

لارڈ لٹن کے کئی حسابات میں نے دیکھے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب سب حساب بیباق ہوگیا تھا تو دربار دہلی کے متعلق ہندوستان کا پچاس ہزار پونڈ صرف ہوا تھا اور تمامی ہند میں مع دہلی کے اُس موقعہ پر جشن اور خوشی منانے میں ایک لاکھ پونڈ صرف ہوئے تھے ایک طرح ہم اسوقت اِس سے مختلف حالت میں ہیں۔ ۱۸۷۷ء کا دربار دہلی سراسر سرکاری دربار تھا میں نے آیندہ دربار میں تمام حصص ہند سے سربرآوردہ فرقوں کے قایم مقاموں کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اُسکو نہ صرف ایک سرکاری بلکہ پبلک جشن بنانا چاہتا ہوں اِس سے مطلب یہ ہے کہ آیندہ موسم سرما میں دہلی میں بہت زیادہ کمپ اور مہمان ہوں گے۔ جسکا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بمقابلہ ۱۸۷۷ء کے اسمیں بہت زیادہ صرف ہوگا۔ کیونکہ علاوہ ہمارے ذاتی انتظامات کے ۲۵ سال کے عرصہ میں جو کچھ سوشل ترقی و ذرایع آمد و رفت میں وسعت ہوئی ہے۔ اُسکے دیکھتے ہوئے سابق سے زیادہ ایک جم غفیر وہاں جمع ہوگا۔ قریباً ہر ایک شخص وہاں جانا چاہے گا اور دراصل جو شمار درحمل وہاں موجود ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ یہ تمام خوبیاں ہمارے انتظامات کو بڑھا دیں گی۔ مگر باوجود اِن باتوں کے میں پبلک کو اِس امر کا یقین دلانا چاہتا ہوں جن کو اِس امر سے واقف ہونے کا حق ہے کہ مجوزہ انتظامات نہایت ہی کفایت شعاری اور بامعاملہ ڈھنگ پر جاری ہیں مجھکو یہ یاد ہے کہ قبل انگلستان سے اِس طرف روانہ ہونے کے میں نے لارڈ سالسبری کو دہومنشن ہوس میں ایک اسپیچ میں ہمارے آیندہ کمانڈر انچیف لارڈ کچنر کی یوں تعریف کرتے ہوئے

سُنا تھا کہ آپ میں تجارتی اصُول پر فوجکشی کرنے کی قابلیت ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ دربار دہلی کے متعلق ہم اپنی روح کو بھی ایسے خوشامد کے الفاظ سے خوش کر سکتے ہیں۔ تمام عمارات اور عارضی مکانات جو دہلی میں خاص اس مجمع کی غرض سے تیار ہو رہے ہیں ایسی چیزوں کے بنائے جا رہے ہیں جن کی قیمت بعد اس دربار کے بھی قائم رہے گی اور عام طور پر فروخت ہو جائے گی۔ بہت سی حالتوں میں جو کچھ خرچ ہوگا اُس کا ۸۰ یا ۹۰ فی صدی اس طرح وصول ہو جانے کی اُمید کی جاتی ہے۔ خیمے گاڑیاں اور گھوڑے جو بکثرت اسقدر مہمانوں کی آرام و آسائش کے لئے بنوائے یا جمع کئے جائیں گے۔ بعد میں اسیطرح فروخت بھی ہو جائینگے۔ اور اِن چیزوں میں بہت سی حالتوں میں ہمکو پُورے سو کے سو وصُول ہونے کی اُمید ہے۔ کیمپوں اور قلعہ کی روشنی کے لئے جو بجلی کی روشنی کا سامان کیا گیا ہے وُہ اِن کلوں کا ایک جزو ہے جو محکمہ جنگ نے ہندوستان کی بارکوں میں بجلی کی روشنی کرنے کے لئے منگائے ہیں۔ کیونکہ ایک ذرہ ذرہ سی چیز کا انتظام ہم اس طریقہ پر کرتے ہیں کہ روپیہ برباد نہ ہوگا۔ بلکہ کسی نہ کسی شکل میں وُہ پھر ہمارے پاس واپس آ جائے۔ اب میں سرکاری ریلوں کا تذکرہ کروں گا۔ خواہ ہم خود اُنکو چلائیں یا دوسروں کی معرفت۔ لیکن منافع کل یا اُس کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ معترضین سے کہا جائے کہ واویلا مچانے سے پہلے وُہ دسمبر۔ جنوری اور فروری کی محاصلات ریلوے دیکھنے کے منتظر رہیں تو مجھکو از حد تعجب ہوگا اگر گورنمنٹ نے جو کچھ صرف کیا ہے اُس کا اچھا حصہ پھر گورنمنٹ کی جیب میں نہ داخل ہو جائے گا۔

ڈاک خانے اور تار گھر بھی ہیں جن کا منافع گورنمنٹ کے خزانہ میں داخل ہوتا ہے اور جس سے ہمکو بہت کچھ محاصلات وصول ہوں گے۔ آخر میں میں انکو مخاطب کروں گا جو یہ سمجھ کر کہ جسقدر صرف ہو رہا ہے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ایسے خوف زدہ ہو رہے ہیں کہ آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے کہ تمام حصص ہند میں مہینوں پیشتر سے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میں بیان کرتا ہوں کہ لاکھوں ہندوستانی کاریگر اور صناع دربار کی طیاری میں پوری مزدوری پا رہے ہیں اور دن بھر کام کرتے ہیں۔ آپ کانپور جبلپور اور لاہور کے کپڑے کے کارخانوں میں دیکھئے جہاں دربار کے لئے خیمے تیار ہو رہے ہیں۔ کارخانوں میں جائیے جہاں گھوڑوں کا ساز اور کاٹھیاں تیار ہو رہی ہیں۔ گاڑی والوں کے ہاں دیکھئے سینکڑوں وکٹوریا گاڑیاں اور لینڈو تیار ہو رہی ہیں۔ قالین کے کارخانوں میں جاکر دیکھئے تو دربار کے لئے دریاں و اونی قالین بنے جا رہے ہیں۔ سامان آرائش طیار کرنے والوں کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو خیموں کے لئے سامان تیار ہو رہا ہے۔ جس کسی دیسی ریاست میں آپ جائیں وہاں درزی اور زردوز دو چند کام کرتے ہوئے ملینگے کسی ایسے ہندی قصبے یا موضع میں جائیے جہاں کسی ہندی دستکاری کا وجود ہے اور اسوقت تک نشٹم پشٹم چلی جاتی ہے۔ وہاں آپ بڑھئی۔ سنار لکڑی۔ ہاتھی دانت اور پتھر کے نقاش رنگ ساز وغیرہ کو بدل وجان کام میں مشغول پائینگے۔ ان تمام مقامات پر آپ جائیے اور بعد از اں اس امر پر رائے قایم کیجئے کہ ہندی کاریگروں پر دربار دہلی کا کیا اثر پڑا۔ فرض کیجئے کہ ہم اپنے بعض دوستوں کی رائے پر چلیں اور کل

ایک اعلان اس امر کا جاری کر دیں کہ دربار کی طیّاریاں ملتوی کر دی گئیں ہیں تو میں اس امر کی پیشین گوئی کرتا ہوں کہ اس ملک کے ایک جانب سے دوسری جانب تک اُسکے خلاف آواز سُنائی دے گی اور بلا ایک متنفس کو بھی فائدہ پہونچائے ہوئے ہم ہندی کاریگروں کو ایک ایسے عظیم موقع سے محروم کر دینگے جسکا حظ انکو کئی نسلوں سے حاصل نہیں ہوا ہے اور جسکو ہم اس طرح بیدردانہ واحمقانہ نقصان پہنچینگے پس اسطرح میں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ دہلی میں جو کچھ صرف ہوگا اُسکا ایک بہت بڑا حصہ برائے نام ہوگا اور جو ہم ایک ہاتھ سے خرچ کرینگے وہ دوسرے ہاتھ سے یا تو ہندوستان سے واپس لینگے یا اُسکو واپس دینگے۔ اب مجھے گذشتہ ماہ مارچ کے بجٹ کے اصلی اعداد پر بحث کرنے کی اجازت دیجئے ہم نے دربار دہلی کے لئے ½ ۲۶ لاکھ کی رقم قایم کی تھی یہ ہی وہ رقم ہے۔ جو بعض مضمون نگاروں کی خیالی جولانیوں میں ایک کروڑ سے تین کروڑ تک ہوگئی ہے۔ میں اس میں ۴۔لاکھ کی رقم جو نمایش کے لئے قایم کی گئی ہے۔ شامل نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ دلیل پیش کرنے کا شوق ہوگا کہ یہ پبلک کا روپیہ جشن تاجپوشی میں صرف کرنا ہے۔ زیادہ تر حصہ اس رقم کا وصول ہو جائے گا اور کسی سال میں خواہ جشن تاجپوشی ہوتا یا نہ ہوتا پبلک کا روپیہ اس طرح صرف کرنا نہایت دانشمندانہ اور مفید صرفہ ہوتا۔ میں ½ ۰ لاکھ کو بھی اس میں شامل نہیں کرتا ہوں۔ کیونکہ بلاشک ہمکو صرف دربار کے لئے اسقدر شمار عظیم افواج کا دہلی میں لاکر اسقدر صرف کرنا نہ چاہئے۔ خاصکر یہ رقم جنگی قواعد میں صرف

ہوگی جو موجودہ جنگی تعلیم کا لازمہ ہے اور یہ قواعد ماہ دسمبر میں ہوگی۔ اور یہ قواعد ویسی ہی ہوگی جیسی کہ **لارڈ ڈفرن** نے دہلی کے گرد و نواح میں بلا خیال کسی دربار یا جشن تاجپوشی کے ۱۸۸۶ء میں کی تھی۔ علاوہ ۲۶½ لاکھ کو وہ رقم باقی رہیں جو لوکل گورنمنٹیں اپنی تیاریوں صرف کرینگی اور کل رقم یقیناً واپس ملجائیگی۔ اسوقت بلاشک یہ ناممکن ہے کہ کل خرچ دربار دہلی کا پیشتر سے بتا دیا جائے۔ لیکن میں یہ ظاہر کرینگی پورے وثوق سے اُمید کرتا ہوں کہ اہپر (جیساکہ اس گرمی کے موسم میں دماغی جولانی سے خیال کر لیا گیا ہے) اس سے بہت ہی کم صرف ہوگا۔ مَیں نے کافی طور پر بیان کر دیا ہے کہ کوئی سرکاری رسم ہندوستان میں ایسی کفایت شعاری کے ساتھ ادا نہیں کی گئی ہوگی جیسی کہ دربار دہلی کی رسم ادا ہوگی۔ میں اس خیال کو روک نہیں سکتا ہوں کہ یہاں کے اخراجات کے متعلق جو جوش پھیلا ہوا ہے۔ اسکی نسبت مجھکو اُمید ہے کہ اس کے فرد کرنے میں مَیں کامیاب ہوگیا ہوں جو ایک حد تک اس خیال سے پیدا ہو رہا ہے اور جو تھوڑا عرصہ ہوا اس بات سے پھیلا ہوا تھا کہ شاید ہندوستان کو اُن ہندی مہمانوں اور فوجی رسالوں کا صرفہ دینا پڑے جو جشن تاجپوشی کی شرکت کے لیئے انگلستان روانہ ہوئے تھے۔ یہ ایسا معاملہ تھا جسپر گورنمنٹ ہند نے تھوڑا عرصہ ہوا ہوم گورنمنٹ سے خط و کتابت کی تھی اور اس تبادلہ رائے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم نے یہ سُنا کہ سکرٹری اوف اسٹیٹ صاحب نے امپیریل خزانہ کو ترغیب دی ہے کہ ہندی مہمانوں کے متعلق جو کچھ ولایت میں صرف ہوا ہے وہ کل اپنے ذمہ لے لے۔ اسمیں راجگان ہند کے قائمقاموں افواج

اور والنٹیروں کے قائم مقاموں کے مہمانداری کا صرفہ اور انڈیا آفس کی دعوت کا کل صرفہ شامل ہے۔ یہ اصول کہ ہر ایک ملک کو اپنے مہمانوں کا صرفہ خود دینا چاہیئے۔ میری رائے میں بلاشک و شبہ درست ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اصول قبول کر لیا جائے گا اور آیندہ اسپر عملدرآمد ہوا کریگا اب میں کافی طور پر بیان کر چکا ہوں۔ لہذا میں یہ ظاہر کرنے کی اُمید کرتا ہوں کہ نہ تو روم میں آگ لگی ہے (برخلاف اسکے میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ایک عظیم و درسرسبزی کے دوپر کھڑا ہے) اور نہ یقیناً نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ میں ہندوستان کی نسبت پیشین گوئی نہ کروں گا اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کون غیر معمولی اندرونی و بیرونی تغیرات ہمارے لئے ظہور میں آنے والے ہیں لیکن کسی ایسی بات کی اُمید نہ کرنا چاہیئے کہ جو غالباً عرصہ چند ماہ کے اندر اسوقت سے لے کر آیندہ ماہ جنوری تک مخل ہو اور دہلی کے مجمع عظیم میں ہمکو صفائی قلب اور خوشی اور خرمی کے ساتھ شریک ہونے سے روکے۔ ہمارے لئے صرف یہ کوشش کرنا باقی رہتی ہے کہ ہندوستان میں اس جشن کو انگلستان کے جشن سے جو حال میں وہاں ہوا ہے کسی طرح کم کامیاب نہ ہونے دیں۔ آیندہ ماہ جنوری میں دنیا کے بہت سے حصص میں بہت سی آنکھیں دہلی کیجانب لگی ہونگی اور ہمکو حضور شہنشاہ معظم کے بھائی صاحب کے روبرو نہ صرف اپنے بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا بلکہ دنیا پر یہ اثبات کرنا ہوگا کہ ہندوستان کہالت اور نیم مُردہ حالت میں نہیں ہے بلکہ روز افزوں قوت اور سرگرمی کے ساتھ زندہ اور سلامت ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ تمامی ہند ان رسوم میں یکدل و یکزبان ہو کر شریک ہوں اور ہماری دلی

خواہش اور امید ہے کہ جو لوگ دربار دہلی میں شریک نہ ہو سکتے ہوں
وہ ویسا ہی جشن اور دعوت اپنے مکانوں کے گرد و نواح میں کریں۔
ایک ذرہ سا معاملہ میری ذات کے متعلق بھی ہے جسکے بیان کرنے کی
شاید مجھکو قبل ختم کرنے اس تقریر کے اجازت دیجائے گی۔ کیونکہ اسکا
اثر بھی بہت وسیع پڑتا ہے۔ مجھکو معلوم ہوا ہے کہ بعض مقامات میں یہہ
فرض کر لیا گیا ہے کہ جونہیں دربار ختم ہوگا اور یہ تفکرات دور ہو جائینگے
میں غالباً اپنے عہدے سے استعفا دیکر ذاتی یا پولیٹیکل مقاصد کیلئے
ولایت واپس جاؤں گا بلا شک میں نہیں جانتا کہ گذشتہ دو سال کے اندر
کتنی مرتبہ ایسے قصے مشہور ہوا کیئے۔ ان افواہوں کے گھڑنے والے اور نیز جو انکے
درست ہونے پر یقین کرتے ہیں یہ خیال کر کے میرے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں کہ
جب تک میری کوششوں کا نتیجہ نہ نکلیگا میں محنت سے باز نہ آؤں گا۔ جبسے
میں ہندوستان میں آیا ہوں اسوقت سے ایک مرتبہ بھی میرے دل میں ایسا
خیال پیدا نہیں ہوا۔ بہرکیف شدنی واقعات کا لحاظ نہ کر کے جسکا اندازہ ابھی
نہیں ہو سکتا میرا ایسا قصد نہیں ہے چونکہ بہت کچھ کام جسکو میں نے اور
میرے ہم جلیسوں نے شروع کیا ہے اس وقت تک نا مکمل ہیں میں جسوقت
تک میں انسے امداد پاتا جاؤں گا جسمیں کسی وقت انکی جانب سے کمی نہیں
ہوتی ہے اور جسوقت تک میں تندرست ہوں اور مجھ میں اس کام کے جاری رکھنے
کی قوت ہے میں اس کام کو چھوڑ دینا فرائض منصبی سے بھاگنا خیال کرتا ہوں میرے
لیئے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا وہ کام ملک کے حق میں قابل انجام
دہی کے ہوگا یا نہیں لیکن مجھکو یہ کہنے کی اجازت دیجائے گی کہ بہرحال وہ
کام میری نظر میں ایک نہایت عظیم الشان اور پاک امانت ہے۔"

فصل دوم

طیّاری دربار

دسمبر کا مہینا ہندوستان بھر میں جس پرجوشِ مسرّت اور پُرخلوص اشتیاق سے گذرا ہے۔ نہ صرف وُہ یہاں کے باشندوں کو ہی ایک عرصہ دراز تک یاد رہے گا بلکہ صفحاتِ تاریخ میں بھی ہمیشہ خاص امتیاز کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ کیونکہ یہ دربارِ تاجپوشی جو صرف ایک سرکاری جشنِ مسرّت اور ایک عیسائی حکمران کا دربارِ تہنیت تھا۔ اسکی خوشیوں میں ہندوستان کے مختلف الاقوام مختلف المذاہب مختلف المراسم مختلف المذاق اور مختلف اللسان باشندے یکساں خلوص اور مشفقہ محبّت والفت کے ساتھ اسطرح مشغول و مصروف نظر آتے تھے کہ گویا ہر ایک کا ذاتی جلسہ ہے۔ اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ہندوستان کے تمام باشندوں کو کشمیر سے راس کماری تک یکدلی کے ساتھ کسی بات پر متفق کرنے والی اگر کوئی شئے ہے تو اپنے اِس شہنشاہ کی محبّت و اطاعت ہی ہے جبکا دربارِ تاجپوشی یکم جنوری کو ہونے والا تھا۔ اور جسمیں بقدر امکان ہر ایک نے بخوشی تمام حصّہ لے رکھا تھا۔

مہمانانِ دربار کو بلاوے کے مراسلات وغیرہ تو پہلے سے بھیجے جا چکے تھے۔ لیکن باقی درباریوں کی فہرستوں کے مرتّب کرنے کا کام ہر ایک لوکل گورمنٹوں کو سپرد کیا گیا تھا جنہوں نے بذریعہ اشتہار اپنے اپنے علاقوں میں مشتہر کرا دیا تھا۔ کہ جن معززین کو گورنمنٹ ہند سے دربار

کیلئے بلاوا نہیں بھیجا گیا ہے اگر وہ ارادہ شمولیت رکھتے ہوں تو لوکل گورنمنٹ سے درخواست کریں" اس اطلاع پر ہر ایک علاقے کے جن درباری اور سربرآوردہ اشخاص کی درخواستیں شرکت دربار کی غرض سے لوکل گورنمنٹوں میں پہنچتیں ان کی ایک منتخبہ فہرست وہاں کے چیف سکرٹری صاحب اپنے انتخاب سے طیار کرکے دربار کمیٹی کو بھیجدیتے۔ جہاں سے قریباً نصف ٹکٹ منظور کئے جاتے تھے اور اس لئے پھر دوبارہ لوکل گورنمنٹوں کو انتخاب الانتخاب کرنا پڑتا تھا جسکے بعد گویا دربار کا ٹکٹ صرف انہیں اشخاص کے حصہ میں آتا تھا جو ہر طرح سے اسکے لائق ہوتے۔ چنانچہ گیلری کے پیچھے کھڑے ہونے کے ٹکٹ جو غالباً لوکل گورنمنٹوں اور افسران منتظم کے اہل عملہ کے لئے تجویز ہوتے تھے۔ انکی اس قدر مانگ ہوئی کہ وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کو ہی میسر ہوسکے۔ مہمانوں کے ٹکٹ تو ہر ایک لوکل گورنمنٹ کے ذریعہ ان کے شہروں میں ہی بھیجدیئے گئے تھے لیکن غیر مہمان درباریوں اور وزیٹروں کو شرکت دربار کے ٹکٹ لوکل گورنمنٹوں کی وساطت سے دہلی کیمپ سے ہی ملتے تھے جس سے یہ مقصود تھا کہ صرف وہی لوگ ٹکٹ لے سکیں جو واقعی شریک دربار ہوں اور ٹکٹ لے کر استحقاق قایم کرنے والے حضرات حصول ٹکٹ کا فایدہ نہ اٹھائیں۔ شاملین درباریں سے دیسی مہمانوں کی مکمل فہرست اپنے موقع پہ درج ہوگی۔ جسکے انتخاب میں گورنمنٹ کے کارکنوں کو بہت سے تناسبات پیش نظر رکھنے پڑے ہونگے کیونکہ تمام ہندوستان کے درباریوں میں سے صرف تنے چند اشخاص کا انتخاب واقعی بڑا مشکل کام تھا۔ مگر عام طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قایم

خاندانوں اور پُرانے رئیسوں کی طلبی کا خیال زیادہ کیا گیا تھا - جس کی واقعی ضرورت تھی۔

بہادرانِ غدر کی یاد فرمائی - مہمانوں میں غدر کے بہادر افسروں اور سپاہیوں کو بھی طلب کیا گیا تھا - جسکو پبلک نے بڑی پسندیدگی سے دیکھا - کیونکہ یہی وُہ لوگ تھے - جن کی صادق کوششوں سے ہندوستان میں دوبارہ گورنمنٹ انگریزی کے قدم جمے تھے - چنانچہ وائسرائے صاحب کا خیال تھا کہ اس موقع پر تمام پنشن یافتگانِ غدر کو طلب کیا جائے مگر جب معلوم ہوا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے - تو پھر صرف اُن افسروں اور سپاہیوں کو طلب کیا گیا جو محاصرہ دہلی میں شریک تھے - انکی آمدورفت کا کرایہ اور فی یوروپین افسر ۵ روپیہ اور فی دیسی افسر ۳ روپیہ اور فی نن کمیشند افسران ۲ اور فی سپاہی ۱ روپیہ کے حساب سے الاؤنس سب گورنمنٹ نے اپنی جیب سے ادا کیا۔

ایڈیٹران اخبارات کے کھانے کا ٹھیکہ میسرز کلنر اینڈ کمپنی کو دیا گیا تھا۔

جاگیردار مہمانوں کو بھی اگرچہ باضابطہ طور پر یہ موقع دیدیا گیا تھا کہ اگر شریکِ دربار کے اخراجات کو اُنمیں سے کوئی صاحب بخوشی خاطر ادا نہ کر سکتے ہوں تو وُہ اپنی قسمت کے کمشنر صاحب کے ذریعہ گورنمنٹ سے مالی امداد لے سکتے ہیں - لیکن دیسی جاگیرداروں کا ادب و لحاظ اور سرکاری افسروں کا رعب وداب لیسے ورومندانہ احکام کی تعیل نہیں کرا سکتا گو گورنمنٹ ضابطہ کے طور پر تشکریہ کی مستحق ضرور ہو جاتی ہے۔

مہمانوں کی آمد آمد ۱۵ دسمبر سے دہلی میں شروع ہو گئی تھی اور

والیانِ ریاست کے اہلکا تو اُن کے خیمہ و خرگاہ کی درستی - چمن بندی اور آرائش کے لئے بہت پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے - چنانچہ ۱۵ دسمبر سے ۳۱ دسمبر ۱۹۱۱ء تک غالباً دہلی کے سٹیشن پر کوئی دس منٹ ایسے نہ گذرے ہوں گے جن میں کسی نہ کسی طرف سے کوئی ٹرین وہاں نہ پہنچی ہو سٹیشن بھی دوگنا کیا چوگنا کر دیا گیا تھا جسے رنگ برنگ کی جھنڈیوں اور بیلوں اور پھول پھلواڑی کی آرائش و زیبائش نے اس قدر خوبصورت کر رکھا تھا - کہ بیک نگاہ ایک ناواقف سے ناواقف بھی جان لیتا تھا کہ یہی اسکی منزلِ مقصود ہے -

دربار لایٹ ریلوے نہایت سرعت کے ساتھ بنا دی گئی تھی اور مختلف چھوٹی ریلوے لائنوں کے انجن اسکے واسطے کرایہ پر منگائے جا چکے تھے - موری دروازہ کے باہر سے دربار ہال تک پانچ میل کے فاصلہ کے لئے نو سٹیشن قرار دے کر اوّل اور دوم صرف دو درجے نامزد کئے گئے تھے - جس کا کرایہ درجہ اوّل کے لئے خواہ کوئی ایک سٹیشن تک جائے - یا اخیر تک - پورا آٹھ آنہ تھا اور درجہ دوم کا علیٰ ہذا چار آنے ۲۵ دسمبر سے ۱۰ جنوری تک پچیس دنوں کے لئے درجہ اوّل کے لئے سیزن ٹکٹ قیمتی پچیس روپے تجویز کیا گیا تھا جسکے ٹکٹ یافتگان ان ایام میں آمد و رفت کا ہر وقت اختیار رکھتے تھے -

عام انتظامات - گورنمنٹ کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ ہو رہے تھے - ڈاکخانے اور تارگھر ہر ایک کیمپ میں کھول دئے گئے تھے جنمیں گھنٹہ گھنٹہ بعد تقسیم خطوط کا انتظام ہو چکا تھا -

مشقی جلوس بھی بہت پہلے سے نکالے جا رہے تھے - تاکہ ٹھیک

گھوڑوں اور فوجی سپاہیوں کو اُس عظیم الشان دن کے لئے صفائی کے ساتھ شمولیت کی مشق ہو جائے۔ والیانِ ریاست کے ہاتھی گھوڑے اور سپاہی بھی جوں جوں دہلی پہنچتے جاتے تھے۔ اِن کو اِس جلوس میں شریک کر لیا جاتا تھا۔ علے ہذا باجے والوں کا بھی چونکہ ایام دربار میں بہت کام تھا۔ جسکے لئے دو ہزار چیدہ باجہ نواز طلب کئے جاچکے تھے لہٰذا انکی بھی مشقی باجہ نوازی مختلف مواقعات پر دیکھی جانے لگی چنانچہ نقلی جلوس کا نکلنا اور مشقی باجہ نوازی کا استماع اسقدر پسندِ عام تھا۔ کہ جسدن یہ نکلتے عموماً تمام بیرونی سیاح اور شہری آدمی اُنکے دیکھنے اور سُننے کو اِس تعدادِ کثیر میں جمع ہو جاتے۔ کہ واقعی سواری کا مزہ آجاتا۔ چنانچہ انہیں باتوں کا پہلے سے خیال کر کے جلوس کے دن کے لئے مقاماتِ گذرِ سواری پر شائقین کے لئے ٹکٹوں کی تجویز کر دی گئی تھی۔

آفیشیل ڈائرکٹری۔ اواخر دسمبر میں گورنمنٹ کے فارن اوفس پریس سے ایک چھوٹی سی ڈائرکٹری قیمتی تین روپے انگریزی میں چھاپ کر شائع کی گئی۔ جسمیں معزز مہمانوں کے جائے قیام اور شاملِ دربار افواج سرکاری کی فہرست کے علاوہ دربار کا پروگرام بھی درج کیا گیا۔ تاکہ شاملین کو اُسکے ذریعہ تمام جلسوں کے وقت اور جائے انعقاد وغیرہ سے پوری واقفیت ہو جائے۔ چنانچہ اِس کتاب کی اسقدر بکری ہوئی کہ ہر ایک کیمپ میں کئی کئی کتابیں خریدی گئیں۔ اور عام طور پر بھی دس وزیٹروں میں ایک کے ہاتھ میں یہ کتاب ضرور موجود تھی۔ غالباً اگر اسکا ایک اردو ترجمہ بھی شائع کر دیا جاتا

تو لوگوں کو اس سے بہت بڑی سہولیت ہو جاتی۔ کیونکہ اب تو کوئی ایک صاحبوں نے اس انگریزی کتاب کو محض بطور زینتن خرید رکھا تھا جو اسکے ترجمے کے لیے دوسروں کے محتاج تھے حالانکہ اُردو میں ہونے سے یہ دقتیں بالکل رفع ہو جاتیں۔ اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ انگریزی سے اُردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تو دوسری زبانوں کو بھی شکایت پیدا ہوتی۔ مگر بات یہ ہے کہ گو ہندوستان میں متعدد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن اُردو نے جو عالمگیر ترقی پائی ہے وہ کسی دوسری زبان حتےٰ کہ انگریزی کو بھی اب تک میسّر نہیں ہوئی۔ اور اُردو پڑھنے والوں کی تعداد کو تو شاید کسی وسیع پیمانہ پر محدود بھی کر دیا جا سکے۔ مگر سمجھنے والوں میں قریباً بلا استثناء سبھی باشندگانِ ہند شامل ہیں۔

عارضی ہسپتالوں کا بھی کیمپوں کے متصل انتظام ضروری تھا۔ چنانچہ وہ بھی نہایت اہتمام سے کیا گیا۔ بالخصوص طاعونی مریضوں کے لئے سگریگیشن کیمپ شہر سے معقول فاصلہ پر بڑے پیمانہ پہ طیار کر دئے گئے تھے۔

گورہ سپاہیوں کو داخلہ شہر کی ممانعت بھی کر دی گئی جو واقعی ایک بڑا دانشمندانہ حکم تھا۔ کیونکہ اِن کے آنے جانے سے اکثر شکایات ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں جو اگر اس موقع پر بھی ویسے ہی پیدا ہوتیں تو بڑی قابل گرفت بات تھی۔

پولیس ایکٹ۔ ایّام دربار کے لئے پنجاب گورنمنٹ نے باجلاس کونسل ایک پولیس ایکٹ بھی منظور فرمایا تھا جس کو کیمپوں کے حدود میں متعین کر کے ہر ایک علاقہ کے کیمپ میں الگ الگ سپیشل مجسٹریٹ

مقرر کر دیئے گئے۔ تاکہ جرائم معمولی کی سرسری طور پر سزا دیدینے سے ساتھ کے ساتھ مقدمات کا بھی فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ تکمیل کتاب کے لئے اُس مختصر ایکٹ کو بھی درج ذیل کیا جاتا ہے۔

یہ ایکٹ ۲۴ نومبر ۱۹۰۲ء کو نواب لفٹنٹ گورنر بہادر پنجاب کی کونسل سے اور پھر ۳ دسمبر ۱۹۰۲ء کو نواب گورنر جنرل و وایسرائے کشورہند کی پیشگاہ سے منظور کیا گیا تھا۔

"ایکٹ بغرض انتظام اُس رقبہ کے کہ جس پر دربار تاجپوشی کے موقع پر جو دہلی میں منعقد ہونے والا ہے مختلف کمپو ہائے واقع ہیں یا جو اُن کمپو ہائے کے گردنواح میں واقع ہے اور نیز کسی دیگر ایسے رقبہ کے جو میونسپلٹی دہلی کی حدود کے اندر واقع ہو اور جسکی لوکل گورنمنٹ تصریح کردے۔

ہرگاہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بغرض انتظام اُس رقبہ کے خاص اور عارضی احکام صادر کئے جائیں کہ جس پر دربار تاجپوشی کے موقع پر جو دہلی میں منعقد ہونے والا ہے مختلف کمپو ہائے واقع ہیں یا جو اُن کمپو ہائے کے گردنواح میں واقع ہے اور نیز کسی دیگر ایسے رقبہ کے جو میونسپلٹی دہلی کی حدود کے اندر واقع ہو اور جسکی لوکل گورنمنٹ تصریح کردے۔ لہذا حسب ذیل حکم صادر کیا جاتا ہے:-

مختصر نام اور وسعت | **دفعہ ۱-** (۱) جائز ہے کہ اس ایکٹ کو "ایکٹ پولیس دربار دہلی ۱۹۰۲ء" کے نام سے موسوم کیا جاوے۔ اور

(۲) یہ اس رقبہ سے متعلق ہوگا کہ جس پہ دربار تاجپوشی کے موقع پہ جو دہلی میں منعقد ہونے والا ہے۔ مختلف کمپو ہائے واقع

ہیں یا جو اُن کمپو ماؤنٹ کے گرد نواح میں واقع ہے اور نیز کسی دیگر ایسے رقبہ کے جو میونسپلٹی دہلی کی حدود کے اندر واقع ہو اور جس کو لوکل گورنمنٹ بذریعہ حکم اِس غرض کے لئے تجویز فرماوے۔

(۳) حکم مجریہ زیر دفعہ ضمنی (۲) بذریعہ اشتہارات عام مشتہر کیا جاوے جو اُس رقبہ میں کہ جس سے وُہ متعلق ہوگا نمایاں مقامات پر چسپان کیا جاویگا۔

بعض جرائم کی سزا جو اُس رقبہ کے اندر سرزد ہوں کہ جس سے یہ ایکٹ متعلق ہے۔

دفعہ ۲۔ (۱) جو شخص اُس رقبہ کے اندر کہ جس سے ایکٹ ہذا متعلق ہے مندرجہ ذیل عملوں میں سے کسی کے ذریعہ عوام الناس کے لئے تکلیف یا مزاحمت یا مضرت یا خطرہ پیدا کرے یا نقصان پہونچاوے یا حارج ہو۔

(الف) کسی جانور کو کھُلا چھوڑ دے یا چھوڑے یا چرائے یا چرانے کی اجازت دے۔ یا

(ب) مقررہ مقامات کے سوا دیگر مقامات پر پاخانہ یا پیشاب کرنے کے ذریعہ یا دیدہ دانستہ اور ناشائستگی سے اپنے بدن کو ننگا کرنے کے ذریعہ سے کسی امر مضر عامہ خلائق کا مرتکب ہو۔ یا

(ج) اُن مقامات کے سوا جو اِس مطلب کے لئے مقرر ہیں کسی دیگر مقام پر کوئی جانور ذبح کرے یا کسی لاش کو صاف کرے۔ یا

(د) کھلے طور پر گوشت لیجاوے۔ یا

(ہ) انسانی استعمال کے لئے کوئی کھانے کی شئے کسی ایسی جگہ پکاوے کہ جس میں یہ عمل کرنے کی اجازت نہ ہو۔ یا

(و) کسی پرائیڈ کی زمین یا کسی کمپو کی حدود کے اندر یا کسی دیگر محفوظ جگہ کے اندر مداخلت بیجا کرے۔ یا

(ز) ڈھول یا نقارہ بجائے یا بندوق چلائے یا کسی قسم کی آتشبازی چلائے۔ اور

(۲) جو شخص اُس رقبہ کے اندر جس سے کہ یہ ایکٹ متعلق ہے

(الف) کسی ضرر رسان مادہ یا کوڑا کرکٹ کو کسی ایسی جگہ رکھے یا اپنے نوکر کو رکھنے کی اجازت دے جو اس مطلب کے لئے تجویز نہ کی گئی ہو۔ یا

(ب) کسی کھانے یا پینے کی شئے کو جو انسانی استعمال کے قابل نہ ہو اس غرض کے لئے فروخت کرے یا فروخت کے لئے نمودار کرے یا اپنے قبضہ میں رکھے۔ یا

(ج) ذخیرہ آب یا آبرسانی کو بذریعہ نہانے یا اپنا بدن یا کپڑے دھونے یا اُس میں کوئی مضر مادہ یا کوڑا کرکٹ پھینکنے یا کسی اور طریق پر گندہ کرے یا کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے ذخیرہ آب کے گندہ ہونے کا احتمال ہو۔ یا

(د) پانی کو ضائع کرے۔ یا

(ہ) بلا مناسب منظوری کے کوئی مکان یا خیمہ یا جھونپڑی یا چھپر یا عمارت از قسم برآمدہ یا سائبان تعمیر کرے۔ یا

(و) کسی راہ نما کھمبہ یا لمپ یا ستون لمپ یا درخت یا جھاڑی یا کسی دیگر سرکاری یا میونسپلٹی کی شے کو ضرر پہونچائے یا توڑے یا گرادے یا کسی شارع عام میں کوئی روشنی بجھائے۔ یا

(ز) بلا جائز اختیار کے کسی مکان یا نشان یا خیمہ یا کھمبہ یا دیوا

یا ٹٹی یا درخت یا کسی دیگر شے کو خراب کرے یا اُس پر لکھے یا کسی اور طریق پر اُس پر نشان کرے۔ یا

(ح) بلا جائز اختیار کے کسی اشتہار یا دیگر کاغذ کو جو مجاز حاکم نے چسپان کیا ہو یا نمودار کیا ہو اوتارے یا تلف کرے یا خراب کرے یا کسی اور نہج پر مٹائے۔ یا

(ط) بلا جائز اختیار کے کوئی اشتہار یا نوٹس یا دیگر کاغذ کو کسی مکان یا نشان یا خیمہ یا کھمبہ یا دیوار یا ٹٹی یا درخت یا کسی دیگر شے پر لگائے یا لگوائے۔ یا

(ی) بدفعلی کے لئے درخواست کرے یا کسبیوں کے اشتہارات یا نوٹس تقسیم کرے۔ یا بجز اندرون حدود میونسپلٹی دہلی بدفعلی کی اغراض کے لئے کوئی مکان رکھے یا قایم کرے یا کسی ایسے مکان میں رہائیش رکھے اسغرض سے کہ کسبی کا پیشہ کرائے۔ یا

(ک) کسی چھوت والی یا متعدی مرض کے مریض کا تیماردار یا نگران ہونے کی صورت میں ایک مناسب وقت کے اندر طبی افسر کو جو اُس جگہ کے اہتمام پر ہو یا کسی دیگر افسر کو جسکو طبی افسر مذکور اسبارہ میں اختیار دے اُس مرض کی اطلاع دینے سے قاصر رہے یا غلط اطلاع دے یا کسی شخص کے امراض مذکور سے فوت ہو جانے کی اطلاع چھ گھنٹہ کے اندر نہ دے۔ یا

(ل) کسی جگہ ٹہل رہا ہو یا چھپا ہو یا ایسے حالات میں پایا جائے کہ جن سے یہ شک ہو سکے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا تھا یا اُسکے ارتکاب میں امداد کرنے والا تھا یا کہ وہ کسی جرم سے

ارتکاب کے لیئے موقع کا منتظر تھا - یا

(م) کسی افسر پولیس کی جائز ہدایات پر عمل کرنے میں قاصر رہے جائز حکم کی نافرمانی کرے یا کسی عہدہ دار پولیس کی اُس فرائض سے کے سرانجام دینے میں دیدہ دانستہ مزاحمت کرے۔

وُہ سزائے قید کا مستوجب ہوگا جسکی میعاد آٹھ یوم تک ہوسکتی ہے یا سزائے جرمانہ کا مستوجب ہوگا جسکی تعداد پچاس روپیہ تک ہوسکتی ہے

بعض ایسے جرائم کی سزا جن کا کسی کوچہ یا عام جگہ میں اس قبہ کے اندر ارتکاب کیا جاوے کہ جس سے ایکٹ ہذا متعلق ہے

دفعہ ۳۴ - جو شخص کسی کوچہ یا عام جگہ میں:-

(الف) ایسے وقت میں یا ایسے طریق پر کہ جسکی بذریعہ اشتہار عام مجریہ محکمہ پولیس یا دیگر حکام مجاز ممانعت کی گئی ہے کوئی گاڑی چلائے یا لے جائے یا کسی جانور پر سواری کرے یا اُس کو لے جائے یا پیدل چلے - یا

(ب) تیزی یا لاپروائی سے کسی جانور پر سواری کرے یا گاڑی چلائے - یا

(ج) اسصورت میں جبکہ کوئی ہاتھی یا اونٹ اُسکے سپرد ہو ایسی تمام معقول تدابیر کرنے میں غفلت کرے کہ جن سے گھوڑے نہ ڈریں - یا

(د) بغیر مناسب روشنی کے رات پڑنے کے بعد اور صبح نکلنے سے پیشتر کسی گاڑی کو چلائے یا لیجائے یا کھڑا رکھے - یا

(ہ) بلا حفاظت مناسب کسی گاڑی یا جانور کو کھلا چھوڑ دے - یا

(و) کسی جانور یا گاڑی کو مقررہ اُڈا کے سوائے دیگر جگہ پر اُس عرصہ سے زیادہ کھڑا رکھے جو اسباب لادنے یا اُتارنے یا

مسافروں کو چڑھانے یا بٹھانے کے لئے مطلوب ہوتا ہے - یا

(ز) کوئی عمارت تعمیر کرے کہ جس سے سڑک پر روکاوٹ پیدا ہو یا کوئی ایسی چیز فروخت کے لئے رکھے کہ جس سے سڑک رُک جائے یا

(ح) قواعد مرتبہ زیر ایکٹ ہذا کے بموجب لائیسنس حاصل کرنے کے بغیر کوئی چیز بیچتا پھرے - یا

(ط) اس صورت میں جبکہ نجاست اُٹھانے کے کام پر ہو بغیر مناسب برتن استعمال کرنے کے ایسا عمل کرے یا ممنوع اوقات میں یہ کام کرے یا نجاست کے کسی ایسے حصّہ کو اُٹھانے یا دیگر طرح پر بالکل دور کرنے میں غفلت کرے جو کسی کوچہ یا عام جگہ پر بہ جائے یا گر جائے یا

(ی) آوارہ پھرے یا خیرات مانگے یا خیرات لینے کی غرض سے کسی نقص بدنی یا بیماری یا کسی مکروہ ناسور یا زخم کو ننگا کرے - یا

(ک) بے وجہ یا بے رحمی سے کسی جانور کو مارے یا اُس سے کام لے یا اسکو تکلیف دے - یا

(ل) شراب پی کر فساد کرے یا شراب پی کر ایسا بدمست ہو جائے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے - یا

(م) لڑے - جھگڑے - یا کوئی ہنگامہ برپا کرے یا کوئی خوف دلانے والے یا زبون یا ہتک آمیز کلمات زبان سے نکالے یا دھمکی دینے والے یا ہتک آمیز طریق پر پیش آئے اِس نیت سے کہ عامہ خلایق کے امن میں خلل اندازی ہونے کی اغلب اُمید ہو - یا

(ن) جُوا کھیلنے کے لئے کوئی جگہ رکھے یا جُوا کھیلے یا کسی دیگر شخص یا اشخاص کو جُوا کھیلنے کی اجازت دے -

وہ ایسی قید کی سزا کا مستوجب ہوگا جسکی میعاد آٹھ یوم تک ہوسکتی ہے یا ایسے جرمانہ کی سزا کا جسکی مقدار پچاس روپیہ تک ہوسکتی ہے۔

تشریح اوّل۔ اس دفعہ میں لفظ "کوچہ" میں ہر راستہ۔ سڑک۔ گلی۔ چوک۔ راہ یا کھلی جگہ شامل ہے جو خواہ شارع عام ہو یا نہ ہو اور جسپر عوام کو عموماً اسوقت گذرنے کا حق خود بخود یا اجازتاً حاصل ہو۔ اور نیز ایک شاہ راہ اور پگڈنڈی بھی شامل ہیں جو کسی پل یا پل کے سروں کی اونچی سڑک کے اوپر ہوں۔

تشریح دوم۔ اس دفعہ کی اغراض کے لئے لفظ "گاڑیوں" میں بائیسکل و ٹرائیسکل و موٹر کار بھی شامل ہیں۔

بلا وارنٹ گرفتار کرنے کا اختیار

دفعہ ۴۔ کوئی پولیس افسر یا دیگر شخص کہ جسکو لوکل گورنمنٹ اسبارہ میں اختیار عطا کرے اُس شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کرنے کا مجاز ہے جو اُس کے سامنے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جو ایکٹ ہذا کی رو سے قابل سزا ہے۔

مگر شرط یہ ہے کہ کسی شخص کو جو اسطرح پر گرفتار کیا جائے اُسکا نام اور پتہ دریافت کرنے کے بعد روک نہیں رکھا جائے گا۔

نیز یہ شرط ہے کہ کوئی شخص جو اسطرح پر گرفتار کیا جائے اُس عرصہ سے زیادہ عرصہ کے لئے نہیں روکا جائے گا جو اسکو مجسٹریٹ کے روبرو لانے کے لئے ضروری ہو بجز اُس صورت کے کہ جبکہ مجسٹریٹ نے ایسا حکم دیا ہو۔

چوکی ہائے پولیس کی حدود

دفعہ ۵۔ ایسی جدید چوکی ہائے پولیس کی حدود جو لوکل گورنمنٹ اُس رقبہ کے اندر قایم کرے کہ جس سے یہ ایکٹ

متعلق ہے وہ ہونگی جو صاحب انسپکٹر جنرل پولیس بذریعہ ایسے اشتہارات کے مقرر کریں جو ہر چوکی پولیس پر اور نیز دیگر سہولت بخش مقامات پر رقبہ مذکور کے اندر نمایاں طور سے چسپان کئے جاویں۔

دیگر قوانین کے بموجب سزا دینا مستثنےٰ کیا گیا ہے۔

دفعہ ۶ - ایکٹ ہذا میں کوئی امر مانع نہ ہوگا کہ کسی شخص کو کسی دیگر قانون کی رُو سے ایسے جرم کے لئے جو ایکٹ ہذا کے بموجب قابل سزا قرار دیا گیا ہے سزا دی جائے یا کوئی دیگر سزا دیجائے۔ بجائے اسکے کہ جو جرم مذکور کے لئے ایکٹ ہذا میں تجویز کی گئی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ کسی شخص کی نسبت ایک دوبارہ تحقیقات نہیں کرائی جائے گی۔

قواعد مرتب کرنے کا اختیار

دفعہ ۷ - (۱) لوکل گورنمنٹ مجاز ہے - کہ ایسے جملہ امور میں جو ایکٹ ہذا کے نافذ کرنے اور اُسکے مطالب اور اغراض کے عام طور پر حاصل کرنے کے متعلق ہوں جملہ افسران کی ہدایت کے لئے قواعد مرتب کرے۔

(۲) ایسے تمام قواعد بذریعہ اشتہارات مشتہر کئے جائینگے جو نمایاں مقامات پر اس رقبہ کے اندر چسپان کئے جائیں جن سے ایکٹ ہذا متعلق ہے اور پھر یہ قواعد قانون کا اثر رکھیں گے۔

ایکٹ کے نفاذ کا بند ہونا

دفعہ ۸- دربار کے خیمے اُکھڑنے کے بعد جسقدر جلد ممکن ہوسکے ایسی تاریخ سے ایکٹ ہذا کا نفاذ بند ہوجائیگا جو لوکل گورنمنٹ بذریعہ اشتہار جو گورنمنٹ گزٹ میں شایع ہو اس بارہ میں مقرر کرے۔

دستخط- سی۔ جے ہیلیفکس سکرٹری گورنمنٹ پنجاب

(صیغہ سوم واضع آئین وقوانین)"

دہلی کی رونق ابتدائے دسمبر سے ہی قابل دید ہوتی جاتی تھی ہندوستان کے ہر خطہ ہر زبان ہر رنگ اور ہر مذہب کے باشندے اسکے اندر باہر پھرتے چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ اور بازاروں میں جاکر ہجوم در ہجوم سیریں کرتے پھرتے تھے۔ شہر سے باہر ڈیروں خیموں کا ایک وسیع و فسیح نیا شہر آباد ہوگیا تھا۔ جسکا دور اَسّی میل میں سمجھنا چاہئے۔ یہ نیا عارضی شہر سفید خیموں اور وسیع میدانوں کے دلکش اور سہانے نظارے لئے ہوا تھا۔ جسکو شاہجہان آباد کے مقابلہ میں ایڈورڈ آباد کہنا نہایت موزون ہوگا۔ چنانچہ انہی کی ضروریات کے لئے کشمیری دروازہ سے باہر میلوں تک ایک عارضی بازار قایم ہوگیا تھا۔ جسکو ایڈورڈ بازار کا نام دیا گیا۔ لیکن اس بازار پر سرکار کا کچھ خرچ نہیں آیا۔ بلکہ زمینوں کے معقول کرایہ دیکر لوگوں نے اپنے صرف سے انپر چھپر اور کھپریل کی دوکانیں بنائیں جنپر مٹی لیپ کر اوپر سے قلعی کردی گئی تھی۔ جس سے دیکھنے والوں کی نظروں میں اس نے خاصی وقعت پیدا کر لی تھی۔

تجارتی سامان سوداگروں اور دوکانداروں نے اس کثرت کے ساتھ بیرونجات سے منگانا شروع کردیا تھا کہ ریلوے کی عظیم الشان طاقت نے بھی جسکے ڈہونے میں عجز ظاہر کردیا۔ دھڑا دھڑ ریلوں کی ٹرینیں مال سے لدی سے ہوئی آرہی تھیں۔ اور پھر بھی ان لوگوں کی فرمائشیں ختم ہونے میں نہ آتی تھیں ادہر درباریوں اور والیانِ ریاست کے سامانوں کی سپیشل ٹرینیں پہنچ رہی تھیں۔ غرضکہ ریلوے کو دم بھر کی بھی فرصت نہ تھی۔

مسافروں کی آمد آمد بھی اتنی شروع ہوگئی تھی کہ ایک ایک دن میں
ہر مشہور مقام سے قریباً دس دس بارہ بارہ ٹرینیں چھوٹتی تھیں۔ اور
پھر بھی اس انبوہِ خلایق کے پہنچانے کے کام میں پوری نہ اترتی تہیں
اور یہی وجہ تھی جسکے باعث سوائے میل ٹرین کے کوئی گاڑی ہرج
کے بغیر دہلی نہ پہنچتی تہی۔ یہ بھی لکھہ دینا ضروری ہے کہ مسافروں کے
طبی امتحان کے لئے رستے کے سٹیشنوں پر انگریز ڈاکٹر صاحب مقرر کئے
گئے تھے جو معمولی نبض دیکھنے کے بعد ایک چھپا ہوا سرٹیفکیٹ
صحت مسافروں کو دیدیا کرتے تھے۔
کرایۂ مکانات کا تذکرہ بھی غالباً تاریخی حیثیت سے بہت ضروری
ہے جو اسقدر بڑھ گیا تھا کہ بعض حالتوں میں اصل لاگت مکان سے بھی
زیادہ پہونچ گیا تھا۔ وجہ یہ کہ بعض والیانِ ریاست نے شہر کی متصلہ کوٹھیوں
میں قیام فرمانا پسند فرمایا تھا اور معمولی رئیسوں اور گرد و نواح کے
درباریوں کو تو شہر میں ہی رہنا ضروری تھا کیونکہ کیمپوں کی دُوری
اور سواری کے اخراجات ہر شخص برداشت نہ کرسکتا تھا۔ انہیں
بواعث سے مالکانِ دہلی نے اسقدر کرایہ بڑھا دیا کہ جسکی کبھی توقع
نہ ہوسکتی تھی۔ مثلاً حضور نظام خلد اللہ ملکہٗ کے لئے جو کوٹھی بنام لیڈلو کیسل
کرایہ پر لی گئی تھی۔ شلاً اُس کا کرایہ ان ایام کیلئے پچاس ہزار روپیہ
قرار پایا تھا۔ علےٰ ہذا مہاراجہ مدارالمہام صاحب نواب افسرالدولہ بہادر
نواب فخرالملک بہادر۔ راجہ مرلی منوہر بہادر۔ وغیرہ وغیرہ صاحبان کے
لئے الگ الگ کوٹھیاں لی گئی تھیں جن میں سے کسی کا کرایہ
دس ہزار سے کم نہ تھا۔ اور آرایش کا خرچ مزید براں۔ چنانچہ یہ بھی

ایک تاریخی واقعہ ہے کہ پچاس ہزار روپیہ صرف اعلیٰ حضرت کی اقامتگاہ مبارک کی آرائش پر صرف آگیا تھا۔ جسکی بنسبت روانگی کے وقت حضور نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اس سامانِ آرائش کے اٹھانے کے مکان مذکور چھوڑ دیا جائے۔

اس حساب سے گویا آپنے صرف اپنے پچیس روزہ قیامگاہ کا ایک لاکھ روپیہ معاوضہ عطا فرمایا اور ظاہر ہے کہ ہمراہیانِ ذیشان کا کرایہ مکانات و آرائش بھی لاکھ روپے سے کیا ہی کم ہوگا۔ حضور کے علاوہ کئی ایک دوسرے والیانِ ریاست مثلاً مہاراجہ صاحب کپورتھلہ۔ مہاراجہ صاحب اندور۔ مہاراجہ صاحب ٹراونکور وغیرہ وغیرہ نے بھی ہزارہا روپے کی گرانقدر رقومات پر شہر سے ملی ہوئی کوٹھیات کرایہ پر لے رکھی تھیں اسلئے دہلی کے مالکان مکانات نے اس موقع پر اس شدت سے کرایہ بڑھا دیا کہ بلا مبالغہ معمولی کرایہ پچیس سے پچاس گنا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس لالچ پر تمام مالکانِ مکانات نے اپنے کرایہ دارونکو بھی بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ جس سے ایک عام واویلا دہلی میں مچ گیا وُہ توخدا صاحب ڈپٹی کمشنر دہلی کا بھلا کرے کہ اُنھوں نے ایسی بے دخلی کو نا مناسب قرار دے کر اس بڑھتی ہوئی خرابی کو دُور فرما دیا۔ اور غرباء کو زیادہ تکلیف نہ ہونے پائی۔ لیکن پھر بھی اسقدر مکانات خالی ہو گئے تھے۔ کہ دربار کے گذر جانے پر بھی وہ پُر نہ ہو سکے۔ چنانچہ اکثر مکانات پر دربار کے دنوں میں اور اسکے بعد بھی "ٹولٹ فار دربار" یعنی "یہ مکان دربار کیلئے کرایہ پر خالی ہے" کا تختہ جلی حروف میں لٹکتا ہوا نظر آرہا تھا۔ اور اسکے سوا کئی ایک ایجنسیاں کرایہ پہ مکانوں کی بہرسی کے لئے قائم ہو گئی تھیں

القصہ گو کئی ایک مکانات خالی بھی رہ گئے۔ مگر کئی ایک مکانوں کو کرایہ اِن کی قیمت سے بھی زیادہ وصول ہو گیا۔

والیانِ ریاست کی ملاقات بازدید کی نسبت پہلے سے قطعی فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ وائسرائے صاحب بباعث درباری مصروفیتوں کے نہ کر سکینگے۔ حالانکہ ۱۸۷۷ء کے دربار پر باوجود اسیقدر رئیسوں کے جمع ہونے کے اس رسم قدیم کو ترک نہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ اکثر اردو اخبارات اس بات کے شاکی بھی پائے گئے کہ اس سے رئیسوں کی حق تلفی ہوئی ہے مگر چونکہ ملاقاتِ بازدید کیساتھ علاوہ فرداً فرداً بھی دیسی رئیسوں کی ملاقات کا دستور نہیں رکھا گیا تھا۔ اسلئے یہ اعتراض کسیقدر ہلکا ہو جاتا ہے اگرچہ اسمیں شک نہیں کہ اگر پرانے دستور کے مطابق ہر ایک والیِ ریاست کو علیحدہ علیحدہ پہلے اپنے قیامگاہ میں اور پھر اُن کے کیمپوں میں حضور وائسرائے مل لیتے تو اُن کے دل بہت بڑھ جاتے کیونکہ دیسی رئیس اِن باتوں کو بھی آئینِ ریاست کا لوازمہ سمجھتے ہیں۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وائسرائے صاحب نے اس خیال سے کہ درباری ایّام میں ریلوے سٹیشن۔ افتتاحِ نمائش۔ دعوت اور دربار وغیرہ کے مختلف مواقعات پر رئیسوں سے ملنا ہو گا۔ اِن مراسم کی علیحدہ ادائگی کی ضرورت نہیں سمجھی جو ایک حد تک درست بھی ہے۔ لیکن دراصل دیسی رئیسوں میں ابھی اس قدر بے تکلفی حکامِ انگریزی سے پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ایک تقریب کی مجموعی شرکت کو اپنے پرانے رسم و رواج کا بدل سمجھ لیں۔

فصل سوم

درباری عارضی شہر کا نظّارہ


عمارات متعلّقہ دربار کو بلاشُبہ دیکھہ کر حیرت ہوتی تھی۔ کہ کس طرح صرف چند مہینوں کے قلیل عرصہ میں جنگل کی افتادہ اراضیات اور سخت ناہموار نشیب و فراز کو مُسطّح اور ہموار کر کے ایک قابل دید قطعہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جسکے ہر طرف عمدہ سڑکیں اور آبرسانی کے نل اسطرح جاری نظر آتے تھے کہ گویا ایک عرصہ سے یہاں شہر آباد ہے۔ اور شہر بھی کیسا؟ سفید سفید ڈیرے خیموں کا ایسا اجُلا شہر دیکھہ کر طبیعت خوش ہو جائے۔

سنٹرل کیمپ جس میں حضور وائیسرائے۔ ڈیوک اوف کناٹ۔ گرانڈ ڈیوک ہیسی کمنیڈر انچیف گورنران بمبئی و مدراس اور لفٹنٹ گورنران ممالک پنجاب۔ بنگال۔ برہما۔ صوبجات متحدہ آگرہ اور چیف کمشنران ممالک متوسط و آسام و صوبجات سرحدی اور ریذیڈنٹان حیدر آباد و میسور اور ممبران کونسلِ وائسرائے اور دیگر افسرانِ بالادست کے خیمے لگائے گئے تھے۔ اِس عمدگی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اور اِس صفائی کے ساتھ اُسکی چمن بندی کی گئی تھی۔ کہ دیکھہ کر بے ساختہ منتظموں کے حق میں کلمۂ آفرین نکل جاتا تھا۔ اُس کی وسعت و فسحت کا اندازہ ناظرینِ کتاب کسی قدر اِس اجمالی کیفیت سے کر سکیں گے۔ کہ

کیمپ حضور وائسرائے میں ممبرانِ گورنمنٹ ہند اور ولایتی مہمانوں کے لئے چودہ سو خیمے اِستادہ کئے گئے تھے۔ جن کی آرائش وزیبائش دیکھنے سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ اور جن میں وائسرائے صاحب کے ممبرانِ سٹاف۔ میڈیکل افسران۔ آنریری کانگان سکرٹریان۔ ممبرانِ کونسل۔ ڈیوک اوف ہیسی۔ ڈیوک وڈچس اوف پورٹ لینڈ۔ اس موقع پر آئے ہوئے ممبرانِ پارلیمنٹ۔ ڈیوک اوف کنیاٹ بہادر کا سٹاف۔ وائسرائے صاحب کے افسرانِ باڈی گارڈ۔ پریزیڈنٹ سنٹرل دربار کمیٹی۔ لارڈ بشپ اوف کلکتہ ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس وغیرہ وغیرہ حکام عالیمقام فروکش تھے جن سب کی ضروریات کے لئے مثل اپنے گھروں کے کھانا کھانے۔ نہانے۔ ملاقات کرنے پڑھنے اور سونے کے علیحدہ علیحدہ کمرے بنائے گئے تھے۔ اور خانہ باغ بھی اس عمدگی اور ندرت سے لگائے گئے تھے کہ جو ہر طرح اِن کے لائق تھے۔

وائسرائے صاحب کے لئے خاص طور پر ایک مدور پختہ کوٹھی بنائی گئی تھی۔ جسکو مشرقی ڈھنگ کے سامانِ آرائش سے سجایا گیا تھا۔ اور جو جاہ وجلال کی ایک نمائش بن گئی تھی۔ اصطبل اِس سے علیحدہ تھا۔ جو کمینڈر انچیف صاحب کے کیمپ کے پاس لگایا گیا تھا اور اسمیں تین سو گھوڑے تھے۔

ڈیوک اوف کنیاٹ کا کیمپ جو وائسریگل کیمپ کے سامنے لگایا گیا تھا۔ پوری طرح سجا ہوا تھا جسمیں آٹھ خیمے اِن کے ہمراہیوں کے لئے استادہ تھے۔ اور خاص اِن کے خیمے کے سامنے ایک



مختصر باغیچہ بھی لگا ہوا تھا اور استقبالی شامیانہ بھی ایسا پُر تکلف اور وسیع تھا۔ جو اِن کی شان کے مطابق معلوم ہوتا تھا۔ ہر ایک ضروریات کے لئے الگ الگ خیمے لگے ہوئے تھے۔ جن کی مجموعی حیثیت بڑی خوبصورت اور شاندار نظر آرہی تھی۔

لارڈ کچنر کا کیمپ عجیب غریب قسم کا بنایا اور سجایا گیا تھا۔ اس میں چھ تو بڑے بڑے خیمے تھے اور چھوٹوں کی تو تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ اس کیمپ میں پچاس فیٹ چوڑا ایک نہایت خوبصورت خانہ باغ لگا ہوا تھا۔ اور استقبالی کمرے کو اینےمل (وہ روغن جو ٹالمیٹ کے برتنوں پر کیا جاتا ہے) سے مُجلّےٰ کیا گیا تھا۔ اور اعلےٰ درجہ کے قالینوں کا فرش اسکی زیبائش کو بڑھا رہا تھا۔ اس کے ہر چہار طرف مغلئی وضع کے محرابی در قایم کئے گئے تھے۔ جن پر سنہری اور نیلے رنگ ہو چکے تھے اور جن میں سے مختلف کمروں کو راستے نکل جاتے تھے۔ کھانے کی میز ایسی وسیع تھی کہ جسپر بیٹھ کر ایک ساتھ ساٹھ آدمی کھانا کھا سکتے تھے۔ اسی کمرے کے سامنے ایک سبز گھاس کا مخملی میدان رکھا گیا تھا۔ جسمیں کمینڈر انچیف کا فوجی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ دوسرے علاقوں کے بڑے بڑے افسروں کے کیمپ بھی آپکے گردو پیش لگے ہوئے تھے اور اُنمیں بھی سو سو مہمانوں کی جگہ رکھی گئی تھی۔ آپکے کیمپ میں صرف ملٹری سکرٹریان اینڈ یکانگان۔ ڈائرکٹر جنرل صیغہ تعلیم جنگ پرنسپل میڈیکل افیسر ہند اور بعض بڑے بڑے جنگی عُہدہ دار مقیم تھے۔

لفٹنٹ گورنر پنجاب کا کیمپ بھی خاص اہتمام سے سجا ہوا

تھا - کیونکہ پنجاب میں ہی یہ دربار دُربار منعقد ہونے کو تھا - اور اس طرح گویا آپ ہی اس عظیم الشان مجمع کے میزبان تھے - باغیچہ - فرش - فروش - سامانِ آرائش سب ایک سے ایک بڑھکر تھا - اور خاص ہزاونر کے رہایشی خیمے اور کمرۂ ملاقات کو تو اس خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا کہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا تھا - آپکے کیمپ میں سکرٹریان - کمشنران و فنانشل کمشنران - ممبران پنجاب کونسل اور چیدہ حکام کے خیمے لگے ہوئے تھے - افسران ریلوے کا کیمپ (جو انہوں نے اپنے اہتمام سے لگوایا تھا) وہ بھی آپکے کیمپ کے پاس ہی نصب تھا - اور جوڈیشل افسران کے خیمے بھی سب قریب تھے -

اسی طرح دوسرے علاقوں کے افسرانِ اعلےٰ کے کیمپ بھی سب نہایت اہتمام اور عالیشانی سے لگائے گئے تھے - جن کی تفصیل سوائے تطویل کے کچھ ضروری نہیں - ہر ایک میں باغیچہ استقبالی شامیانہ اور تمام حوایج ضروریہ کے خیمے بڑی وسعت سے موجود تھے - اور افسرانِ اعلےٰ کے خیمہ پر سرکاری جھنڈا لہرا رہا تھا - البتہ اسقدر بیان لازمی ہے - کہ مدراس کیمپ میں مطبخ کے لئے پختہ عمارتیں تھیں اور اس کا انتظام بڑا لائق تعریف تھا - کیونکہ مدراسی باورچی انگریزی دنیا میں خاص شہرت رکھتے ہیں - اور اسکے علاوہ وہاں ہارمنی رو - ہلیٹی کوٹ لین (پیٹی کوٹ والوں کی گلی) اور بیچلر مین بلاک (مجردوں کا حصّہ) کے نام سے الگ الگ حلقے مقرر کر دیئے گئے تھے - اور سوائے انکے گاڑیوں اور بائیسکلوں اور موٹر کار گاڑیوں کے ہوا گاڑیاں از قسم

رکشا بھی موجود تھیں جو اکثر لیڈیوں کی سواری میں کام آتی تھیں۔

لفٹننٹ گورنر برہما کا کیمپ اسوجہ سے قابلِ ذکر ہے کہ اس کے دروازے پر دو اژدہا بنائے گئے تھے۔ اور اُسکے باغیچہ کے لئے نایاب اور خوشنما پودھوں کے گملے خاص برہما سے منگائے گئے تھے۔

چھڑکاؤ اور صفائی کا انتظام تمام سنٹرل کیمپ میں ویسے ہی اعلےٰ درجہ کا ہو چکا تھا جیسکے شایاں وُہ کیمپ تھا۔ جس کی بدولت وُہ مقام جو سوائے جنگل بیابان کے کچھ بھی نہ تھا۔ ایک چمنستان نظر آتا تھا۔ اور گرد و غبار کا نام تک دکھائی نہ دیتا تھا۔

روشنی کا انتظام اس افراط اور کشادہ دلی سے کیا گیا تھا۔ کہ خاص سنٹرل کیمپ میں آٹھ ہزار اِن کینڈی سینٹ لیمپ اور دو سو آرک لیمپ (دو دو ہزار بتی کی طاقت والے) رات کو بھی دن چڑھائے رکھتے تھے۔ ہر ایک خیمے میں تین تین لیمپ سولہ سولہ بتی کی طاقت والے روشن ہوتے تھے۔ اور مرکزی سڑکوں پر دو دو ہزار بتی کی طاقت والے لیمپ لگائے گئے تھے۔ جن کے سوا معمولی روشوں پر بھی قریب قریب لیمپوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ جس سے زیادہ روشنی شائید ناقابل برداشت ہو جاتی۔

شدت سرما کی شکایت البتہ سب جگہ تھی۔ کیونکہ موسم پہلے درجہ کا سرد تھا جسکے دفعیہ کے لئے ہر ایک کیمپ میں پختہ انگیٹھیاں لگی ہوئی تھیں جن سے چار حادثات بھی ہو گئے اور تجویزیں ہونے لگیں کہ ان لیمپوں سے خیموں کو گرم کیا جائے جنمیں مٹی کا تیل شامل کر کے جلتا ہے مگر بدبو کا خطرہ اس کا بھی مانع ہوا۔ اور اسیطرح انگیٹھیوں سے باحتیاط تمام کام لیا جاتا رہا۔


ایک نجومی کی پیشین گوئی کی تکذیب - ولایت کے ایک مشہور منجم مسٹر کیری نامی نے ۱۹۰۲ء کی پیشین گویوں میں چونکہ یہ منحوس پیشین گوئی بھی کر رکھی تھی - کہ "۱۸ دسمبر ۱۹۰۲ء کو انگلستان کے خاندان شاہی میں ایک ایسی عظیم الشان موت واقع ہوگی کہ جسکے باعث دربار دہلی یکم جنوری ۱۹۰۳ء کو منعقد نہ ہو سکے گا - اور ہوا بھی تو ماتم کا دربار ہوگا نہ کہ خوشی کا" اس لئے بعض لوگوں کو یہ وہم ہوگیا تھا - کہ دیکھئے اس پیشین گوئی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے - کیونکہ ایک آدہ ہندوستان کے جوتشی نے بھی اس کی تائید کردی تھی لیکن بہت سے لوگوں نے اس کی تردیدیں بھی اسی علم کے روسے نہایت شد و مد کے ساتھ چھپوائیں - جن میں سے پہلے **پنڈت دامودر ساگر جوتشی کشمیری** ملازم سرکار کشمیر نے اس کی تکذیب کی - اور پھر محمد یونس صاحب نے - مگر بہرحال ۱۸ دسمبر تک اکثر لوگوں کو اس کا خیال رہا - جو بفضل الٰہی بالکل موہوم اور فضول ثابت ہوا - اور حضور **شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم** ہر طرح صحیح و سالم و تندرست رہے - یہ بھی گورنمنٹ کی چشم پوشی ہے - کہ ایسے عظیم الشان موقع پر تھلکہ مچا دینے والوں کو پوچھا تک نہیں گیا - ورنہ کوئی ایشیائی سلطنت ہوتی - تو پیشین گوئی کا لطف آجاتا -

لیکن پھر بھی ہندوستانی منجموں کو یہ مشورہ دینا ضروری ہے کہ انہیں ایسے علم کے لئے جسے ایک بہت بڑا تعلیم یافتہ حصّہ تو پہلے سے ہی بیکار سمجھ بیٹھا ایسے معاملات میں جسارت کرکے اسباب خفت پیدا کرنے چاہئیں -

دربار ہال کو دربار سے چونکہ جسم و جان کا سا تعلق ہے۔ اس لئے اس کی تشریح و توضیح کے لئے دو نقشے درج کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ اُس کا ایک ہی ایسا نقشہ کسی فوٹوگرافر نے لیا نہیں جو تمام و کمال کیفیت کو بخوبی ظاہر کر سکے۔ اور اُسکی ساخت ہی کچھ اس وضع کی رکھی گئی تھی کہ کوئی ایک نقشہ اُسکی مجموعی ہیئت کو ظاہر بھی نہیں کر سکتا پہلا نقشہ زمینی ہے جس سے ناظرین کو معلوم ہوگا کہ دربار ہال کی صورت بالکل نعل کی سی بنائی گئی تھی۔ دائرے کے اندر جسقدر جگہ خالی نظر آرہی ہے۔ وہ سفید زمین بلا چھت کے سمجھنی چاہیئے۔ اور جسقدر حلقہ کو خطوط نے محدود کر رکھا ہے۔ صرف اسی پر چھت ڈالی گئی تھی۔ اور اُس میں گیلری کے طریق پر اس طرح سے بنچیں بچھائی گئی تھیں کہ پہلی سے دوسری کسی قدر بلند اور دوسری سے تیسری ذرا اونچی وقس علیٰ ہذا۔ اگرچہ پھاٹک دار دروازہ کوئی نہ تھا۔ مگر گولائی کا وہ حصہ جو کسی قدر خالی رہنے کے باعث دربار ہال کو نعل کا ہم وضع بنا رہا ہے۔ وہی اس کا دروازہ سمجھنا چاہیئے۔ اسی کھلے ہوئے دروازہ کے عین بالمقابل دائرہ سے ملا ہوا حضور وائسرائے بہادر کے لئے ایک چبوترہ بنایا گیا تھا۔ (جس کا نشان نقشہ میں دے دیا گیا ہے) اس تمام دائرے کے اندر کی طرف زمین سے دو فیٹ اونچی ایک پٹڑی چلنے پھرنے کے لئے بنائی گئی تھی۔ جسکو اگر دربار ہال کی عمارت میں شامل کر لیا جائے۔ تو وائسرائے بہادر کا چبوترہ بھی اُسی کے وسط میں آجاتا ہے۔ اس پٹڑی کے اوپر اُس طرف (جہاں سے سفید زمین اندرونی شروع ہوتی تھی) ایک جنگلہ

لگا دیا گیا تھا۔ اور نیچے زمین پر برابر برابر خوشنما پودہوں کے گملے سجا دئے گئے تھے۔ تمام دربار ہال کو تیس بلاکوں (حصّوں) پر تقسیم کیا گیا تھا۔ جن میں اے۔بی۔سی انگریزی کے حروفِ تہجی کے بلاک تمام دایرے میں قایم کئے گئے تھے۔ اور چار بلاک موڑویں ابتدائی کونوں پر بنائے گئے تھے۔ جن پر علیحدہ نمبر دئے ہوئے تھے شایقین دربار سب کے سب سوائے بلاک نمبر ۱ و ۲ کے (جن کی نظریں باہر کی طرف تھیں) کارروائی دربار بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ کیونکہ تمام درباریوں کی نظریں اندرونی طرف رکھی گئی تھیں۔ داخلے کے لئے سب بلاکوں کو باہر کی طرف سے رستہ دیا گیا تھا (جہاں نقشے میں انگریزی حروف لکھے ہیں) البتہ راجے مہاراجے نواب رئیسوں کے لئے مغربی طرف سے رستہ رکھا گیا تھا **وایسرائے صاحب اور ڈیوک اوف کیناٹ** بہادر کی گاڑیاں بیرونی رستوں سے بے نیاز تھیں جنھوں نے سیدھا اندر کی طرف سے چبوترہ پر ٹھہرنا تھا۔

دربار ہال کے ابتدائی موڑویں کونوں پر کوئی چھت نہ ڈالی گئی تھی۔ اندرونی میدان، اور باہر کی سڑکیں سب پختہ گٹواکر بنا دی گئی تھیں۔ ہال کے درمیانی میدان میں علم شاہی کے لئے جگہ تجویز کی گئی تھی۔ اور وایسرائے صاحب کے چبوترے پر علم وایسرائی کی جگہ رکھی گئی تھی۔


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
I
II
III
IV


دوسرا نقشہ عمارتی ہے جس کے دیکھنے سے ناظرینِ کتاب دربار کی ہیئت اور وائیسرائے صاحب کے چبوترے کی شکل و صورت کو بخوبی پہچان لیں گے۔ اسمیں جسقدر محرابی در نظر آرہے ہیں۔ سوائے ابتدائی موڑیں کونوں کے سارے مغلئی صورت کے وائیرے ہیں اندر کی طرف بنے ہوئے تھے۔ انہیں میں سب درباریوں کے لئے گیلری بنائی گئی تھی۔ جسکے واسطے پہلے خشتی سیڑھیاں بناکر ان میں مٹی کی بھرتی کی گئی اور چھت کے سہارے کے لئے لوہے کی دو دو ریلیں باہم وصل کر کے اُنپر بانس کے چھلکوں سے گولائی بنائی گئی۔ جن کو پلاسٹر اوف پیرس نے بالکل سنگی ستونوں کے ہم وضع بنا رکھا تھا۔ ان ستونوں کے اوپر لوہے کی ریلیں ڈال کر لکڑی سے چھت کو پاٹ دیا گیا اور چھت کے بالائی کنگروں پر جابجا موقع مناسب سے خوش وضع برجیاں بنا دی گئیں۔ یہ بُرجیاں بھی بھی ایک عجیب چیز تھیں کہ دیکھنے میں تو نہایت خوشنما اور ٹھوس معلوم ہوتی تھیں۔ مگر تھیں دراصل بانس کے چھلکوں کا خول جن کے اندر باہر پلاسٹر اور روغن کر کے انہیں ایسا بنا دیا گیا تھا۔ کہ سنگ مرمر کی معلوم ہوتی تھیں۔ خرچ کی کفایت یہاں تک مدِنظر تھی۔ کہ ان برجیوں پر بارہ بارہ آنے سے زیادہ خرچ نہ آیا تھا۔ تمام دربار ہال کی چھت زمین سے چوبیس فیٹ بلند رکھی گئی تھی۔ اور وائیسرائے صاحب کے چبوترے کا گنبد تو اس سے بھی کسی قدر بلند تھا۔ وائیسرائے صاحب بہادر کے چبوترہ کو اسقدر مرتفع بنایا گیا تھا کہ اسپر چڑھنے کے لئے پانچ سیڑھیاں رکھی گئی تھیں

اور حسب قاعدہ چبوترہ کے گنبد کو اور بھی خوشنما بنایا گیا تھا جسکے اوپر علم شاہی کی جگہ تھی۔ چھتیں اور ستون وغیرہ سب مختلف رنگوں سے رنگ کر روغن سے مجلا کر دیئے گئے تھے۔ اور ہال کے اندر مٹی کی سیڑھیوں پر بچوں سے نیچے پٹھے کی پشاوری چٹائی کا فرش میخوں سے جڑ دیا گیا تھا اور بچوں پر سرخ کپڑے کے روئی دار گدے نہایت سستے طیار کر کے بچھوا دیے گئے تھے۔ البتہ وائسرائے صاحب کے قریب کے بلاکوں میں دیسی والیان ریاست اور اعلیٰ حکام یوروپین اور مہمانان دول غیر کے لئے گدی دار اور سادہ چوکیاں از قسم بینٹ وڈ چیئرز رکھدی گئی تھیں۔ جنکے نیچے (چٹائی کے اوپر) دری کا فرش بھی کر دیا گیا تھا۔ اور دربار ہال کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے کی جو پٹری رکھی گئی۔ اس پر سرخ بانات کا فرش بچھا دیا گیا۔ جس سے خوشنمائی کو بہت بڑی مدد ملگئی۔ محرابی دروازوں کے اوپر جا بجا قرینے سے نشان اور کپڑے کی ترشی ہوئی جھنڈیاں باندھ دی گئیں وائسرائے صاحب کے چبوترے میں حضور ممدوح کی نشست کے لئے تو اسی طرح کی ایک تخت نما کرسی رکھی گئی۔ جیسی کہ دربار ولایت کیوقت شہنشاہ کے جلوس کے لئے رکھی گئی تھی جس کا نقشہ درج کتاب کیا جاتا ہے۔ اس کے دونوں طلائی بازوؤں کے منہ پر بھی شیروں کے چہرے بنے ہوئے ہیں اور پشت کی طرف تکیہ گاہ کے اوپر تاج شاہی اور سلطنتی کوٹ آف آرمز نمودار تھا۔ اسی تخت نما کرسی کے ساتھ ایک اور نقرئی کرسی ڈیوک آف کناٹ بہادر کے لئے بھی رکھی گئی تھی اور ان دونوں کرسیوں کے ساتھ پچھلی طرف دو اور سادہ مکلف کرسیاں ہر دو صاحبان کی بیگمات کے لئے بھی بچھائی ہوئی تھیں۔ چاروں کرسیوں

کے نیچے ایک سُرخ مخملی مسند بڑے تکلف کے ساتھ بچھائی گئی تھی جس پر زر دوزی کار چوبی کام نہایت خوشنمائی سے جگمگ کر رہا تھا۔ غرضکہ بہ ہئیت مجموعی چبوترہ ایسا بن گیا تھا۔ کہ جو اِس شاہی رسم کی ادائگی کے لیئے بہت کچھ موزون تھا۔

دربار ہال کے نقشہ عمارتی میں فوٹو گرافر نے جس علدگی سی گولائی دکھا دی ہے۔ غالباً اِس کے ساتھ اِس لفظی نقشہ کے شامل کر لینے پر پھر کسی زیادہ تصریح کی ضرورت نہ رہ جائیگی۔ اور دربار ہال مجموعی طور پر ناظرین کتاب کے سامنے آ جائیگا۔

حضور والیسرائے کے تخت کی تصویر یہ ہے



نمائش گاہ کی عمارت کا نقشہ آیندہ باب میں افتتاح نمائش کے موقع پر شامل کتاب کی جاتی ہے۔ جس سے اس کے دروازے کی شانداری عیاں ہوجاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی اس قدر لکھ دینا ضروری ہے۔ کہ یہ عارضی عمارت ایسی صنعت گری اور قابلیت سے بنائی گئی تھی۔ کہ جو کسی طرح دربار ہال سے کم دلچسپ نہ تھی یہ عمارت اس قسم کی بنائی گئی تھی کہ جو بظاہر بالکل سنگِ سفید کی معلوم ہوتی تھی۔ عمارت کی طرز ساسانی وضع کی اور داخلہ کا محرابی دروازہ مغلئی قطع کا نہایت شاندار بنایا گیا تھا۔ جس کے پہلوؤں میں دو اور خوبصورت محرابی دروازے رکھے گئے تھے۔ داخلہ کے دروازہ کے ساتھ ساتھ اس طرح سے کہ اگر ایک طرف سے داخل ہوں تو دوسری طرف سے برابر چکر لگا کر نکل آئیں۔ ایک قطار دوکانات کی قائم کی گئی تھی۔ جس میں ہندوستان کے مختلف کاریگر کام کرتے ہوئے دکھانے منظور تھے۔ اس قطار سے آگے اندر کی طرف بھی اسی طرح کی قطاروں میں سامانِ آرائش چُنا ہوا تھا۔ اور عمارت اگرچہ عارضی تھی مگر لاہور۔ ملتان۔ جے پور اور دہلی کے کاریگروں نے اس صفائی سے بنائی تھی کہ قصر شاہی کا دہوکا ہوتا تھا۔ رنگ آمیزی اور نقش ونگار کا کام بالعموم میو آرٹس سکول لاہور کے طلباء نے کیا تھا۔ ستون آہنی تھے۔ اور چھت عموماً شیشے کی رکھی گئی تھی اندر ایک ریفرشمنٹ روم بھی بنایا گیا تھا۔ اور اگرچہ تمام حصّے اس مضبوطی سے مستحکم کئے جاچکے تھے کہ بارش وغیرہ سے اشیائے نمائش خراب نہ ہوسکیں۔ لیکن جواہرات کا کمرہ تو خاص طور پر پختہ

بنا دیا گیا تھا۔ اور مزید حفاظت کے لئے اسپر پولیس کا پہرہ بھی متعین ہو چکا تھا۔

والیانِ ریاست کے کیمپ اُن کے اپنے اہتمام سے جس پوری آرائش وزیبائش سے لگائے گئے تھے۔ واقعی لائقِ داد اور قابل دید تھے اور کیوں نہ ہوتے جبکہ اُنپر لاکھوں روپے نہایت دریا دلی سے اُن صاحبوں نے خرچ کر دئے ہوں۔ اور جن کی درستی و آراستگی پر اُنکے اہلکار مدتوں سے لگے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ گورنمنٹ ہند کا ایما بھی ایسا ہی پایا جاتا تھا کہ ہر ایک صاحب اپنے ملکی لباس اور طریق ماند وبود کا نمونہ ہوکر دکھلائیں اسلئے اِن کیمپوں کی خوبصورتی زمانہ بھر کو اپنا مشتاق کر رہی تھی۔ چنانچہ عوام کا شوقِ دید دیکھکر اہلکارانِ متعینہ نے والیانِ ریاست کی تشریف آوری سے قبل تمام کیمپوں کے دیکھنے کی عام وخاص کو اجازت دے رکھی تھی۔ جنہیں دیکھکر لوگوں کو حیرت ہو جاتی تھی کہ صرف چند روزہ رہائش یا نمائش کے لئے مشرقی طرز کے جاہ وجلال اور امیرانہ وشاہانہ لوازمات کی فراہمی میں اِن کے منتظمین نے کوئی دقیقہ اُٹھا نہیں رکھا۔ عجیب وغریب آرائشی ساز وسامان۔ نایاب قالین اور نقرئی وطلائی چوکیاں طلاکار اور مخملی مسندیں ہاتھیوں کی زرین جھولیں اور زیور کے قسم کی زنجیریں۔ گھوڑوں کے نفیس ساز دیراق اور مناسب زیورات نقرئی اور سنہری گاڑیاں۔ اِن کیمپوں میں گویا دولت وحشمت کا دریائے زرنگار بہا رہی تھیں۔ لیکن ساتھ ہی دیکھنے والوں کو صاف طور پر یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ جس طرح اِن کے ملکوں پر سرکار

انگریزی سے نہ شہنشاہی اقتدار حاصل کر رکھا ہے۔ ویسے ہی ان کے طریقِ معاشرت و تمدن پر بھی انگریزی طور و طریق نے پورا پورا قبضہ پا لیا ہے۔ جو باوصف پرانی طرز کے یہ تکلف طرز اختیار کرنے کے بھی خود بخود ظاہر ہو رہا تھا۔

ان کیمپوں کی تفصیل کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ گنجائش۔ مگر مشتے نمونہ از خروارے چند ایک ممتاز کیمپوں کی مجمل کیفیت اسلئے دکھائی جاتی ہے کہ اسی سے ناظرین باقی کیمپوں کی حالت کا اندازہ لگا لیں گے۔

حضور نظام خلد اللہ ملکہ کے کیمپ کی نسبت مجمل طور پر ذکر ہو چکا ہے کہ آپنے بجائے خیموں کی رہائش کے کوٹھی کی اقامت پسند فرمائی تھی۔ چنانچہ حضور بنفسِ نفیس لڈلو کیسل کی وسیع کوٹھی میں رونق افروز تھے اور آپکے ہمراہیانِ ذی شان گرد و پیش کی کوٹھیات میں۔ لڈلو کیسل دہلی میں نہایت عالیشان کوٹھی ہے۔ جس کو اس موقع پر اعلےٰ درجہ کی آرائش و زیبائش سے حضور کی اقامت کے لائق بنا دیا گیا تھا۔ اقامتگاہ مبارک کے گرد خوبصورت جھنڈیوں اور زریں نشانات کی خوبصورت قطاریں لگا دی گئی تھیں اور خانہ باغ کے لئے خاص حید۔ آباد سے ایک پوری سپیشل ٹرین عجیب و غریب پودوں کے گملوں کی لائی گئی تھی۔ رہائشی کمروں کی آرائش کا کن لفظوں سے بیان ہو سکتا ہے۔ جہاں فرش تک زریں تھا۔ اور جن میں صنعتِ انسانی کے بیش بہا اور نادر الوجود نمونوں کو بھی بڑے تکلف و انتخاب کے ساتھ جگہ دی گئی تھی۔ احاطۂ کوٹھی سے ملا ہوا اصطبل سلطانی تھا جسمیں دو سو قد آور اور لائق گھوڑے

گھوڑے موجود تھے۔ اور اٹھارہ ہاتھی اِسکے علاوہ تھے وسیع میدان میں باڈی گارڈ کے لئے جگہ بنائی گئی تھی۔ جس میں پچاس سوار اور دو سو پیدل چھ افسران کی ماتحتی میں موجود تھے۔ اور یہ سب بھی حیدرآباد سے ہی آئے ہُوئے تھے۔ باقی خدم وحشم کا تو ٹھکانا ہی کیا ہے۔ مختصر یہہ ہے کہ حضور معہ متعلقین و اہلکار صاحبان کے تو سپیشل ٹرینوں میں حیدرآباد سے دہلی تشریف لائے تھے۔ اور جو صاحبان معمولی ڈاک گاڑیوں میں آتے رہے۔ وہ اِن کے سوا تھے۔

مہاراجہ صاحب برودہ کا کیمپ بھی عجیب شان کا تھا۔ جو بوجہ اپنی نرالی وضع کے نہایت مشہور ہوگیا تھا۔ کیونکہ صاحب موصوف نے اپنی اقامت دہلی کے لئے جب ایک کوٹھی کو کرایہ پر لینا چاہا۔ تو مالک نے ساٹھ ہزار روپیہ معاوضہ طلب کیا۔ جسپر آپنے برودہ سے ہی ایک چوبی محل منگواکر یہاں نصب کرادیا تھا۔ جو واقعی ایک نئی چیز تھی۔ یہ محل تمام وکمال ساگوں کی لکڑی کا بنا ہُوا تھا۔ جس کو خوبصورت رنگ و روغن نے مجلّے کر رکھا تھا۔ یہ محل اتنا وسیع و پیچ تھا کہ جس میں سب ضروریات مہیّا کی گئی تہیں۔ اِس کے گرد و پیش تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کر ایک احاطہ بنایا گیا تھا۔ جس میں چھ ڈیوڑھیاں قائم کی گئی تھیں جن میں صدر دروازہ کی ڈیوڑھی سب سے بڑی یعنے باون فیٹ بلند اور پچاس فیٹ چوڑی تھی محل کی چھت پر چھوٹے چھوٹے گنبد خوشنمائی کے لئے بنے ہوئے تھے جن میں درمیانی گنبد بہت بڑا تھا جو پچاس فیٹ بلند تھا اور اس پر ایک سونے کا کلس نصب کر کے دو ہزار بتی

کی طاقت کا ایک محرابی لیمپ لگایا گیا تھا اور چھوٹے گنبدوں پر بھی بیشمار لیمپ روشن کئے گئے تھے اور دروازے پر سولنے چاندی کی دو توپیں رکھی ہوئی تھیں ہز ہائینس مہاراجہ صاحب کشمیر کا کیمپ بھی خاص طور پر لائقِ دید تھا جسکی نسبت یہ کہنا کہ اپنی وضع اور انتظام میں تمام کیمپوں سے خاص امتیاز رکھتا تھا کوئی بھی مبالغہ نہیں - ہز ہائینس کا خیمہ اور استقبالی شامیانہ بالکل پشمینہ کا تھا - جسپر اعلےٰ درجہ کا سوزن کار کام ہو رہا تھا - اس شامیانہ کی رفعت و وسعت اس سے ظاہر ہو جائیگی کہ اسکو ۲۰ فیٹ بلند اور آٹھ انچ قطر کے ٹھوس نقرئی ستونوں نے اٹھایا ہوا تھا - ممتاز خیموں پر سنہری اور نقرئی لٹو لٹک رہے تھے - اور سامانِ آرائش اس کثرت سے مہیا ہوا تھا کہ دیکھکر حیرت ہوتی تھی - کرسیاں علاوہ نقرئی وطلائی ہونے کے کشمیر کے لاجواب نقاشی کام کی اس افراط سے موجود تھیں کہ کسی دوسری جگہ ہرگز نہ ہونگی - اسی کیمپ میں عالیجناب جنرل سر راجہ امر سنگھ صاحب کے سی ایس آئی - سی بی کمینڈر انچیف و وائس پریزیڈنٹ و فارن منسٹر کشمیر ہز ہائینس کے برادر اصغر کا عالیشان خیمہ نصب تھا - اور کشمیر کیمپ میں ہی عالیجناب راجہ بلدیو سنگھ صاحب بہادر والی ریاست پونچھ کا خیمہ وخرگاہ لگا ہوا تھا - ریزیڈنٹ صاحب کشمیر کا کیمپ بھی کشمیر کیمپ میں ہی لگایا گیا تھا - اور ایسے ہی تمام دیگر افسران و اہلکارانِ ریاست کے کیمپ بھی کشمیر کیمپ میں ہی نصب تھے علاوہ ازیں دس ہاتھی اور سینکڑوں گھوڑے اور گاڑیاں

ساتھ تھیں۔ غرضکہ پندرہ سو ہمراہی تھے اور سب پورے ٹھاٹھ سے آئے ہوئے تھے۔ روشنی کے لئے دوسرے کیمپوں کی طرح کشمیر کیمپ میں ٹھیکہ نہ دیا گیا تھا۔ بلکہ خود ایک انجن ایک لاکھ بیس ہزار بتی کی طاقت کا لگایا گیا تھا جس سے ستر آرک لیمپ اور تین سو ساٹھ اِن کینڈسی لیمپ روشن ہو کے رات کو بھی دن چڑھائے رکھتے تھے۔ پانی کے لیے خاص طور پر پختہ کنوئیں کھدوا کر بذریعہ کل اُن سے بڑے بڑے حوضوں میں پانی لیا جاتا تھا۔ اور ہندوؤں۔ مسلمانوں عیسائیوں کے لئے الگ الگ ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ صفائی اور چھڑکاؤ وغیرہ کا انتظام نہایت ہی معقولیت سے کیا گیا تھا۔ چنانچہ اِن سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر کیمپ نہایت مقبولیت کیساتھ مشہور ہو گیا۔

ہز ہائینس نواب صاحب بہاولپور کا کیمپ بھی کشمیر کے ساتھ ایک ہی لین میں لگا ہوا تھا۔ جس کی صفائی۔ آراستگی اور باوصف سادگی کے پوری آرائش و زیبائش خاص طور پر لائق دید تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی۔ جبکہ بہاولپور کا انتظام عام طور پر ہر جگہ مسلّمہ اور مصدّقہ قابلِ تعریف ثابت ہو چکا ہے۔ اس کیمپ کا ٹھیکہ میسرز زاوسلر کمپنی کلکتہ نے لے رکھا تھا۔ استقبالی شامیانہ اور دربار ہال اعلےٰ درجہ کی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ گھوڑوں اور بگھیوں کی افراط۔ وقت کی پابندی۔ روشنی کا لُطف سب ایک سے ایک بڑھا چڑھا تھا۔

ست ہائے پھلکیاں یعنے پٹیالہ۔ جیند۔ نابھہ کے کیمپ

بھی پورے اہتمام سے سجائے گئے تھے۔ جن میں پولٹیکل ایجنٹ صاحب کا کیمپ پٹیالہ کیمپ کے متصل تھا۔ پنجاب میں اِن ریاستوں کا سامانِ آرائش خاص طور پر مشہور ہے۔ اِس لئے اِن کے کیمپوں کا شاندار ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں جبکہ فریدکوٹ اور کپورتھل کی معمولی ریاستوں کے کیمپ بھی بڑی عمدگی سے سجے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں رؤسائے راجپوتانہ میں اودے پور کا کیمپ ایک خاص وضع کا قلعہ نما بنا ہوا تھا۔ اور جودھپور کیمپ کی صفائی بڑی قابلِ تعریف تھی۔ مہاراؤ صاحب سروہی کا کیمپ بھی خاص آرائش لئے ہوئے تھا۔ اور بیکانیر کیمپ کا دروازہ بھی بڑا شاندار معلوم ہوتا تھا۔ اور باقی روساء مثلاً جے پور۔ بوندی۔ کوٹہ۔ الور دھول پور۔ ٹونک۔ کشن گڈہ وغیرہ وغیرہ کے کیمپ بھی آرائش و زیبائش میں کسی سے کم نہ تھے۔ جن سب پر جھنڈیوں اور نشانات انگریزی کی آویزش ایک بہار دکھا رہی تھی۔

رؤسائے سنٹرل انڈیا کا کیمپ اگرچہ بہت فاصلہ پر تھا۔ مگر اِن صاحبوں کے تکلفات نے اسکو بھی ایک خوبصورت دلہن کی طرح سجا رکھا تھا۔ اور جن کو دیکھ کر بے ساختہ حضرت سعدیؒ کا یہ شعر یاد آجاتا تھا۔ کہ ؎

منعم بکوہ و دشت و بیاباں غریب نیست
ہرجا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت

ہرایک کیمپ میں نفیس سامانِ آرائش و ضروریاتِ مناسب سب مہیا تھے۔ اور والیٔ ریاست سے لے کر معمولی اہلکاروں تک پورے

انتظام کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ اگر نقص تھے تو صرف یہ کہ ایک تو بیرونی سڑکوں کا انتظام اچھا نہ تھا۔ گرد کے مارے چہرے کی رنگتیں بدل جاتی تھیں۔ جس پر نہ حکّام انگریزی نے توجہ کی اور نہ کسی والیٔ ریاست نے اپنے خرچ سے اسکا اہتمام کیا۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے احاطہ کے کیمپوں کا فاصلہ بہت دور و دراز تھا۔ اور سنٹرل کیمپ سے تو سبھی دور تھے۔ یعنی کسی رئیس کا کیمپ ایک میل سے کم فاصلہ پر نہ تھا۔ اور زیادہ سے زیادہ نو میل تک کا فاصلہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ سنٹرل انڈیا کیمپ۔ سنٹرل کیمپ سے نو میل تھا۔ مگر اس وقت کا علاج محال تھا کہ ایک ہی اتنا بڑا وسیع میدان کہاں سے آسکتا تھا۔ اور اگر آتا بھی تو کیمپوں کی تعداد اسقدر تھی کہ خواہ مخواہ دوری پیدا ہو جاتی۔

زیادہ توضیح کے لئے ایک بڑا نقشہ دیا جاتا ہے جس میں شہر۔ سنٹرل کیمپ اور والیانِ ریاست کے احاطہ دار کیمپوں اور دوسرے ضروری مقامات کو دکھایا گیا ہے اور جس سے یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ کہاں کہاں تک یہ عارضی ایڈورڈ آباد پھیل گیا ہوا تھا۔ یہ نقشہ چونکہ سرکاری نقشہ سے لیا گیا ہے اسلئے اس کو عام نقشہ جات کی طرح طبعی نہ سمجھنا چاہیئے

بابِ دوم

تقریباتِ دربار

فصلِ اوّل

داخلۂ شاہی اور جلوسِ سواری

عام لوگوں کو جس تذبذب و شوق سے جلوس سواری کے دیکھنے کا ہو رہا تھا۔ اور جس قدر پورے اہتمام کے ساتھ یہ جلوس نکالا گیا اس کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ کیونکہ اس بات کو عموماً سب صاحبان بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ کہ اہلِ رعایا اور عوام کے نزدیک شاہی اقتدار اور والیانِ ریاست کے شان و وقار کے دیکھنے کا صرف یہی ایک موقع تھا۔ وجہ یہ کہ دربار یا اس کے متعلق دوسری تقریبات میں خاص خاص اشخاص کے سوا عوام تو شریک ہی نہ ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اسی لئے عام و خاص رعایا نے اس کے دیکھنے میں جو دلچسپی ظاہر کی۔ اور گورنمنٹ نے بھی اس کے شاندار بنانے کے لئے جو اہتمام کیا۔ وہ بہت کچھ بڑھا ہوا تھا۔ اور جس کی کیفیت واقعی دیکھنے کے لائق ہو گئی تھی۔

جلوس دیکھنے کا سرکاری انتظام۔ جلوس سواری کے لئے اسٹیشن سے وائسرائگل کیمپ تک جو رستہ تجویز ہو چکا تھا۔ اس کی تشریح پہلے سے کر دی جا چکی ہے

جس کے صرف اسقدر ابزادی کی ضرورت ہے کہ اِسمیں سے بالخصوص چاندنی چوک اور جامع مسجد کے مقامات اپنے محلِّ وقوع کے اعتبار سے جلوس دیکھنے کے لئے خاص طور پر موزوں تھے۔ چنانچہ یہیں سرکاری مہمانوں اور سفرائے دولِ غیر اور اُن والیانِ ریاست کے لئے جو شاملِ جلوس ہونے والے تھے۔ سرکاری طور پر نشست کا انتظام کیا گیا تھا۔ گھنٹہ گھر کے قریب اور جامع مسجد کے سامنے بڑے وسیع شامیانے لگا کر کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ اور اِس کے سوائے گیلری کے طور پر عام مہمانوں کے لئے بھی نشست کا انتظام کیا گیا تھا۔ جامع مسجد کے سہ طرفہ دالانوں میں اور انکی چھتوں پر یورپین مہمانوں اور سفرائے دولِ غیر کے لئے کرسیاں چنی گئی تھیں۔ کیونکہ جامع مسجد کا چکر کاٹنے میں جسقدر عرصہ جلوس کو گزرنا تھا۔ وہ اِس قدر کافی تھا کہ اِسمیں پوری کیفیت اِن دالانوں سے ناظرین دیکھ سکتے تھے۔ اور چونکہ جامع مسجد کے مشرقی دروازہ اور قلعہ کے مابین ہی ایک طرف کو آتشبازی کی لین ڈوری لگائی جا چکی تھی۔ اِسلئے اسکے دیکھنے کا بھی صرف یہی موقع تھا چنانچہ اِن دونوں مواقعات کے لئے اپنے مہمانوں میں تقسیم کرنے کیواسطے گورنمنٹ نے ٹکٹ جاری کر دیئے تھے۔ جو مہمانوں کو بلا کسی معاوضہ کے پہنچائے جاتے تھے۔

عام تماشائیوں کا اِنتظامِ نظارہ۔ گورنمنٹ کے تعلق نہ تھا جسکے لئے لطور خود جامع مسجد کے منتظمین نے مسجد کے تینوں طرف سیڑھیوں کے پاس مسلسل گیلری کے طریق پر بنچیں بچھوا کر ٹکٹ جاری کر دیئے تھے۔ اور ایسا ہی چاندنی چوک کی اُس لمبی پٹڑی کو (جسپر عام دوکاندار اور سبزی فروش وغیرہ بیٹھتے ہیں انکو بیدخل کرا کے) ایک پارسی صاحب نے پہلے ہی سے میونسپل کمیٹی دہلی سے دو ہزار روپیہ میں ٹھیکہ پر لیلیا تھا اور اُسپر اپنے اہتمام و صرف سے گیلری کیطرح بنچیں بچھوا دی تھیں۔ جنکی اگلی قطاروں میں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اور ٹکٹوں کی قیمت مُفصّلہ ذیل مقرر کی گئی تھی۔

ٹکٹ کرسی نشین برائے جلوس و آتشبازی	اعہ	صرف جلوس کے لئے	للعہ
ٹکٹ درجۂ اوّل	ایضاً	صہ	ایضاً	سے
ٹکٹ درجۂ دوم	ایضاً	سے	ایضاً	عطا
ٹکٹ درجۂ سوم	ایضاً	عہ	ایضاً	عہ

یہ جامع مسجد کے ٹکٹوں کا نرخ ہے۔ کیونکہ وہی ٹکٹ دونوں مواقعات پر کام دے سکتے تھے۔ اور چاندنی چوک کے ٹکٹ چونکہ صرف جلوس کے لئے کارآمد ہوسکتے تھے۔ اسلئے اِنکی قیمت جلوس دیکھنے کے لئے سے۔ عطا اور عہ رہتی۔ انہیں ٹکٹوں پر کیا منحصر تھا تمام شہر کے جلوسی رستے کے بازاروں کے دونوں طرف دوکانات کے آگے ایک ایک گز زمین چھوڑکر باقی زمین میونسپل کمیٹی نے ایک روپیہ میں ایک گز مربع کے نرخ سے کرایہ پر دیدی تھی۔ اور قرار دیا گیا تھا۔ کہ اِس کی خریداری کے لئے سب سے پہلے تو اُس دوکاندار کا حق ہے جسکی دوکان کے سامنے وہ زمین واقع ہے۔ البتہ اُس کے اِنکار کردینے کی حالت میں دوسرے خریداروں کی درخواست لیجاسکے گی۔ مگر انکار کون کرتا؟ قریباً تمام دوکانداروں نے ایسی زمینیں خود ہی لے لی تھیں۔ اور پھر بطورِ خود عام لوگوں سے معاوضہ لیکر اُنکو وہاں بیٹھنے کے لئے بنچیں یا سٹول یا چوکیاں یا چوبی تخت یا دریاں بچھانے کی اجازت دیدی تھی۔ اِس کے سوا اِن رستوں کے بالاخانے بھی لوگوں نے معقول کرایوں پر لے رکھے تھے۔ اور پھر انہی پر بس نہ کرکے بعض بعض مکانوں کے آگے عارضی بڑھاؤ بنا دیئے گئے تھے۔ جنپر شوقین بیٹھکر جلوس دیکھ سکیں۔ ایسے بڑھاؤں پر بیٹھنا اگرچہ خطرناک تھا۔ مگر لوگوں نے نہایت بیباکی سے انپر بیٹھنے کا بھی انتظام کرلیا تھا۔ شہر کے باہر بھی جہاں جہاں کیمپ یا کوٹھیاں پڑتی تھیں۔ وہاں بھی شائقینِ دید کے لئے نشستوں کا اِنتظام ہوچکا تھا۔ آریہ سماج والوں نے بھی اپنے کیمپ میں ٹکٹوں کا اِنتظام کر رکھا تھا۔ جس کا روپیہ وہ سماج کے کاروبار پر

صَرف کرنیکا فیصلہ کرچکے تھے۔ علیٰ ہٰذا اَور بھی جسقدر کیمپ رستے میں تھے۔ اُنہوں نے نہایت سجاوٹ اور قرینے کے ساتھ جلوس دیکھنے کے لئے چوکیوں وغیرہ کے بچھانے سے اہتمام کررکھا تھا۔

۲۹۔ دسمبر ۱۹۰۲ء یوم دوشنبہ کو جس دن بارہ بجے یہ جلوس شاہانہ نکلنے والا تھا۔ ابھی آفتاب نے اپنا رُخ پُرنور بھی نہ دکھایا تھا۔ کہ مجوّزہ رستوں پر لوگوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ جانے اور بیٹھنے شروع ہوگئے۔ بلکہ بعض بُڈھے اور غریب لوگ تو چار بجے قبل صبح سے ہی اپنے اپنے ٹھکانوں پہ قابض ہورہے تھے۔ مگر جن لوگوں نے جامع مسجد یا چاندنی چوک کے لئے ٹکٹ لے رکھے تھے۔ وہ بھی آٹھ بجے صبح سے جاکر اپنی اپنی نشستیں سنبھالنے لگ گئے۔ کیونکہ صاحب ڈپٹی کمشنر نے اطلاع جاری کردی تھی۔ کہ دس بجے سے بعد پولیس کا پہرہ لگ جائیگا۔ اور آمد و رفت مسدود ہوجائیگی۔ چنانچہ سرکاری مہمانوں کے لئے (سوائے اُن رؤساء کے جنہوں نے اسٹیشن پر وائیسرائے صاحب کا استقبال کرنا تھا) سب کیواسطے یہی حکم تھا کہ دس بجے سے بعد اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں چنانچہ ہر جگہ اس کی تعمیل ہونے لگ گئی۔ اور علی الصباح ہر ایک کیمپ میں شاملین اور ناظرینِ جلوس اپنی اپنی حیثیت کے موافق طیاریوں میں مصروف ہوگئے۔ ہاتھیوں پر طرح طرح کے قابلِ دید اور لائقِ تعریف خوشنما ہودج اور جھولیں کسی جانے لگیں۔ اور رئیسوں نے پُرانے جواہرات کے زیورات نکال نکال کر پہننے شروع کردیئے۔ افواجِ سرکاری و ریاستی اپنے اپنے مُتعینہ مقامات کو بخوبی جانتی تھیں۔ کیونکہ ابتدائی مشقوں میں ہر ایک اپنے فرائض اور جائے تعیناتی سے اچھی طرح واقف ہوچکا تھا۔ غرضکہ دس بجتے بجتے وہ تمام راستہ جسپر سے جلوس گذرنے والا تھا۔ تماشائیوں کے ہجوم سے پُر ہوگیا۔ مہمانوں اور ٹکٹ دار لوگوں کے علاوہ لکھوکھا مخلوق بازاروں میں کھڑے ہوکر اس منظر شاہانہ کا دلی شوق و ذوق سے انتظار کرنے لگ گئی۔ اور ہر طرف جہانتک نظر کام کرتی تھی۔


آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ جسمیں غریب امیر۔ خوش وضع۔ کم رو کوٹ پتلون والے اور عبا و اچکن پہننے والے۔ طرح طرح کی ٹوپیاں اوڑھنے والے۔ اور رنگ برنگ کی پگڑیاں باندھنے والے۔ متکلّف پوشاکوں والے۔ اور سیدھے سادے کپڑوں والے سب شریک تھے۔ اور غالباً جن کا مجموعی نظارہ ہندوستان کی موجودہ طرزِ معاشرت کا ایک بے نظیر و بے عدیل فرحت افزا اور مکمّل نظارہ تھا۔ صاحبانِ انگریز بھی اگرچہ سادہ ڈریس میں اپنی اپنی جگہوں آ بیٹھے تھے۔ مگر پھر بھی سادگی کے ساتھ جو جو تکلفات ممکنات میں داخل ہیں سب انکی پوشاکوں میں بھی موجود تھے۔ بالخصوص انکی لیڈیاں تو ایسی بنی ٹھنی کرآئی ہوئی تھیں۔ کہ غالباً اس سے بہتر بناؤ کسی اور موقع پر نہوا ہوگا۔ دو گھنٹے ابھی جلوس کی روانگی میں باقی تھے۔ جو ایک کافی وقت ہے۔ مگر کسیکو بھی یہ اِنتظار ناگوار نہ تھا۔ اور ہر ایک مجمع میں اس وقت کو ایک دوسرے کی ملاقات اور مختلف مضامین پر گفتگو کرنے سے نہایت خوشی کے ساتھ بسر کیا جارہا تھا۔ فوٹو گرافر صاحبان اپنے اپنے آلات لئے قابلِ دید اور مناسب مقامات پر مستعد کھڑے تھے۔ کہ یہاں سے فوٹو لیا جائیگا۔ انگریز ہندوستانیوں کے طرزِ معاشرت و تمدن کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہندوستانی اس جاہ و جلال اور انتظام و اہتمام کو دیکھ رہے تھے۔ جو پچیس سال کے بعد دہلی میں ہو رہا تھا۔ غرضکہ کوئی دماغ ایسا نہ تھا۔ جو خیالِ بادشاہی کی وقعت اور اس تقریب کی اہمیت کے تصوّر سے خالی ہو۔ جلوسی رستے کی کیفیت بھی خاص طور پر لائقِ دید تھی۔ جس پر دونوں طرف کے مکانوں کو نہایت خوشنمائی کے ساتھ لوگوں نے اپنے صَرف اور اہتمام سے سجایا ہوا تھا۔ اور غالباً کوئی پُرانے سے پُرانا اور بھدے سے بھدا مکان بھی ایسا نہ رہا تھا۔ جسکو اس تقریب کے لئے قلعی کے اُجلے کپڑے نہ پہنا دیئے گئے ہوں۔ مصنوعی دروازے اور طرح طرح کے خوشنما ویلکم اور دعائیہ فقرات "خدا بادشاہ کو سلامت رکھے"۔ "خدا وائسرائے کو خوش و خُرّم رکھے"۔

نہایت موزونیت سے لگے ہوئے تھے۔ اور اِس کے سوا یُوں بھی تمام بازاری مکانات کو جھاڑ و فانوس وغیرہ سے شیشہ آلات کی دوکان کا ہمشکل بنا دیا گیا تھا جس کی مجموعی حالت نظر کے لئے بڑی فرحت بخش ہوگئی تھی۔ اور ایسا معلُوم ہوتا تھا کہ دہلی کو اُس بُڑھاپے میں پھر ایک دفعہ جوبن آگیا ہے۔ دیوارِ قلعہ کے پاس دیسی روٴساء کے سجے سجائے ہاتھیوں کی ایک لمبی قطار کھڑی ہوئی تھی۔ جنکا انتظام میجر ڈنلاپ سمتھ کے سپرد تھا۔ بازاروں میں گو انتظاماً رستہ بند بھی تھا۔ مگر کثرت ہجوم کے باعث یُوں بھی تمام راستے اِس قدر پُر ہوگئے تھے کہ واقعی ناقابلِ گذر ہوچکے تھے۔ اِتنے میں ٹھیک گیارہ بجے کے پچیس منٹ پر الکیس آتواپ کی شاہی سلامی نے سبکو خبردار کردیا۔ کہ وائسرائے صاحب کی سپیشل دہلی میں بخیریت پہنچ گئی۔ لہٰذا جلوس دکھانے سے پہلے ناظرین کو کسی قدر ریلوے سٹیشن پر داخلۂ شاہی کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔

حضُور وائسرائے کا داخلہ دہلی میں

بتاریخ ۲۹۔ دسمبر ۱۹۰۲ء

ریلوے اسٹیشن جسکی آرائش وزیبائش ۱۵ دسمبر ۱۹۰۲ء سے یوماً فیوماً ترقی کر رہی تھی۔ اِس دن پُورا پُورا مکمل ہوچکا تھا۔ جسکے حسن کو درودیوار پر سُرخ وسفید و سبز جھنڈیوں اور پھریروں اور پھول پھلواڑی کی آویزش نے ایک سے سَو کر دکھایا تھا۔ جا بجا سلطنتِ انگریزی کے مقررہ نشانات لٹک رہے تھے۔ اور بالخصوص وہ اندرونی درِوانہ جو اسٹیشن کی توسیع کے باعث پہلے اور دوسرے پلیٹ کے مابین آگیا ہے۔ وہ تو اور بھی سجا ہُوا تھا تمام پلیٹ فارم پر سُرخ بانات کا فرش ہو رہا تھا۔ اور مناسب مقامات پر "گاڈ سیو دی کنگ ایمپرر" اور "گاڈ سیو دی وائسرائے" "خدا بادشاہ کو سلامت رکھے" "خدا وائسرائے کو سلامت رکھے" وغیرہ کے دُعائیہ کلمات مختلف خوبصورت رنگ کے



داخلہ شاهي جس مین پہلے هاتهي پر (جو بائین طرف دکهایا هے) حضور وائیسرائے مع اپني بیگم صاحبہ کے
اور ان کے بعد دوسرے هاتهي پر عالیجناب ڈیوك اور ڈچس اوف کیناٹ بہادر کو دکهایا گیا هے - جن کے پیچهے

کپڑوں پر سنہری روپہری حروف میں لکھے ہوئے ایک عجیب سجاوٹ کا بازار گرم کر رہے تھے۔

سٹیشن کے باہر اس کے بڑھے ہوئے بڑے دروازے کے مغربی طرف گارڈ آف آنر کا فوجی دستہ متعین ہو چکا تھا۔ اور مشرقی طرف حضور وائسرائے اور ڈیوک صاحب کے لئے دو فیلانِ کوہ پیکر کھڑے ہوئے تھے۔ جنکی سجاوٹ اور خوبصورتی خاص طور پر دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضور وائسرائے کے لئے جو ہاتھی آراستہ کیا گیا تھا وہ مہاراجہ صاحب بنارس کا تھا۔ اور اس کا نام لچھمن بھا۔ اس پر نہایت تکلف جھول زردوزی کام کی پڑی ہوئی تھی۔ اور اوپر سے وہ نقرئی عجیب و غریب عماری کسی ہوئی تھی۔ جس پر ۱۹۰۳ء کے جلوس میں لارڈ کرزن نے نشست فرمائی تھی۔ ڈیوک اوف کنیاٹ بہادر کے لئے جو ہاتھی طیار ہوا تھا۔ وہ مہاراجہ صاحب جیپور کی ملکیت سے تھا۔ اور جسکی جھول کی خوشنمائی وائسرائگل ہاتھی کی جھول سے بھی بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی بے نظیر نقرئی عماری مہاراجہ صاحب بلرام پور کی بھیجی ہوئی تھی۔ جس کے دونوں بازوؤں پر خوبصورت شیر بنے ہوئے تھے۔ اور پھر انکے آگے چلنے کے لئے چاندی کے عصاؤں والے چوبدار فوق البھڑک وردیاں پہنے کھڑے تھے۔

دس بجے سے دیسی والیانِ ریاست اور حکام و عمائدینِ اعلیٰ کی آمد آمد نہایت تزک و احتشام کے ساتھ شروع ہوئی جیکے ساتھ انہوں نے شاملِ جلوس ہونا تھا۔ جن کی پوشاکوں کی زرق برق اور ہاتھیوں گھوڑوں کی چمک دمک خاص طور پر قابلِ دید تھی۔ اور جس کا ذکر آئندہ آئیگا۔ حکام عالیمقام میں سے ہزاکسلنسی کمینڈر انچیف و ہزاکسلنسی گورنرانِ مدراس و بمبئی۔ ہزآنر لفٹنٹ گورنرانِ پنجاب بنگال برہما ممالکِ متحدہ۔ آنریبل ممبرانِ کونسل وائسرائے۔ آنریبل چیف کمشنرانِ۔ صوبہ سرحدی و آسام و صوبہ متوسط۔ آنریبل ایجنٹ گورنر جنرل صاحبانِ بلوچستان


دوسط ہند و راجپوتانہ۔ اور لفٹننٹ جنرل کمانڈنگ افسران پنجاب۔ بمبئی۔ بنگال۔ مدراس اور نیپل ریزیڈنٹ صاحبان حیدرآباد و میسور۔ صاحب کمشنر دہلی۔ اور سفرائے دول خارجیہ سٹیشن پر موجود تھے۔ جن سب کے بعد گیارہ بجے کے چند منٹ اوپر گرانڈ ڈیوک اوف ہیسی نے آکر اس جماعت منتظرہ کو پورا فرما دیا۔ اور پردیسیوں اور یورپینوں کا عالیشان مجمع اور انتخاب روزگار جماعت نائب سلطنت ہند کے ورود بہجت آمود کا بشوق و ذوق انتظار کرنے لگی۔ چنانچہ۔

والیسرائے صاحب کی سپیشل ٹرین ٹھیک گیارہ پر پچیس منٹ گذرے داخل سٹیشن ہوئی۔ جس کے انجن کو بھی حسب دستور جھنڈیوں اور نشانات وغیرہ سے خوب سجایا ہوا تھا۔ گاڑی کے پہنچنے پر فی الفور قلعہ معلّٰی سے اکتیس توپ کی سلامی سر ہونے لگی۔ اور حکام و والیان ریاست کی جماعت منتظرہ نے بڑھکر والیسرائے صاحب کو خوش آمدید کہا۔ اور والیسرائے صاحب نے بھی خندہ پیشانی گاڑی سے برآمد ہوکر سب صاحبوں کا سلام لینے کے بعد بڑے بڑے حکام اور معزز و ممتاز والیان ریاست سے مصافحہ و مزاج پرسی کی مراسم نہایت مختصراً ادا فرمائیں۔ اس وقت آپ نے نفیس نیلگون وردی پہنی ہوئی تھی۔ جس پر سٹار اوف انڈیا کا تمغہ لگا ہوا تھا۔ اور آپکی بیگم صاحبہ نے نہایت نفیس سفید رنگ کی چمکدار پوشاک زیب تن فرما رکھی تھی۔ مختصر یہ کہ ان ملاقاتوں میں قریباً پندرہ منٹ لگے ہونگے کہ اتنے میں **ڈیوک اوف کنناٹ بہادر** کی سپیشل ٹرین کا ٹھیک پونے بارہ بجے سگنل ہوا۔ جن کی گاڑی کے داخل سٹیشن ہونے پر بھی حسب دستور قلعہ معلّٰی سے اکتیس توپ کی سلامی سر ہونے لگی۔ اور حضور والیسرائے نے مع اس تمام چیدہ رؤساء و حکام کی جماعت کے انکا استقبال کیا۔ اور بڑے بڑے حکام و والیان ریاست کو آپ کے روبرو نام بنام پیش فرمایا۔ جن سے ڈیوک صاحب معہ صوف

نہایت اخلاق و محبت سے ہمکلام ہوتے رہے۔ اور جن جن صاحبوں کے ساتھ اُنہیں پہلے سے ذاتی تعارف ہوچکا تھا۔ اُس کو اپنی یادداشت سے تازہ فرماتے رہے۔ اُس وقت ڈیوک صاحب بہادر فیلڈ مارشل کی وردی پہنے ہوئے تھے۔ جسپر وائسرائے صاحب کیطرح ستارۂ ہند کا فیتہ لگا ہوا تھا۔ اور انکی بیگم صاحبہ بھی نہایت نفیس چمکدار لباس سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی تھیں۔ الغرض تمام حکام و عمائد سے سلام و کلام کے بعد اُن والیانِ ریاست اور جاگیرداروں اور ولائتی مہمانوں اور سفرائے دولِ خارجہ کو جو جلوسِ سواری میں شریک نہو سکتے تھے چاندنی چوک اور جامع مسجد کی مقررہ نشستوں پر بیٹھنے کے لئے روانگی کا حکم دیکر۔ اور شاملِ جلوس ہونے والے مہاراجگان و نوابان کو بھی اپنے اپنے ہاتھیوں پر بیٹھنے کے لئے علیحدہ چھوڑ کر دونوں صاحب اپنے اپنے ہاتھیوں پر سوار ہونے کے لئے دروازۂ سٹیشن کیطرف چل پڑے۔ جہاں گارڈ اوف اونر کے فوجی دستے نے نہایت عمدگی کے ساتھ اپنے اپنے اسلاح پیش کرنے سے شاہی سلامی اُتاری۔ اور حضور ہز ممدوحین اپنے اپنے کوہِ وقار ہاتھیوں پر سوار ہوئے۔ جن کے بعد رفتہ رفتہ سب حکامِ والامقام اور والیانِ ریاست اور سرداران ذی شان اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہونے شروع ہوگئے۔ اور سوا بارہ بجے جلوسِ شاہانہ پوری تکمیل پاکر ترتیب و تجویزِ منظور شدہ سابق کے موافق روانہ ہوا۔ جس کے نظارہ کے لئے جامع مسجد کے چکر سے بڑھکر کوئی دوسرا موقع شاید زیادہ موزوں نہو۔ لہٰذا ناظرینِ کتاب بھی جامع مسجد کا نظارہ پیش نظر رکھ لیں۔ جس کی ایک تصویر بھی دیجاتی ہے لیکن ایسے موقعات کی مکمل تصویر قریباً ناممکن ہوا کرتی ہے۔ اسلئے اس میں بھی الفاظی تصویر کے دیکھنے کی ضرورت باقی رہجاتی ہے۔ جسکو حتی الامکان مکمل کرنے کے لئے یہاں کھینچدیا جاتا ہے۔

جامع مسجد سے جلوسِ سواری کا نظارہ

بارہ بجے دوپہر کا وقت تمام دہلی کے لئے اور بالخصوص جامع مسجد اور چاندنی چوک کے لئے جوش شاندار نظارے بوقلموں منظر بے انتہا ہجوم اور زاید از حد بیان شوق لئے ہوئے تھا۔ غالباً تاریخ میں خاص طور پر یادرہنے کے قابل ہے۔ تمام شائقین جلوس اپنی نشستوں پر بحالتِ منتظرہ میں بیٹھے ہوئے متجسس نگاہوں کے ساتھ قلعہ کی فصیل کیطرف دیکھ رہے تھے۔ جہاں دیسی رئیسوں کے ایک سو اڑسٹھ ہاتھی پوری طرح سجے سجائے زیورات پہنے اور اپنے اپنے بدنوں کو طرح طرح کے خوشنما رنگوں سے رنگے اور نایاب پھولوں سے ڈھانپے ہوئے کھڑے تھے۔ عام تماشائی ہزارہا کیا لکھوکھا کی تعداد میں سڑکوں کے کناروں پر صبح سے ہی کھڑے ہو رہے تھے جن کے حصولِ مدعا کا یہی وقت تھا۔ ناظرین! حکام اور مہمانوں کی گھوڑا گاڑیوں کی کھٹا کھٹ موٹر کاروں اور بائسکلوں کی تیز رفتاری اور گھوڑوں کی رہواری جو صبح سے دس گیارہ بجے تک برابر جاری تھی۔ اس وقت بالکل ختم ہوچکی ہے۔ سب گاڑیاں ایک طرف کھڑی ہیں۔ جنکے مالکوں اور کوچبانوں کو ایک ہی نمبر کے الگ الگ دو ٹکٹ دیدیئے گئے ہیں۔ جنسے واپسی کیوقت انکو تلاش میں کافی مدد ملے گی۔ دو طرفہ پولیس اور جنگی پہرہ داروں کا جماؤ ہو رہا ہے۔ افسرانِ متعینۂ انتظام نہایت سرعت کے ساتھ ادھر اُدھر مصروف گشت ہیں۔ کیونکہ وقت قریب تر آپہنچا ہے۔ وائسرائے صاحب اور ڈیوک صاحب کی تشریف آوری کی خوشخبری پہلے سے ہی اتواپ سلامی نے منتظرین کو پہنچا رکھی تھی۔ جس کے بعد بھی لوگ اب بار بار انکی آمد کے رستے کو نصب العین بنائے بیٹھے تھے کہ ٹھیک سوا بارہ بجے ایلجن روڈ پر جلوس کی ابتدائی ہراول موج دریا کیطرح بڑھتی نظر آنے لگی۔ اور قلعہ کے پاس آتے ہی وائسرائے صاحب کا جھنڈا بلندئی قلعہ پر



نمودار ہو گیا۔ اور جلوس میں سب سے پہلے مسٹر چارلس براؤن انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب مع دو نائبوں گھوڑوں پر سوار نظر آنے لگے جن کا اس طرح جلوس میں پیشرو ہونا گویا زبانِ حال سے کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں سول کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے انکے پیچھے ڈپٹی کوارٹر ماسٹر جنرل وائسرائے اور انکے پیچھے چوتھی رائل آئرش ڈریگون گارڈس کا ایک دستہ تھا۔ جنمیں سے پہلی قطار والوں کے ہاتھ میں تو سرخ و سبز رنگ کی جھنڈیاں لہرا رہی تھیں۔ اور دوسری قطار والوں کے ہاتھ میں چمکدار تلواریں اپنی برہنہ صورتیں دکھا رہی تھیں۔ اس کے بعد میجر لیکی صاحب کے زیر حکم توپخانہ شاہی تھا۔ جس کا ساز و سامان بھی خاص طور پر دیکھنے کے لائق تھا۔ انکے بعد پھر تین دستے چوتھی ڈریگون گارڈ کے تھے۔ جنکے پیچھے اردلی آفیسر اسکورٹ وائسرائے اور ڈپٹی اسسٹنٹ ایجوٹنٹ اسکورٹ وائسرائے اور جنرل کمانڈنگ اسکورٹ وائسرائے کی سواری تھی۔ اور پھر شاندار باجہ مسرت و بہجت کا ترانہ گاتا جاتا تھا۔ انکے بعد کیپٹن میکسول صاحب نقیب شاہی عجیب و غریب زرق برق زردوزوردی پہنے (جسپر تاج اور شیر کے شاہی لنشانات سنہری بنے ہوئے تھے) سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ جنکے پیچھے دو قطاروں میں بارہ ترمچی اور نقارہ نواز ویسے ہی قسم کی شاندار پوشاکیں پہنے چاندی کی ترئیاں لئے اور مشکی گھوڑوں پر نقارے رکھے اس آن بان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھنے والے ہمہ تن انکی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ انمیں بحصہ مساوی نصف انگریز اور نصف دیسی اشخاص شریک تھے۔ جنکے بعد حضور وائسرائے کا رسالہ باڈی گارڈ تھا۔ اور اس کے پیچھے انڈین کیڈٹ کور کا مختصر مگر وہ پر فخر فوجی دستہ تھا۔ جو وقتی کسی شہنشاہِ ہند کو اس جامعیت کے ساتھ اس سے پہلے کبھی میسر نہیں ہوا۔ اور جس کی بنا اندازی موجودہ وائسرائے لارڈ کرزن بہادر کے ہی دست ہمت سے ہوئی ہے

اس میں نوجوان خود مختار والیانِ ریاستہائے ہندیا انکے ولیعہد صاحبان شامل تھے
اور اسیب پولیٹیکل اعتبار سے بھی اور اپنی مناسب شانداری کے لحاظ سے بھی تمام
جلوس میں یہ ایک قابل دید چیز تھی۔ یہ سب صاحبان ایک ہی قسم کا لباس پہنے اور
ایک ہی طرح کی پگڑیوں پہ جیغہ وطرہ لگائے۔ ہاتھوں میں برہنہ تلواریں لئے مشکی گھوڑوں
پہ سوار جارہے تھے۔ لباس سب کا قیمتی چمکدار ہلکے نیلے اور سفید رنگ کا تھا۔ جسپر جابجا
زرکار بیلیں بنی ہوئی تھیں (یہی وہ رنگ ہیں جو سٹار اوف انڈیا کی خلعت کے
قرار دیئے جاچکے ہیں) اور کمر میں کشمیری کام کے کمر بند بندھے ہوئے تھے۔ انکے
گھوڑوں کی زینیں چیتے (تیندوے) کی کھال کی بنی ہوئی تھیں۔ اور گھوڑے بھی
مردانہ اور امیرانہ ساز و یراق سے سجے ہوئے تھے۔ غرضکہ ہندوستان کے راجپوتوں کی
قدیمی وضع کا سُلجھا ہُوا نمونہ تھا۔ جس نے تمام ناظرین کی توجہ کو خود بخود اپنی طرف
منعطف کرلیا تھا۔ انکے بعد ہاتھیوں کا جلوس شروع ہوا۔ جنمیں سب سے پہلے
پہلو بہ پہلو دو ہاتھیوں پر وائسرائے صاحب کے دو ایڈی کانگ سوار تھے۔
اور پھر دو ہاتھیوں پر ہزرائل ہائینس ڈیوک اوف کیناٹ کا سٹاف تھا۔
جنکے بعد پھر دو ہاتھیوں میں سے ایک پر حضور وائسرائے کے پرائیویٹ سکرٹری صاحب
اور دوسرے پر سکرٹریان گورنمنٹ ہند صیغۂ خارجہ و صیغۂ جنگی سوار
تھے۔ جنکے بعد درمیان میں اکیلے ہاتھی پر حضور وائسرائے مع اپنی بیگم صاحبہ
کے جلوہ افروز تھے۔ جنکے آگے آگے چاندی کی عصاؤں والے چوبدار دوڑے جارہے
تھے۔ وائسرائے صاحب کے آتے ہی ہر طرف سے ہپ ہپ ہرے اور خوش
آمدید کی جس قدر مبارک آوازیں بلند ہوئیں۔ اور جس طرح پوری خوشی کے ساتھ
انہوں خلائق کو آپ سلام کرتے جاتے تھے۔ اُس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ
صاحب آج کے اس بے عدیل جلوس و ہجوم کے ہیرو تھے۔ پس انکو دیکھ کر

انبوہ مخلوق اور رعایا کو دیکھ کر جس قدر خوش ہو سکتے تھے۔ اُسے سب لوگ خود ہی قیاس کر سکتے ہیں۔ انکے بعد کے ہاتھی پر ڈیوک اوف کیناٹ بہادر مع اپنی بیگم صاحبہ کے تشریف فرما تھے جنکے جلو میں بدستور ویسے ہی چوبدار دوڑتے جارہے تھے اور جنکو ہجوم خلائق نہایت اشتیاق سے دیکھکر سلام کر رہا تھا۔ اور یہ بھی نہایت خاموشی اور متانت کے ساتھ اس پُر اثر نظارے کو دیکھتے جاتے تھے۔ انکے بعد ہاتھیوں کی دو قطاریں پہلو بہ پہلو ہوگئی تھیں۔ جنمیں سے دائیں طرف کی قطار میں سب سے پہلے حضور نظام خلد اللہ ملکہ بسنتی عمامہ باندھے اور سادہ پوشاک پہنے جلوہ افروز تھے۔ آپکے ہاتھی کی جھول اور ہودج بھی بسنتی رنگ کا تھا۔ حتیٰ کہ فیلبان کی وردی بھی بسنتی ہی رنگ کی تھی۔ اور اس مجموعی ہئیت نے وہ رنگ باندھ رکھا تھا کہ جو باوصف پرلے درجہ کی سادگی کے اکثر ولائتی مُصوروں نے اُس کے فوٹو لینے شروع کر دیئے۔ آپکی خواصی میں مہاراجہ کشن پرشاد صاحب مدار المہام دکن بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آپ کے روئے مُبارک پر شاہانہ جلال نثار ہو رہا تھا سلطنتِ دکن کے دُعاگو بسبب اُس کی فیاضی اور علم پروری کے ہندوستان بھر میں جس قدر موجود ہیں۔ اور یہاں کے عام وخاص باشندوں میں اُس کی جو کچھ قدر و وقعت ہے اُسکی مناسبت سے جہاں کہیں آپکی سواری تخاوق کی نذر پڑتی تھی پُرجوش چیرز بلند ہو جاتے تھے۔ اور ہر ایک آنکھ اپنے دلی جذبات عقیدت وارادت کی ادائیگی کے لئے ہاتھ یا سر کو حرکت دیدیتی تھی۔ انکے بعد ہز ہائینس مہاراجہ پرتاب سنگھ صاحب بہادر جی۔ سی۔ ایس۔ آئی والیٔ ریاست جموں وکشمیر وگلگت وغیرہ کا ہاتھی تھا۔ جسکے جھول اور ہودج کا اعلیٰ طلائی کام آنکھوں میں چکا چوند کر دیتا تھا۔ ہز ہائینس بڑے بشاش چہرہ کے ساتھ تشریف فرما تھے جنکے ساتھ آپکے برادر نامدار سر راجہ امر سنگھ صاحب بہادر کے۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ سی۔ بی کمینڈ۔ انچیف و داشن پریذیڈنٹ

کونسل نہایت عزم و شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پیچھے خواصی میں صاحب دیوان دیاکشن صاحب بی۔ اے پرائیویٹ سکرٹری ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر کی نشست تھی۔ جو آنربیل راجہ سورج کول صاحب سی۔ ایس۔ آئی ممبر کونسل وائسرائے کے فرزند ارجمند ہیں۔ جنکے بعد علیٰ قدرِ مراتب دوسرے والیانِ ریاست اپنے اپنے سجے ہوئے ہاتھیوں پر نہایت شاندار پوشاکیں پہنے سوار تھے۔ بائیں طرف کی قطار میں سب سے پہلے نوجوان مہاراجہ صاحب میسور کا ہاتھی تھا۔ اور انکے بعد مہاراجہ صاحب ٹراونکور کا۔ اور پھر درجہ بدرجہ دوسرے والیانِ ریاست کا۔ چنانچہ تشریح کے لئے دونوں قطاروں کی ترتیب دکھانے کو ایک فہرست دیجاتی ہے۔

دائیں طرف

ہزہائینس حضور نظام دکن خلد اللہ ملکہ
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر کشمیر
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر گوالیار
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر اندور
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر ریواں
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر اورچھ
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر دتیہ
ہزہائینس راجہ صاحب بہادر دھار
ہزہائینس راجہ صاحب بہادر دیواس کلاں
ہزہائینس راجہ صاحب بہادر دیواس خورد
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر سمتھر

رؤسائے سنٹرل انڈیا

بائیں طرف

ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر میسور
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر ٹراونکور
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر جیپور
ہزہائینس مہاراؤ صاحب بہادر بوندی
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر بیکانیر
ہزہائینس مہاراؤ صاحب بہادر کوٹہ
ہزہائینس مہاراول صاحب بہادر قرولی
ہزہائینس مہاراول صاحب بہادر جسلمیر
ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر الور
ہزہائینس نواب صاحب بہادر ٹونک
ہزہائینس مہاراؤ صاحب بہادر سروہی

رؤسائے راجپوتانہ

دائیں طرف		بائیں طرف	
روسائے سنٹرل انڈیا	ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر چرکھاری	ہز ہائینس راج رانا صاحب بہادر جہالاوار	رئیس راجپوتانہ
		ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر کولاپور	روسائے بمبئی
	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر راج گڑھ	ہز ہائینس راؤ صاحب بہادر کچھ	
	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر نرسنگ گڑھ	ہز ہائینس میر صاحب بہادر خیرپور سندھ	
روسائے پنجاب	ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر پٹیالہ	ہز ہائینس سلطان صاحب بہادر شہر مکلا	
	ہز ہائینس نواب صاحب بہادر بہاولپور	ہز ہائینس ولیعہد صاحب بہادر سکم	روسائے بنگال
	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر نابہ	ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر کوچ بہار	
	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر جیند	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر ہل ٹپرہ	
	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر کپورتھلہ	ہز ہائینس نواب صاحب بہادر رام پور	رئیسانِ ممالک متحدہ آگرہ و اودھ
	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر ناہن سرمور	ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر بنارس	
	ہز ہائینس نواب صاحب بہادر مالیرکوٹلہ	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر ٹیہری گڑھوال	
	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر فرید کوٹ	ہز ہائینس ٹھاکر صاحب بہادر مورڈی	روسائے بمبئی
	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر منی پور	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر بانسدا	
	ہز ہائینس ٹھاکر صاحب بہادر لیمڑی	ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر بڑیا	

نواب صاحب بہادر والی ریاست جنجیرہ (بمبئی)

سابوا و گنائی برہما　　سابوا کنگ ٹنگ برہما

ان سب رؤسا کے ہاتھیوں کی سجاوٹ اور خود رئیسوں کی قیمتی پوشاکوں اور زیورات کی جگمگاہٹ کی نسبت کچھ کہنا غالباً فضول ہوگا کیونکہ ہر ایک صاحب پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ شریک ہوئے تھے جنکے ہاتھیوں کی لمبی لمبی زردوزی جھولیں بعض اوقات زمین کے ساتھ لگ جاتی تھیں

اور جنکے ہودوں کی بوقلمونی اور ہاتھیوں کے زیوروں کی گوناگونی اور جواہرات کی چمک دمک اور پوشاکوں کی بھڑک انسانی نظروں کو چندھیا دیتی تھی۔ چنانچہ اسی نظارے سے متاثر ہو کر بعض انگریز وقائع نگاروں نے لکھا ہے۔ کہ اس موقع پر وہ تمام دولت جلوہ گر تھی۔ جس کو وحشیانہ زمانہ میں غیر ملکوں کے لوگ آ کے ہندوستانی حکمرانوں کے پاس دیکھ دیکھ کر متعجب ہو جایا کرتے تھے حالانکہ یہ جو کچھ بھی تھا اُس دولت کا عشر عشیر بھی نہ تھا۔ کیونکہ اب ایسے قیمتی زر و جواہر اور نایاب زیورات ہندوستان میں رہے ہی نہیں۔ کیونکہ زمانہ کی کایا پلٹ کے باعث اب انکا استعمال جائز نہیں رہا۔ یہ بھی جو کچھ تھا۔ صرف شاہی حکم کی تعمیل میں تھا۔ اور غالباً بڑے تکلف کے ساتھ فراہم کیا گیا تھا۔ دراصل انگریز وقائع نگاروں نے اُس دولت وحشمت کا معائنہ نہیں کیا جو کسی وقت ہندوستان کو حاصل تھی۔ اور جس کے عوض میں اب انگریزی تراش خراش کی اشیاء ملک میں بکثرت پھیلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اگر اس وقت ان زر و جواہر یا جواہرات کی نگائی کی ہوئی جھولوں یا اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار ہودوں کا جائزہ لیا جائے تو غالباً یہ بھی سبکو ورثہ پدری میں آیا ہوا ہی ثابت ہوگا۔ کیونکہ اب ایسی چیز و نکی خریداری فیشن کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال ان ہاتھیوں پر طرح طرح کے ہودے ملے۔ گول۔ سایہ دار۔ بلاسایہ کسے ہوئے تھے۔ اور فیل نشین رؤساء بھی ہر عمر اور ہر رنگ کے اپنے اپنے ملکی لباس میں خوب بنے ٹھنے ہوئے تھے۔ رؤساء میں ایک راجپوتانہ کے رئیس زرہ پہنے ہوئے بھی سوار تھے۔ جنکے ہودے پر دو بڑے بڑے لمبے شیر بنے ہوئے تھے۔ اور جو گویا ہندوستان کے زمانہ بہادری کی یاد دلا رہے تھے۔

ہاتھیوں کے جلوس کے بعد بھر گاڑیوں کا جلوس شروع ہوا۔ جس میں سب سے

پہلے گرانڈ ڈیوک اوف ہیسی کی گاڑی تھی جس میں آپ مع سٹاف بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بارہویں ہسارز کا دستہ آپکی اردل میں تھا۔ جنکے بعد گورنرانِ بمبئی و مدراس مع سٹاف اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار تھے۔ اور انکی گاڑیوں کے ساتھ بھی اعزازی سوار جا رہے تھے۔ انکے بعد سر چارلس ریواز صاحب بہادر لفٹننٹ گورنر پنجاب کی گاڑی تھی۔ جنکی اردل میں لائٹ ہارس کا فوجی دستہ تھا۔ آپ کی سواری گذرنے کیوقت بھی ہر طرف سے چیئرز بلند ہو رہے تھے۔ اور رومال ہلا ہلا کے اظہارِ مسرت کیا جاتا تھا۔ کیونکہ آپکے علاقہ میں ہی اس دربار کا انعقاد ہوا تھا۔ انکے بعد ہز اکسیلنسی کمینڈر انچیف لارڈ کچنر بہادر مع سٹاف گھوڑوں پر سوار تھے۔ جنہیں لارڈ ممدوح کی عجیب وضع کی لمبی سیاہ ٹوپی انکو ممتاز کر رہی تھی جنکو دیکھکر اکثر یوروپین صاحبوں نے نعرہ ہائے مسرت بلند کئے۔ آپ ایک مشہور گھوڑے ڈی نکر ہٹ نامی پر سوار تھے۔ اور پوری شانِ شجاعت دکھاتے جا رہے تھے۔ اور والنٹیروں کا ایک دستہ آپکی اردل میں تھا۔ آپ کے بعد لفٹننٹ گورنران برہما۔ بنگال۔ اور صوبہ جات متحدہ مع اپنے اپنے سٹافوں اور اعزازی سواروں کے جا رہے تھے۔ جنکے پیچھے جنرل میکلاڈ کمانڈنگ افواج بنگال مع اپنے سٹاف کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اور پھر انکے بعد اونریبل ایجنٹ گورنر جنرل بلوچستان دائیں طرف۔ اور ہز ہائینس خان صاحب قلات بائیں طرف بسواریٔ اسپ شریکِ جلوس تھے۔ جنکے پیچھے بلوچی سردار اپنے ملکی لباس میں ڈھال تلوار لگائے۔ اور سر کے لمبے لمبے بال مونڈھوں تک لٹکائے گھوڑوں پر سوار جا رہے تھے۔ جن کی پوشاکیں اگرچہ والیانِ ریاست یا دوسرے ہندی مہمانوں کیطرح فوق البھڑک تو نہ تھیں مگر اُن کی صورتیں اور انکے نشست کی ترکیب بھی صاف صاف کہہ رہی تھی کہ گھوڑے کی زین پر زندگی بسر کرنے کے اصول و مقاصد سے

وہ بخوبی ماہر ہیں۔ انکے بعد آنریبل کرنل ڈین صاحب چیف کمشنر صوبہ سرحدی کی سواری تھی۔ جنکے پیچھے سرحدی رسالہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنمیں سے ہر ایک شخص تاریخ میں اپنا حصہ ضرور رکھتا ہے۔ انکے بعد آنریبل چیف کمشنر وسط ہند مع اپنے اپنے سٹافوں اور اعزازی سواروں کے گذرے اور پھر گیارہویں لانسرز موسومہ پرنس اوف ویلز کے فوجی دستے نے اصل جلوس کا خاتمہ کیا۔ جن کے پیچھے اور بھی فوجی دستے آرہے تھے۔ اور پھر وہ ایکسٹوا رسٹیٹ ہاتھی تھے۔ جو والیان ریاستہائے ہندوستان کے اہلکاروں سے لدے ہوئے اور پہلے ہاتھیوں سے بھی کسی قدر زیادہ سجے ہوئے تھے۔ اور جن کی آرایش و زیبایش نہایت شانداری سے کی گئی تھی۔ انمیں ایک ملنے (چھوٹے) ہاتھی پر ایک چھوٹی عمر کا مسلمان رئیس زادہ مثل گھوڑے کے زین کسے ہوئے اور اس کے دونوں کانوں میں ڈور ڈالکر اسکو لگام بنائے ہوئے سوار تھا۔ جسکو لوگ نہایت شوق سے دیکھ رہے تھے۔ ان تمام ہاتھیوں کے ساتھ ریاستوں کے سپاہی بھی پیدل دوڑے جاتے تھے۔ جو دیسی رؤساء کی شانِ سواری آنکھوں کے سامنے پھیر دیتے تھے۔

یہ لمبا جلوس جس کی طوالت غالباً ڈیڑھ میل سے کم نہوگی۔ ریلوے اسٹیشن سے بارہ بجے کا چلا ہوا دو بجے کے بعد موری دروازہ کے باہر سے نکلکر سا جیور روڈ پر پہنچا۔ جہاں حضور وائسرائے صاحب اور ڈیوک صاحب بہادر نے توقف فرماکے ہاتھیوں سے اُترکر گاڑیوں میں سواری کرنے کے بعد تمام جلوس ووالیان ریاست کو سوائے ہمراہیان کیمپ اور امپیریل انڈین کور اور وائسرائے بہادر کے باڈی گارڈ کے رخصت فرما دیا۔ اور وہیں سے جلوس کی واپسی کا نظارہ فرماکر وائسریگل کیمپ کا رستہ لیا۔ جہاں پہنچتے ہی گارڈ اوف آنر کی شاہی سلامی دینے کے بعد وائسرائے صاحب کی پختہ مدوّر کوٹھی پر وائسریگل جھنڈا لہرانے لگا۔ اور اکتیس القواپ کی

سلامی نے مشتہر کر دیا۔ کہ آج کی کارروائی ختم ہو گئی ہے۔ جس کے بعد حضور وائسرائے
ڈیوک اوف کنیاٹ۔ گرانڈ ڈیوک اوف ہیسی۔ ہز اکسیلنسی کمینڈر انچیف وغیرہ وغیرہ
تمام ہمراہیان اپنی اپنی قیامگاہوں میں تشریف لے گئے۔ اور جلوسی ایکٹ تمام ہُوا۔
یہ دن جس عمدگی کے ساتھ گذرا۔ اور قدرت نے جس قدر جلوس کے شاندار
ہونے میں امداد دی۔ وہ بھی خاص طور پر لکھنے کے لائق ہے۔ کہ باوصفیکہ ہندوستان
میں پوس کا مہینا بارشوں کے لئے مخصوص ہے۔ مگر اس دن مطلع بالکل
صاف تھا۔ جس سے شاملین و ناظرینِ جلوس کو بہت بڑی آسانی ہو گئی
تھی۔ اور جلوس بھی ٹھیک پروگرام مقررہ کے مطابق گذر گیا۔ سوائے اس کے
کہ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بڑودہ بباعث انتقال اپنی دو اگر مہارانی کے
اور ہز ہائینس مہارانا صاحب اودے پور بباعث اپنے ولیعہد کی بیماری کے
شریک نہ ہوسکے۔ جامع مسجد کے روبرو سے اس جلوس کو پورا سوا گھنٹہ
گذرنے میں صرف ہُوا۔ اور ایسا ہی ریلوے سٹیشن سے سنٹرل کیمپ تک بھی پورے
تین گھنٹے خرچ ہوئے۔ جس سے ناظرین اس کی لمبائی اور چال کا اندازہ
خود کر سکتے ہیں۔ اور اگرچہ ناظرینِ جلوس کے لئے یہ ایک بے نظیر نظارہ تھا
مگر وہ بڈھے اشخاص جو ۱۸۷۷ء میں بالغ نظری کے ساتھ جلوسِ
قیصری کو دیکھ چکے ہیں اُنکا خیال ہے کہ اس جلوس میں
بہ نسبت ۱۸۷۷ء کے بہت کچھ سادگی تھی۔ اور بالخصوص
جواہرات اور سونا چاندی کی وہ بہتات
نہ پائی جاتی تھی۔ جو اُسوقت
تک ہندوستان میں
موجود تھی

فصلِ دوم

اِفتتاحِ نمائشِ صنعت و حرفت

بتاریخ ۳۰- دسمبر ۱۹۰۲ء

دربار ہال اور دیگر عمارات کیطرح ایامِ طیاری ہیں تو عام لوگوں کو نمائش گاہ کی عمارت میں بھی آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ مگر ۲۵ دسمبر کے بعد چونکہ تمام قابلِ نمائش اشیاء اپنے اپنے درجہ پر رکھی جانی شروع ہو گئی تھیں۔ اِس لئے اُس کے بعد کسی شخص کو داخلہ کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ ۲۹ کی شام تک سب چیزیں قرینے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ رکھدی گئیں۔ اور صناعانِ ہند بھی اپنی گیلری میں اپنی اپنی دوکانیں سجا کر وقفِ نمائش کر دیئے گئے۔ جس کے بعد جلسۂ افتتاحی کیواسطے حضور وائسرائے اور دوسرے جلیل القدر اعیان و افسران و والیانِ ریاست کے لئے دروازۂ نمائش گاہ کے ساتھ ملا ہوا ایک ڈائیس (مقامِ نشست) بنایا گیا۔ اور اُس کے سامنے بھی نصف دائرے کی صورت میں ولائیتی مہمانانِ حضور وائسرائے کے لئے کرسیاں بچھادی گئیں۔ جنکے پیچھے اُن وزیٹروں کی جگہ تھی جنہوں نے پانچ پانچ روپیہ پر ٹکٹ خریدا تھا۔ غرضکہ کل تین ہزار آدمیوں کی جگہ کا انتظام تھا۔ مہمانوں اور والیانِ ریاست کیخدمت میں پہلے سے گورنمنٹ کیطرف سے مفت ٹکٹ بھیجے جا چکے تھے۔ اور چونکہ وائسرائے صاحب کی تشریف آوری کا وقت ساڑھے گیارہ بجے کا مقرر ہو چکا تھا۔ اِسلئے سب صاحبوں کو گیارہ بجے تک پہنچنا خود بخود لازمی ہو گیا تھا۔ چنانچہ دس بجے سے ہی عام وزیٹروں اور مہمانان و والیانِ ریاست کی آمد آمد شروع ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ کوئی سرکاری دربار نہ تھا۔ اِسلئے اِسمیں

تمبر کی کوئی تمیز نہ رکھی گئی تھی۔ جو صاحبان پہلے آئے تھے اچھی جگہ بیٹھ جاتے تھے۔
اور جو دیر سے آتے تھے۔ جہاں کہیں بھی جگہ پاتے وہیں تشریف فرما ہو جاتے تھے۔
جس سے یوروپین صاحبوں نے پورا پورا فایدہ اٹھایا۔ یعنے بعض اُس چبوترے پر بھی
جا بیٹھے جو صرف حضور وایسرائے اور اعیانِ گورنمنٹ و والیانِ ریاست کے لئے مخصوص
تھا۔ دیسی البتہ گھاٹے میں رہے۔ جنیں سے کئی ایک لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ملی
بہرکیف گو یہ افتتاحی جلسہ کوئی سرکاری دربار نہ تھا۔ مگر پھر بھی سوائے اتواپ
سلامی کے وایسرائے صاحب بہادر ڈیوک صاحب کی عزت و تعظیم کے لئے سب
مراتب ملحوظ رکھے گئے تھے۔ دروازۂ باغ یعنے علی پور روڈ پر باڈی گارڈ کا دستہ
سلامی کے لئے متعین ہو چکا تھا۔ اور یہ بھی انتظام کر دیا تھا کہ عام مہمانوں کی
گاڑیاں نمایش گاہ کے مشرقی طرف کھڑی کیجائیں۔ اور وایسرائے صاحب و افسران
گورنمنٹ اور والیانِ ریاست مغربی طرف سے براہِ راست ڈائیس تک پہنچ جائیں۔
دیسی رؤساء کی نسبت یہ کہنا کہ یہ سب صاحبان جلوس کے سے ٹھاٹھ اور ویسے
ہی قیمتی لباسوں میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ کچھہ ضروری نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ
دیسی رؤساء عموماً ہر ایک موقع پر افسرانِ گورنمنٹ کے ساتھ ملنے کے لئے اس قسم کے
داب و آداب کے لئے طبعی طور پر پابند ہو چکے ہیں۔ اور آج تو تھا ہی جلسۂ
نمائش۔ جس کے لئے کسی قدر ضروری بھی تھا۔ کہ وہ اپنے ملکی اور قدیمی ملبوسات
میں ہی شریک ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور سب صاحبان مواقعات مناسب
پر تشریف فرما ہوگئے۔ البتہ حضور نظام خلد اللہ ملکہ آج بھی کل کی طرح سادہ پوشاک
زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ صندلی عمامہ آپ کے سر پر بندھا تھا۔ اور حضور وایسرائے
کی کرسی کے بالکل ساتھ کر کے پچھلی طرف آپ رونق افروز تھے۔ آپ کے ساتھ ہی
شہزادہ ولیعہد بہادر کی کرسی تھی۔ اور نواب میجر افسر الدولہ بہادر بحیثیت ایڈیکانگ

مودبانہ آپکی کرسی کے پیچھے استادہ تھے۔ جنکے بعد آپ کے افسران باڈی گارڈ بھی اپنی پوری وردی پہنے کھڑے تھے۔ ایسا ہی ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر کشمیر بھی نہایت شان و شکوہ سے جلوہ فرما تھے جنکے ساتھ ہی پچھلی طرف کرنل سر راجہ امر سنگھ صاحب بہادر کے سی۔ ایس۔ آئی وائیس پریزیڈنٹ۔ فارن منسٹر و کمینڈر انچیف ریاست کشمیر اور عالیجناب راجہ بلدیو سنگھ صاحب والی پونچھ رونق افروز تھے۔ اور پرائیویٹ سکرٹری و ممبر صاحبان ستون کے پاس کھڑے تھے۔ علی ہذا دوسرے راجے مہاراجے اور نواب صاحبان بھی پورے شان و تجمل سے تشریف فرما تھے۔ جنمیں سے برہمی راجے تو عجیب انچھی وضع بنائے بیٹھے تھے۔ اور خواہ مخواہ ہر شخص کو انکی طرف توجہ ہو جاتی تھی۔

وائیسرائے صاحب کے چبوترے پر حضور نظام۔ خان صاحب قلات۔ مہاراجہ ایڈر اور دیگر معزز والیان ریاست کے علاوہ یوروپین حکام میں سے ہز ایکسلنسی کمینڈر انچیف۔ گورنر صاحبان بمبئی و مدراس۔ لفٹنٹ گورنر صاحبان پنجاب۔ بنگال۔ برہما۔ و صوبجات متحدہ۔ چیف کمشنران صوبہ سرحدی۔ آسام و ممالک متوسط۔ اونریبل ریزیڈنٹان حیدرآباد و میسور و کشمیر۔ اونریبل ایجنٹ گورنر جنرل صاحبان راجپوتانہ سنٹرل انڈیا و بلوچستان۔ اونریبل ممبران کونسل وائیسرائے اور سفرائے دول خارجہ کی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ جنپر سب صاحبان گیارہ بجے تک آکر متمکن ہو چکے تھے۔ صرف حضور نظام سب سے پیچھے تشریف لائے جنکے بعد بہت جلدی وائیسرائے صاحب کی سواری بھی آپہنچی۔

حضور وائیسرائے مع ڈیوک اوف کنیاٹ اور لیڈی کرزن صاحبہ مع ڈچس اوف کنیاٹ اور گرینڈ ڈیوک بیسی ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے رونق افروز جلسہ ہوئے جنکو پہلے تو گارڈ اوف آنر کی سلامی دی گئی۔ اور پھر اسیدیم ڈاکٹر جارج واٹ صاحب کے سی۔ ایس۔ آئی۔ اور مسٹر پرسی براؤن صاحب پرنسپل میو اسکول اوف آرٹس لاہور نے

مع کمیٹی منتظمین کے ارکان کے آگے تک جا کر آپکا استقبال کیا۔ جنگلے گاڑی سے اُترتے ہی باجے نے نیشنل اینتھم کا راگ شروع کیا۔ اور اُس کے بجتے رہنے تک سب صاحبوں نے تعظیماً اپنی اپنی ٹوپیاں اُتار لیں۔ لیکن جن صاحبوں کے سر پر عمامہ بندھا تھا۔ اُنہوں نے فوجی وضع سے صرف سر تک ہاتھ اُٹھائے رکھنے سے ہی اظہار تعظیم کیا۔ البتہ لیڈیاں اِس سے بھی آزاد تھیں۔ جنہوں نے صرف کھڑے ہونے سے ہی اِس تعظیمی رسم کو پُورا کیا۔ اور باجے کے ختم ہونے پر حضور وائسرائے اور ڈیوک صاحبان اور دیگر تمام حاضرین اپنی اپنی نشستوں پر جلوہ فرما ہوگئے۔ تو نہایت مؤدبانہ طریق پر ڈاکٹر جارج واٹ صاحب مہتمم نمائش نے حضور وائسرائے کی خدمت میں اِفتتاحِ نمائش کی درخواست کی۔ جس پر آپ نے فی الفور استادہ ہوکر قریباً ایک گھنٹہ تک مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ جس میں نمائش کے متعلق ہر قسم کی معلومات کے علاوہ اور اِس کے اہتمام و نتائج کی پوری پوری تشریح و تفصیل کے سوا دیسی رؤسا کو بھی ملکی صنعتوں کی زندگی کیطرف موثر اور بڑے پُرزور الفاظ میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اِس کے ساتھ ایک یہ بات بھی قابلِ تحریر ہے کہ آپکی تقریر پہلے سے لکھی یا چھپی ہوئی نہ تھی جیسا کہ اکثر ہؤا کرتا ہے۔ بلکہ صرف چند نوٹ آپنے لکھ رکھے تھے۔ جن پر وقتاً فوقتاً نگاہ ڈال لیا کرتے تھے۔ اور پھر زبانی ہی سب کچھ بیان کرتے جاتے تھے۔ جو غالباً بحیثیت وائسرائے ایک اعلیٰ درجہ کا وصف ہے۔ اِس تقریر کے مطابق اگر دیسی رؤساء ہند اور اہلِ دول صاحبان۔ وائسرائے صاحب کی نصائح پر کاربند ہوں گے۔ تو اِس نمائش سے ہندوستان کی صنعت و حرفت کو بہت بڑی ترقی نصیب ہونا یقینی کہنا چاہیئے۔ کیونکہ جب ایک حاکم شدہ ملکِ غیر کے خیالات دیسی صنعت کی نسبت ایسے محبانہ ہیں تو خود یہاں کے رؤساء تو جس قدر بھی ہمت کریں بجا ہے۔


بہرحال وہ تقریر یہ ہے:۔

حضور وائسرائے کی افتتاحی تقریر

شہزادہ صاحبان! راجگان! لیڈیز و جنٹلمین!

اَب میرا نہایت پسندیدہ فرض یہ ہے کہ اِس پندرہ یوم کے اندر جو پہلی رسم ادا کرنے والی ہے اُس کا آغاز کر کے دہلی کی اِس صنعتی نمائش گاہ کا افتتاح کروں۔ ہمارے بہت سے شریکِ جلسہ صاحبان شاید مشکل سے اِس بات پر یقین کریں گے کہ آج باستثنائے درختوں کے قریب قریب ہر ایک چیز جو اِس وقت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ صرف گذشتہ آٹھ ماہ کے اندر ہی یہاں پیدا ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب مَیں گذشتہ ماہِ اپریل میں اراضی پسند کرنیکی غرض سے یہاں آیا تھا تو اِس عظیم الشان عمارت اور تمام چیزوں کا جو ہمارے چاروں طرف نظر آ رہی ہیں کہیں نام و نشان تک بھی نہ معلوم ہوتا تھا۔ جو نمائشگاہ کے لئے یہاں بہمہ وجوہ موجود ہو گئی ہیں۔ گو مَیں اُمید کرتا ہوں۔ کہ نمائش گاہ کے گہرے اثر تو اِس قدر جلد مِٹ نہ جائینگے۔ لیکن مجھ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اِس شاندار سین کا بہت جلد غائب ہو جانا لازمی ہے۔

شاید آپ مجھ سے یہ اُمید کرینگے کہ مَیں چند الفاظ اِن واقعات کے متعلق بیان کروں گا جنکی ذات سے آج اِس نمائش کی ہستی نظر آتی ہے۔ اصلیت یُوں ہے کہ جس وقت سے مَیں ہندوستان میں آیا ہوں۔ مَیں نے اِس مُلک کی صنعت و حرفت و دستکاریوں پر نہایت ہوشیاری کے ساتھ غور کیا ہے جو بلاشبہ کسی وقت میں بڑی مشہور اور خوشنما تھیں۔ اور جس طرح دیگر اصحاب نے اُنکے گر جانے پر افسوس کیا ہے۔ مَیں نے بھی اُنکی ترقی میں فرق اور زوال آنے پر افسوس کھایا ہے۔



نظّارہ افتتاح نمایش صنعت وحرفت جسمیں حضور وائیسرائے [illegible]

چنانچہ جس وقت یہ امر طے پایا تھا کہ ہم اس عظیم الشان جلسہ کو دہلی میں منعقد کریں گے جس میں ہر ایک صوبہ اور ہندوستان کی ہر ایک ریاست کے قائم مقام۔ راجگان ہند و والیان ملک۔ اُمرا۔ اعلیٰ حکام۔ ہندوستانی شرفا۔ اور تمام حصص دنیا کے تماشائی آکر جمع ہوں گے۔ تو مجھکو یہ خیال پیدا ہوا کہ صنعت و حرفت کی نمائیش کے لئے یہاں ہمکو ایسا موقع حاصل ہو سکے گا۔ جس کی عرصہ سے جستجو تھی۔ یعنی اس موقع پر ان مضمحل دستکاریوں کو از سر نو زندہ کرکے دنیا کو یہ دکھلانے کے لئے کہ ہندوستان اسوقت تک بھی کس قابل ہے۔ اور یہ کہ اگر ممکن ہو تو زوال روکنے کے لئے کچھ عملی کارروائی کیجائے۔ پس اس غرض سے میں نے ڈاکٹر واٹ صاحب کو طلب کرکے اس کام کے لئے اپنا دستِ راست مقرر کیا۔ جس کے بعد تمامی ہند میں دُور و دراز مقام تک ڈاکٹر صاحب۔ اور آپ کے اسسٹنٹ مسٹر پرسی براؤن ہزارہا میل کا سفر کرتے رہے۔ اور جنہوں نے ہر ایک مقام پر دستکاروں سے ملکر نمونے پسند کئے۔ فرمائشیں پیش کیں۔ اور جہاں ضرورت معلوم ہوئی خود بھی نمونے دیئے۔ بلکہ جنکو روپیہ درکار تھا اُن کو پیشگی رقوم بھی دی گئیں۔

اس نمائیش کے اصول میں تین شرائط میں نے قائم کی تھیں۔ جن کی پابندی مانند قوانین مِدِّیہ و ایرانیوں کے قوانین کے لابدی تھی۔ اوّلاً میں نے یہ شرط قائم کی کہ اس نمائیش گاہ میں بجز صنعتی نمائیش کے اَور کچھ زیادہ نہ فراہم کیا جائے۔ کیونکہ ہم نہائت آسانی کے ساتھ آپکو ہندوستان کے تمدنی و حرفتی ترقی کی نمائیش دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ خود ڈاکٹر واٹ کی ایسی ایک نمائیش گاہ موجود ہے۔ اور کلکتہ میں بھی ایسی ہی ایک عمدہ نمائیش گاہ موجود ہے۔ ہم آپکو لٹھے معدنیات۔ چمڑا بنی ہوئی چیزیں جس حد تک آپ چاہتے ہیں دکھا سکتے تھے۔ گو یہ سب نہائت قابلِ اطمینان ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بہت بُرا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دیسی صنعت و حرفت کو

کچھ فائدہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میرا اس نمائش گاہ سے یہ منشا نہیں ہے کہ یہ تمدنی و حرفتی نمائش گاہ ہو۔ بلکہ میرا منشا یہ تھا کہ یہ صرف صنعتی نمائش گاہ ہو۔ میری دوسری شرط یہ تھی کہ میں اس میں کسی انگریزی یا انگریزی سے ملتی جلتی چیز کو نہ رکھوں گا۔ چنانچہ میں نے اس نمائش گاہ کے لئے اس قسم کی خوفناک اشیاء مثلاً شاندار بیٹھکوں کے لیمپ جنہیں رنگین شیشے کی قلمیں آویزاں ہیں۔ یا عجیب و غریب شیشے کی مورتیں۔ جو اس ملک کے بعض فرقوں میں حیرتناک کثرت کے ساتھ نظر آتی ہیں لینے سے قطعی انکار کر دیا۔ کیونکہ یہ چیزیں دُنیا بھر میں خواہ کہیں بھی ہوں۔ خراب ہیں۔ اور ہندوستان میں تو (جس کے پاس خود اپنا ہُنر موجود ہے) یہ نہایت ہی بدتر اشیا ہیں۔ میں نے یہ شرط کی تھی کہ میں صرف وہ اشیاء چاہتا ہوں جو یہاں کی رعایا کے خیالات۔ روایات۔ وفہم و فراست اور عقائد کا اظہار کرتی ہوں۔ گو ممکن ہے کہ بعض اشیاء جو میری اس تشریح کے اندر نہ آتی ہوں وہ بھی اس نمائش گاہ میں آ گئی ہوں۔ کیونکہ انگریزیت کا عمل نہایت تیزی کے ساتھ اس ملک میں جاری ہے۔ اور جس قدر چاء کی پیالیاں۔ بالائی رکھنے کے برتن۔ نمکدان اور سگریٹ کیس ہندوستانی دستکاروں سے بنوائے جاتے ہیں۔ انکا شمار خوف دلانیوالا ہے۔ لیکن پھر بھی عام طور پر میری اس شرط کی پابندی کی گئی ہے اس کے بعد میری تیسری شرط یہ تھی کہ میں صرف عمدہ چیزیں لوں گا۔ ارزاں سوتی کپڑے و موم جامے۔ برنجی مورتیں اور پیالے جو برمنگھام کی فرمائش پر یا شائد خود برمنگھام میں ہی بنائے جاتے ہیں۔ لینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ کیونکہ میری خواہش یہ تھی کہ صرف وہ چیزیں نمائش میں لائی جائیں جو کمیاب ہوں۔ اور جو ہندوستانی دستکاری میں نہایت خوش نما اور خاص صفت رکھتی ہوں۔ ہمارے سونے اور چاندی کے برتن دھات کی چیزیں۔ جواہرات۔ لکڑی۔ اور ہاتھی دانت اور پتھر پر نقش و نگار کی چیزیں۔ مٹی کے نفیس برتن اور کپڑے قدیم ایشیائی وضع و قطع کے قالین۔ ریشم کا کارچوبی اور لاثانی

ہندوستانی اُبھرا ہوا زر دوزی کام وغیرہ یہ تمامی اشیاء اِس عمارت میں آپکو نظر آئیں گی لیکن مہربانی فرماکر یہ یاد رکھئیے کہ یہ بازار نہیں ہے بلکہ نمائش گاہ ہے۔ ہماری غرض یہ ہے کہ نفیس کاریگری از سرِنو زندہ کیجائے۔ اور اِس کے لئے جُرات دلائی جائے۔ نہ یہ کہ اُن لوگوں کی حاجات پُوری کیجائیں جنکی تھیلیوں میں روپیہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اِس نمائش گاہ کی عام حالت تو یہی ہے جو میں نے بیان کردی ہے۔ لیکن ہم نے اِس میں کچھ اور بھی زیادہ عمدہ چیزیں ایزاد کی ہیں۔ یہ تمیز کرکے کہ اس کا مذاق آجکل مٹتا جاتا ہے۔ اور ہمارے موجودہ نمونوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو خراب اور منقطع ہیں۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ موجودہ زمانہ کی صناعی کے ساتھ ہی ساتھ سابق کے نمونوں کو بھی رکھیں۔ چُنانچہ "عاریتی ذخیرہ" کی یہی تشریح ہے۔ جس کے لئے ایک علیحدہ ہال ہے۔ جس میں آپ بہت خوشنما نمونے قدیم ہندوستانی صناعی کے پائینگے۔ جو ہمکو والیانِ مُلک اور ہندوستانی صناعوں کی فیاضی سے عاریتاً ملے ہیں۔ منجملہ انکے بعض اشیاء ہمارے ہندوستان کے عجائب خانوں سے آئی ہیں۔ اور بعض لنڈن کے سوتھ کنسنگٹن عجائب خانہ کے لاثانی دفتر سے موصول ہوئی ہیں۔ اور انمیں سے بہت سی اشیاء خود ہی خوشنما ہیں۔ لیکن ہم اُمید کرتے ہیں کہ ہندوستانی کاریگر جو یہاں موجود ہیں اور اُنکے وہ مربّی جو ان سے کام لیتے ہیں۔ اِن چیزوں پر نہ صرف ایک قدیم زمانہ کی چیز یا صناعی کی خوبیوں کے لحاظ سے ہی خوض و غور کرینگے۔ بلکہ اِس حیثیت سے بھی کہ اُن میں تازہ روح پھونکنے یا انکو از سرِنو زندہ کرنے کے خیالات پیدا کئے جائیں۔ جو آئندہ انکو اپنی دستکاریوں میں جان ڈالنے کے لئے نہایت مُفید ثابت ہوں۔ جس کے لئے یقینی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستانی صنعت غیر مُلکی آئیڈیل سے کام لینے سے از سرِنو زندہ نہیں ہوسکتی بلکہ یہ صرف اپنی صنعت پر بھروسہ رکھنے سے زندہ ہوسکتی ہے۔

اَب اگر مجھ سے دریافت کیا جائے کہ اِس نمائش گاہ کا مقصد کیا ہے اور اِس سے کیا فوائد ظہور میں آئینگے۔ تو مَیں اُمید کرتا ہوں کہ مَیں اِس کا جواب چند الفاظ میں دونگا جس حد تک ہندوستانی صنعت کا زوال تجارتی فضیلت اور مقابلہ ہاتھ سے کام کرنیکے اسٹیم کی قوت کے عمدگی ظاہر کرتا ہے۔ اسیقدر مذاق پر اس امتحان کا فتح پانا بھی ہے کہ فلاں چیز کار آمد ہے یا نہیں۔ جس حد تک اِن باتوں کو دخل ہے مجھکو کچھ زیادہ اُمید نہیں۔ ہم ہندوستان میں ایک طرزِ عمل کا جو تمام دنیا میں جاری ہے۔ ایک ایسا پہلو دیکھ رہے ہیں جس نے عرصہ دراز سے انگلستان کے ہاتھ سے بنانے کی دستکاریوںکو بالکل مٹا دیا ہے۔ اور وہی نہائیت تیزی کے ساتھ چین اور جاپان کی دستکاریوں کو بھی مٹا رہا ہے۔ اِس طرزِ عمل کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ اسٹیم کی قوت کے کرگھے معمولی کرگھوں کو نکال باہر کرینگے۔ اور کارخانوں پر فیکٹریاں سبقت لیجائیں گی۔ اور ایسے یقینی طور پر جس طرح گھوڑا گاڑی کے مقابلہ میں اسٹیم کی قوت کی گاڑیاں سبقت حاصل کر رہی ہیں۔ اور جس طرح ہاتھ سے کھینچنے والے پنکھوں کی جگہ برقی قوت سے چلنے والے پنکھے سرعت سے لگائے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہونا لازمی ہے۔ موجودہ زمانہ جو ارزاں چیزیں چاہتا ہے اُسکو انکی بدصورتی کا مطلق خیال نہیں ہے۔ بلکہ اپنے آرام و آسائیش کا بہت کچھ خیال ہے۔ اور جب کو اُس وقت تک خوشی نہیں ہوتی جبتک کہ وہ اپنے یہاں کے نمونوں اور روایات کو ترک کرکے غیر ملکی چیزوں کے پھیر میں سرگردان نہو۔ پس ایسی حالتمیں ہمکو اس امر کا یقین کرلینا چاہیئے کہ بہت سی قدیم صنعتیں اور دستکاریاں مفقود ہونا لابدی ہیں۔ ایک اور علامت ہے جو میرے خیال میں زیادہ تر معنی خیز ہے جیسا کہ مَیں بیان کرچکا ہوں۔ میرا شمار اُن میں ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی قومی صنعت اُسوقت تک متواتر زندہ نہیں رہ سکتی جبتک کہ وہ اس قوم کی جس نے اُسکو نکالا ہے۔ آئیڈیل پورے طور پر پیش نظر نہ رکھے اور اُس کی حاجات کو

ظاہر نہ کرے۔ کوئی صنعت صرف عجائبات کے متلاشیوں اور جہاں نوردوں کی ذات سے زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ کیونکہ اگر اس حالت پہنچ گئی تو اس میں فیشن دار بعض نمونے پیدا ہو جاتے ہیں اور جب فیشن تبدیل ہو جاتا ہے تو انکی شہرت بھی جاتی رہتی ہے۔ اور وہ مفقود ہو جاتی ہیں۔ پس اگر ہندوستانی صنعت کا ہمیشہ سرسبز رکھنا مقصود ہے۔ یا یہ منشاء ہے کہ وہ ازسرِنو زندہ کیجائے۔ تو وہ صرف اس طرح ممکن ہے کہ ہندوستان کے والیانِ ملک و رؤساء اور تعلیم یافتہ اور اعلیٰ طبقہ کے اشخاص انکی سرپرستی اختیار کریں۔ جس وقت وہ بروسل کے چمکتے ہوئے قالین۔ ٹاٹنہام کورٹ روڈ کے سامانِ آرائش ارزاں اٹالین قطع کے رنگ برنگی سختہ فرش۔ فرانسیسی آلیوگراف۔ آسٹریا کے جھاڑ۔ اور جرمنی کے ارزاں ابھرے ہوئے زردوزی کام کی چیزیں اپنے محلوں میں بھریں گے۔ اسوقت تک مجھکو اس بات کا خوف ہے کہ مطلق بہتری کی امید نہیں ہو سکتی ہے۔ میں علامت کے لحاظ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ انگلستان میں بھی ہم لوگوں کیحالت ان چیزوں کے متعلق جنکو ہم نے غیر ملک میں دیکھا ہے ایسی ہی واقع ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہندوستانی صناعی اور دستکاریوں کو زندہ رکھنا مقصود ہے تو صرف بیرونی سرپرستی سے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس طرح ممکن ہے کہ اس ملک کے اندر انکے لئے بازار کھلا ہوا ہو اور وہ یہاں کی رعایا کے خیالات اور روشنضمیری کا اظہار کریں۔ میں یہ دیکھنا پسند کروں گا۔ کہ ہندوستان کے والیانِ ملک اور امرا میں موجودہ مذاق کی پاکیزگی اور قدیم فیشن دونوں کو اپنے ملک کے نایاب نمونوں اور وضع کیطرف پلٹنے کی تحریک پیدا ہو۔ مجھکو اس میں شک نہیں ہے کہ ایک نہ ایک روز

ایسا ہوگا۔ لیکن اُس وقت کے آنے تک بہت دیر ہو جائیگی۔ اگر یہ آثار نیک ہیں تو پھر اِس نمائش گاہ سے میرا کیا مقصد ہے۔ اور میرے خیال میں اس سے کیا بات پیدا ہوگی میں اِس کا جواب دو حرفہ دے سکتا ہوں۔ کہ اِس نمائش گاہ سے مجھے ایک (آبجکٹ رسبق موجودات) دینا مدِنظر تھا۔ اور اِس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ اِس وقت ہندوستان کے خیالات کیا ہیں۔ اور وہ کہانتک طباعی دکھا سکتا ہے۔ اور کیا کر سکتا ہے۔ اِس سے یہ دکھانا مرکوزِ خاطر ہے کہ یہاں کاریگروں میں صناعی کی حس اِسوقت تک زائل نہیں ہوئی۔ اور اگر انہیں کسی بات کی ضرورت ہے تو وہ صرف یہ کہ اُنکی کسیقدر حوصلہ افزائی کیجائے۔ اور اُنکو جرأت دلائی جائے اِس سے یہ دکھانا مطلوب ہے کہ ہندوستانی مکان کی آرائش یا ہندوستانی مکان اور سازوسامان کے لئے کوئی ضرورت اِس بات کی نہیں کہ کلکتہ اور بمبئی کی انگریزی دوکانوں کیجانب دوڑئیے۔ بلکہ قریب قریب ہر ایک ہندوستانی ریاست اور صوبہ میں اور بعض ہندوستانی قصبات اور بہت سے مواضع میں اِس وقت تک ایسی صناعی پائی جاتی ہے۔ اور ایسے کاریگر موجود ہیں۔ جو صناعی اور اپنے ملک والوں کے اُس مذاق کے لئے کہ چیز کارآمد ہو بخوبی اطمینان دہ ہیں۔ اور جو اس قابل ہیں کہ یہ بیش قیمت ورثہ جو اُنہوں نے سلف سے پایا ہے ہمیشہ تک برقرار رکھیں۔ اِس مقصد کے لئے ڈاکٹر واٹ نے اور نیز میں نے اِس نمائش گاہ کے قائم کرنے میں جانفشانی کی ہے۔ اور اب اِس کا افتتاح کرتے ہوئے مجھکو یہ اُمید و توثق کے ساتھ ظاہر کرنی باقی رہ جاتی ہے۔ کہ خدا کرے یہ نمائش گاہ بعض باتوں میں حُبّ الوطنی کے اُن روشن اغراض کو بر لائے جن کے لئے وہ قائم کی گئی ہے۔

ساڑھے بارہ بجے حضور وائسرائے کی تقریر دلپذیر ختم ہوئی۔ تو آپ نے نمائش گاہ کا ایک چکر بھی لگایا جسمیں تمام بڑے بڑے اکابرین آپکے ساتھ شامل تھے

اور اس کے بعد قریب ایک بجے کے آپ مع الخیر واپس تشریف لے گئے۔ جس کے بعد دوسرے صاحبان بھی اپنی اپنی گاڑیوں پر سوار ہوکر مقررہ فرودگاہوں کو روانہ ہوگئے۔ پھر نمائش گاہ کیوقت حضور وائسرائے نے سفیر صاحب کابل کو ڈیوک صاحب کے ساتھ بھی ملاقی کرایا۔ جسمیں ڈیوک صاحب بہادر نے کمال اخلاق سے اُردو زبان میں سفیر صاحب کی خیر و عافیت دریافت فرمائی۔ لیکن سفیر صاحب نے عرض کیا کہ وہ اُردو زبان سے ناواقف ہیں۔ جسپر ڈیوک صاحب نے بھی فرمایا۔ کہ وہ فارسی نہیں جانتے۔ مگر تاہم اتنا فقرہ فارسی میں بھی کہہ ہی دیا کہ "آج کل تو کابل میں خوب سردی پڑتی ہوگی"۔ علی ہذا راؤ صاحب کچھ سے بھی ڈیوک صاحب نے بڑے اخلاق سے گفتگو فرمائی۔ جس سے اُنکی اعلیٰ یادداشت کا پتہ چلتا تھا۔ کیونکہ صرف ایک دفعہ آپ نے اپنے زمانہ کمینڈر انچیفی بمبئی میں کچھ کے جنگلوں میں شکار کھیلا تھا۔

اشیائے نمائش کی تفصیل اگر اس کتاب میں کیجائے گی۔ تو غالباً اس کا حجم اسقدر بڑھ جائیگا۔ کہ اصل مضمون بھی اس کے سامنے کچھ زیادہ حجیم نہ رہیگا۔ اسلئے اسکے واسطے ناظرین اُس رپورٹ کو ملاحظہ فرمائیں جو ڈاکٹر جارج واٹ صاحب بہادر بالقابہ مہتمم نمائش گاہ کیطرف سے لکھی گئی ہے۔ اور جسمیں مشہور مشہور اور چیدہ و برگزیدہ اشیائے نمائش کے فوٹو بھی شامل کئے گئے ہیں۔ مگر مختصر طور پر یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ نمائش گاہ کے چار درجے رکھے گئے تھے۔ جس کی ابتدائی گیلری میں تو مختلف قسم کے صناعانِ ہندوستان اپنا اپنا کام کرتے دکھائے گئے تھے۔ جنمیں کمخواب بُننے والے۔ ریشم رنگنے والے۔ کپڑوں پر ٹھپہ چھاپنے والے سنہری و رُپہری کارچوبی اور چکن دوزی کرنے والے۔ ریشمی رومال رنگنے اور بٹھنے والے۔ لیس بنانے والے۔ پشمینہ بُننے والے اور اسپر سوئی سے گل و برگ کاڑھنے والے موم جامہ پر بیل بوٹہ کرنے والے۔ لکڑی۔ ہاتھی دانت اور دوسری ہڈی پر کھدائی

کا کام اور نقش و نگار کرنیوالے۔ سونے چاندی کی اشیاء بنانے والے۔ تانبے اور پیتل کے کھودنے اور منقش کرنے والے۔ شیشے کی اشیاء ڈھالنے اور انپر پھول پتر کرنے والے۔ اور نگینے بنانے والے وغیرہ وغیرہ غرضکہ ایسے کاریگر جو صیغۂ صنعت و حرفت میں کچھ امتیاز پاسکتے ہیں سب موجود تھے۔

دوسرے درجۂ اندرونی میں زیورات رکھے ہوئے تھے۔ جس میں مختلف جوہریوں اور انگریزی کمپنیوں اور ذی رتبہ اشخاص کی دولت و حشمت کھُلے طور پر دیکھنے میں آتی تھی۔ اور ایسے عجیب و غریب اور نایاب زیورات و جواہرات یکجا موجود تھے۔ کہ اس سے پہلے کبھی کسی ایک مکان میں جمع نہوئے ہوں گے۔ اور اس اعتبار سے اگر اس حصّہ کو ہندوستان کی دولت کا خلاصہ کہا جائے تو عین بجا ہوگا۔ انکی نمائش بھی ایک نہایت مناسب طریق سے کی گئی تھی۔ کہ عورتوں وغیرہ کے گلے تک کے مجسمے بنا کر انکے گلے میں اور سر پر جہاں جہاں رواج ہے جواہرات پہنائے گئے تھے۔

تیسرے حصّے میں مستعار چیزیں تھیں۔ جو اکثر والیانِ ریاست نے بھیجی تھیں یا لنڈن سے طلب ہوئی تھیں۔ مگر تھیں در اصل ہندوستانیوں کی ہی ملکیت و صنعت کا کرشمہ۔ اس حصّے کے عجیب و غریب ہونے اور اس کی اشیاء کے انتخاب روزگار ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔ جس کو دیکھ کر بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آسکتا۔ کہ یہ اشیاء کبھی بھی کسی ایک والیِ ریاست کے پاس جمع ہوسکتی ہیں۔

چوتھے درجہ میں فروختنی اشیاءِ صنعت رکھی ہوئی تھیں۔ جو گویا در اصل اسوقت ہندوستان میں رائج و موجود ہیں۔ اور یہی ایک حصّہ ایسا تھا جس پر اس وقت توجہ ہوسکتی ہے۔ اور جس کی سرپرستی کی اس وقت ہندوستان کو ضرورت ہے۔ اور جس کے دیکھنے سے یہ بات بخوبی ذہن نشین ہوجاتی ہے۔ کہ اگر ملک کی متموّل جماعت اِدھر توجہ کرے تو ہندوستان اپنی ضروریات کے لئے

یُوروپ کا زیادہ مُحتاج نہیں ہو سکتا۔

ہندوستانی والیانِ ریاست نے اِس نمائش کے کامیاب بنانے میں جو توجہ کی تھی۔ اِس کو دیکھکر معلوم ہوتا تھا۔ کہ اگر ڈاکٹر جارج واٹ صاحب کی کوشش کے ساتھ اِن صاحبوں کی دلچسپی اور دِلبستگی شریک نہوتی۔ تو شائد نمائش کو یہ کامیابی حاصل نہ ہو سکتی۔ مہاراجہ میسور کیطرف سے چندن کی لکڑی پر کھدائی کے کام کے بیش بہا نمونے۔ کشمیر کے نایاب سوزنکار دوشالوں کی موجودگی۔ اور کشمیری نقاشی کام کی ندرت و صفائی دُنیا کو حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ برودہ کا موتیوں کا مرصّع و منقش قالین جو مہاراجہ متوفی نے مدینہ طیبہ میں بھیجنے کے لئے بنوایا تھا۔ اپنی نظیر آپ ہی تھا۔ نیز گینڈے کے کھال کی منقش ڈھالیں بھی کچھ کم عجیب نتھیں۔ ایسا ہی جودھپور کے قدیم اسلحہ جات اور سنگ مرمر کی کٹی ہوئی جالیاں اور دوسرے کام۔ اور جیپور و کچھ کے سُنہری ملمع شدہ ہتھیار۔ اور بیکانیر کیطرف سے نرم رتیلے پتھر کی کھدائی کا کام اور لاکھی اشیاء۔ اور راو دیپور کے شیشے کی پچی کاری کا کام۔ اور مُرشدآباد و ٹراونکور کے ہاتھی دانت کی نقشی صنعت۔ اور حیدرآباد کے ریشمی پھولدار کپڑے۔ اور بدری اشیاء کی نمائش۔ اور بیجاپور کے زمانۂ قدیم کے قالین۔ اور وزیانگرم کے زیورات۔ اور بنارس کے بھیجے ہوئے کمخواب و زربفت کے چکاچوند کر دینے والے تھان۔ اور بڑنانگرہ کا شیشے کے گلٹ اور نقش و نگار کا کام۔ اور الور کی ڈیڑھ لاکھ روپیہ کی قلمی لکھی ہوئی مُطلّا و مذہب گُلستانِ سعدی۔ یہ تمام چیزیں ایسی تھیں۔ جو نمائش کے کامیاب بنانے میں بڑی بھاری امداد دے رہی تھیں۔ کشمیر کی شال نوّے ہزار روپیہ قیمت کی تھی جو غالباً کسی شہنشاہ کے پاس بھی نہوگی ٹراونکور کا ایک نقرئی کھِیل جو بارہ فیٹ طویل تھا۔ کچھ کم عجیب نتھا۔ نیپال کا چینی وضع کا سامان بھی بڑا ہی قابلِ دید معلوم ہو رہا تھا۔ مہاراجہ ٹراونکور نے اپنے مُلکی وضع کا ایک نا مکمّل محل بھیجا ہوا تھا۔ علی ہذا اس کی عجیب

عجیب صنعتی اشیاء جو اکثر سوامی کے نام سے موسوم ہوتی ہیں۔ اور کاٹھیاواڑ گجرات کے جینی وضع کے بنے ہوئے مندر اور پنجاب کا لکڑی کا سامان جس کے لئے ایک کمرہ ہی الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو نمائش کے اصلی مقصود کو بہت عمدگی سے پورا کرتی تہیں۔ کپڑوں میں ڈھاکے کی ململ تشریح بے گرنتک کی موجود تھی۔ اور ایک ہاتھی دانت کی تیلیونکی سیتل پاٹی تھی۔ جو نہایت ہی خوشنما اور واقعی عجیب و غریب چیز تھی۔ ایسا ہی ایک ہاتھی دانت کی تیلیونکی جھاڑو بھی تھی اور شاہانِ سلف کے مرقعے اور زمانۂ جدید کے دیسی کاریگروں کی کھچی ہوئی تصاویر عبرت اور خبرت کے دونوں کا سبق دیتی تھیں۔ غرضکہ اشیائے نمائش پچاس ڈویژنوں (اضلاع) اور دس کلاسوں میں تقسیم کی گئی تھیں۔ جنمیں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھکر دلچسپ تھا پہلی کلاس دہات کی اشیاء کی تھی۔ جس میں ٹین۔ لوہے اور جست کی روغن شدہ اشیاء اور سونے چاندی کی چیزیں۔ اور میناکاری اور جڑت کا کام۔ تانبے اور پیتل کی اشیاء منقش اور غیر منقش وغیرہ وغیرہ بھی رکھی گئی تھیں۔ اور دوسری کلاس پتھر کی اشیاء کی تھی جسمیں پتھر سے جو جو کام اہل ہند اس وقت لیتے ہیں اور پہلے لیتے رہے ہیں۔ سب دکھایا گیا تھا تیسری کلاس مٹی اور شیشے کے کام کی تھی جس میں طرح طرح کے برتن اور مورتیں اور آرائشی سامان جمع کئے گئے تھے۔ چوتھی کلاس لکڑی کے کام کی تھی۔ اسمیں لکڑی کی کھدائی اور اس کی رنگسازی وغیرہ دکھائی گئی تھی۔ پانچویں کلاس میں ہاتھی دانت۔ سیپ اور چمڑے کی سب قسم کی عمدہ اشیاء جمع کی گئی تھیں چھٹی کلاس میں لاکھ کی چیزیں طرح طرح کی رکھی گئی تھیں۔ ساتویں میں بنی ہوئی اشیاء تھیں۔ آٹھویں کلاس کپڑے پر بُننے کے بعد اس کے نقش و نگار وغیرہ کے لئے جو عمل کیا جاتا ہے۔ اِس کی نمائش کے لئے مخصوص تھی۔ مثلاً رنگنا۔ ٹھپکنا۔ پالیس اور حاشیہ بنانا۔ وغیرہ وغیرہ۔ نویں میں دریاں قالین۔ اور دسویں میں تصاویر

نمائیشی اشیاء کمروں اور دالانوں میں نہایت قرینے سے چُنی ہوئی تھیں جو بڑے دروازے میں داخل ہونے پر دائیں بائیں جانب سلسلے سے تھے۔ چنانچہ دائیں ہاتھ گجرات دکاٹھیاواڑ کا کمرہ تھا۔ جو بمبئی کے سکول اوف آرٹس کے اہتمام میں طیار ہوا تھا۔ اور جسمیں سنگتراشی کے نمونے اور جین مندروں کی نمائیشی اشیاء کا اژدحام تھا۔ جنکو بوجہ انکی خوبصورتی کے احمد آباد۔ آباد کرتے وقت۔ احمد شاہ ابدالی نے بھی پسند کرکے اپنی عمارات وغیرہ کو اُنسے زیب و زینت دی تھی۔ پھر بائیں طرف مدراس کا کمرہ تھا جو مدراس کے سکول اوف آرٹس کی نگرانی میں مرتب ہوا تھا۔ اور جس میں جنوبی ہندوستان کی صنعت گری کے تمام اعلیٰ نمونے دکھلائے گئے تھے۔ اِسی طرح پھر پنجاب روم تھا۔ جسکی دیواریں لکڑی کے کام سے سجائی گئی تھیں۔ یہ کمرہ لاہور کے میو سکول اوف آرٹس کے زیر اہتمام تھا اور اس میں لاہور۔ بھیرہ۔ شاہ پور۔ چنیوٹ۔ امرتسر وغیرہ کے ہر قسم کی لکڑی کے کام کی نمائیش مہیا کی گئی تھی۔ جنمیں باستثناء چنیوٹ کی اشیاء کے جو اسلامی وضع کی تھیں۔ باقی اس مذاق کی پائی جاتی تھیں جنکو سکھوں نے اپنے وقت میں عروج پر پہنچایا تھا۔ اِس کے بعد بہار روم تھا۔ پھر جودھپور کا بڑا ہوئس۔ پھر برادنکور ہوئس پھر بہاؤنگر ہوئس۔ پھر آگرہ ہوئس۔ پھر بھرتپور ہوئس۔ وغیرہ وغیرہ۔

نمائیش کا ٹکٹ سوائے یومِ افتتاح کے ایک روپیہ کا۔ اور سیزن ٹکٹ جو برابر یوم افتتاح سے اختتام تک کار آمد ہوسکے پانچ روپیہ کا تجویز کیا گیا تھا مگر کثرتِ ناظرین کے باعث ایک روپیہ کا ٹکٹ ایّامِ دربار تک قریباً جاری ہی نہیں ہوسکا۔ اور ایک ایک روپیہ کا ٹکٹ پانچ پانچ روپیہ کو بکتا رہا۔ جس سے صیغۂ نمائیش میں معقول آمدنی ہوئی۔ نمائیش کا وقت عموماً ۷ بجے صبح سے ۵ بجے شام تک اور پھر سات بجے سے بارہ بجے شب تک رکھا گیا تھا۔ اور عورتوں کے لئے اتوار کا دن مخصوص کردیا گیا تھا۔ کہ وہ بھی بلا خوفِ بےپردگی سیر کرسکیں۔

بہت سے والیانِ ریاست اور دیگر معززین نے سامانِ فروختنی بھی دل کھول کر خرید فرمایا۔ جس کی کمیشن سے معقول منافع ہُوا۔ چنانچہ صرف حضور نظام نے قریب تین لاکھ روپیہ کے سامان خریدا۔ اور علیٰ ہٰذا القدر حاجت و مناسبت دوسروں نے بھی۔ خریداری کے لئے یہ قاعدہ تھا کہ جو اشیاء ایک سے زیادہ ہوتی تھیں وہ تو اُسی وقت خریدار لے سکتے تھے۔ لیکن جو چیزیں صرف ایک ایک ہی تھیں۔ وہ اختتامِ نمائش کے بعد خریدار کو مل سکتی تھیں۔

اُنیس طلائی تمغے اعلیٰ اشیاء نمائش کے پیش کرنیوالوں کے لئے تجویز ہوئے تھے۔ جو مندرجہ ذیل مناسبت سے کمیٹی مبصرین نے تقسیم فرمائے۔

۱۔ کشمیری دوشالوں کے لئے۔ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر کشمیر کو۔
۲۔ حاشیہ کے کام کے لئے جو ایک امرتسری دوشالہ پر لگا ہُوا تھا۔ ہز ہائینس نواب صاحب مرشد آباد کو۔
۳۔ ہاتھی دانت کے منبت کار صندوقچہ کے لئے۔ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب ٹراونکور کو۔
۴۔ طلائی کمخواب کے لئے۔ ہرگوا اسداس گوپی ناتھ بنارسی کو۔
۵۔ ہاتھی دانت کی اشیاء کے لئے۔ فقیر چند رگناتھ داس دہلوی کو۔
۶۔ چکن کے کام کے لئے۔ کدار ناتھ رام ناتھ کمپنی لکھنؤ کو۔
۷۔ صندل کی لکڑی کی صنعتوں کے لئے۔ مہاراجہ صاحب میسور کو۔
۸ و ۹۔ دھات کی چیزوں کے لئے۔ جیپور کے سکول اوف آرٹس اور برہما کے مقام ٹونگو کے سیاپو کو۔
۱۰۔ چاندی کی سادہ کار اشیاء کے لئے۔ مونگ ٹنمونگ برہما کو۔
۱۱۔ پتھر کی چیزوں کے لئے۔ بہر تپور ہوس کو۔
۱۲۔ لکڑی کے کام کے لئے۔ بہاؤ نگہ ہوس کو۔
۱۳۔ منبت کاری کے لئے۔ میو سکول اوف آرٹس لاہور کو۔
۱۴۔ چوبی تصویروں کے لئے۔ مونگ نیانگ برہمی کو۔

۱۵۔ آرائشی اشیاء کے لئے۔ سکول اوف آرٹس بمبئی کو۔

۱۶۔ تصویروں کے لئے۔ پی۔ این۔ مینز کمپنی بمبئی کو۔

۱۷۔ نگلی تصویروں کے لئے۔ بھگونت سنگھ لکھنوی کو۔

۱۸ و ۱۹۔ عمدہ دریوں کے لئے مسٹر میڈو متعلق کشمیر سٹیٹ اور جیلخانہ آگرہ کو۔

اِس کے علاوہ پچاس نقرئی اور نوے برنجی تمغے اور کثیر التعداد سرٹیفکیٹ اور نقدی انعام بھی مختلف کاریگروں کو دیا گیا۔ جنکی تفصیل سوائے زرِ نقد کے یہ ہے:۔

دھات کی اشیاء کے سلسلہ میں (اوّل انعام) نقرئی تمغہ۔ سکول فنون بمبئی کو ایک آہنی کباب ساز آلہ کے لئے۔ (دوم انعام) برنجی تمغہ۔ بڑودہ کے کباب ساز آلہ کے لئے جو چیف انجنیر کے ذریعہ سے آیا تھا۔ (سرٹیفکیٹ) کڑیوں کے زرہ بکتر مسٹرس پناہ محمد اور الہ بخش کمپنی اجمیری بازار جیپور۔ فولادی زرہ بکتر مسٹرس نور بخش خدا بخش کمپنی جیپور۔ منقش سپر ساخت مسٹرس امیر بخش اینڈ سنس جیپور۔

قلعی دار و رنگین لاکھی اشیاء کے سلسلہ میں کوئی انعام نہیں دیا گیا۔

مجموعہ بدری اشیاء کے لئے۔ (اوّل انعام) تمغہ نقرئی۔ شیخ عزیز الدین مرادآباد کو (دوسرا انعام) تمغۂ برنجی۔ محمد یار خاں مرادآباد کو۔ (سرٹیفکیٹ) مڑوڑی کی چیزوں کے لئے محمد یار خاں مرادآباد کو۔

مینا کار وغیرہ کے سلسلہ میں۔ طلائی مینا کار اشیاء کے لئے (دوسرے درجہ کا انعام) نقرئی تمغہ۔ بابو موتی چند مقام مدراس۔ (تیسرے درجہ کا انعام) برنجی تمغہ۔ اسکول فنون بمبئی اور ریاست پرتابگڑھ۔

نقرئی مینا کاری کے لئے (تیسرے درجہ کا انعام) برنجی تمغہ سبحان زرگر سری نگر واقع کشمیر کو۔ اور (سارٹیفکیٹ) حبیب جیو زرگر سری نگر۔ وسنتا رام ملتان کو۔

مسی و برنجی مینا کے لئے (اوّل درجہ کا انعام) نقرئی تمغہ حبیب جیو سری نگر کو۔

اور (دوسرا انعام) برنجی تمغہ۔ سبحان۔ سری نگر کو۔ اور (سرٹیفکیٹ) لسوسنار۔ اور سبحان سری نگر کو۔

ظروفِ طلائی و نقرئی کے سلسلہ میں (اوّل انعام) نقرئی تمغہ یشٹیپا بابا مقام شولہ پور کو۔ نقرئی کشتی قیمتی دو سو ترسٹھ روپیہ کے لئے (اوّل انعام) نقرئی تمغہ۔ ننذا جیٹھی کچھی مونگ فوگن رنگون کو۔ اور (دوسرا انعام) چاندی تمغہ۔ سونی امرادجی بھوج اور مونگ کئی مونگ مولمین کو۔ اور (تیسرا انعام) برنجی تمغہ۔ وشنو گنیش پریم دھاری مقام پونہ کو۔ و فرانجی پستون جی جہانگیر امدراس۔ دادیخاں مدراس۔ و حبیب جیو سری نگر و سبحان سری نگر و بومنے ماد جی و گیوام مقام بھوج۔ اور (سرٹیفکیٹ) سبیا۔ اور چینے اور نینا بنگلور۔ درگا پرشاد و منوہر داس لکھنوی۔ و گوری شنکر ہر نرائن لکھنوی۔ اور اجودھیا پرشاد و جگناتھ لکھنوی۔ وا ینکال کرشنا جاری بنگلورہ و پرب دیال ملکا وامل ہوشنگ پور و پنال الور۔ و بابو شیوانندن پرشاد سنگھ منگیر۔ و کرشنا چرن کمنا کر ڈھاکہ۔

کوفت گری و پچیکاری کی چیزوں کے سلسلہ میں۔ (اوّل انعام) نقرئی تمغہ سکول فنون جیپور۔ غلام محمد سیالکوٹ۔ پیراجی حیدرآباد۔ حاجی حسین عرب تاجر حیدرآباد حاجی محمد یار سیالکوٹ کو۔ اور (دوسرا انعام) چاندی کے ہی تمغہ کا۔ ملک امام الدین سیالکوٹ۔ قاضی گلاب دین سیالکوٹ کو۔ (تیسرا انعام) برنجی تمغہ کا ریاست سروہی امیر محمد عظیم کو۔ اور (سرٹیفکیٹ) عبد العزیز گجراتی۔ عبد الرحمن گجراتی۔ محمد بخش سیالکوٹ۔ بڈھا سیالکوٹی۔ فضل کریم سیالکوٹی۔ سکول فنون ٹرا ونکور۔ صبغۃ اللہ الوری کو۔

اشیائے بدر کے سلسلہ میں (اوّل انعام) چاندی کا تمغہ حاجی حسین حیدرآبادی (دوسرا انعام) چاندی کا تمغہ۔ ترلوکی ناتھ مرشدآبادی۔ قادر بیگ چاند بیگ لکھنوی۔ (تیسرا انعام) برنجی تمغہ۔ حاجی حسین حیدرآبادی۔ (سرٹیفکیٹ) رمنا حیدرآبادی۔

پیچی کاری کی اشیاء کے سلسلہ میں (اوّل انعام) تمغہ نقرئی۔ راما چروپتی شمالی ارکاٹ (دوسرا انعام) برنجی تمغہ۔ اسکول فنون مدراس اور دی کرشنا پا سر کمپنی تنجور۔

(سرٹیفکٹ) کاشی رام پنڈیا کمپنی تنجور۔ کریپ پاما پاسر تنجور۔ میلا پالی جارا ساری ترچناپلی۔ اور پھر (اوّل انعام) چاندی کے ہی تمغہ کا۔ میو سکول فنون لاہور و سکول فنون مدراس و سکول فنون بمبئی کو۔ اور (دوسرا انعام) برنجی تمغہ۔ پونا سوامی اریرے مقام مدورا۔ اور مکھن لال نرائن داس لکھنوئی کو (تیسرا انعام) برنجی تمغہ۔ مونگ پکیو مقام برہم۔ اور (سارٹیفکٹ) لسوسری نگری ہرگوبند ہیر بڑودہ کو۔

برنجی اشیاء کے سلسلہ میں۔ (اوّل انعام) چاندی کا تمغہ۔ پناہ محمد و الٰہ بخش جیپوری۔ و لوامر لتسری کو۔ (دوسرا انعام) برنجی تمغہ صیغۂ فنون میسور کو۔ (تیسرا انعام) برنجی تمغہ۔ نور بخش و خدا بخش جیپوری کو۔ اور (سارٹیفکٹ) غلام جیلانی امرتسری۔ مسٹر ایم کے گڈبول پونا۔ آریامنی سوامی اچاری سیدپت مقام ولور۔ مستری رگھناتھ تربھون اینڈ سنس بڑودہ۔

نیپالی و کشمیری برنجی اشیاء کے لئے۔ (اوّل انعام) چاندی کا تمغہ ہز ایکسلنسی وزیر اعظم نیپال کو (دوسرا انعام) برنجی تمغہ۔ لسوسری نگر کو۔

عمارتی کام کے لئے (اوّل انعام) طلائی تمغہ۔ بھرتپور کو۔ سفید پتھر کے مکان ایوان ڈیگ کے نمونے کے مطابق پیش کرانے کے لئے (دوسرا انعام) نقری تمغہ۔ جودھپور کے جھروکوں کے لئے جو تین رنگ کے ریتیلے پتھر پر کھدے ہوئے تھے۔ اور آرہ کے سفید رنگ کے پتھر کے دروازہ کیلئے (تیسرا انعام) تمغہ برنجی۔ مرزاپور کے آتشخانہ کو اور (سارٹیفکٹ) سیا اور بھیکا گوالیاری۔

حکاکی کے کام میں (دوسرے درجہ کا انعام) چاندی کا تمغہ۔ محمد امین معلّم میرا کو (تیسرا انعام) برنجی تمغہ۔ لال خاں مقام باندہ کو۔

ظروف گلی کے لئے (اوّل انعام) چاندی کا تمغہ۔ اسکول فنون بمبئی۔ غلام حسین ملتان۔ اسکول فنون جیپور۔ (دوسرا انعام) برنجی تمغہ۔ محمد حسین ملتانی و عبد الحفیظ بلند شہر کو

اور (سارٹیفکیٹ) احمد بخش بلند شہر۔ نبی بخش رام پوری۔ ارنا چیلا اوایان مقام دیور۔

ظروف شیشہ و گلی پڑچی کاری کے لئے (سارٹیفکیٹ) سکول فنون لاہور کو اور دربار اودیپور کو۔

پلاسٹر ہاف پیرس اور سمنٹ کے کام کے لئے (دوسرے درجہ کا انعام) برنجی تمغہ کا۔ سکول فنون لاہور کو۔ اور (سارٹیفکیٹ) لہورا استاد سیتارام بیکانیری و سکول فنون مدراس و دربار اودیپور کو۔

چوبی منبت کاری کے کام کے لئے۔ (اوّل انعام) چاندی کا تمغہ سکول فنون مدراس و مونگ تہان پیکنگ رنگون۔ (دوسرا انعام) چاندی کا تمغہ سکول فنون مدراس۔ سکول فنون بمبئی۔ اسکول فنون لاہور۔ مونگ فونین رنگون ساکن منڈالی۔ ہنا چند بھگوان احمد آباد۔ (تیسرا انعام) برنجی تمغہ مسٹرس ڈیا ٹو کمپنی رنگون و منڈالی ہیڈ انجنیر ریاست بڑودہ۔ اگزکٹو انجنیر میسور۔ سرجن سنگھ سہارنپوری۔ حسن پیرا صاحب پیران صاحب بریلی و سکول پیشہ مدراس و عبید اللہ مستری بجنور۔ سومنا تھ۔ بہادر داس احمد آباد و مسٹر ٹی تیمرن سپرنٹنڈنٹ عجائب خانہ بنگلور و برکت علی جالندھر کو۔

چوبی منبت کاری و پچی کاری کے لئے (اوّل انعام) تمغہ نقرئی کا گنشیا میسوری و کنہیالال و مدن موہن مین پوری کو (دوسرا انعام) نقرئی تمغہ۔ احمد علی و محمد مخدوم میسوری و آتمارام و گنگارام ہوشیارپوری۔ اور (تیسرا انعام) برنجی تمغہ۔ مولا بخش و دوست محمد چنیوٹ واقع ٹراونکور۔ صنعتی اسکول اورنگ آباد۔ کالیجرن منٹگمری اور (سارٹیفکٹ) یوسف علی اینڈ سنس۔ بھگوان سنگھ جالندھر۔ محمد حسین چنیوٹ۔ مسٹر جی بی مینر جی لاہوری۔ جے رام داس و کرم سنگھ ہوشیارپوری۔

چوب صندل پر منبت کاری کے لئے (اوّل انعام) نقرئی تمغہ۔ اگزکٹو انجنیر میسور کو۔ (دوسرا انعام) چاندی کا تمغہ۔ بنارسی و سبحان و تراب و لب داس و جلب بھائی

بمبئی کو۔ (تیسرا انعام) برنجی تمغہ۔ ہرکشن پرشوتم سورت مدگو وہرنیا سورت جمشید جی نوشیروانجی پیشکار سورت کو۔ اور (سارٹیفکیٹ) پرشوتم نربھا رام سورتی۔ پربھوداس رگھناتھ احمد آبادی کو

منبت کاری باریک لکڑی کے تختے دوسری لکڑی پر چڑھے ہوئے وغیرہ کام کے لئے (اوّل انعام) چاندی کے تمغہ کا۔ گنوگلا چینلی۔ وریا وزیگاپٹن۔ لاونکٹاداس وزیگاپٹن۔ گنوگلا وامالنگم وزیگاپٹن کو (دوسرا انعام) چاندی کا تمغہ گلئی لکشمیا وزیگاپٹن۔ ہزاکسلنسی وزیراعظم نیپال۔ مولچند اینڈ سنس پشاور کو۔ (تیسرا انعام) برنجی تمغہ۔ اوکارمقام اٹاوہ ریاست کوٹہ۔ بنچرام گوبند رام بمبئی۔ ٹھاکر سنگھ امرتسری ودیبی چمبامل امرتسری کو۔ اور (سارٹیفکیٹ) فرامجی بی۔ بھمگرا۔ پاسنگھ امرتسری۔ دستخط پشاوری سنت رام لاہوری۔

چوبی رنگین اشیاء اور پیپر ماشی کام کے لئے (اوّل انعام) چاندی کا تمغہ دربار کشمیر کو (دوسرا انعام) چاندی کا تمغہ۔ جبار خاں سری نگر کو۔ (دوسرا انعام) برنجی تمغہ کلکٹر بریلی کی فرستادہ چیزوں کو۔ اور (سارٹیفکیٹ) حشیت اللہ مظفر نگری۔ نرائن رام چند کلکار سادنت وادی۔ شاہ محمد بیکانیری کو۔

چوبی کام کے نمونے کھلونے وغیرہ کے لئے (تیسرے درجہ کا انعام برنجی تمغہ۔ نرائن رام چند کلکار سادنت وادی سنٹرل جیلخانہ کنانور کے سپرنٹنڈنٹ اور سوامی ترچناپلی کی فرستادہ چیزوں کو۔

سارٹیفکیٹ مختلف نمونوں کے میو سکول اوف آرٹس لاہور نے طیار کئے تھے۔ جو نہائت مناسبت کے ساتھ بنائے گئے تھے۔

فصل سوم

دربارِ تاجپوشی شہنشاہِ معظم

(منعقدہ یکم جنوری ۱۹۰۳ء)

سنِ عیسوی کا نَوروز سلطنتِ انگریزی میں عام طور پر جو مسرت ناک مقبولیت پا چکا ہے اُس کے بیان کی چنداں ضرورت نہیں۔ کیونکہ عموماً یہی وہ دن ہے جسپر ہر سال گورنمنٹ کیطرف سے اظہارِ فرحت و شادمانی اور ظہورِ فیاضی قدردانی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ۱۹۰۳ء کی یکم جنوری کو جو تاریخی وقعت حاصل ہوئی۔ وہ معمولی نَوروزوں سے بدرجہا بڑھکر تھی۔ کیونکہ شہنشاہِ ذیجاہ کے دربارِ تاجپوشی کے انعقاد اور اہلِ اسلام کی عید الفطر کے اجتماع نے اس روزِ بہجت افروز کو ایک ایسی تاریخی عظمت بخشدی تھی جو بلا شرکتِ غیرے اِسی کا حصّہ تھا۔ اور جسکو شہنشاہِ ذیجاہ کی مبارکی و فرخی کی دلیل سمجھنا چاہیئے۔ کیونکہ قطع نظر اِس بات کے کہ اِس اجتماع کے باعث ہندوستان کی سات کروڑ مسلمان آبادی اُس دن مذہبی طور پر بھی خوشی منانے کے لئے قدرتی طور پر آمادہ ہو گئی تھی۔ جب اِس اصلی واقعہ کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ہی سلطنتِ ہند کی کُنجیاں گورنمنٹ انگریزی کو حاصل ہوئی تھیں۔ اور مسلمانوں کے ہی تخت و تاج اس کے قبضۂ اختیار میں آئے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُس امانت کی باحسن وجوہ نگہداشت کے لئے عید الفطر نے گویا دربارِ تاجپوشی پر اظہارِ مبارکباد کے لئے یکم جنوری سے مِلاپ کر لیا تھا۔ بہرحال یہ روزِ عالم افروز جس فرحت و بشاشت کو لئے ہوئے ہندوستان میں آیا۔ اور بالخصوص جس شاہانہ کروفر اور دِلی انبساط و مسرت کے ساتھ اِسنے دہلی میں

اپنا جمالِ جہاں آرا دکھایا۔ وہ مدّتوں تک یاد رہے گا۔

درباریوں اور دیگر وزیر شرفا و اُمرا کو دربار کے ٹکٹ پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ جن پر یہ نوٹ لکھا ہوا تھا۔ کہ "سب صاحبوں کو اپنی نشستوں پر ساڑھے دس بجے تک بیٹھ جانا چاہیئے"۔ جس کے واسطے ہر ایک کیمپ میں دن نکلنے سے بھی پہلے ہی طیاریاں شروع ہو گئیں۔ کیونکہ ہر کیمپ میں مسلمان بھی ضرور ہی موجود تھے۔ جنکو مذہبی طور پر اس دن نہانا۔ کپڑے بدلنا۔ خوشبوئیں لگانا۔ اور نماز پڑھنا ضروری تھا۔ جس کا وقت بڑی جلدی بھی کیجائے۔ تو نو بجے کا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اِسی خیال سے امامِ مسجد جامع نے (جو خود بھی درباری تھے) یہ اعلان کر دیا تھا کہ جامع مسجد میں ۹ بجے نمازِ عید ادا ہوگی۔ جس کے لئے نمازیوں کو بہت پہلے سے اہتمام کرنا ضروری تھا۔ کیونکہ جامع مسجد میں لکھوکھا آدمیوں کو ادائے نماز کی خواہش تھی۔ جس کیواسطے لوگ نمازِ صبح سے ہی وہاں جا جاکر بیٹھ رہے تھے۔ گو شمولیتِ دربار کے باعث لوگوں نے اکثر اپنے اپنے کیمپوں میں ہی عید کی نمازیں پڑھکر گذارہ کر لیا۔ اور جامع مسجد میں صرف شہر کے باشندوں یا مقیمِ شہر سیاحوں نے ہی نماز ادا کی۔ مگر پھر بھی اس قدر ہجوم تھا۔ کہ مسجد تمام وکمال پُر ہو گئی تھی۔ والیانِ ریاست اور انکے فوجی سپاہی آتے۔ تو جگہ کا ملنا ناممکن تھا۔ بہرحال ۹ بجے تک اہلِ اسلام نمازِ عید سے اور اہلِ ہنود اپنی پوجا پاٹھ سے فارغ ہو کر دربار ہال کیطرف مختلف قسم کی سواریوں میں اس طرح جا رہے تھے۔ کہ شہر کے باہر ایک میلا لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ گاڑیوں کی قطار ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ بلکہ ایک سے دوسری بڑھ جانیکی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ پولیس کا پہرہ جا بجا متعین تھا۔ اور موری دروازے سے باہر تھوڑے فاصلہ پر جہاں سے سنٹرل کیمپ کی سڑک جدا ہوتی تھی۔ وہاں سے عام گاڑیوں کو ایک دوسری سڑک پر ڈال دیا جاتا تھا۔ کیونکہ سیدھی سڑک سوائے حضور وائسرائے اور حکام اعلیٰ اور والیان

ریاست کے عام درباریوں کے لئے بند کر دی گئی تھی۔ اور اس دُوسری کچّی سڑک سے بھی وُہی گاڑیاں جاسکتی تھیں جنکے سوار صاحبان ٹکٹ یافتہ ہوں۔ کیونکہ عام تماشائیوں کی گاڑی اِسپر بھی نہ جاسکتی تھی۔ پولیس کا انتظام نہایت معقول تھا جس سے کوئی شکائت کسیکو پیدا نہیں ہوئی۔ گاڑیوں کا کرایہ عام طور پر اُس دِن بہت بڑھ گیا تھا۔ اور اُس کا بڑھنا کُچھ داخلِ تعجب بھی نہ تھا۔ کیونکہ اوّل تو یہی وہ دِن تھا جِسکے لئے مدّتوں سے سب انتظام ہورہے تھے۔ اور نیز اُس دن دربار لائیٹ ریلوے نے بھی عام سواریوں کے لیجانے سے اِنکار کرکے صِرف اُنہیں صاحبوں کے پہنچانیکا اہتمام کیا تھا۔ جنہوں نے پچیس پچیس روپیہ کے سیزن ٹکٹ خرید رکھے تھے۔ جس سے عام لوگوں کو سخت مایوسی ہوئی۔ کیونکہ پہلے سے اس کی نسبت عوام کو کوئی اطلاع نہ تھی اور اِس خیال میں کہ دربار لائیٹ ریلوے پر ایک روپیہ دیکر بخوشی پہنچ جائیں گے۔ وہ ریلوے مذکور کے سٹیشن پر پہنچتے اور یہ سوکھا جواب لیکر واپس ہوتے تھے۔ جس کے بعد غالباً سوائے پیدل چلنے کے اُنکو چارہ نہوتا تہا۔ ہاں ہاں بعض بعض صاحبان نے مجبوراً پچیس پچیس روپے کے ٹکٹ بھی خرید لئے ہوں۔ تو کچھ عجب نہیں۔ کیونکہ اُس وقت پیدل چلنے یا پچیس روپے کے ٹکٹ خریدنے کا سوال فی الفور حل کرنا ہوتا تھا۔ بہرکیف دربار ہال جو شہر سے پانچ میل اور دیسی رؤساء کے کیمپوں سے بھی بہت بڑے فاصلہ پر تھا۔ دس بجے درباریوں سے پُر ہونا شروع ہُوا جس کا درمیانی وسیع میدان دو ہزار باجہ نوازوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور ہال کے باہر بائیں طرف توپخانہ جمایا گیا تھا۔ ہر ایک گاڑی کے پہنچتے ہی ایک نمبر کے دو ٹکٹ گورہ سپاہی کوچبان اور گاڑی نشین صاحب کو نہایت اخلاق کے ساتھ پیش کر دیتے تھے۔ تاکہ واپسی کیوقت گاڑی کی تلاش میں دِقت نہو۔ دربار ہال کے پہرہ پر بھی گھاگرہ پلٹن کے یوروپین سپاہی متعین تھے۔ جن کی نسبت قیاس چاہتا ہے کہ

کمال فراست سے اُنکو پہلے سے ہدائیت کردی گئی تھی۔ کہ ہر شخص کے ساتھ نہائیت اخلاق و مروت سے پیش آئیں۔ کیونکہ جس کشادہ پیشانی اور شیریں کلامی کے ساتھ یہ گورہ سولجر دربار یونکا ٹکٹ دیکھتے اور ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ وہ اِنکے معمول سے ضرور اجنبی تھا۔ الغرض دس بجے سے گیارہ اور حد ساڑھے گیارہ بجے تک تمام وزیٹر درباری۔ والیانِ ریاست۔ گورنران وچیف کمشنرانِ صوبہ جات۔ ممبرانِ کونسل۔ کمینڈر انچیف بہادر اور دوسرے بڑے بڑے عہدہ دارانِ انگریزی سب اپنے اپنے ممبروں پر متمکن ہو گئے۔

نشست کی ترکیب یہ تھی۔ کہ وائیسرائے صاحب کے چبوترے کے پیچھے بلاک ہے اور ہنا یڈ میں سفرائے دولِ خارجہ۔ اور گورنمنٹ ہند کے تمام بڑے بڑے ممبرانِ وہز ایکسلنسی کمینڈر انچیف۔ لفٹننٹ جنرل کمانڈنگ فورس۔ اور حضور وائیسرائے یوروپین مہمانان وگورنران ولفٹنٹ گورنرانِ صوبجاتِ ہندوستان تشریف فرما تھے۔ اور والیانِ ریاست کو وائیسرائے صاحب کے دائیں بائیں کے بلاکوں کی پہلی قطاروں میں بدیں تفصیل جگہ دی گئی تھی۔ کہ۔

وائیسرائے صاحب کے **دائیں** جانب سب سے پہلے حضور نظام خلد اللہ ملکہٗ مع شہزادہ ولیعہد بہادر و مہاراجہ کشن پرشاد صاحب مدارالمہام کے رونق افروز تھے۔ جنکے بعد ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بڑودہ۔ اور ہز ہائینس مہاراجہ صاحب میسور کی کرسیاں تھیں۔ اور پھر درجہ بدرجہ والیانِ ریاستہائے صوبجات راجپوتانہ۔ مدراس پنجاب۔ اور ممالک متحدہ آگرہ کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ اور **بائیں** جانب سب سے پہلے ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والیٔ کشمیر مع اپنے برادرِ اصغر کرنل سر راجہ امر سنگھ صاحب بہادر بالقابہ کمینڈر انچیف و فارن منسٹر اور ولیعہد صاحب کے رونق افروز تھے۔ جن کے بعد درجہ بدرجہ بلوچستان۔ آسام بمبئی۔ ممالکِ وسطی بنگال

اور بہ تمامہ والیانِ ریاست کی نشستیں تھیں۔ اور ہر دو طرف پہلی قطار کے پیچھے پیچھے سرداران صوبۂ سرحدی بلوچی سردار اور سنٹرل انڈیا کے رئیس بٹھائے گئے تھے۔ دیسی اخبارات کے اڈیٹر بلاک ای تیچ میں تھے۔ جنکے بعد کے بلاکوں میں وزیٹروں کی نشستیں شروع ہو گئی تھیں۔

والیانِ ریاست نہایت شاندار لباسوں میں عموماً جواہرات کے کنٹھے اور ہار پہنے ہوئے طرّہ لگائے شامل ہوئے تھے۔ جنکی پوشاکوں کی تعریف میں سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ دولت و حشمت دنیوی کا بہترین نظارہ تھیں۔ حضور نظام حسب معمول سادہ ڈریس میں رونق افروز ہوئے تھے۔ البتہ چند نایاب جواہرات کو آپ نے بھی زیبِ تن فرمایا ہوا تھا۔ اور باقی مسلمان بھی کسیقدر پُر تکلف سادگی کا اظہار فرماتے تھے۔ سواریاں سب صاحبوں کی قابلِ دید تھیں۔ لیکن بالعموم والیانِ ریاست کی اپنی سواری میں چو گھوڑا گاڑیاں استعمال ہوئی تھیں جو پرلے درجہ کے تکلفات سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی تھیں۔ ساز و یراق تو سب کے گھوڑوں کے نقرئی یا طلائی تھے مگر بعض بعض صاحبوں کی گاڑیاں بھی چاندی اور سونے کی پوشش سے جگمگ کر رہی تھیں جنکی خوشنمائی خاص طور پر دیکھنے کے لائق تھی۔ اور جنیر کو چمین تک نہایت زرق البرق پوشاکوں میں ملبس بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال دربارِ ہال میں ہر ملک اور ہر وضع کی پوشاکیں دیکھنے میں آتی تھیں۔ مختلف علاقہ ہائے ہندوستان کے اٹھانوے خود مختار والیانِ ریاست شریکِ دربار تھے۔ جنہیں ہر عمر اور ہر درجہ کے صاحبان بمراہ جلوہ گر تھے۔ چنانچہ بوڑھوں میں نابہہ کے راجہ صاحب اور بچوں میں مہاراجہ صاحب بھرتپور جنکی عمر صرف تین سال کی تھی۔ اور جو اپنی والدہ کے پاس بٹھائے گئے تھے) موجود تھے۔ جملہ شاملینِ دربار کی تعداد بارہ ہزار بیان کی گئی ہے۔ جس میں پرانی وضع اور نئی قطع کے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حیثیت سے منتخب ہوئے تھے شامل تھے۔

اِس لحاظ سے اگر اِس مجمع کو خلاصہ ہندوستان کہا جائے۔ تو کچھ بھی بیجا ہوگا۔ کیونکہ اسمیں وُہی لوگ شریک تھے۔ جنکو یا تو سرکار نے اپنے اِنتخاب سے طلب فرمایا تھا۔ اور یا جنکی درخواست پر انکو کسی نہ کسی حیثیت سے گورنمنٹ نے لائقِ اِنتخاب تصوّر کر لیا تھا۔ غرضکہ جتنے صاحبان شامل تھے کوئی نہ کوئی قومی یا سلطنتی یا علمی یا تجارتی امتیاز ضرور رکھتے تھے۔ جو ہر ملک اور ہر مذہب اور ہر قوم سے لئے گئے تھے۔ یہ نظارہ جس قدر پُر اثر ہو سکتا ہے ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں کہ حاضرینِ دربار گو اپنے مذہبی عقائد وغیرہ میں ایک دوسرے سے خواہ کتنے ہی مختلف ہوں۔ مگر اس وقت شہنشاہی وفاداری اور سلطنت کے جاہ و جلال کے اعتراف میں قریباً سارے کے سارے متحد اور متفق ہو کر یکجا ہوئے تھے۔ اور جنکو اس طرح یکجا دیکھکر ہر شخص کو ماننا پڑتا تھا کہ مذہب کی روحانی چاٹ کے بعد اگر کسی دُنیوی چیز میں مخلوق کے دلوں کی کشش کی طاقت موجود ہے۔ تو وہ صرف حکومت کی ہر دلعزیزی اور سلطنت کی عزت و تعظیم کی ہی زبردست قوت ہے۔

بیگمات کے پردہ کا بھی خاص طور پر انتظام کیا گیا تھا جس کی تحریک ہر ہائینس بیگم صاحبہ بھوپال کیطرف سے ہوئی تھی۔

سب کا داخلہ بیرونی طرف کی مقررہ سیڑھیوں کیطرف سے ہوتا تھا۔ اور چونکہ اس قدر مجمع عظام کی سلامی اتواپ کا وقت طلب ہونے کے علاوہ کانوں کو بھی ناگوار رہجانا لازمی تھا۔ کیونکہ شرکائے دربار گورنران و چیف کمشنران و ریزیڈنٹان و والیانِ ریاست کی اتواپ اِسلامی مجموعی طور پر دو ڈھائی ہزار فائر سے ہرگز کم نہ ہوتیں۔ جن کے لئے تین سیکنڈ فی فائر بھی رکھے جائیں تو کم و بیش دو گھنٹے بکار تھے۔ اِسلئے حسب قرارداد ایسے سلامی والے صاحبان کی صرف گارڈ آف آنر کا فوجی دستہ جنگی وضع پر سلاح کے پیش کرنے سے سلامی ادا کر دیا کرتا تھا۔

اوقاتِ مشتہرہ کے مطابق تو وائسرائے صاحب کی تشریف آوری کے لئے بارہ بجے کا وقت مقرر تھا۔ مگر بعد میں عید کے خیال سے اِس میں آدھ گھنٹہ کی دیر کر دی گئی۔ تاکہ سب شاملین بخوبی تمام پہنچ لیں۔ مگر اِس دیر سے شاملینِ دربار کو کچھ فایدہ نہ ہو سکا۔ کیونکہ اِس رعایت کی کسی کو اطلاع نہ ہوئی تھی۔ اور جس طرح ہو سکا سب نے اپنے آپکو وقتِ مقررہ پر وہاں پہنچا دیا تھا۔ البتہ بہادرانِ غدر نے اِس دیر سے ضرور فایدہ اُٹھایا کیونکہ یہ گروہ ٹھیک بارہ بجے داخلِ دربار ہوا تھا۔ اِنکی آمد کا نظارہ بھی بڑا ہی قابلِ دید تھا۔ کہ پہلے تو اِنکے استقبال کو متعینہ گورہ فوج آگے بڑھی۔ جو نہایت تپاک و محبت کے ساتھ باجا بجاتے ہوئے اُنکو دربار میں لے آئی۔ بلکہ دو ایک بڈھے پنشنر جو بباعث ضعفِ پیری کے دوسرے فوجیوں کے قدم بقدم نہ چل سکتے تھے۔ اِنہیں گورہ سپاہیوں نے نہایت خوشی سے خود اُٹھا کر پورے اعزاز کے ساتھ اِنکے بلاک میں بٹھلا دیا۔ اور پھر اِن لوگوں کے داخلِ دربار ہونے پر جس قدر پُرخاص و لولہ تمام درباریوں میں پھیل گیا تھا۔ اور جس کو اُنہوں نے بے اختیار چیئرز پر چیئرز دینے سے۔ اور رومال ہلا ہلا کر مرحبا کہنے سے ظاہر کیا تھا۔ وہ بھی یقیناً کچھ کم خوش آئیند نہ تھا۔ اور جبکو اِنکی بہادری کی بہترین تلافی کہا جا سکتا ہے۔

اِس کے بعد تمام فوجِ انگریزی جو تعداد میں ۳۵ ہزار تھی۔ پُرجلال پیرا باندھے ہوئے دربارِ ہال کے دروازہ کے سامنے اور وائسرگل سڑک میں کھڑی ہو گئی۔ جن کی وردیوں کی بوقلمونی قدون کی موزونی جنگی اسلاح کی چمک دمک اور افسران کی پُرجوش کڑک ایک عجیب باہیبت اور پُرشوکت نظارہ ناظرین کے روبرو پیش کر دیتی تھی

ساڑھے بارہ بجے **عالیجناب ڈیوک اوف کیناٹ بہادر مع ڈچس صاحبہ** کے بسواری گاڑی پورے کروفر سے رونق افروزِ دربار ہوئے۔ ایک دستہ گورہ فوج کا اور ایک دستہ دیسی فوج کا آپکی اردل میں تھا۔ اور آپکا چہرہ نہایت

بشاش معلوم ہورہا تھا۔ فوجِ متعینۂ محاذِ دربار کے پاس جب آپکی سواری پہنچی۔ تو حسب قاعدہ فوجی سلامی دی گئی۔ اور پھر دربار ہال میں گاڑی کے قدم رکھتے ہی اکتیس ضرب کی سلامی توپخانہ سے سر ہوئی۔ اور فوجِ متعینہ دربار ہال نے بھی فوجی قاعدہ سے اپنے سلاح پیش کر کے سلامی ادا کی۔ اور ہر طرف سے پُرجوش چیرز بلند ہونے اور رومال ہلنے اور سلام کے لئے ہاتھ اُٹھنے شروع ہو گئے جنکے جواب میں ڈیوک صاحب بھی بخندہ پیشانی ہاتھ اُٹھا اُٹھا کر سلام کرتے ہوئے چبوترہ تک پہنچے اور باجے نے خوش آمدید کیا۔ جس کے بعد آپ گاڑی سے اُتر کر تخت کے پاس کی نُقرئی کرسی پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اور ڈچس صاحبہ بھی پچھلی طرف اپنی کرسی پر متمکن ہو گئیں۔ اسکے پندرہ منٹ بعد ہز اکسیلنسی وائسرائے و گورنر جنرل کی سواری نہایت شان و شکوہ کے ساتھ داخلِ دربار ہوئی۔ ایک پوری پلٹن سوارانِ گورہ کی اور ایک پوری پلٹن ہندوستانیوں کی اور باڈی گارڈ۔ اور امپیریل کیڈٹ کور کے دستے آپکے جلو میں موجود تھے۔ آپ زرّین وردی زیب تن فرمائے ہوئے۔ اور اُسی قسم کی ایک مختصر سی ٹوپی سر پر دیئے ہوئے تھے۔ لیڈی کرزن صاحبہ اِس سے بھی شاندار لباس سے ملبوس تھیں۔ گاڑی کے دربار ہال کی سڑک پر پہنچتے ہی تمام سپاہ نے پورے طور پر حسبِ ضابطہ آپکی شاہی سلامی ادا کی۔ جس کے بعد دربار ہال کے دروازہ پر جلوسی فوج اور باڈی گارڈ سب کو باہر چھوڑ کر صرف امپیریل کیڈٹ کور کے ساتھ آپکی گاڑی چبوترے کیطرف بڑھی آپ کے داخل ہوتے ہی سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اور ہر طرف سے چیرز اور سلاموں کی بوچھاڑ ہونے لگ گئی۔ جن سب کا جواب آپ نہایت فرحت و شادمانی سے دیتے ہوئے چبوترے پر پہنچکر تختِ شاہی پر متمکن ہوئے۔ جسپر فی الفور گارڈ آف آنر نے سلامی دی اور باجے نے قومی راگ چھیڑا۔ جس کے ساتھ آپ کے بیٹھتے ہی امپیریل کیڈٹ کور کے

رؤسا و امیر زادے اپنی اپنی نشستوں کیطرف چلے گئے۔ اور اِنکے گھوڑے دربار ہال کے باہر کھڑے ہو گئے۔ وائسرائے صاحب کے تخت پر بیٹھتے ہی اکتیس (۳۱) الواپ کی شاہی سلامی توپخانہ سے سر ہونے لگی۔ اور عَلَمِ وائسرائے فی الفور بلند ہو گیا۔ اِتنے عرصہ میں تمام حاضرین بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ اِس کے بعد مسٹر بارنس صاحب فارن سکرٹری نے پُورے مودبانہ طریق سے آگے بڑھکر حضور وائسرائے سے **افتتاحِ دربار** کی درخواست کی۔ جسپر آپکی طرف سے اشارہ ہوتے ہی باجا بجنے لگا۔ اور اِس کی آواز سُنتے ہی کپتان میکسول صاحب نقیبِ شاہی مع اپنے بارہ ساتھیوں کے اُسی جاوسی وردی اور اُسی ساز و سامان کے ساتھ سیاہ گھوڑوں پر چڑھے ہوئے نقارہ اور بگل بجاتے بجاتے دربار ہال کے دروازہ پر نمودار ہو گئے۔ اور پھر اُسی طرح تخت کے روبرو حاضر ہو کر بگل بجانے لگے۔ جس کے بعد حضور وائسرائے کا حکم پاتے ہی اُنہوں نے مندرجہ ذیل **اعلانِ شاہی** پُورے زور و شور کے ساتھ زبانِ انگریزی میں آوازِ بلند پڑھکر حاضرینِ دربار کو سُنا دیا۔ کپتان میکسول بڑے جہیر الصوت اور قوی الجثہ شخص ہیں۔ اِنکی آواز بالکل بے تکلف نکلتی تھی۔ اور اِس قدر بلند تھی کہ غالباً تمام دربار یوں میں سے کسی کو بھی آواز نہ پہنچنے کی شکایت نہ ہو سکی۔ اعلان سُناتے وقت کپتان صاحب کا منہ دربار ہال کے دروازہ کیطرف تھا۔

اعلانِ شاہی

چونکہ ہماری سابق مُبارک ملکہ و قیصرہ وکٹوریہ مرحومہ کی وفات ۲۳ جنوری سنہ ۱۹۰۱ع کے بعد ہم بفضلِ خدا التخت شاہی ایڈورڈ ہفتم شاہِ برطانیہ و آئرلینڈ محافظِ مذہب اور شہنشاہِ ہندوستان کے خطاب سے

رونق افروز ہوئے۔

اور چونکہ ہمارے اعلانِ شاہی سے جو ۲۶ جون اور ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء کو صادر کیئے گئے ہم نے خُداوندِ کریم کی برکتوں اور توکّل پر اپنا شاہی ارادہ ظاہر کیا کہ ہماری رسوم تاجپوشی ۲۶- جون کو ادا کیجائیں- اور چونکہ قادرِ مُطلق کی عنایات سے ہماری مذکورہ رسوم ۹- اگست ۱۹۰۲ء کو بروزِ ہفتہ ادا ہوئیں- اور چونکہ یہ ہماری مرضی اور خواہش ہے کہ کانونیشن کے اِنعقاد کا واقعہ ہماری رعایا کو جو ہندوستان میں آباد ہے عام طور پر معلوم ہوجائے- اور ہمارے گورنروں- لفٹننٹ گورنروں منتظموں- حُکمرانوں- والیانِ ریاستہائے دلیسی- رئوسا اور عمائد کو (جو ہماری حفاظت میں ہیں) موقعہ دیا جائے- کہ وہ مذکورہ بالا رسم میں شریک ہوسکیں- لہٰذا ہم اِس اعلانِ شاہی کے ذریعہ سے اپنے مُعززِ مُعتمد اور پیارے مشیر جارج نتھنیل لارڈ کرزن آف کڈلسٹن وائیسرائے گورنر جنرل کشورِ ہند کو حُکم اور اجازت دیتے ہیں کہ وہ یکم جنوری ۱۹۰۳ء کو دہلی میں امپیریئل دربار مُنعقد فرماکر ظاہر کردیں کہ رسمِ تاجپوشی مکمّل ہوگئی- اور ہم ہدایت کرتے ہیں کہ دربارِ مذکورہ میں یہ اعلان اُن لوگوں کی اطلاع کے لیئے جِن کا اِس سے تعلق ہے پڑھا جائے۔

ہمارے دربارِ لنڈن میں یکم اکتوبر ۱۹۰۲ء کو لکھا گیا۔

خُدا تعالیٰ شہنشاہِ مُعظّم کو سلامت باکرامت رکھے

اعلان ختم ہونے کے بعد ہیرلڈ نے پھر بگل بجایا- جس کے ساتھ ہی علم شاہی جس کیلیئے دربارِ ہال کے وسط میں جگہ مُقرّر کی گئی تھی- فوراً بلند کردیا گیا- اور باجہ نے نیشنل انیتھم کا

گیت نہایت سُریلی آواز میں گانا شروع کیا۔ اور ایک سو ایک توپ کی شہنشاہی سلامی توپخانہ سے سر ہونے لگی۔ اور انگریزی سپاہ کیطرف سے نعرۂ مسرت بلند کیا گیا۔ اور ساتھ ہی پے در پے ہزار ہا بندوقوں کے چھٹنے کی آواز آنے لگی۔ سلامیِ توپ اور باجہ نوازوں کے نیشنل انیتھم گانے کے بعد نقیب صاحب نے مع اپنی جماعت کے پھر تازہ دم ہو کر بگل اور نقارہ بجانا شروع کیا۔ جس کے بعد حضور وائیسرائے نے تخت سے اُٹھکر دروازۂ دربار ہال کیطرف رُخ کئے ہوئے مندرجۂ ذیل **تقریر** پڑھکر سُنائی۔ اور یہ بھی اسی بلند آواز سے سُنائی گئی۔ جس سے ہیرلڈ نے اعلانِ شاہی سُنایا تھا چنانچہ یہ تقریر جو اُردو میں چھپی ہوئی اس کے پڑھے جانے سے کبقدر عرصہ پہلے حاضرینِ دربار میں تقسیم بھی ہو چکی تھی۔ بعض کو بعض بعض لوگ حضور وائیسرائے کی انگریزی تقریر سے ملاتے جاتے تھے۔ اور اس کی آواز کا ہر ایک تاک پہنچنا صاف طور پر ظاہر ہو جاتا تھا۔ اسی ضمن میں یہ ذکر بھی بیجا نہ ہوگا۔ کہ زبانِ اُردو جو ہمیشہ سے انگریزی دربارِ سُلاں میں شاہی تقریروں کے ترجمہ میں کام آتی رہی ہے باوصف ہندی کے واویلا کے اس موقع پر بھی کامیاب رہی۔ اور واقعی اس کی کامیابی حق بجانب بھی تھی۔ کیونکہ یہی ایک زبان اس وقت ہندوستان میں ایسی موجود ہے۔ جس کو ہندوستان کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس دربار کا مقامِ انعقاد ہی یہی کہہ رہا تھا۔ کہ جس طرح دہلی کو دربار کے لئے تمام ہندوستان پر ترجیح دی گئی ہے۔ ویسے ہی اس کی زبان کو بھی تمام ہندوستان کی زبانوں پر فضیلت حاصل ہے چنانچہ اس تقریر کے اُردو ترجمہ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے۔ کہ اُردو کو بھی گورنمنٹ نے اپنے کارکنوں میں شامل فرما لیا ہے۔ گو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اگرچہ مطالب تو سبھی آ گئے تھے۔ مگر باعتبارِ زبان ترجمۂ مذکور کسی دہلوی یا کم سے کم پنجابی کا کیا ہوا بھی معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال ترجمۂ تقریر یہ ہے:-

تقریرِ حضور وائسرائے بہادر

اَب سے پانچ مہینے پیشتر اعلیٰ حضرت ملک ایڈ ورڈ ہفتم ملکِ معظم انگلستان و قیصرِ ہند کو شاہانِ انگلشیہ کا تاج و عصا عطا کیا گیا تھا۔ سلطنتِ ہند کے صِرف معدودے چند رئیسوں کو اُس تقریب میں شریک ہونے کا فخر حاصل ہُوا۔ آج کے دن حضور ملکِ معظم نے اپنی عنایاتِ خسروانہ سے اپنی تمام رعایائے ہند کو اُسی قسم کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ اور یہاں اور تمام مقاماتِ ہندوستان میں۔ اِس مُبارک جشن کے موقع پر خواہ راجگان و نوابان و رئیسان و سردارانِ ہند جو حضور ممدوح کے تخت کے ستون ہیں۔ خواہ یوروپین اور ہندوستانی حُکام۔ جو حضورِ عالی کی سلطنت کا اِنتظام بحسن و خوبیٔ تمام و جانفشانی مالاکلام بجالاتے ہیں۔ خواہ انگریزی و ہندوستانی افواج۔ جو اِس قدر نمایاں بہادری کے ساتھ حضورِ عالی کی حدودِ مُمالک کی حفاظت و نگہبانی کرتی اور حضورِ ممدوح کیطرف سے میدانِ جنگ میں جان فدا کرتی ہیں۔ خواہ ہندوستان کی تمام اقوام کے وفادار باشندوں کی ایک جماعت بے شمار۔ جو۔ باوجود ہزار ہا قسم کے اختلافاتِ حالات و خیالات و عادات کے۔ بطیبِ خاطر سلطنتِ عظمیٰ کی اطاعت میں مُتحد و مُتفق ہیں۔ سب کے سب بیک جا مجتمع ہیں۔ اپنی تاجپوشی کی تقریب کو اِس طور پر ہندوستان میں انجام دینے کی غرضِ خاص سے حضور ملکِ معظم نے مجھے

بحیثیت نائب السلطنت ہونے کے۔ اِس دربارِ عالیشان کے انعقاد کا حکم دیا ہے۔ اور خاصکر کے اِس جشن کی عظمت و وقعت کے اظہار کی غرض سے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے برادرِ حقیقی شاہزادہ والاتبار عالیجناب ڈیوک آف کاناٹ کو اِس تقریب میں شریک ہونے کا ارشاد فرماکر ہم لوگوں کی عزّت افزائی فرمائی ہے ؛

اَب سے پچیس برس پیشتر اِسی مہینے کے اِسی دِن میں اِسی قدیم شہر میں۔ جو یادگارِ شاہانِ نامآور و کارہائے قابل الذکر کا ہے اور عین اِسی مقام پر حضور ملکۂ معظّمہ وکٹوریا اول قیصرۂ ہند کے خطاب کے ساتھ مشتہر کی گئی تھیں ؛ یہ کام حضور ممدوحہ کی اُنکی ہندوستانی رعایا کے ساتھ بے انتہا ہمدردی کی دلیل میں۔ اور اُنکے ممالکِ متصرفہ ہند کے دولتِ برطانیہ کے زیر اطاعت و انقیاد متفق ہونے کے ثبوت میں کیا گیا تھا ؛ اُس سے ربع صدی (یعنی پچیس برس) بعد آج کے روز۔ اُس سلطنت وسیع کے اتحاد میں کچھ کمی نہیں بلکہ زیادتی ہو گئی ہے ؛ وہ بادشاہ جس کی اطاعت کے اظہار کیواسطے ہم لوگ مجتمع ہوئے ہیں۔ اپنی رعایائے ہند کے درمیان کچھ کم ہردلعزیز نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے اُس کی شکل اپنی آنکھوں دیکھی اور اُس کی آواز اپنے کانوں سُنی ہے ؛ وہ اپنی نوبت پر ایک ایسے تخت کا مالک ہے۔ جو دُنیا میں نہ صِرف سب سے زیادہ نامی و گرامی ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ محکم و پایدار بھی ہے۔ اور وہ نکتہ چین جنہیں اِس بات کی تصدیق سے اِنکار ہو۔ کہ سلطنتِ ہند کا قبضہ اور

حضورِ ملکِ معظّم کی رعایائے ہند کا وفادارانہ تعلّق اور خدمت اُس تخت کے اِستحکام کے لئے ادنیٰ بُنیادوں میں سے نہیں ہے غلط خبریں سُنے ہوئے ہونگے۔ بلکہ میری دانست میں یہ باتیں اُس کے اِستحکام کی شروطِ لازمی میں سے ہیں ✤ جس طرح ہندوستان اپنے ذاتی اور موروثی فخر سے معمور ہے۔ اُسی طرح اُس وفاداری و نمکحلالی کی روشنی سے مُنوّر ہے جس کی از سرِ نو جانبِ عرب سے افزائش کی گئی ہے ✤ اپنے اولوالعزم طالبوں کی بڑی جماعت میں سے جو قرناً بعد قرنٍ اِس کی طلب و تلاش میں آتے گئے۔ اِس نے صِرف اُسی سے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ جس نے اُس کے نزدیک اپنا اعتبار بھی پیدا کیا ✤

دُنیا کے کسی دوسرے حِصّے میں مُمکن نہیں ہے کہ ایک ایسا منظر جس کا ہم آج یہاں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں آئے ✤ مَیں اِس بڑے اور باوقعت مجمع کا ذکر نہیں کرتا۔ ہر چند کہ اُس کے لاثانی ہونے کا مُجھے یقین ہے ✤ مَیں اُس حقیقت کی طرف۔ جس کا یہ مجمع گویا مجاز ہے۔ اور لوگوں کی طرف۔ جن کی کیفیاتِ قلبی کا یہ مجمع اظہار کرتا ہے۔ اشارہ کرتا ہوں ✤ مُختلف ریاستوں کے سَو سے زیادہ والی۔ جن کی مجموعہ آبادی چھ کروڑ آدمیوں کی ہے اور جنکے ممالک ۵۵ درجۂ طول تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اپنے مُشترک حُکمران کی اطاعت کا اظہار کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں ✤ ہم اُنکے اِس جوشِ وفاداری کی نہایت قدر کرتے ہیں۔ جو اُنہیں اِس اِس قدر فاصلوں سے دہلی تک کھینچ لایا ہے۔

اور جس کے لئے اکثر کو بہت کچھ تکلیف اور اخراجات بھی برداشت کرنا پڑا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر میں مجھے اُنکی خاص خ بالوں سے حضور ملکِ معظّم تک اُن کی طرف سے مُبارکباد پہنچانے کا پیغام سُننے کی عزّت حاصل ہوگی:۔ وہ عُہدہ دار اور سپاہی۔ جو یہاں موجود ہیں۔ ہندوستان کے قریب قریب ۲۳۰۰۰۰ جوانوں میں سے مُنتخب کرکے بُلائے گئے ہیں۔ اور اُنہیں خاصکر اس بات پر فخر ہے کہ وہ حضور ملکِ معظّم کی سپاہ ہیں + سربرآوردگان جماعتہائے ہند۔ عُہدہ دار اور غیر عُہدہ دار۔ جو یہاں موجود ہیں۔ ۳۲ کروڑ سے زیادہ آدمیوں کی جماعت کی وکالت کرنے والے ہیں + اِس لئے حقیقت میں اِس بات کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔ کہ اِس تماشاگاہ میں روحانی طور پر۔ بلکہ حُکمرانوں اور نائبوں کے اعتبار سے جسمانی طور پر بھی۔ تمام اِنسانی آبادی کا قریب قریب ایک خُمس یہاں موجود ہے + سب کے سب میں ایک ہی جوشِ دل کی روح پھُونکی گئی ہے۔ اور سب کے سب ایک ہی تخت کے آگے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں + اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک ہی دلی جوش نے اِن کثیر التعداد اور منتشر جماعتوں کو ایک جگہ کھینچ بُلایا اور اُنہیں مُتحد کردیا ہے۔ تو جواب اُس کا یہ ہے کہ۔ بادشاہ کے ساتھ وفاداری۔ اور اُس کے عدل اور کریمانہ حکومت پر اعتماد۔ دونوں مترادف الفاظ ہیں + یہ نہ صرف دِلی جوش کا اِظہار ہے۔ بلکہ ایک تجربہ کی گویا لوحِ منقّش اور ایک اعتقاد کا اقرار ہے + اِس لئے کہ اِن کروڑوں آدمیوں میں سے

اکثر کو حضور ملکِ معظم کی گورنمنٹ نے باہر کے حملہ اور اندر کی بدعملی سے آزادی بخشی ہے۔ بعضوں کو اُنکے حقوق و اختیارات کی حفاظت کی کفالت عطا کی ہے۔ بعضوں کے لئے باعزت مشغولیوں کی راہیں فراخ وکشادہ کردی ہیں۔ عامۂ خلائق کے حال پر مصیبت کے وقت نظرِ ترحم مبذول کرتی ہے۔ اور سب کے ساتھ عادلانہ انصاف برتنے۔ اُنہیں ظلم وستم سے نجات دینے۔ اور تربیت و تعلیم اور امن و امان کے فیوضات عطا کرنے کے لئے کوشش کرتی ہے۔ ایک ایسے مُلک پر فتح حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ عادلانہ اور مُنصفانہ برتاؤ سے اُس مُلک پر قبضہ قایم رکھنا اُس سے بھی بڑھکر کامیابی ہے۔ عاقلانہ تدابیرِ مُلکی سے اُس کے اجزائے مُنتشرہ کو ایک مجموعۂ مُستحکم بناکر برقرار رکھنا سب سے بڑی دلیلِ فیروزی ہوگی۔ بلکہ ہے ۞

اِس تاجپوشی کے دربار کے اِنعقاد کے یہی اغراض و مقاصد ہیں۔ اَب میرا یہ فرض ہے کہ حضور ملکِ معظم کے اُس شفقت آمیز فرمان کو جو حضور ممدوح نے اپنی رعایا ہند کو پہنچانے کی فرمایش کی ہے آپ لوگوں کے سامنے پڑھکر سُناؤں ۞

حضور ملکِ معظم و قیصرِ ہند کا پیغام

مُبارک فرجام

مجھے نہایت خوشی ہے کہ اِس پُرشوکت موقع پر جبکہ میری ہندوستانی رعایا میری تاجپوشی کی خوشیاں

کر رہی ہے۔ میں اُنہیں خوشنودی و مبارکبادی کا پیغام بھیجتا ہوں * اُس تقریب میں۔ جو لنڈن میں انجام پائی۔ صرف معدودے چند والیانِ ریاست و وُکلائے ہند شریک ہو سکے۔ اِس لئے میں نے اپنے نائب السلطنت و گورنر جنرل بہادر کو ہدایت کی کہ وہ دہلی میں ایک بڑا دربار منعقد کریں۔ تاکہ تمام والیان ریاست و باشندگانِ ہند اور سرکاری حُکّام اِس مبارک موقع پر خوشیاں منا سکیں * جب میں ۱۸۷۵ء میں ہندوستان کی سیر کو گیا تھا۔ تب سے اُس مُلک اور اُس کے باشندوں کی محبت میرے دِلنشین ہو گئی ہے۔ اور میرے خاندان اور تخت کی اُن میں جو دلی اور وفادارانہ ہوا خواہی ہے اُس سے میں پوری طرح باخبر ہوں * گزشتہ چند برسوں میں اُنکی محبت و وفاداری کی بہت سی دلیلیں ظہور میں آ چکی ہیں۔ اور میری سلطنت وسیع کے محاربات و فتوحات میں میری ہندوستانی افواج نے نمایاں خدمتیں کی ہیں *

مجھے اُمید قوی ہے کہ میرے فرزندِ دلبند پرنس آف ویلز بہمراہی پرنسس آف ویلز صاحبہ عنقریب اِس مُلکِ ہندوستان سے شخصی طور پر واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ جس کی نسبت ہمیشہ سے میری خواہش رہی ہے کہ وہ اِسے دیکھتے۔ اور وہ خود بھی

اِس کی سیر کے اُسی درجہ مُشتاق ہیں ✦ اگر ممکن ہوتا تو مَیں
اس مُہتم بالشّان موقع پر بجوشی خود بہ نفسِ نفیس ہندوستان
آتا ✦ بہرکیف مَیں نے اپنے برادرِ عزیز ڈیوک آف کناٹ
بہادر کو۔ جو ہندوستان میں بہت کچھ شہرت حاصل کر چکے
ہیں بھیجا ہے۔ تاکہ اُس جشن میں۔ جو میری تاجپوشی کی
خوشیاں منانے کے لئے انجام دیا جائے۔ میرے خاندان
کی طرف سے کوئی شخص موجود رہے ✦

جب سے مَیں اپنی والدۂ مکرمہ عالیجناب ملکۂ معظمہ
وکٹوریا مرحومہ اوّل قیصرۂ ہند کے تخت کا مالک ہوا
ہوں۔ میری یہی خواہش رہی ہے کہ رحیمانہ اور منصفانہ
اِنتظامِ سلطنت کے وہ اصول۔ جنہوں نے ایک تعجب خیز
طور پر رعایائے ہند کے دلوں میں جنابِ ممدوحہ کی عظمت
و محبت پیدا کر دی تھی۔ بے کم و کاست برقرار رہیں ✦۔
تمام باشندگانِ ہند کو۔ خواہ وہ رئیسِ معاون یا رعیتِ مطیع
ہیں۔ مَیں پھر از سرِ نو یقین دلاتا ہوں کہ مَیں اُنکی آزادیوں کا
خیال رکھوں گا۔ اُن کے مدارج اور حقوق کا لحاظ کروں گا۔
اُن کی ترقی مدِّ نظر رکھوں گا۔ اور اُنکے فلاح و بہبودی
میں کوشاں رہوں گا۔ اور میری حکومت کے یہی اعلےٰ اغراض
و مقاصد ہیں۔ اور یہی مقاصد۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ میری
ہندوستان کی سلطنت وسیع کی روز افزوں مرفۃ الحالی اور
اُس کے باشندوں کی مزید شادمانی و کامرانی کا باعث ہونگے ✦

حضرات والیانِ ریاست و باشندگانِ ہند! یہ اُس شاہنشاہِ عالیجاہ کے الفاظ ہیں جس کی تاجپوشی کی خوشیاں منانے کے لئے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ÷ یہ اُن افسروں کے دلوں میں۔ جو اُسکی خدمت بجالاتے ہیں۔ تحریک پیدا کرتے اور اُنکے لئے آوازِ غیب کا کام دیتے ہیں۔ اور عامۂ رعایا کے روبرو اولوالعزمی اور شفقتِ خسروانہ کی مثال پیش کرتے ہیں ÷ ہم میں سے اُن لوگوں کے دلوں میں۔ جو میری اور میرے ہم منصبوں کی طرح حضور ملکِ معظم کی سلطنت کے مدارِ سیاست ہیں۔ ایسی نیت پیدا کرتے ہیں۔ جس کو ہماری حرکات و سکنات کا راہنما اور ہماری سیاستِ ملکی کا دستور العمل ہونا چاہیئے ایسا زمانہ کبھی نہیں گذرا کہ ہمیں اس بات کی زیادہ خواہش ہوئی ہو کہ فیاضی اور نرم دلی کو اُس سیاستِ ملکی کے اوصافِ ضروریہ میں سے ہونا چاہیئے ÷ جنہوں نے زیادہ تکلیفیں سہی ہیں وُہی عنایات و کرم کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ جنہوں نے پوری طرح سے خدمت گذاری کی ہے وُہی انعام و صلہ کے بھی پوری طرح سے سزاوار ہیں ÷ اِس سلطنتِ وسیع کی پچھلی لڑائیوں میں والیانِ ریاستہائے ہند نے اپنی سپاہ اور اپنی تلواریں ہماری تائید و تقویت کے لئے پیش کی ہیں اور دوسری مشکلوں میں بھی مثلاً جو خشک سالی و قحط کے مقابلہ میں اُٹھانی پڑیں۔ اُنہوں نے اپنی کارروائیوں میں اُسی قسم کی شجاعت و عالی ہمتی کو ملحوظِ خاطر رکھا ہے ÷ جو آرام اور سہولتیں اُنہیں اِس وقت حاصل ہیں اُن میں اضافہ کرنا مشکل ہے۔ اور اُس سلامتی میں۔ جس کے استحکام میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔

زیادتی کرنی ایک غیر ممکن امر ہے ✤ با اینہمہ۔ ہم اِس بات کے
بیان کرنے سے خوش ہیں کہ گذشتہ قحط کے متعلق گورنمنٹ ہند نے
جو قرضے دیسی ریاستوں کو دیئے ہیں یا اُنکی ذمہ داری کی ہے۔
سرکارِ دولتمدار تین برس کی میعاد تک اُنکا سود لینے سے باز رہیگی
اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ وہ ریاستیں۔ جن پر یہ عنایت کیجاتی ہے
اُس سے بخوشئ تمام استفادہ کرینگے ✤ اِس بڑے ملک میں اَور
بھی زیادہ کثیر التعداد جماعتیں ہیں۔ جن کے حق میں امداد کو
وسعت دینے سے ہمیں خوشی حاصل ہوگی۔ اور ہمیں اُمید ہے
کہ عنقریب ہم اُنکی عافیت اور بہبودی میں کچھ اضافہ کا اعلان
کرسکیں گے ✤ سالِ حسابی کے درمیان ارادوں کا اظہار قرینِ
مصلحت۔ اور حسابوں کے نقشوں کا تیار کرنا آسان نہیں ہوتا ✤
بہرکیف۔ اگر موجودہ صورتِ حال قائم رہی۔ اور اگر ہمیں ہندوستان
کی مالی حالت کی ترقی کا زمانہ ہاتھ آیا۔ جس کے ہاتھ آنے کی ہمیں
بہمہ وجوہ اُمید ہے۔ تو مَیں اُمید قوی رکھتا ہوں کہ حضور ملکِ
معظّم کے عہدِ حکومت کے سالہائے اوّلین گذرنے نہ پائیں گے
کہ گورنمنٹ ہند کچھ مالی امداد کے ذریعہ سے اُنکے ساتھ اپنی ہمدردی
اور توجّہ کا اظہار کرسکیگی ✤ اُنکا وفادارانہ صبر سالہائے تکلیف
و عُسرت میں اِس قدر نمایاں ہوا ہے۔ کہ مَیں نہایت ہی خوشی
کے ساتھ اُس امداد کو پیشِ نظر رکھتا ہوں ✤ اَب مَیں عنایت
اور مہربانی کی اُن دوسری کارروائیوں کا ذکر کرنا۔ جنہیں ہم نے
موجودہ تقریب کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ضروری نہیں سمجھتا۔

اِس لئے کہ وہ باتیں اَور جگہ مندرج ہیں * لیکن مجھے عُہدہ دارانِ فوج کے حق میں اِس امر کے اعلان کا اختیار مفوّض ہوا ہے۔ کہ آئیندہ سے "انڈین اسٹاف کور" کا لقب منسوخ ہوجائیگا اور کہ وہ حضور ملکِ مُعظّم کی افواجِ مُتحدۂ ہند کے ایک ہی طبقہ میں شمار کئے جائینگے *

حضرات والیانِ ریاست و باشندگان ہند! اگر ہم ایک لحظہ کے لئے زمانۂ مُستقبل کی طرف نظر اُٹھا کر دیکھیں۔ تو بلاشُبہ اِس مُلک کے واسطے ایک بہت بڑی ترقّی کے آثار ظاہر ہوں گے * ہندوستان کے مُتعلق کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ خواہ وہ آبادی۔ تعلیم۔ اسباب روزگار۔ یا معیشت کے خصوص میں ہو۔ جس کا حل تدبیرِ مُلکی کی طاقت سے باہر ہو * اُن میں سے بہتیروں کا حل اِن دِنوں ہماری نگاہوں کے سامنے کیا جارہا ہے اگر برطانیہ عظمیٰ اور ہندوستان۔ دونوں کی مجموعی قُوّت سے ہماری سرحدوں پر امن و امان برقرار رہے۔ اگر اُنکے درمیان۔ رئیسوں اور رعایا کے درمیان۔ فرنگیوں اور ہندوستانیوں کے درمیان۔ اور حاکم و محکوم کے درمیان رشتۂ یگانگی و اتحاد مضبوط و محکم رہے۔ اور اگر فصل و موسم بھی اپنی فیاضیوں میں کوتاہی نہ کریں۔ تو ترقّی کی تیز رفتار کو کوئی چیز نہیں روک سکتی * اگر خُداوند تعالیٰ نے چاہا ہے تو ہندوستان آئیندہ زمانہ میں وہ ہندوستان نہوگا۔ جس کی زرخیزی روبہ تنزّل ہو۔ جس کی آئیندہ اُمیدیں مفقود ہوں۔ یا جس میں بجا شکایت یا ناراضی کی

ہو پائی جائے۔ بلکہ یہ وہ ہندوستان ہو گا۔ جس میں جدوجہد کو وسعت ہو گی۔ قابلیتیں عالمِ خواب سے بیداری کی حالت میں ہوں گی۔ بہبودی و مُرفہ الحالی روبہ ترقی ہو گی۔ اور آسایش و دولت زیادہ تر پھیل جائے گی + مجھے اپنے مُلک کی ایمانداری اور خلوصِ نیت پر اعتمادِ کُلی ہے۔ اور اِس مُلکِ ہند کی نامحدود قابلیتوں پر بھروسا رکھتا ہوں + لیکن اُن آئندہ صورتوں کے ظہور میں آنے کے واسطے ایک شرط لازم ہے۔ یعنی کہ دولتِ عظمیٰ کے اختیار و تسلُّط میں کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ اور یہ صورتِ حال سوائے دولتِ فخیمۂ برطانیہ کے اَور کسی کی سرداری میں پائیدار و برقرار نہیں رہ سکتی +

اب مَیں اِن بیانات کو ختم کرنا چاہتا ہوں + میری دلی خواہش ہے کہ باشندگانِ ہند اِس بڑے اِجتماع کو مُدّتوں یاد رکھیں گے۔ کہ اِس کے ذریعہ ایک نہایت پُرشوکت موقع پر اُنہیں اپنے شاہنشاہِ عالی جاہ کے خصائلِ ذاتی کو دریافت کرنے اور اُنکے نیک خیالات کے سُننے کی عزّت حاصل ہوئی + مَیں اُمید کرتا ہوں کہ اِس کی یاد خوشی اور مسرّت کا باعث ہو گی۔ اور مَلک معظّم ایڈورڈ ہفتم کا عہدِ حکومت۔ جو ایسے سعید و مُبارک طور پر شروع ہوا ہے۔ ہندوستان کے صفحاتِ تاریخ اور اُس کے باشندوں کے صفحاتِ دِل پر تاابد باقی اور مُنقّش رہیگا +

ہم دُعا کرتے ہیں کہ اُس قادرِ مُطلق مالکِ ارض و سما کے فضل و کرم سے شاہنشاہِ ممدوح کی سلطنت اور حکومت سالہا سال

قائم رہے۔ آپ کی رعایا کو روز افزوں بہبودی اور ترقیِ خیالات ہو۔ آپ کے عہدہ داروں کے نظم و نسق ملکی پر عقلمندی اور نیکی کی مُہر ثبت رہے۔ اور آپ کی سلطنت کی سلامتی اور برکتیں تا ابد قائم رہیں ٭٭ حضورِ ملکِ معظم قیصرِ ہند کی عمر دراز ہو

خاتمۂ تقریر پر کپتان میکسول صاحب نقیب شاہی نے چبوترے کے سامنے آکر پھر بگل بجائے۔ اور سر سے ٹوپی اُتار کر تین دفعہ نعرہ ہائے مسرت بلند کئے۔ جسمیں تمام اہلِ دربار بھی انکے ساتھ شریک تھے۔ اور جن کے جواب میں بیرونی سپاہ نے بھی ویسے ہی پُر جوش اور پُر خلوص نعروں کا تین دفعہ اعادہ کیا۔ جسپر باجے نے پھر فوجی راگ چھیڑا۔ اور نقیب صاحب اپنا ایکٹ تمام کر کے مع اپنی جماعت کے رُخصت ہو گئے۔ جنکے بعد گورنمنٹ ہند کے فارن سکرٹری صاحب نے تمام والیانِ ریاست کو وائسرائے صاحب کے حضور میں پیش کرنیکی اجازت چاہی۔ جسپر حضور ہر دو ممدوحین چبوترے کے کنارہ پر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر درجہ بدرجہ سب والیانِ ملک پیش ہو ہو کر اپنی طرف سے شہنشاہِ معظم کیخدمتمیں عرض کرنے کے لئے اِس تقریبِ سعید پر اظہارِ مُبارکباد کے الفاظ کہنے شروع کئے جنمیں سب سے پہلے حضور نظام خلد اللہ ملکہٗ نے مع شہزادہ ولیعہد صاحب اور مہاراجہ کشن پرشاد صاحب مدارالمہام دکن کے اپنی جگہ سے اُٹھکر اور چبوترے میں جاکر حضور وائسرائے اور ڈیوک صاحب سے معانقہ کرنے کے بعد ان فقرات سے اظہارِ مُبارکباد کیا۔

"اِس قابلِ وقعت تقریبِ سعید کی شمولیت سے جس قدر بیحد و غایت خوشی مجھے حاصل ہوئی ہے۔ غالباً خود بدولت اِس سے ناواقف نہ ہوں گے۔ کیونکہ گورنمنٹِ انگلشیہ کے ساتھ مَیں نے جس عملی طور پر آج تک اپنی وفاداری اور جان نثاری کا ثبوت دیا ہے اور جس طرح سرکاری خدمات کی بجا آوری کو ہمارے خاندان نے اپنا

باعثِ اعزاز سمجھا ہے۔ وہ آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اور اب بھی اُسی خلوص وارادت کے اقتضا سے میری خواہش ہے۔ کہ براہِ مہربانی آپ شہنشاہِ عالیجاہ کی خدمتِ عالی میں میری طرف سے عرضِ مبارکباد کے ساتھ یہ بھی یقین دلائینگے کہ مَیں اور میری اولاد ہمیشہ بدستور شہنشاہِ عالیجاہ کی وفاداری میں ثابت قدم رہیگی۔"

ایسا ہی ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بڑودہ اور ہز ہائینس مہاراجہ صاحب میسور نے بھی آکر مختصر فقرات میں شہنشاہ کے حضور میں مبارکباد پہنچانے کی خواہش کی۔ جن کے بعد بائیں جانب سے سب سے پہلے ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والئ کشمیر نے مع اپنے برادر اصغر جنرل سر راجہ امر سنگھ صاحب کے۔ سی۔ ایس آئی۔ سی بی۔ اور میاں ہرتی سنگھ صاحب ولیعہد کے اُٹھکر حسب معمول وائسرائے صاحب اور ڈیوک صاحب سے ہاتھ ملانے کے بعد ایسے ہی کلماتِ مبارکباد بیان فرمائے۔ اور پھر درجہ وار سب صاحبان پیش ہو ہو کر اسی طرح سے مبارکباد کہتے رہے البتہ ہر ہائینس بیگم صاحبہ بھوپال نے ایک ایڈریس طلائی کاسکٹ میں رکھ کر نہایت ادب و عزت کے ساتھ وائسرائے کے حضور میں پیش فرمایا۔ چونکہ بیگم صاحبہ عورت ذات تھیں۔ اِس لئے ہر دو صاحبان نے بجائے مصافحہ کے فوجی طریق پر انکے سلام کا جواب دیا۔ اور دونوں صاحبوں کی بیگمات نے انکے ساتھ نہایت خوشی سے مصافحہ کرکے مزاج پرسی فرمائی۔ بعد ازاں اَور اَور صاحبان پیش ہوتے رہے اور سب سے پیچھے بڑے بڑے سرحدی رئیس سلام کو آئے۔ جنمیں خان دیر اور مہتر چترال گویا سب کے پیشرو تھے۔ یہ پارٹ جسقدر حاضرین کو مرغوب و مطبوع تھا۔ یقیناً اُس سے زیادہ حضور وائسرائے اور ڈیوک صاحب کو خوش آیند معلوم ہوا ہوگا۔ کیونکہ یہی وہ رسم تھی۔ جس سے عملی طور پر ملکِ معظم کے شہنشاہِ ہند اور وائسرائے صاحب کے انکے نائب مناب ہونے کا نہ صرف اعلان ہی ہو جاتا تھا۔ بلکہ بدیہی طور پر ہی

ثبوت ملجاتا تھا۔ بہرحال اس مبارک رسم کی ادائیگی میں کامل ایک گھنٹہ صرف ہُوا۔
تو اس سے فراغت پانے کے بعد فارن سکرٹری صاحب نے برخاستگیٔ دربار کی بابت
التماس کیا۔ جو فی الفور مقرون با جابت ہوا۔ اور سب سے پہلے حضور وائیسرائے اپنی
گاڑی میں بیٹھ کر بدستور دیسی اور گورہ فوج اور باڈی گارڈ اور انڈین کیڈٹ کور
کو اپنے جلوس میں لئے ہوئے فرودگاہ کو تشریف لے گئے۔ جن کے بعد فوراً ہی
ڈیوک آوف کیناٹ بہادر مع بیگم صاحبہ کے اُسی تُزک واحتشام اور مُقررہ اردل
کے ساتھ اپنے کیمپ کو روانہ ہوئے۔ علیٰ ہذا گرینڈ ڈیوک آف ہیسی۔ ہز اکسیلنسی
کمینڈر انچیف۔ گورنر صاحبان بمبئی و مدراس۔ و لفٹننٹ گورنران پنجاب۔ بنگال۔
برہما و صوبجات اور تمام والیانِ ریاست اپنی اپنی گاڑیوں میں دربار ہال میں
ہی سے سوار ہوکر اپنی اپنی اقامتگاہوں کو تشریف لے گئے۔ چلتے وقت تقدیم
وتاخیر کی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ جس کسی صاحب کی گاڑی پہنچ جاتی تھی۔ وُہی سوار ہوجاتے
تھے۔ اور جو جو افسران انہیں گاڑی تک پہنچانے کے لئے مُقرّر ہو چکے تھے۔ وہ انکو
بعزت تمام سوار کرادیتے تھے۔ غرضکہ اِس طرح چار بجے تک سب صاحبانِ ریاست
اور حکام بالادست دربار ہال سے رُخصت ہوگئے۔ حضور وائیسرائے اور ڈیوک
صاحبان کی تشریف بری کے بعد عوام کو بھی دربار ہال میں جانے کی افسرانِ متعینہ
نے اجازت دیدی تھی۔ گو اُنکی فراخ دلی کی دلیل تھی۔ لیکن اس میں شک نہیں
کہ والیانِ ریاست کی موجودگی میں عوام کا جا گھسنا کسی قدر اُن لوگوں کی شان اور
مرتبے کے موافق نہ تھا۔ بہرحال نہائت کامیابی اور نہائت شانداری کے ساتھ
بغیر کسی قسم کی شکائت پیدا ہونے کے یہ عالیشان ایکٹ تمام ہوا۔ اور تمام
شاملین و حاضرین ایک عجیب اثر اپنے دلوں میں لیکر واپس ہوئے۔

فصل چہارم

سرکاری دعوت

(بتاریخ یکم جنوری ۱۹۰۳ء)

دربارِ تاجپوشی کے عظیم الشان کام کے سرانجام کے بعد اُسی تاریخ بوقتِ شب ہز ایکسلنسی وائسرائے و گورنر جنرل کشورِ ہند کی فرودگاہ میں ڈیوک و ڈچس آف کیناٹ و گرینڈ ڈیوک ہیسی اور تمام مُعزز یوروپین مہمانوں اور جلیل القدر افسرانِ گورمنٹ کو ایک دعوت دی گئی۔ جس میں سفرائے دولِ خارجہ ہز ایکسلنسی کمینڈر انچیف گورنران و لفٹنٹ گورنران و چیف کمشنرانِ ہند وغیرہ وغیرہ سب موجود تھے۔ جنکی دعوت کا جُملہ اہتمام نہائیت فراخ دلی سے مہیا کیا گیا تھا۔ یہ کہنا کہ جتنے صاحبان شریک تھے سبھی اپنے قومی شہنشاہ کی اِس لاثانی رسم کے بخیر و خوبی انجام پذیر ہونے پر تہِ دل سے خوش و خُرّم ہو رہے تھے۔ ایک معمولی بات ہے۔ کیونکہ جس تقریبِ سعید کی غیر مذہب رعایا کو صرف بحیثیت رعایا ہونے کے خوشی تھی۔ تو اِس پر تُنزکلئے گورمنٹ کی مسرّت مُحتاجِ تشریح نہیں ہو جاتی۔ بہرحال اِس دعوت میں حضور وائسرائے نے شہنشاہِ مُعظّم کا جامِ تندرستی تجویز کرتے ہوئے جو تقریر فرمائی تھی وہ یہ ہے۔ جس کے فقرہ فقرہ سے اُس مسرّت و شادکامی کا خود بخود اظہار ہو رہا ہے۔ جو گورمنٹ کو اِس کامیابی پر ہوئی تھی۔

لارڈ کرزن بہادر کی طلیق اللسانی کسی معرفی کی حاجت نہیں رکھتی۔ کیونکہ وہ ایک معمولی معاملہ پر بھی بولنے پر آجائیں تو نہ صرف بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ بہت اچھا کہدیتے ہیں۔ اور یہ تقریر تو تھی ہی ایک معرکہ کی چیز انہیں و رنگا ہی مناسب تھا۔ بہرحال وہ تقریر یہ ہے۔

تقریر حضور وائسرائے بہادر

یور رائل ہائینسز یور ایکسیلنسز مائی لارڈ اور جنٹلمین ہز میجسٹی شاہ و شہنشاہ ہند کا جام تندرستی تجویز کرنے کے لئے میں اُٹھتا ہوں۔ جن کی تاجپوشی کی ایک عظیم الشان رسم آج سہ پہر کو ہم نے پُوری کامیابی (نعرۂ خوشی) کے ساتھ ادا کی ہے۔ اور جس کی کیفیت ایسی تھی کہ ہر ایک شخص کو اُسے دیکھکر ضرور پُر جوش ولولہ پیدا ہو گیا ہوگا۔ (نعرۂ خوشی) اور اُس سے ہر یوروپین یا ہندوستانی باشندۂ مُلکِ ہذا کو بخوبی تمام معلوم ہو گیا ہو گا۔ کہ وہ کس کے عہدِ حکومت میں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا ہو گا۔ کہ بہت ہی مُستعدی و قُوّت کے ساتھ دور دراز فاصلہ سے اس بہت بڑی پولیٹیکل کُل کی خاص نگرانی کیجاتی ہے۔ جو یہاں قائم ہے نیز میں اُمید کرتا ہوں کہ ہمارے نامور مہمانوں کے بھی یہ امر نقشِ دل ہو گیا ہو گا کہ ہندوستان کوئی بے حس مقام نہیں ہے جس کا بار اُس کی وابستگی کے سبب سے برٹش سلطنت پر پڑتا ہو گا۔ بلکہ قدیم یادگاروں کے سبب سے نہایت قابلِ اطمینان ہے اور اُس کو اپنی قُوّت و طاقت پر اعتمادِ کُلّی ہے۔ اور آئیندہ کے کاموں کے لئے بھی اُس کی بہت بڑی قوُت ظاہر ہے۔ (زور سے نعرۂ خوشی) سلطنت متحدہ و آنروئے سمندر کے برٹش مقبوضات کی بادشاہی گو بہت بڑی زبردست ہے اور اُسکی حکمرانی اعلیٰ درجہ کا خطاب ہے۔ مگر شہنشاہئ ہند بھی اُس سے کچھ کم نہیں ہے بلکہ بعض بعض حالات میں اُس سے بھی زیادہ ہے (نعرۂ خوشی) کیونکہ یہاں کی زبردست سلطنتیں اُس زمانہ میں بھی نہایت سرسبز تھیں جبکہ انگلشمین صحرا بصحرا پھر کر اور اپنے جسم کو طرح طرح کے رنگوں سے رنگ کر زندگی بسر کرتے تھے۔ اور برٹش کالونیاں محض ویران مقامات اور جنگل سے زیادہ نہ تھیں۔ ہندوستان نے

تاریخ حال و مذہب میں ایسا گہرانشان چھوڑا ہے جیسا کہ کسی سلطنت میں نہیں ہوا (نعرۂ خوشی) اور یہ امر کہ اسمیں برٹش شہنشاہ نے وہ کارروائیاں کی ہیں جو اُسکے کسی پیش رو نے انجام نہیں دیں۔ سکندر ذوالقرنین کو کبھی یہ خیال بھی نہ ہوا اور نہ اکبر نے کبھی اس کو انجام دیا ہے یعنی امن وامان کو قایم رکھنا۔ اور اس قدر عظیم الشان گروہ دفرقہ ہائے عوام کو یکدل کرنا یہ ایسا امر ہے کہ میری رائے میں تاریخ میں ممتاز طور پر منقش ہونیوالی عجیب وغریب اس دُنیا میں اس سے حیرت انگیز شے کیا ہوگی؟ (نعرۂ خوشی)۔

یوئر رائل ہائینسز اور یوئر ایکسیلنسیز و جنٹلمین اینڈ لیڈیز اس امر کے بیان کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کی طبیعت میں اس امر کا بڑا افسوس ہے کہ ہز مجسٹی اس موقع پر رونق افروز نہ تھے تاکہ رؤساء اور اہلِ ہندوستان کا فرمانبرداری کا آداب بہ نفسِ نفیس قبول فرماتے۔ (نعرۂ خوشی) مگر فی الحقیقت اس امر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ شہنشاہِ ہند یہیں آکر تاجپوش ہو۔ ظاہر ہے کہ دو برس ہوئے جب تخت خالی ہوا تھا اور اُسی زمانہ میں ہز مجسٹی ہمارے مسلّمہ شاہ وشہنشاہ ہو گئے تھے۔ مگر ہندوستان نہایت اُنس ومحبت کے ساتھ اُنکے روئے مبارک کی زیارت اور اُنکی آواز کی سماعت کرنا چاہتا تھا۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ جسقدر زمانہ گذرتا جائیگا اور سائینس کے سحر سے فاصلہ میں کمی ہو جائیگی تو کسی نہ کسی زمانہ میں آئندہ وائسرائے ایسے موقع پر آسیب اور مدِ فضول کیطرح خارج کر دیا جائے۔ اور اصلی شخص یہاں موجود ہو جائے (نعرۂ خوشی) خیر یہ تو جب ہوگا تب ہوگا۔ اس وقت ہم سب ایک فرمانروا کے اظہارِ اعزاز کے لئے یہاں موجود ہیں جو گو بظاہر نظروں سے غائب ہے مگر ہمارے دل میں متمکن ہے اور جس کے شاہانہ پیام پڑھنے کا

آج سہ پہر کو مجھے افتخار حاصل ہؤا ہے۔ کہ وہ اس فرمانبرداری پر کس قدر نازاں اور اہلِ ہندوستان کے مفید امور میں کس درجہ مصروف و منہمک ہیں (نعرۂ خوشی)

دربار میں میرا فرض تھا کہ ہز مجسٹی کے خراج گذاروں اور رعایا کو خطاب کروں جو وہاں اپنی جانب سے اظہارِ فرمانبرداری کرنے اور شہنشاہی الفاظ سُننے کے لئے جمع ہوئے تھے۔ اور آج ہی کی شب کو بہت سے غیر ممالک کی سلطنتوں کے قایم مقام اور اعلیٰ درجہ کے اشخاص اس میز پر موجود ہیں جو روئے زمین کے تمام حصص سے اس تقریب کی شرکت کے لئے آئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کچھ مبالغہ نہیں کہ گورنمنٹ کے لئے قبضۂ ہندوستان سے بیرونجات کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اور میں بجوشی کہتا ہوں کہ صوبہ جات مشرق اور تمام سلطنتوں سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں جنہیں سے ہمکو اپنی بہت بڑی دوست سلطنتِ جاپان کے قایم مقام کی صحبت کا افتخار بھی حاصل ہوا۔ آج ہمارے دربار میں ہمارے دوست اور ساتھی امیر افغانستان کے سفیر قایم مقام اور ہمارے دوست سلطنت نیپال اور سلطانِ مسقط کے قائم مقام بھی موجود تھے۔ اور دو زبردست سلطنتوں یعنی فرانس و پرتگال کے ہندوستانی مقبوضات کے گورنر جنرل بھی ہمارے مہمانوں میں ہیں۔ اور اُن سے صُلح کُن دوستی کا سلسلہ برابر چلا آتا ہے (نعرۂ خوشی)۔

اس کے علاوہ آنروئے سمندر کی بڑی بڑی برٹش کالونیوں یعنی آسٹریلیا۔ اور جنوبی افریقہ کے قائم مقام بھی موجود ہیں جن کا ستارۂ بخت اس وقت عروج پر ہے۔ اور جس قدر ان گورنمنٹوں کو ہم سے قُربت کے ساتھ تعلق ہوتا جائے گا انکا ستارہ اَور بھی چمکتا جائے گا۔ پھر امپیریل لیجس لیچر کے اعلیٰ درجہ کے ممبر اور ہوس آف لارڈ اور ہوس آف کامنس کے لوگ بھی موجود ہیں جو اس بہت بڑی رسم میں

ہمارے شریک ہونے کے لئے سفرِ بحری طے کر کے آئے ہیں۔ (نعرۂ تعریف)
لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ محض لوکل جشن نہیں ہے۔ بلکہ شہنشاہانہ سنجیدگی کا ایک ایسا جشن ہے جس کا اثر دُور دُور تک ہوگا۔ اور اِس کا عملدرآمد بھی خاطر خواہ ہوگا۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کی موجودگی میں جو برٹش سلطنت اور ہماری قایم شدہ عملداری ایشیا کا نمونہ ہیں۔ جو کارروائی کی ہے اِس میں ہمارے ہمسایوں کے دوستانہ خیالات اور آنرو سے سمندر کے ہمارے تمام عزیز واقارب سب مُتفق ہیں۔

اب میں نہایت ہی ادب و فرمانبرداری و جوش کے ساتھ ہزمجسٹی شاہنشاہ کا جامِ تندرستی تجویز کرتا ہوں۔ (نعرۂ خوشی)۔

یہ جامِ تندرستی نہایت اعزاز کے ساتھ نوش کیا گیا تو اِس کے بعد ہزرائل ہائینس ڈیوک اوف کناٹ کا جامِ تندرستی تجویز کرنیکے لئے حضورِ والیسرائے نے پھر مندرجۂ ذیل تقریر کی۔

والیسرائے صاحب کی تقریر ڈیوک صاحب کے جامِ صحت کی تحریک میں

یور رائل ہائینسز دیور اکسیلنسز وہائی لارڈ و جنٹلمین! اِسی شب میں آپ کے سامنے ایک اَور جامِ تندرستی تجویز کرنیکو اُٹھا ہوں۔ میں یہ تو بیان کر چکا ہوں کہ ہزمجسٹی شاہ و شہنشاہ کو اِس امر سے کس قدر افسوس ہوا کہ وہ اپنی تاجپوشی کے جشن میں شریک نہو سکے جو ایک امرِ غیرممکن تھا مگر ہزمجسٹی نے اُس کے مُتعلق ایسی کارروائی فرمائی ہے کہ اگر تمام اہلِ ہندوستان سے رائے لیجاتی تو وہ بھی اِسی کارروائی پر ووٹ کرتے (زور سے نعرۂ تعریف) یعنے اُنھوں نے اپنی طرف سے یہاں شریک ہونے کے لئے خاندانِ شاہی کے ایک برگزیدہ ممبر بلکہ اپنے عزیز قریب کو منتخب اور مُقرر فرمایا۔ اور چونکہ شہزادہ ولیعہد دلیعہد با تو بھی اُنکے موسمِ سرما میں یہاں تشریف نہیں لاسکتے تھے (گو ہمیں اُمید ہے کہ چند روز بعد یہ موقع خوشی کا ہمکو

حاصل ہوگا) لہذا ہز مجسٹی شاہ و شہنشاہ نے اپنے بھائی ڈیوک اوف کیناٹ کو یہاں آنے کے لئے منتخب کیا۔ (زور سے نعرۂ خوشی) چنانچہ آج کی رسوم میں اور اس وقت کی ہز رائل ہائینس کی موجودگی سے ہم سب لاانتہا مسرور اور بیحد خوش ہیں۔ (نعرۂ خوشی) ہمارے یہ خیالات اس وجہ سے ہیں کہ ہم ہز رائل ہائینس کی تشریف آوری سے یہ تصوّر کرتے ہیں۔ کہ واقعی شاہ و شہنشاہ کو ہندوستان کا کیسا خیال ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب یہ دیکھا جائے کہ خاندانِ شاہی میں کوئی ایسا شہزادہ نہیں ہے۔ بلکہ مجھکو یہ کہنا چاہیئے کہ کوئی افسر نہیں ہے جس نے ہز رائل ہائینس کیطرح ہم لوگوں کی مانند ہندوستان میں تاج کی خدمات کی ہوں اور جس نے اپنے تئیں ہر فرقہ و طبقہ کے لوگوں میں ایسا ہر دلعزیز ثابت کیا ہو کیونکہ ہز رائل ہائینس نے سپاہیوں اور سولینوں۔ یوروپینوں اور ہندوستانیوں میں اپنے تئیں یکساں عزیز دل بنایا ہے۔ تو پھر یہ خوشی اَور بھی بڑھ جاتی ہے۔ (زور سے نعرۂ خوشی) پس انکا ہم لوگوں میں آنا صرف شہنشاہ کے ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ ایک دوستِ قدیم کی صورت سے بھی ہے جن کی تمام ہندوستان تہِ دل سے بزرگی مانتا اور اُن سے محبّت کرتا ہے (نعرۂ خوشی) اگر میں جامِ تندرستی کے بیان سے ایک لحہ کے لئے تجاوز کرنے پاؤں تو یہ بھی کہوں گا کہ اِن خیالات کو اِس امر سے اَور بھی ترقی ہوگئی ہے۔ کہ ہز رائل ہائینس اپنے ساتھ اُس شہزادے کو لائے ہیں جن کی شہرت تمام ہندوستان میں انہیں کے برابر ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ انکی تشریف آوری سے ہم نے خاندانِ شاہی کے ایک اَور شخص کو بھی بڑی خوشی کے ساتھ دیکھا ہے۔ یعنی ہز رائل ہائینس گرینڈ ڈیوک ہیسی جو خود حکمراں فرمانروا اور ہماری ملکۂ آنجہانی کے پوتے ہیں۔ اور جنہوں نے یہاں تشریف لاکر ہمکو افتخار بخشا۔ اور ہم سبکو خوش کیا ہے۔ (زور سے نعرۂ خوشی)

اَب مَیں پھر اپنے مطلب پر عود کرتا ہوں اور اُمید کرتا ہوں کہ ہز رائل ہائینس ڈیوک آف کیناٹ ہز مجسٹی شاہ وشہنشاہ پر اُنکی سلطنتِ ہندوستان کی سرسبزی و خیرخواہی کا حال ظاہر کردینگے اور مَیں اُنکو یقین دلاتا ہوں کہ اُنکے تشریف لانے اور اِس بہت بڑے موقع پر ہم لوگوں میں اُنکی موجودگی کو ہملوگ بہت ہی بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ (نعرۂ خوشی) ہمکو دہلی میں جو کام لاحق ہیں جب وہ انجام پا جائیں گے تو ہمکو اُمید ہے کہ اُنکے لئے نہایت عمدہ اور خوش گوار دورہ کا انتظام کرینگے۔ تاکہ ہز رائل ہائینس اُن لوگوں میں جنسے یہ زیادہ مانوس ہیں بخوبی سیاحت کرسکیں۔ جس کے بعد جب وہ ہمارے ساحل سے اپنے جہاز پر سوار ہوکر روانہ ہونگے تو مَیں خیال کرتا ہوں کہ ہندوستان اُنکو اور ڈچز صاحبہ کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ کیونکہ اِس ملک کے یورپین اور ہندوستانیوں کو اُنسے نہایت ہی محبت والفت ہے (زور سے نعرۂ خوشی)۔

اَب مَیں چاہتا ہوں کہ ہز رائل ہائینس ڈیوک و ڈچز صاحبہ کیناٹ کے مع الخیر سفر کا جامِ تندرستی سب صاحبان بخوشی نوش فرمائیں (زور سے نعرۂ خوشی)۔

اِس تقریر کے بعد جب سب صاحبان ڈیوک صاحب کا جامِ صحت نوش فرما چکے تو ڈیوک صاحب بہادر نے کھڑے ہوکر مندرجۂ ذیل تقریر فرمائی جن کے اُٹھنے پر تمام حاضرین نے پُر جوش چیرز دیئے۔

تقریر ڈیوک اوف کیناٹ بہادر

یور اکسلنسیز یور رائل ہائینس۔ مائی لارڈ وجنٹلمین! یہ امر میرے نہایت دلنشین ہوا ہے کہ آپنے اِس بہت ہی مُبارک موقع پر میرا جامِ تندرستی کس طرح تجویز کیا اور وہ بہت ہی قابلِ شُکریہ ہے۔ مَیں آپکو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہز مجسٹی شاہ وشہنشاہ نے مجھکو اطلاع دی کہ اُنکی یہ خواہش ہے کہ وہ مجھکو اپنے خاندان کیطرف سے دربار تاجپوشی

دہلی میں پہنچیں تو مجھے نہایت ہی مسرت وشادمانی حاصل ہوئی تھی (نعرۂ خوشی)
کیونکہ مجھکو یہ اُمید کبھی نہ تھی کہ یہ خوش نصیبی مجھکو حاصل ہوگی۔ اِسلئے کہ اَب
میری سپاہانہ خدمات اَور ہی مُلک میں ہیں۔ اور وہ یہاں کی نسبت اَور ہی طرح
کی ہیں جیساکہ ڈبلن دہلی کی نسبت اَور ہی قسم کا مقام ہے (قہقہہ) پس جب
مجھسے یہ کہا گیا کہ پھر مجھے ہندوستان آنا پڑیگا تو مجھکو نہایت حیرت ہوئی۔ بہرکیف
یہاں آنے سے مجھکو نہایت مسرت حاصل ہوئی ہے۔ کیونکہ جس شخص کو اس مُلک
سے کُچھ بھی دلآویزی ہو یا جو اس مُلک میں رہ چکا ہو اُس کو اس سے بہت ہی
محبت ہو جاتی ہے۔ میرے خیالات کُچھ اَور بھی ہیں اور وہ یہ کہ جب مَیں پہلے یہاں
تھا تو مجھکو یہ خوش نصیبی حاصل تھی کہ مَیں نے تین وائسرایوں اور کمانڈرانچیفوں
کی ماتحتی میں کام کیا تھا مگر افسوس ہے کہ اَب ہندوستان سے میرا کوئی تعلق نہیں
لیکن اُس سے میرے دِل کو ایک قسم کا تعلق ضرور ہے (زور سے نعرۂ خوشی)
اور مَیں خیال کرتا ہوں کہ اِس بات کا اطمینان دلانے کی مجھکو بہت کم حاجت
ہے کہ مجھکو ہر ایسے معاملہ میں ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ جس کا ہز مجسٹی کی ہندوستانی
سلطنت کی خوشی وخرمی وسرسبزی وعظمت وشان سے تعلق ہوتا ہے (نعرۂ خوشی)
یہاں میرے بہت سے برٹش وہندوستانی دوست واحباب ہیں (نعرۂ خوشی)
جنکی تندرستی وترقی کا مشاہدہ میری رضامندی کا باعث ہے۔ چنانچہ مجھکو اِس امر سے
نہایت مسرت ہوئی کہ مَیں نے ہندوستانی فوج کو پھر معاینہ کیا (نعرۂ خوشی)
آپ حضرات واقف ہوں گے کہ میرا پہلا تعلق فوجِ بنگال سے تھا۔ کیونکہ اُس زمانہ
میں وہ اِس ڈویژن کی کمان میں تھی۔ اس کے بعد چار سال کے قریب تک مَیں
کمانِ بمبئی پر رہا۔ لہٰذا مجھکو کسی ایک پریسیڈنسی سے نہیں بلکہ تمام ہندوستان سے
دلچسپی ہے۔ بارہ برس اُدھر جب میں ہندوستان میں تھا تو تمام سرحدی فوج

ہمارے آنر دسے سمندر کے تعلقات کی حفاظت میں باری باری شریک ہوئی۔ اور مَیں خوشی کے ساتھ خیال کرتا ہوں کہ جنوبی افریقہ یا چین یا سرحداتِ ہند پر جہاں کہیں فوجِ ہند کی حاجت ہوئی اُس نے وہاں جاکر اپنی ناموری بخوبی قائم رکھی۔ اور مَیں باطمینانِ تمام کہتا ہوں کہ اَور سلطنتوں کی تمام فوجیں بھی ہندوستانی فوج کی عزّت و توقیر کرتی ہیں (زور سے نعرۂ خوشی) یہ ایک مسلّمہ امر ہے کہ اگر کسی فوج کو میدانِ جنگ میں جانے کا موقع نہیں ملتا تو اُس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ خصوصاً ہندوستانی فوج سالہا سال ہندوستان ہی میں رہے تو اُس کے لئے بڑا ہے۔

اَب مَیں ڈچز کیطرف سے بیان کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان میں اپنے دوبارہ آنے سے نہایت محظوظ و مسرور ہوئیں اور نیز اِس امر پر بھی بہت نازاں ہیں کہ وہ آج کی مُبارک رسم میں موجود تھیں۔

اَب مَیں اُس بیان کے مُتعلق جو یور اکسیلنسی نے میرے بھیجنے کی نسبت کیا ہے یہ کہتا ہوں کہ وہ اُس خوشی کی نہایت قدر و منزلت کرتے ہیں جو اُنکو ہندوستان میں آنے اور آپکا مہمان ہونے سے ہوئی۔ اور مَیں اِس نئے سال کے روز آپ یعنے لارڈ کرزن سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سَب آپ کی مہماں نوازی اور استقبال کے تہ دِل سے ممنون اور شکر گذار ہیں۔ اور آپ سَب جنٹلمینوں کا شکریہ اِس امر کے لئے ادا کرتا ہوں کہ آپ سَب نے کِس طرح میرا جامِ تندرستی نوش فرمایا (نعرۂ خوشی)"

اِس کے بعد بخیر و خوبی جلسہ برخاست ہُوا۔ اور سَب صاحبان اپنے اپنے کیمپوں کو تشریف لے گئے۔

فصل پنجم

اعزازِ جشنِ تاجپوشی

عین دربار کے دن یعنے یکم جنوری ۱۹۰۳ء کے اعزازی گزٹ میں مندرجۂ ذیل اصحاب کے لئے خطابات مشتہر کئے گئے جو دہلی اور کلکتہ میں ٹھیک ایک ہی وقت میں شایع کردیئے گئے تھے۔

مشتہر کیا جاتا ہے کہ بمنظوری گورنمنٹ ہز مجسٹی مندرجۂ ذیل ہندوستانی شہزادوں اور رئیسوں کی سلامی میں مندرجۂ ذیل اضافہ ہوا ہے۔

(مستقل) نواب صاحب جنجیرہ ــ گیارہ توپ۔

(مستقل) سوبوا مقامات کنگ ٹنگ اور سونگئی اور سیپیا۔ نو توپ

(ذاتی) شنکر راو چمناجی پنت ساچیو مقام بہور۔ نو توپ

(ذاتی) مہارانا جسونت سنگھ جی ہری سنگھ جی مقام دیتا۔ نو توپ

(ذاتی) نوابِ امیر الدین احمد خان صاحب کے سی۔ ایس۔ آئی مقام لوہارو۔ نو توپ

آرڈر آف دی باتھ

نائٹ گرینڈ کراس سول ڈویژن یعنی جی سی بی ہز ہائینس نظامِ دکن۔

کمانڈرانِ فوجی ڈویژن یعنی کے سی بی۔ میجر جنرل ایجرٹن کمانڈر افواج سرحد پنجاب اور کرنل آرتھر جارج ہمنڈ وی۔ سی۔ سی۔ بی۔

اسٹار آف انڈیا

نائٹ گرینڈ کمانڈر یعنی جی سی ایس آئی۔ رائیٹ آنریبل لارڈ جارج ہیملٹن وزیر ہند۔ اور ہز ہائینس راجہ سر راما درما صاحب بہادر والیِ ریاست کوچین

فائیٹ کمانڈر یعنی کے۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ آنریبل سر ڈُنال اٹس ممبر کونسل۔
ریئر ایڈمرل ڈرودی کمانڈر انچیف بحری۔ فوج ہز مجسٹی متعینہ مشرقی ہند۔
آنریبل مسٹر ہنری ونٹر بوتھم ممبر کونسل گورنر مدراس۔
آنریبل مسٹر جیمس منٹیتھ ممبر کونسل بمبئی۔
آنریبل لفٹنٹ کرنل ڈانلڈ رابرٹسن رزیڈنٹ میسور۔
آنریبل اینڈرو ایچ ایل۔ فریزر چیف کمشنر ممالک متوسط پریسیڈنٹ پولیس کمیشن۔
مسٹر ہوسکپیر بارنس سکرٹری فارن ڈپارٹمنٹ۔
سرجن جنرل ولیم ہوپر پریسیڈنٹ مڈیکل بورڈ انڈیا آفس۔
کرنل سر کالن اسکاٹ مانکرف پریسیڈنٹ کمیشن آبپاشی۔
ہز ہائینس راجہ کرتی شاہ صاحب والیٔ ریاست ٹیڑہی گڑھوال۔
کنور رنبیر سنگھ صاحب عم مہاراجہ پٹیالہ۔
کمپینین یعنی سی۔ ایس۔ آئی۔ آنریبل سر ایڈورڈ لا ممبر کونسل حضور گورنر جنرل
آنریبل مسٹر چارلس اسٹورٹ بیلی ایجنٹ گورنر جنرل وسط ہند۔
آنریبل مسٹر ایڈورڈ کینڈی جج ہائی کورٹ بمبئی و ممبر کمیشن پولیس۔
آنریبل مسٹر گیبریل اسٹوکس چیف سکرٹری گورنمنٹ مدراس۔
میجر جنرل ٹریور ٹیلر انسپکٹر جنرل توپخانہ جات ہند۔
مسٹر ہاروی ایڈمسن سی ایس جوڈیشل کمشنر بلندی برہما۔
آنریبل مسٹر ڈبلیو ایچ ایل امپی قائم مقام چیف سکرٹری ممالک متحدہ۔
آنریبل مسٹر ولیم چارلس میکفرسن قائم مقام سکرٹری گورنمنٹ بنگال۔
کرنل سنٹ جارج کاربٹ گورنر رائل انجنیرس دیرہ
لفٹنٹ کرنل منٹگمری کمشنر ڈویژن راولپنڈی واقع پنجاب و ممبر پولیس کمیشن۔

کرنل ہچنسن اسسٹنٹ فوجی سکریٹری معاملاتِ ہند محکمۂ جنگ۔

مسٹر رجنالڈ کریڈک سی ایس کمشنر ڈویژن جبلپور۔

میجر ہیو ڈیلی صاحب ڈپٹی سکریٹری صیغۂ فارن۔

راجہ بن بہاری صاحب کپور مقام بردوان۔

نواب ممتاز الدولہ محمد فیاض علیخان صاحب ممبر کونسل صوبہ رئیس پہاسو ضلع بلند شہر۔

سردار بدن سنگھ صاحب مقام مالودہ ضلع لدھیانہ۔

شاہ وشہنشاہ کا ارادہ تھا کہ ہز ہائینس راجہ بجے سین صاحب بہادر راجہ منڈی کو بھی نائیٹ کمانڈر بنایا جائے مگر راجہ صاحب ممدوح نے ۱۰ دسمبر کو قضا کی۔

انڈین امپائر

نائٹ گرینڈ کمانڈر یعنی جی سی آئی ای۔ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب ٹراونکور جی سی ایس آئی۔

نائٹ کمانڈر یعنی کے سی آئی ای۔ آنریبل سر سنبر لارنس جنکنس نائٹ چیف جسٹس بمبئی۔

آنریبل مسٹر تھرکل وائٹ چیف جج چیف کورٹ لشیبی برہما لنگون۔

آنریبل مسٹر چارلس ٹپر فنانشل کمشنر پنجاب۔

سرجن جنرل فرینکلن ڈائرکٹر جنرل میڈیکل سروس ہندوستان۔

آنریبل مسٹر فریڈرک نکلسن اوّل ممبر بورڈ ریونیو مدراس۔

مسٹر آرتھر ایڈن فینشا ڈائرکٹر جنرل پوسٹ آفس ہند۔

مسٹر والٹر روپر لارنس پرائیوٹ سکریٹری حضور وائسرائے۔

مسٹر جان الیٹ میٹرولاجیکل رپورٹر گورنمنٹ ہند۔

مہاراج ناہر سنگھ صاحب والیِ شاہپورہ ضلع راجپوتانہ۔

گنگادھر راؤ گنیش صاحب عرف بالا صاحب پٹوردھن رئیس میراج اعلیٰ شاخ واقع ملکِ جنوبی مرہٹہ۔

مہاراجہ ہر ولبھہ نرائن سنگھ صاحب مقام سون پرسا واقع بنگال۔

مہاراجہ پیشکار کشن پرشاد صاحب مدار المہام دکن۔

پورنایا نرائن سنگھ راؤ کرشنا مورتی صاحب دیوان میسور۔

مہاراجہ گودے نرائن صاحب گجاپتی مقام وزنگا پٹم۔

کمپانین یعنی سی آئی ای۔ کرنل ڈی برتھ صاحب جنٹ سکریٹری صیغہ فوجی۔

آنریبل مسٹر پرتول چندر چٹرجی صاحب جج چیف کورٹ پنجاب۔

مسٹر فریڈرک میکلین ڈائرکٹر جنرل تار برقی۔

مسٹر والٹر ڈی ونٹن چیف انجنیر وسکرٹری گورنمنٹ مدراس۔

کرنل وائن صاحب ایجنٹ چیف انجنیر بنگال ناگپور ریلوے۔

مسٹر ایل جرٹن ایبٹ قائم مقام کمشنر اضلاعِ مفوضہ حیدرآباد۔

لفٹنٹ کرنل کیمبل صاحب قائم مقام پولیٹکل ایجنٹ خلیج فارس۔

مسٹر ہربرٹ گارنڈف ڈپٹی سکرٹری صیغۂ لیجسلیٹو قائم مقام سکرٹری وائسرائے۔

لفٹنٹ کرنل ولیم لاک صاحب پرنسپل میو کالج اجمیر۔

لفٹنٹ کرنل بامفرڈ صاحب پرنسپل مڈیکل کالج کلکتہ۔

لفٹنٹ کرنل جان ہڈنگ صاحب کانیر بہادر لائٹ ہارس۔

مسٹر ایڈورڈ گلس ڈائرکٹر سررشتۂ تعلیم بمبئی۔

مسٹر ہنری بوسیپ ایڈیٹر اخبار مدراس میل وشریف مدراس۔

ہرجی بہائی مانک جی رستم جی صاحب شریف کلکتہ۔

مسٹر لی مشیرز سابق مجسٹریٹ وکلکٹر وچیرمین میونسپلیٹی پٹنہ۔

مسٹر رابرٹ نیتھن سابق انڈر سکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ وسکرٹری کمیشن انڈین یونیورسٹی
میجر الکاک صاحب انڈین میڈیکل سروس سپرنٹنڈنٹ وعجائب خانۂ ہند۔
مسٹر آرتھر ہل الگزنیکٹیو انجینیر پریسیڈنسی بمبئی۔
ڈگلس ڈانلڈ صاحب کمانیر ساما نہ ریفل پلٹن کوہاٹ۔
جگدیش چندر بوس صاحب پروفیسر پریسیڈنسی کالج کلکتہ۔
نواب محمد شریف خاں صاحب خان دیر۔
مہتر شجاع الملک صاحب مہتر چترال۔
میر محمد ناظم خاں صاحب میر ہنزہ۔
راجہ سکندر خاں صاحب راجہ ناگر۔
مسٹر ولیم ڈکسن کروک شینک سکرٹری و خزانچی بنک بنگال۔
مسٹر بی جے بینٹ ایڈیٹر اخبار ٹیمس آف انڈیا بمبئی۔
مسٹر جان اوبرائن رانڈرسن پروپرائیٹر اخبار انگلشمین کلکتہ۔
مسٹر ہنری ونارن ایجنٹ گریٹ انڈین پیننشولا ریلوے۔
مسٹر سی ایچ ولسن مینجر ہانگ کانگ شنگھائی۔
نبکنگ کارپوریشن ووائیس پریسیڈنٹ کمیٹی رنگون۔
خان بہادر مولوی خدا بخش صاحب رئیس پٹنہ۔
راؤ بہادر شام سندر لال صاحب دیوان کشن گڑھ راجپوتانہ۔
رائے بہادر منشی بالمکنداس صاحب دیوان بہادر ممبر کونسل ریاست الور۔
مسٹر رابرٹ ہیرٹ ہنڈرسن سپرنٹنڈنٹ باغات چائے تارہ پور مقام کچہار۔
نواب حافظ محمد عبد اللہ خاں صاحب علی زئی مقام ڈیرہ اسمعیلخاں آنریری کمانیر
رسالہ نہم بنگال۔

ہتو کن کہی سا ہوا صاحب مقام مونگنئی جنوبی ریاستہائے شان۔
میر مہر اللہ خاں صاحب ریسائی ناظم مکران واقع بلوچستان۔
آنریبل نواب فتح علیخاں صاحب قزلباش رئیس لاہور۔
پنڈت گنگادہر صاحب شاستری پروفیسر سنسکرت کالج بنارس۔
فریدون جی جمشید جی صاحب پرایوٹ سکرٹری مدارالمہام دکن۔
مسٹر چارلس ہنری ویسٹ پرسنل اسسٹنٹ ایجوٹنٹ جنرل ہند۔
شہنشاہ کا ارادہ تھا کہ سرجان ووڈبرن متوفی لفٹنٹ گورنر بنگال کو بجلدوے خدمات ہندوستان فائٹ گرینڈ کمانڈر یعنی جی سی آئی ای بنائے مگر سرجان موصوف نے ۱۲ نومبر کو کلکتہ میں بعہدۂ لفٹنٹ گورنری بنگال انتقال فرمایا۔
نیز شہنشاہ کا ارادہ تھا کہ مسٹر چارلس ہل کو بھی بجلدوے خدمات محکمۂ جنگلات ہند کمپانین انڈین امپائر (سی آئی ای) کا اعزاز عطا کریں مگر انہوں نے، نومبر کو بزمانۂ رخصت انگلستان میں قضا کی۔
ملکِ معظم نے مہربانی فرماکر مندرجۂ ذیل اشخاص کو نائٹ کا درجہ عطا فرمایا۔
نائٹ ھڈ۔ آنریبل جیمس ایکورتھ ڈیوس صاحب سی ایس جج ہائی کورٹ مدراس۔
آنریبل مسٹر ولیم اوبنس کلارک سی۔ ایس جج چیف کورٹ پنجاب۔
آنریبل مسٹر مانیگو ٹرنر پریسیڈنٹ چیمبر آف کامرس بنگال۔
لفٹنٹ کرنل کوپر کمانیر کانپور والنٹیر رئفل پلٹن۔
لفٹنٹ کرنل جیمس واکر صاحب دوم پنجاب والنٹیر پلٹن۔
ڈاکٹر جارج واٹ صاحب رپورٹر پیداوار ہند مہتمم نمائش۔
ہرکشن داس نروتم داس صاحب سابق شریف بمبی۔
مسٹر ولیم گالڈسل آڈیٹر حسابات انڈیا آفس۔

تمغۂ قیصرہند

درجۂ اول - ہر اکسلنسی لیڈی کرزن رئیسہ گڈسٹن بیگم حضور والیسرائے بہادر۔

پادری سموئیل آنسٹ کیمبرج مشن دہلی۔

مسٹر البرٹ آنشٹن ڈپٹی کمشنر برمسٹ شمالی ہند۔

لفٹنٹ کرنل ڈاسن صاحب پولیٹیکل سپرنٹنڈنٹ پہاڑی مقامات میواڑ۔

کپتان جونی ڈی لاٹ ہنر ڈپٹی چیف انجنیر میسور۔

مسٹر جیمس ڈگلس مقام بمبی۔

پادری جے پی گریہم کلمپونگ بنگال۔

پنڈت جوالا پرشاد صاحب مجسٹریٹ وکلکٹر جالون ممالک متحدہ۔

مسٹر کلیرنس کرک پیٹرک بیرسٹرایٹ لا ممبر میونسپل کمیٹی دہلی۔

لفٹنٹ کرنل اسٹیل لاین سول سرجن سپرنٹنڈنٹ پاگلخانہ دھارواڑ۔

مہربان جی کاوس جی صاحب میونسپل کمشنر وآنریری مجسٹریٹ رنگون۔

مسٹر جان انبٹ سابق کنسرویٹر جنگلات برہما۔

میجر سمپل آر۔اے۔ایم بی۔ ڈائرکٹر پاسیٹور انسٹیٹیوٹ کسولی۔

پادری جے سیول مینجر سنٹ جوزف کالج ترچناپلی۔

پادری ڈیوڈوٹن پرنسپل اسلاف کالج ناگپور۔

درجۂ دوم - مسز ایڈمز وائلی - بیوہ لفٹنٹ انڈین میڈیکل سروس بمبی۔

پادری ایڈم اینڈریو مشنری یونائیٹڈ فری چرچ اسکاٹلینڈ چنگلپٹ۔

میر عزیز حسن صاحب آنریری مجسٹریٹ وممبر میونسپل ڈسٹرکٹ بورڈ اٹاوہ۔

بابو بیجناتھ صاحب گونکا ساہوکار وزمیندار مونگیر۔

مسٹر ایڈورڈ ہلنگن انسپ آئی سی ایس افسر بندوبست رائے پور ممالکِ متوسط۔
رائو بہادر چنداسنگہ کالسنگہہ آنربیری مجسٹریٹ حیدر آباد سندھ۔
ٹھاکر درجن سنگہ صاحب ممبر کونسل ریاست الور۔
مسٹر جارج ای گلسم ہیڈ ماسٹر لارنس اسکول آبو۔
ریورینڈ فادر ایمٹن فرینٹ سپرنٹنڈنٹ رومن کیتھلک جذامی خانہ رنگون۔
پادری رابرٹ جونس ولش مشن شیلانگ۔
مس ایف جانس مشن چرچ اسکاٹلینڈ گجرات۔
مس ایلن مچل امریکن بپٹسٹ مشن مولمین۔
مس ہیچین زنانہ مڈیکل مشن پشاور۔
مس مارگرٹ اوہارا کینڈٹس پرسبٹیرین مقام دہار واقع وسط ہند۔
ڈاکٹر پینل مڈیکل مشنری چرچ مشنری سوسائٹی بنوں۔
بھائی رام سنگہ صاحب وائیس پرنسپل میو اسکول صنعت لاہور
سنتوک سنگہ صاحب کرمی مالگذار ضلع رائے پور ملک متوسط۔
صغرا بی بی صاحبہ مقام بہار واقع پٹنہ۔
محمد ظہور الحسن صاحب ممبر مینوسپل بورڈ الہ آباد۔

مہاراج دھراج۔ زمیندار بردوان کو موروثی خطاب۔

مہاراجہ۔ راجہ سر رام چندر بھنج دیو رئیس مجال ضلع اڑیسہ (بطور ذاتی اعزاز)
مہارانی۔ رانی دہنکوریا صاحبہ ریاست بردوانی (بطور ذاتی اعزاز)۔

نواب بہادر۔ نواب خواجہ سلیم اللہ صاحب رئیس ڈھاکہ

راجہ۔ رائو بہادر چھتر پتی سی ایس آئی۔ جاگیردار علی پورہ۔
رائو بہادر ٹھاکر منگل سنگہ صاحب لاوہ۔

رآئے جگندر و نرائن صاحب زمیندار لال گولہ مرشد آباد۔
لال رکھوج سنگھ صاحب منکاپور ضلع گونڈہ۔
نواب۔ خان بہادر سردار خیر بخش صاحب رئیس جرگہ مری بلوچستان۔
سردار قیصر خاں صاحب رئیس جرگہ مگاسی بلوچستان۔
نواب بیگم۔ بسم اللہ بیگم صاحبہ زوجہ نواب غلام محمد غوث خاں بہادر برادر پرنس آف کاٹ
شمس العلما۔ خاں صاحب مولوی سعادت حسین خاں صاحب پروفیسر مدرسہ کلکتہ
مفتی مولوی عبد اللہ صاحب اورینٹل کالج لاہور۔
مولوی عبد الحکیم صاحب اورینٹل کالج لاہور۔
مہامہو پادھیا۔ پنڈت سیوا چندر اسرب بہوماہٹ پارہ چوبیس پرگنہ۔
دیوان بہادر۔ آیس سبرامنیم صاحب ایڈمنسٹریٹر جنرل آفیشل ٹرسٹی مدراس اور کمشنر مدراس میونسپلٹی
ایم۔ آر۔ را ٔ بہادر رامیم بلاونکٹ راماناپوئی اورگل قائم مقام ڈسٹرکٹ سشن جج کرنول۔
رآئے بہادر سیٹھ کسنور چند صاحب ساہوکار بیکانیر
سردار بہادر۔ رآئے بہادر گوپال سنگھ صاحب آنائٹ کمانڈر بہاموٹا لین برہما ملٹری پولیس۔
رسالدار پرتاب سنگھ صاحب اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر پنجاب۔
دیوان۔ رآئے بہادر مہتہ جگ جیون صاحب دیوان جیسلمیر
خان بہادر۔ خاں صاحب دین محمد صاحب اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر قصور لاہور۔
خاں صاحب حاجی قلندر خاں صاحب گونڈاپور شمالی مغربی سرحدی صوبہ۔
حاجی محمد عبد الہادی بادشاہ صاحب میونسپل کمشنر مدراس۔

مولوی شمس الضحیٰ صاحب آنریری مجسٹریٹ صدر بنچ ووائس چیرمین ڈسٹرکٹ بورڈ بیربھوم۔
خان محمد نواز ولد غلام محمد طاہر تعلقہ دار ابور سکھر۔
آردشیر ڈرابجی درباروالا لینڈ ہولڈر انبارہ گانون ضلع تھانہ۔
چودھری امیر حسن خاں صاحب سہسپور ضلع بجنور۔
مولوی مجید بخت صاحب مجموعہ دار آنریری مجسٹریٹ سلہٹ۔
ہرمزجی مانک جی صاحب بھونڈیوالہ ٹھیکہ دار آبکاری تاجر نمک بمبئی۔
نوروزجی کاؤسجی صاحب کلیان والہ اسسٹنٹ سرجن۔
راؤبہادر۔ چوبے جگت راؤ صاحب جاگیردار پالدیو۔
بلونت راؤ بھسکانے صاحب چیرمین میونسپلٹی برہان پور۔
راؤ صاحب نربھے سنگھ منڈلوئی سوہاگ پور۔
بابو سنسار چند سین صاحب ممبر جیپور اسٹیٹ کونسل۔
بتلاگپی گوتھن درایند و دیوان ریاست سندور۔
دیابھائی ہرجیون داس صاحب نانا وتی اکونٹنٹ جنرل ریاست بڑودہ۔
لالہ جنارد ہن سنگھ صاحب سکریٹری ہز ہائینس مہاراجہ صاحب ریواں نیپالی۔
صوبہ چاری کرشنا راؤ ڈسٹرکٹ جج بنگلور۔
تیسو پلیٹ کرشنا ینڈو گارو۔ وائس پریسیڈنٹ گنتور۔
گھنوڑ وبھائی گلاب بھائی وسائی سابق اگزیکٹو انجنیر محکمہ تعمیرات بمبئی۔
دودہوبل چندی رام سابق ڈپٹی کلکٹر ضلع تارکانا۔
بتیو رام سچانند صاحب سابق اسسٹنٹ جج شکارپور۔
تنی ہنومنتا گوڈ صاحب ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ بلاری۔

انا جی انیکار کرشنا سوامی انیکار اسسٹنٹ کمشنر محکمہ آبکاری مدراس۔
ور ویٹی شیسہ گیری راوپنتو یوگار دہائی کورٹ وکیل کوکوناوا۔
ایم آر۔ آر۔ ایم رنگا چاریہ پروفیسر سنسکرت پریسیڈنسی کالج مدراس۔
مریشر رگھو با تالیدے پوسٹل سپرنٹنڈنٹ بمبئی۔
پنڈت وشنو سدا شیو باپت سبت اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ٹیلیگراف۔
نرائن کیشو اسٹیشن ماسٹر گریٹ انڈین پننسولا ریلوے۔
رائے بہادر ما۔ تہ رائے صاحب چکربتی سپرنٹنڈنٹ توشہ خانہ گورنمنٹ انڈیا۔
رائے صاحب بہیک چند آنریری مجسٹریٹ و ممبر میونسپل کمیٹی کونسل کرنال۔
صوبہ دار میجر ہرسنگہ تھاپا شمالی ریاستہائے شان بٹالین برہما ملیٹری پولیس۔
صوبہ دار میجر کہر سنگہ رانا کاہلے یا قوت بٹالین برہما ملٹری پولیس۔
انسپکٹر ہری سنگہ انڈمان دنکو بار ملیٹری پولیس۔
بابو جوگیش چندر متر سابق ڈسٹرکٹ وسشن جج ڈھاکہ۔
لالہ نند کشور صاحب انسپکٹر مدارس جالندھر۔
لالہ موتی رام صاحب اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ملک متوسط۔
بابو سیتا ناتھ رائے صاحب کلکتہ۔
بابو راجندر چندر صاحب شاستری بنگال لائبریری۔
منشی تخت سنگہ صاحب ہاٹ۔ ملک متوسط۔
بابو سورج کمار چودھری سینیر سپرنٹنڈنٹ محکمہ مال تجارت۔
بابو کدار ناتھ مکرجی ہوس ہولڈر و ایڈیکانگ آفس گورنمنٹ ہوس۔
خان صاحب۔ مولوی محمد مجیب اللہ صاحب ایس چیرمین میونسپل بورڈ گورکھپور
محمد نعیم خاں صاحب کیلاس پور ضلع سہارنپور۔

میر رحیم خاں صاحب جرگہ کرد بلوچستان۔
حاجی مُلّا مشتاق صاحب جوگی زئی ژوب۔ بلوچستان۔
منشی محبوب عالم صاحب سپروائزر الہ آباد فیض آباد ریلوے۔
میر عالم قاضی صاحب سابق اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ہری پور ضلع ہزارہ۔
شیخ امام الدین صاحب سپرنٹنڈنٹ جموں۔
میر اکبر شاہ صاحب سابق تحصیلدار پشاور۔
پنشوتن جی دراب جی انجن ڈرائیور گریٹ انڈین پینسولا ریلوے۔
رائے صاحب۔ بابو ہرن چندر ارکھیت صاحب کلکتہ۔
دَرشن سنگھ صاحب زمیندار ضلع پیلی بھیت۔
دینیدیال صاحب آنریری مجسٹریٹ و وائس چیرمین ڈسٹرکٹ بورڈ لکھنؤ۔
لالہ رلیارام صاحب آنریری اسسٹنٹ اگزامینر پبلک ورکس اکونٹس پنجاب۔
لالہ شیو پرشاد صاحب اسسٹنٹ ناردرن انڈیا سالٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ۔
لالہ رادھا کشن صاحب ممبر میونسپل کمیٹی پشاور۔
لالہ کنج بہاری صاحب تھاپر سکریٹری ٹیکسٹ بک کمیٹی لاہور۔
بابو سریندرو ناتھ صاحب گپتا۔ آنریری اسسٹنٹ انجنیر آسام۔
بابو چارچندر صاحب اسٹر خزانچی و محاسب فارن ڈپارٹمنٹ۔
بابو فندرا موہن صاحب باسو ہیڈ کلرک میٹرولاجیکل آفس کلکتہ۔
لالہ جانکی پرشاد صاحب سپروائیزر محکمہ تعمیرات شملہ۔
رکھی رام صاحب نائب مالگذار بلیسری ممالک متوسط۔
تارک ناتھ صاحب گھوس اسسٹنٹ سرجن پرنس آف ویلز ہاسپٹل بنارس۔
کمود بہاری منتوصاحب سول ہاسپٹل اسسٹنٹ بنگال پریسیڈنسی۔

بابو دریلعہ چند صاحب مجموعہ دار سابق سب اسسٹنٹ آڈیٹر ایسٹ انڈیا ریلوے۔

بابو ہریچند رصاحب سب انجنیر کالکا شملہ ریلوے۔

منشی گوبند جیون صاحب خزانچی و میر منشی اوّل بنگال لانسر۔

جاگیراتِ حین حیات

سر آینگر جج مدراس ہائی کورٹ پانچہزار روپیہ سالانہ۔ بابو سرینواس پنشنر انسپکٹر مدراس بارہ سو روپیہ سالانہ۔ مادہوراؤ سردارِ دکن تین ہزار روپیہ سالانہ۔ خان بہادر قاضی جلال الدین خاں سی آئی ای۔ پولیٹیکل ایڈوائیزر خاں صاحب قلات کو بارسو پچاس روپیہ سالانہ کی جاگیرات اور مسٹر وار برٹن صاحب انسپکٹر جنرل پولیس پٹیالہ کو بیس مربع زمین۔ رائے بہادر لالہ دولت رام صاحب پنشنر افسر ڈاکخانجات کو پندرہ مربع زمین۔ خان بہادر احمد یار خاں صاحب وزیر اعظم بس ہلیہ کو پندرہ مربع زمین بلا اخذ نذرانہ۔

فوجی اعزاز و انعام

۱۔ ہز مجسٹی نے انڈین سٹاک کور زکا لقب منسوخ فرمایا۔ آئیندہ سے انڈین سٹاکورز کے آفیسرز آف دی انڈین آرمی کہلائینگے۔

۲۔ ہز مجسٹی نے از راہِ الطافِ خسروانہ حکم صادر کیاہے کہ انڈین آرمی کے دیسی آفیسر ونکی ہر سال ایک محدود تعداد ہز مجسٹی کے آرڈرلی آفیسر ہز مجسٹی مقرر ہو کر حاضرِ خدمت عالی رہا کریں اور یہ انتظام سالِ رواں سے کیا جائے۔ جو آفیسر ہز مجسٹی کے آرڈرلی آفیسر ہونیکی عزّت حاصل کرینگے۔ اُنکے لئے حسبِ ذیل قواعد ہیں۔ (۱) ہر سال ۴ دیسی آفیسر آرڈرلی آفیسر مقرر ہوا کرینگے وہ ماہِ اپریل سے اگست تک لنڈن میں رہا کرینگے اور ہر سال نیا انتخاب ہوا کریگا۔ نصف آرڈرلی آفیسر رسالوں سے اور نصف پیدل پلٹنوں۔ توپخانہ اور سفرمینا سے لئے جایا کرینگے۔ (۲) انکو شاہی قصر بکنگہم کے قریب رہائش کی جگہ دیجائیگی (۳) یہ آرڈرلی افیسرز لنڈن میں اسسٹنٹ ملٹری سکرٹری معاملاتِ ہند کی

عام نگرانی نہیں رہینگے۔ اور ایکوالری شاہی کے ماتحت ہوں گے (۲) یہ لوگ عموماً رجمنٹ کی وردی پہنا کرینگے مگر خاص خاص تقریبوں پر خاص وردی۔

۳۔ تمام رسالدار میجروں اور صوبہ دار میجروں کو پنشن یاب ہونے پر اگر انکے پاس فرسٹ کلاس آرڈر آف برٹش انڈیا ہے تو اُن کو آنریری طور پر کپتان کا رینک ملا کریگا۔ اور باقی تمام نیٹو آفیسروں کو اگر انہیں آرڈر آف برٹش انڈیا درجہ اوّل حاصل ہے تو ریٹائر ہونے پر اعزازی طور پر لفٹنٹ کا رینک دیا جائیگا۔

۴۔ چونکہ ہز مجسٹی کو دیسی فوج کی خدمات کی بہت قدر ہے اسلئے بہ تلطّفِ شاہانہ آرڈر آف برٹش انڈیا کی پچاس اسامیاں عارضی طور سے اَور بڑہائی گئی ہیں۔ دس درجہ اوّل کی اور چالیس درجہ دوم کی۔ اس آرڈر کا اعزاز جس کو دیا جائیگا اُس کے ترقی پانے پر یا فوت ہونے پر یہ اعزاز جاتا رہیگا۔

۵۔ امپیریل سروس افواج کی خدمات کی قدردانی میں ہز مجسٹی نے آرڈر آف برٹش انڈیا کی تیس اسامیاں منظور کی ہیں۔ دس اوّل درجہ کی اور بیس درجہ دوم کی۔ اِس آرڈر کے حاصل کرنیوالوں میں ایکٹو سروس اور پنشنر دونوں شامل ہوں گے۔ یہ اسامیاں آنریری ہونگی اور اُنکے متعلق سرکارِ انگریزی سے کوئی الاؤنس نہیں ملیگا۔ لیکن جو الاؤنس بالفعل ملتے ہیں وہ موجودہ ممبران کو تاحین حیات ملتے رہیں گے یہ آرڈر وہی ہے جو ریگولر آرمی کے آفیسروں کو ملتا ہے۔

۶۔ ایک غیر معمولی نمایاں خدمت کا تمغہ مع ۲۵ روپیہ انعام کے دفعدار وں اور حوالداروں کے لئے مقرر کیا گیا ہے جو حسبِ ذیل تقسیم کے موافق دیا جائیگا۔ ہر ایک رجمنٹ کیولری سفرمینا اور انفنٹری بٹالین (مع نو کل کور) کو ایک تینوں باڈی گارڈ رسالوں اور عدن ٹروپس کو ا۔ پنجاب سرحدی فورس کی چار باٹریوں اور سرحدی گیریزن آرٹلری کو ا۔ ہر دیسی پہاڑی باٹریوں کو ایک۔ حیدرآباد کنٹنجنٹ کی ۴ باٹریوں کو ا۔ برٹش پہاڑی

باٹری کے دیسی ڈرائیور اسٹیبلشمنٹ کو۔ ۱۔

۷۔ دیسی فوج کے افسروں اور عہدہ داروں اور سپاہیوں کو لمبی نوکری اور نیک چلنی کا ایک نایاب تمغہ مع ۲۵ روپیہ انعام اس تقسیم کے ساتھ دیا جائیگا۔ ہر ایک رسالہ اور سفرمینا اور انفنٹری بٹالین (مع لوکل کورز) کو ۲۔ تینوں باڈی گارڈ رسالوں اور عدن ٹروپس کو ۱۔ پنجاب سرحدی فورس چار باٹریوں اور گیریژن آرٹیلری کو ۲۔ ۶ دیسی پہاڑی باٹریوں کو ۲۔ حیدرآباد کنٹنجنٹ کی چار باٹریوں کو ۱۔ برٹش پہاڑی باٹریوں کے دیسی ڈرائیور اسٹیبلشمنٹ کو ۱۔ رائل ہارس آرٹلری اور رائل فیلڈ آرٹیلری اور امیونیشن کالم یونٹوں کے دیسی لڑائی کرنیوالے آدمیوں کو ۴۔ بحری فوج کے لشکروں کو جس میں سرنگ اور ٹنڈل بھی شامل ہیں ۱۔

۸۔ فقرہ ۶ و ۷ میں جن تمغوں کے دینے کا ذکر ہے وہ صرف سنہ ۱۹۱۲ء کے لئے ہوں گے۔

۹۔ ایک نقد رقم بطور انعام کے تمام برٹش اور دیسی فوجوں کو حسب تفصیل ذیل عطا کی گئی ہے۔ یہ روپیہ ایسے طور پر صرف کیا جائیگا جس طرح صاحبان کمانڈنگ آفیسرز مناسب خیال کریں رائل ہارس آرٹیلری کی باٹری کو ۵۰ روپیہ۔ رائل فیلڈ آرٹیلری کی باٹری کو ۴۰ روپیہ۔ رائل گیریژن آرٹیلری کی ہر ایک کمپنی کو ۲۰ روپیہ۔ پہاڑی توپخانہ کی باٹری کو ۴۰ روپیہ۔ برٹش رسالہ کو ۳۰ روپیہ۔ برٹش انفنٹری بٹالین کو ۴۵۰ روپیہ۔ یوروپین سفرمینا کو ایک روپیہ فی کس۔ دیسی پہاڑی باٹری کو ۴۰ روپیہ سرحدی گیریژن آرٹیلری ۳۵ روپیہ۔ فیلڈ باٹری حیدرآباد کنٹنجنٹ ۳۵ روپیہ۔ باڈی گارڈ کو ۲۰ روپیہ۔ دیسی رسالہ کو ۱۵۰ روپیہ۔ گائڈ فوج کو ۳۰۰ روپیہ۔ دیسی انفنٹری بٹالین کو ۱۰۰ روپیہ۔ دیولی و ارنپورہ فورس کو ۴۰ روپیہ۔ مالوہ بھیل کورز کو ۱۵۰ روپیہ۔ عدن ٹروپس کو ۴۰ روپیہ۔ نیپال اسکورٹ کو ۲۰ روپیہ۔ لوکل کورز علاوہ مذکورہ بالا کو ۲۰۰ روپیہ۔ پنشن سفرمینا کو ۴۰ روپیہ۔ پہاڑی توپخانہ کے دیسی ادرکو ۲۵ روپیہ

کورنر آف سب مرایٔن کو ۵۰ روپیہ۔ کوسٹ ڈیفنس لشکروں کو ۱۰ روپیہ۔ امیونشن کالم کے ہیڈکوارٹر یونٹس کے دراہیوں کو ۷ روپیہ فی یونٹ۔ ساحلِ سمندر کی حفاظت کرنے والے لشکروں کو ۵ روپیہ فی یونٹ انڈین سب مائن مائننگ کمپنی کے برٹش عہدہ داروں کو ایک روپیہ فی کس۔

۱۰- دیسی پہاڑی باٹریوں کی قابلِ قدر خدمات کے صلہ میں کوئٹہ پہاڑی باٹری جالندھر۔ لاہور۔ گجرات۔ مری۔ ایبٹ آباد پہاڑی باٹریوں کو ایک زمرہ میں میں شامل کیا گیا ہے۔ اور انکو حسب ذیل رعائتیں دی گئی ہیں۔ (۱) ۶ باٹریونکے سینیر صوبیدارونکو صوبدار میجری کا رینک اور تنخواہ ملا کرے (۲) برٹش آفیسرز جبکہ وہ ڈیرہ اسمعیلخاں۔ بنوں یا وادی توچی میں مقیم ہوں تو سال بھر میں بجائے دو ماہ کے تین ماہ کی رعایتی رخصت کے حقدار سمجھے جائیں۔

۱۱- اِس مُبارک تقریب پر بطور نشان ترحم شاہی کے برٹش اور نیٹو ملٹری مجرموں کی خاص جماعت یکم جنوری ۱۹۰۳ء کو علی الصباح رہا کی گئی ہے اور بعض کی سزائیں کم کی گئی ہیں جس کی بابت حضور کمانڈر انچیف بہادر نے احکامات نافذ فرمائے۔

۱۲- حضور کمانڈر انچیف بہادر مندرجہ بالا حکم کے عملدرآمد کے متعلق مزید احکام نافذ کرینگے۔ دیسی فوج میں حسب ذیل ترقیاں اور آرڈر آف برٹش انڈیا عطا کیا گیا ہے۔ (۱) لاہور پہاڑی باٹری کے صوبیدار شیر سنگھ سردار بہادر منصب صوبیدار میجری پر بطور سوپر نیومرری تعینات ہوئے۔ (۲) اوّل بمبئی لانسرز کے رسالدار رام چندر راؤ مہادک سردار بہادر بطور سوپر نیومرری رسالدار میجری پر مامور ہوئے۔ (۳) ۹ بنگال لانسرز کے جمعدار دھنگری بطور سوپرنیومرری رسالداری پر تعینات ہوئے (۴) حسب ذیل آفیسرز بطور سوپرنیومرری صوبیداری یا رسائیداری پر

ترقی یاب ہوئے - ۱۸ بنگال لانسرز کے جمعدار گل نواز خاں اوّل لانسرز حیدرآباد کنٹنجنٹ کے جمعدار کیہر سنگھ - سوم بمبئی انفنٹری کے جمعدار بہاؤ ساونت میرواڑہ بٹالین کے جمعدار بنّا - اوّل برہمن انفنٹری کے جمعدار گنگادین پانڈے (۵) آرڈر آف برٹش انڈیا درجہ اوّل مع خطاب سردار بہادر حسب ذیل دیسی افسروں کو عطا ہوا - اوّل مدراس لانسرز کے رسالدار میجر محمد بیگ بہادر - ۱۵ بنگال لانسرز کے رسالدار میجر معزالدین خان بہادر - ڈیرہ جات پہاڑی باٹری کے صوبیدار غلام محمد بہادر اوّل مدراس لانسرز کے رسالدار میجر شیخ فرید بہادر - ۱۴ بنگال لانسرز کے رسالدار میجر لہنا سنگھ بہادر - اوّل برہمن انفنٹری کے صوبیدار بھولا تیواری بہادر - ۲۰ پنجاب انفنٹری کے صوبیدار طرہ باز خاں بہادر - بنگال سفرمینا کے صوبیدار جگ سنگھ بہادر - مدراس سفرمینا کے صوبیدار میجر ہیرا سنگھ بہادر -

دربار کے دن قیدیوں کی رہائی

اسی ضمن میں یہ بھی لکھدینا ضروری ہے کہ حضور وائسرائے و گورنر جنرل کشور ہند نے ازراہِ ترحم و الطاف ہندوستان کے تمام جیلخانوں سے بہت سے دیوانی اور فوجداری کے قیدی اور جزیرۂ انڈمان کے دائم الحبس قیدیوں کو رہا فرمایا - ہندوستان کے جیلخانوں میں سے ۱۰ فیصدی فوجداری کے نیک چلن قیدی رہا ہوئے - انکی تعداد ۹ ہزار ایک سو ۳۲ ہے - برہما کے ۱۲۷ قیدی جو ڈکیتی وغیرہ کے جرائم میں قید تھے رہا ہوئے -

(۱) علاوہ ازیں ازراہِ ترحم خسروانہ حضور وائسرائے نے تمام ہندوستان کے جیلخانوں میں سے ۱۲۳۸ مجرم قیدی عورتوں کو جنکے جرائم سنگین تھے رہا فرمایا - اور (۲) ۴ ہزار ۹ سو ۹ - ایسے قیدیوں کو رہا فرمایا کہ جنکی میعادِ قید ایک ماہ یا اس سے کم تھی - اور جنکی یکم جنوری سنہ حال کو نصف میعاد گذر چکی تھی - اور

(۳) ۲۷۶- ایسے قیدیوں کو رہا فرمایا کہ جن کی میعادِ قید چھ ماہ سے زاید نہ تھی اور جنہوں نے قحط میں بھوکوں مرنے کیوجہ سے جرائم کئے تھے۔

(۴) جزیرۂ انڈمن (کالے پانی) کے ۲۵۲ دائم الحبس قیدیوں کو جن میں عورت و مرد دونوں قسم کے قیدی تھے۔ حضور وائیسرائے نے پُوری آزادی کے ساتھ رہا فرمایا اور ۱۳ دائم الحبس قیدیوں کو جو ڈکیتی کے جرائم میں دائم الحبس ہوئے تھے مشروطیہ رہائی عطا فرمائی۔ کالے پانی سے ۵۰۰ کے قریب دائم الحبس رہا ہوئے۔

(۵) علاوہ ازیں حضور وائیسرائے نے ازراہِ مرحمتِ خسروانہ و نوازشِ شاہانہ ہندوستان کے تمام جیلخانوں کے اُن زائد المیعاد قیدیوں کے بارہ میں کہ جنکو حفظ امنِ عامہ کے لحاظ سے بالفعل رہا کرنا مناسب نہیں ہے یہ حکم نافذ فرما دیا ہے کہ اُن کی میعادِ قید میں بحساب ہر سال ایک ماہ کی معافی دیدیجایا کرے۔

(۶) جزیرۂ انڈمان کے باقیماندہ دائم الحبس قیدیوں کی بابت حضور وائیسرائے نے یہ رعائتیں فرمادی ہیں کہ جو قیدی نیک چلن رہے ہیں اُنپر قید کی سختی کم کر دیجائے۔ اور اگر اُنکا چال چلن اسیطرح عمدہ رہا تو اُنکے ساتھ اَور رعائتیں کیجائینگی۔ حضور وائیسرائے نے عدالت دیوانی کے اُن قیدیوں کے لئے کہ جو قرض ادا نہ کرنیکی وجہ سے قید ہیں یہ احکام نافذ فرمائے کہ ایسے کل قیدی کہ جنکے قرضہ کا کل روپیہ ایک سو روپیہ سے زیادہ نہو بشرطیکہ وہ غریب اور نادار ہوں۔ مکر سے غریب نہ بنے ہوں اُنکو بھی ہندوستان کے جیلخانوں سے رہا کر دیا جائے۔ اور سرکاری خزانہ سے اُنکے قرضہ کا روپیہ ڈگریداروں کو دیدیا جائے۔ چنانچہ ایسے ۱۳۲ دیوانی کے قیدی رہا کئے گئے۔ اُنکے قرضہ کی کل تعداد ۵۸۰۰ روپیہ تھی۔ یہ روپیہ گورنمنٹ نے ڈگریداروں کو ادا کر دیا۔

(۷) مذکورۂ بالا قیدی کہ جو تخت نشینی کے دربار کی خوشی میں یکم جنوری ۱۹۰۳ء کو ہندوستان کے تمام جیلخانوں اور جزیرۂ انڈمان سے رہا ہوئے اُنکی تعداد ۱۶ ہزار ۸۸ ہے

فصل ششم

دیسی رؤساء و اُمراء کی گارڈن پارٹی

بتاریخ ۲۔جنوری سنہ ۱۹۰۳ء

جس طرح یکم جنوری سنہ ۱۹۰۳ء کو فراغتِ دربار کے بعد بوقتِ شب یوروپین مہمانوں سفراے دولِ خارجہ اور معزز عمائدین و حکام سرکاری کو دعوت دی گئی تھی۔ اسی دستور کے مطابق دوسری جنوری کی سہ پہر کو قدسیہ باغ میں حضور وائسرائے کیطرف سے سرکاری طور پر دیسی رؤساء و اُمراء کو بھی ایک گارڈن پارٹی دیگئی جس میں گو کوئی دعوت کا اِنتظام تو نہ تھا۔ مگر فواکہات اور شیرینی وغیرہ کی اقسام سے ایسی چیزیں جو ایسی پارٹیوں کا جُزو لاینفک ہو چکی ہیں سب موجود تھیں۔ ہندو اور مسلمانوں کے لئے الگ الگ اہتمام کیا گیا تھا جس کو منتظمین نے نہایت سلیقہ سے فراہم کر رکھا تھا۔ گو دیسی رؤساء میں ابھی تک وہ بے تکلفی پیدا نہیں ہوئی۔ کہ وہ یوروپین صاحبوں کیطرح بلا حجاب خورد و نوش کا سلسلہ جاری کر دیں۔ اور ایسے ریفرشمنٹ روموں سے فائدہ اُٹھا سکیں کیونکہ ایشیائی داب کے مطابق جبتک میزبان خود اصرار اً کسی چیز کیلئے نہ کہے خود بخود ہاتھ بڑھانا رائج نہیں ہے۔

قدسیہ باغ میں جہاں اِس پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد آمد حسبِ دستور وقتِ مقررہ سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ کیونکہ اُنکے نزدیک یہ بھی ایک سرکاری تقریب تھی۔ اور واقعی بھی چونکہ اِس میں مختلف صوبوں کے قائم مقاموں کو حضور وائسرائے اور عالیجناب ڈیوک آف کنیاٹ بہادر

کے حضور میں اپنے اپنے صوبہ کے حکّامِ اعلیٰ نے پیش کرنا تھا۔ اس لئے اِسکی وقعت بجائے گارڈن پارٹی کے درباری صورت میں ترقی ہو گئی تھی۔

بہرحال جب تمام دیسی رؤساء اور سرحدی و بلوچی سردار وغیرہ سب آ گئے تو انگریزی افسروں کی آمد آمد شروع ہوئی جنمیں نواب لفٹنٹ گورنر بہادر پنجاب۔ لفٹنٹ گورنرانِ بنگال و صوبجاتِ متحدہ و برہما۔ چیف کمشنرانِ سرحدی و آسام وغیرہ اور آنریبل ایجنٹانِ گورنر جنرل بہادر راجپوتانہ۔ بلوچستان و متوسط۔ ممبرانِ کونسل حضور وائسرائے۔ گورنرانِ مدراس و بمبئی وغیرہ وغیرہ سبھی عالی قدر حکّامِ ذی شان کو سمجھنا چاہیئے۔ جنکے بعد عالیجناب ڈیوک اوف کنیاٹ بہادر اور حضور وائسرائے بہادر تشریف شریف لائے۔ جنکو حسب معمول پہلے تو فوجی دستے نے سلامی دی۔ جس کے ساتھ ہی باجے نے بھی سُریلی آواز میں خوش آمدید کہا۔ اور ڈاکٹر جارج واٹ صاحب مُہتمم نمائش مع معزز حکّام کے آپکو شایانِ استقبال کے ساتھ باغ میں لے گئے۔ جہاں حاضرین کا ایک جمِ غفیر آپکے سلام کو موجود تھا۔ اور جن سب کو علاقہ وار ہر ایک صوبہ کے لفٹنٹ گورنر صاحب نے آپ کے روبرو پیش کیا۔ چنانچہ سرحدی سرداروں کو چیف کمشنر صاحب صوبہ سرحدی نے۔ اور بلوچی سرداروں کو ایجنٹ گورنر جنرل بلوچستان نے آپکے حضور میں پیش فرمایا۔ جن سب کا سلام حضورِ ممدوح نہایت شوق و اخلاق سے قبول فرماتے بلکہ دو دو لفظوں میں مزاج پرسی بھی کرتے جاتے تھے۔ علی ہذا ڈیوک اوف کیناٹ بہادر بھی ہر ایک دیسی سردار سے نہایت ہی تپاک کے ساتھ اظہارِ لطف و عنائیت کرتے جاتے تھے۔ اور دونوں صاحب ہر ایک ایسے پیش ہونیوالے کو جسے اِس سے پہلے کبھی ایک دفعہ بھی اُنسے شناسائی کا موقع مِل چُکا ہو

بیک نگاہِ بے تکلف پہچان لینے سے اپنی قوّتِ حافظہ کا ثبوت دیدیتے تھے۔
جسے دیسی رؤساء و اُمرائے ہند بہت کچھ غنیمت سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اکثر یورپین
حُکّام اپنے مُلاقاتیوں کو "ویل تمہارا کیا نام" کہہ کے ملنے کے عادی ہیں لیکن
برخلاف اِس عادت کے جب حضور وائسرائے اور ڈیوک صاحب اِس طرح
اپنے سابقہ مُلاقاتیوں سے پیش آئے تو ہندوستانی رئیسوں اور سرداروں
کے دِل بلّیوں بڑھ گئے۔

یہ مُلاقاتی کارروائی قریباً آدھ گھنٹہ تک جاری رہی۔ جس کے بعد حضورین
ممدوحین اِدھر اُدھر گلگشت فرماتے مع الخیر کیمپ کو واپس تشریف لے گئے۔ اور
استقبال کیطرح مسٹر جارج واٹ صاحب نے مشایعت بھی ویسے ہی طریق
پر کرکے آپکو گاڑی پر سوار کرایا۔ باجہ اور فوجی گارڈ نے بہی معمولی طور پر سلامی اُتاری
تعجب ہے کہ لارڈ کرزن بہادر ایسے مشہور بولنے والے نے کوئی تقریر اِس موقع پر
نہ فرمائی جس کی ضرورت تھی۔ لیکن اصلیت یوں ہے کہ دربار اور دعوت کی
زوردار تقریروں سے آپ تھکے ہوئے تھے۔ ورنہ کچھ نہ کچھ ضرور گل افشانی فرماتے
اِس کے بعد کی تاریخوں میں قریباً ہر روز کسی نہ کسی پریسیڈنسی کے گورنر یا
یا لفٹنٹ گورنر اور کمینڈر انچیف صاحب کے ہاں حُکّام و عمائدینِ سلطنتِ
انگریزی کی دعوتیں ہوتی رہیں۔ جنمیں حضور وائسرائے اور ڈیوک اوف
کنیاٹ بہادر بہی شریک ہوتے رہے۔ مگر ان دعوتوں میں چونکہ کوئی
درباری کارروائی نہوتی تھی اور دیسی رؤسا و اُمراء بھی شریک
نہ ہوتے تھے اِسلئے اِنکی جُداگانہ کیفیت لکھنے
کی کوئی ضرورت نہیں
معلوم ہوتی

فصل ششم

بتاریخ ۲ جنوری ۱۹۰۳ء وقت شب

روشنی اور آتشبازی دہلی میں

جس کامل اہتمام اور پوری آن بان کے ساتھ ۲ جنوری کو بوقتِ شب یہ عجیب خوش آیند اور خوشنما نظارہ دیکھنے میں آیا وہ نہ صرف دہلی کے لئے بلکہ تمام ہندوستان کے لئے ایک دل افروز تاریخی واقع کہنا چاہیئے۔ کیونکہ ہندوستان میں اس سے پہلے بھی اگرچہ آتشبازی اور روشنی کی بہاریں بڑے اہتماموں سے دیکھی اور دکھائی گئی ہیں۔ مگر یہ روشنی اور آتشبازی دونوں ولائتی ایجاد کے باعث ہندوستانیوں کے لئے نئی چیزیں تھیں۔ اور عام لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ آتشبازی اور برقی روشنی کی طیاری کا ٹھیکہ انگریزی کمپنیوں کو دیا گیا تھا۔ جس پر بیش قرار صرف بھی آیا۔ یعنے صرف آتشبازی کا بل تیس ہزار روپیہ کا تھا۔ جس کا نظارہ ڈیڑھ دو گھنٹے سے زیادہ کا نہ تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اکثر اخبارات معترض بھی ہوئے۔ کہ اس سے ہندوستانی آتشبازوں کو جو عرصہ سے اس تقریب پر فایدہ اٹھانے کے خیال میں تھے۔ کوئی نفع نہیں ہوا لیکن جب اس پہلو کو دیکھا جائے کہ لارڈ کرزن بہادر اس دربار کو اور اس کے سازوسامان کو نہایت ہی اعلی اور قابلِ دید بنانا چاہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ اس کا بھی لحاظ کیا جائے کہ معمولی تیل اور دیسی آتشباز یہ ندرت پیدا ابھی نہ کرسکتے تھے۔ جو اس برقی روشنی اور ولائتی آتشبازی سے پیدا ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ اعتراض خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے سوا یہ بات بھی قابلِ غور ہے۔ کہ حضور وائسرائے اس تقریب کو بالکل اسی ڈھنگ پر ادا کرنا چاہتے تھے۔

جیساکہ ولائت میں ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں بھی آتشبازی کا ٹھیکہ اِسی کمپنی کا تہا اور روشنی بھی برقی ہی ہوئی تھی۔ بہرحال ۲ جنوری کی شام کو دہلی کے بازارِ اُن و قلعہ مُعلّے۔ ریلیے سٹیشن اور دوسری مشہور عمارات اور سنٹرل کیمپ پر اِس عالم افروز روشنی سے ایک نُورانی سماں دکھائی دیتا تھا۔ اور یُوں معلوم ہوتا تھا۔ کہ ایک عجیب قسم کا چمکیلا سُفید۔ نظر فریب اور خوشنما مہتاب ہے۔ جو در و دیوار کو یکساں مُنوّر کر رہا ہے۔ جسمیں نہ تو کوئی حِدّت ہے نہ بدبو۔ اور نہ کمی بیشی۔ جامع مسجد کے چکّر اور چاندنی چوک میں اِن مہتابی لیمپوں کی بہار خاص طور پر لائقِ دید تھی۔ اور چونکہ آتشبازی کی لین ڈوری بھی جامع مسجد کے مشرقی دروازہ کے سامنے قلعہ کے اِس طرف ہی لگی ہوئی تھی۔ اِسلئے یہی ایک ایسا موقع تھا جہاں سے لوگ اِس کا نظارہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ حضور وائسرائے ڈیوک صاحبان اور دوسرے جلیل القدر اعیان و افسرانِ گورنمنٹ اور ولائیتی مہمانوں اور سفرائے دول خارجہ کے لئے تو جامع مسجد کے دالانوں اور چھتوں پر کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ اور دیسی مہمانوں کے لئے مسجد کے سامنے ایک وسیع شامیانہ کے نیچے نشستوں کا اہتمام کیا گیا تہا۔ اور اِسکے سوا بلاسایہ بھی کچھ بنچیں بچھا دی گئی تھیں۔ عام وزیٹر اور تماشائی جامع مسجد کی سیڑھیوں اور اُس عارضی گیلری کے لئے ٹکٹ لے چکے تھے۔ جو جلوس کے موقع پر بنائی گئی تھی اِس کے علاوہ آس پاس کے مکانات لوگوں نے کرایہ پر لے رکھے تھے۔ اور آتشبازی کے گرد و پیش کا میدان اور بازار عوام کے لئے وقف تہا جسپر شام سے بھی پہلے لوگوں نے آ آکر قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ جامع مسجد کی گیلری کے ٹکٹ یافتہ بھی شام سے پہلے ہی پہنچ پہنچ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے شروع ہو گئے تھے اور مہمانوں کی آمد آمد بھی شام کے بعد مگر آتشبازی کے وقتِ مُقرّرہ سے

بہت پہلے ہو رہی تھی۔ البتہ والیانِ ریاست میں سے بہت کم صاحبان تشریف فرما ہوئے۔ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ممتاز گروہ عوام کی شرکت سے بسبب اپنے پرانے وادب آداب کے ابتک ویسا ہی محترز ہے۔ بہر کیف چار پانچ بجے قبل شام سے ۹ بجے شب تک درباری اور وزیٹر سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اور تمام ایسے مقام جہاں سے یہ نظارہ نظر آسکتا تھا۔ آدمیوں سے بالکل اٹ گئے تھے۔ جس کے بعد گاڑیوں کے جانے کی بھی ممانعت ہوگئی۔ کیونکہ ایسی حالت میں گاڑیوں کی نسبت بہت بڑے خطرات کا احتمال تھا۔ جبکہ آدمیوں کو بھی چلنے تک کا رستہ نہ ملتا تھا۔ لیکن بڑے بڑے حکام اور سفرائے دول خارجہ اس کے بعد بھی آتے رہے۔ جن سب کی گاڑیاں دریبہ کیطرف کھڑی کردیجاتی تھیں۔ اور بدستور ایک ایک نمبر کے دو دو ٹکٹ کوچمینوں اور گاڑی نشین صاحبان کو دیدیئے جاتے تھے۔ سب کے بعد وائسرائے اور ڈیوک صاحبان کی سواری ٹھیک سوا دس بجے جامع مسجد پہنچی۔ اور جب یہ سب صاحبان مع اپنی بیگمات کے اپنی اپنی ممتاز نشستوں پر جلوہ افروز ہوگئے۔ تو آتشبازی چھوٹنے لگی۔ جسکو اعلیٰ سے ادنیٰ اور فاضل سے عامی تک سنے نہایت ذوق وشوق سے دیکھکر و لائیتی کاریگری کی تہ دِل سے داد دی۔ چنانچہ اس عجیب وغریب آتشبازی کی تفصیل کے لئے اس کی ایک فہرست بھی ذیل میں درج کیجاتی ہے

فہرست آتشبازی دہلی

(۱) شہنشاہی سلامی۔ا

(۲) کرسٹل پیلس کی پچہتر متلون روشنیوں کا مجموعہ جس کا رنگ بار بار بدلتا تھا۔

(۳) روشنی کے وقت پچیس پچیس بالوں کی مختلف باڑھیں۔

(۴) ہوائی اشارے جو بڑی بلندی پر جاکر پھٹتے تھے اور وہاں سے ایک اشارہ ہوتا تھا

(۵) دس رنگ کی آگ سے جادو کی روشنی جس سے گرد و نواح کے پھول اور پتوں کا رنگ دم بدم بدلتا تھا۔

(۶) دو غباروں کا اُڑنا جس پر میگنیشیم۔ روشنی اور آتشبازی آویزان تھی۔ اور غبارے جوں جوں اُڑتے جاتے تھے ووں ووں اُنمیں عمدہ قسم کی آتشبازی چھوٹتی جاتی تھی۔

(۷) سیٹی بجانے اور آدے کرنے والے کبوتر جس سے بہت بڑی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔

(۸) پچیس بڑے بڑے بانوں کا ایک لخت چھوٹنا جنمیں سے طرح طرح کے ستارے گرتے تھے۔

(۹) رائین بی آرکٹ کا ابر جو اٹھارہ اٹھارہ انچہ مدور دس شل گولوں سے بنا تھا جنمیں سے ہزارہا پیلے ستارے گر رہے تھے۔

(۱۰) نہائیت پُر آب و تاب آفتاب جس کا قطر تیس فیٹ تھا اور جس میں رنگ رنگ کی آتشبازی کے چکر گھوم رہے تھے اور سنہری روشنی اور رنگ برنگ کے شرارے اور اسی کے گرد سے آگ کی سنہری رنگ کی لپک نکلتی تھی۔

(۱۱) مکھیوں کا بہت بڑا دل جو بیس بانوں کے چھوٹنے سے آناً فاناً پیدا ہو گیا تھا۔

(۱۲) اٹھارہ اٹھارہ انچہ مدور دس شل گولوں کے چھوڑنے سے ایک لکۂ ابر میں سے یاقوت کی بارش۔

(۱۳) چرخ زن آفتاب جنکے گرد دُہرے دُہرے ستارے تھے۔ یہ کیفیت ایک بہت بڑے چوکھٹے میں معلوم ہوتی تھی جس کے گرد آگ کی ایک جھالر نظر آتی تھی۔

(۱۴) زیور تاج کے ہوائی گُچھے جو بیس جدید خاص پارالٹ کے بانوں سے گرتے تھے اور بانوں کے بلندی پر پہنچنے کیوقت بصورت زنجیر مسلسل ستارے گرتے تھے اور زمین پر پہنچنے تک طرح طرح کی رنگتیں بدلتے تھے۔

(۱۵) شل گولوں کی ایک باڑھ جنمیں پانچ پچیس انچہ مدور اور چالیس انچہ مدور تھے

جنمیں سے سنہرے بروم وپر اور خوب چمکتے پٹ بجنے اور آتشی سانپ اور لیلی مجنوں کے درخت وغیرہ پیدا ہوتے تھے۔

(۱۶) بڑے بڑے شل کے گولوں کی باڑھ جسمیں ایک گولہ اڑتیس انچ مدور تہا جسمیں کئی گولے تھے اور ایک پچاس انچ مدور جس سے رنگین گنبد دنیں بازیگر کیطرح کارروائی ہوتی تھی

(۱۷) تمغہ اسٹار آف انڈیا یعنے ستارۂ ہند جس میں پانچ دُمبالوں کا ستارہ تھا اور اس کے گرد سنہری جہالر تھی۔ اور پھر اُس کی دونوں جانب سے ایک پہیے کے ذریعہ سے بندوقوں کی باڑھ چلتی تھی۔ یہ آتشبازی نہائیت کیفیت کی تھی۔

(۱۸) یاقوت وزمرد کا ابر جو اٹھارہ اٹھارہ انچ مدور دس شل گولوں کے یکدم سے اُڑنے سے پیدا ہوا تھا۔

(۱۹) جب پچیس بڑے بڑے بان چھوڑے گئے تو انمیں سے ہر رنگ کے نہائیت عُمدہ عُمدہ ستارے گرے۔

(۲۰) دوسو رومی شمعونکی ایک باٹری جس سے مختلف رنگ کی روشنی پیدا ہوتی تھی اور وہ سب طرف حالتِ رقص میں تھی۔

(۲۱) آگ کی پانچ بڑی بڑی کانیں جسمیں طرح طرح کے آتشی سانپ اور بچھو ادہر اُدہر رینگتے نظر آرہے تھے۔

(۲۲) بیجنی اور اور رنگوں کا ابر جو آٹھ آٹھ انچ مدور دس شل گولوں کے چلنے سے پیدا ہوا تہا۔

(۲۳) مرصع تاڑ کے درختوں کا ایک نخلستان جنکے پتے سنہری رنگ کے مرصع تھے اور انمیں سے ہر قسم کے پہل گرتے تھے۔

(۲۴) پکھراج اور زمرد کا ابر آٹھ آٹھ انچ مدور دس شل گولوں کے چلنے سے پیدا ہوتا تھا۔

(۲۵) پچیس بڑے بڑے بان جنمیں سے ہر قسم ورنگ کے ستارے جھڑتے تھے۔

(۲۶) بیس بیس فیٹ قطر کی دو چادریں جنمیں آتشبازی کے چکّر گھوم رہے تھے اور ہر دَور پر اُنکا رنگ بدلتا رہتا تھا اور اُنکے گرد سُنہری آتشی جھالر تھی۔

(۲۷) پانچ خاص سرنگون کے اُڑانے سے مقناطیسی روشنی ہونا۔

(۲۸) پچیس بڑے بڑے بان جس میں سے مختلف رنگ کے ستارے گرتے تھے۔

(۲۹) بڑے بڑے شل گولوں کی باڑھ جسمیں پانچ گولے پچیس پچیس انچ اور چار گولے ۲۰-۲۰ انچ مدوّر تھے جس سے نقرئی بارش ہوئی اور دُنبالہ دار ستارے گرے۔

(۳۰) اٹھتیس انچ مدوّر بڑے بڑے شل گولے جنمیں سے عمدہ عمدہ ستارے سُنہری اور سُرخ رنگ کے گرے۔ جن کا رنگ ہر وقت بدلتا رہتا تھا۔ اِنمیں ایک گولہ پچاس انچ مدوّر تھا جسمیں سے بجلی گری۔

(۳۱) ہز اکسلنسی رائیٹ آنریبل لارڈ کرزن رئیس کڈلسٹن وائسرائے وگورنر جنرل ہند اور رائیٹ آنریبل لیڈی کرزن کی بہت بڑی بڑی آتشی تصاویر جو ایک نہائیت تیز آگ سے پیدا ہوئیں۔

(۳۲) دوسو رومی شمعوں کی باڑھ جسمیں سے ہزارہا چمکدار ستارے گر رہے تھے۔

(۳۳) پچیس بڑے بڑے بان جسمیں سے ہر رنگ کے ستارے گر رہے تھے۔

(۳۴) پٹاقوں کی پانچ سرنگوں کا اُڑنا جسمیں پٹاقوں کے چلنے اور آتشبازی چھوٹنے کی بڑی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔

(۳۵) یاقوت اور ستاروں اور زمرّد و نکا ڈھیر دفعتاً واحدۃً اٹھارہ اٹھارہ انچ مدوّر شل گولوں کے چلنے سے پیدا ہوتا تھا۔

(۳۶) تاجپوشی کی مقناطیسی قوّت کا فوّارہ جو چالیس فیٹ بلند چھوٹتا تھا۔ اور نہائیت عمدہ روشنی اُس سے مترشح ہوتی تھی۔

(۳۷) بیس بڑے خاص بانوں کے چلنے سے زمرّد باری۔

(۳۸) کاورنیس اور فرگٹ مینائٹ کے پھولونکا گلدستہ اٹھارہ اٹھارہ انچہ مدوّر دس شل گولوں کے جلنے سے۔

(۳۹) سُرنگوں میں آگ دینے سے پھولوں کے گملے پیدا ہونا۔

(۴۰) بڑے بڑے شل گولونکی باڑھ جسمیں پانچ گولے پچیس پچیس انچہ مدوّر چار تیس تیس انچکے تھے جس سے گیہوں کے کہلیاں اور طاؤسی پَرونکے مُٹھے اور عُول بیابانی کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔

(۴۱) بڑے شل گولوں کی باڑھ جسمیں ایک گولہ اڑتیس انچہ مدوّر اور ایک پچاس انچہ مدوّر تھا۔ انہیں سے کبھی سُنہری رنگ کے اور کبھی یاقوتی رنگ کے اور کبھی زمُردی رنگ کے ستارے گرے۔

(۴۲) ویر رائیل ہائینس ڈیوک ڈچز آف کیناٹ کی آتشی تصویریں۔

(۴۳) دس دس انچہ مدوّر دس شل کے گولوں سے تاجپوشی ہیں ترشح ہونا۔

(۴۴) الگزینڈرا اسٹار یعنے ستارہ الگزینڈرا کا بڑے بڑے خاص بانوں کے اُڑنے سے پیدا ہونا جس سے نہایت خوبصورت رنگارنگ کے ستارے گر رہے تھے۔

(۴۵) سرخ و سفید اور نیلے رنگ کا ابر جو اٹھارہ اٹھارہ انچہ مدوّر دس شل کے گولونکے اُڑنے سے پیدا ہوا تھا۔

(۴۶) تیس تیس فیٹ قُطر کے بڑے بڑے گنبد جن میں آتشبازی کے چکر تھے۔ اور اُنکے گرد آگ کی سُنہری پتیاں تھیں۔

(۴۷) مقناطیسی بارش کا ترشح جو بیس بڑے بڑے بانوں کے چھوٹنے سے پیدا ہوئی تھی۔ اور ہزاروں روپہلی ستارے گر رہے تھے۔

(۴۸) پانچ خاص سرنگوں کے اُڑانے سے پھولوں کے گملے نمایاں ہونا۔

(۴۹) تیس تیس انچہ مدوّر پانچ شل گولوں سے ابر کا پیدا ہونا۔

(۵۰) رائیٹ آنریبل لارڈ کچنر کی بہت بڑی آتشی تصویر۔
(۵۱) آتشبازی کا اشارہ جو بلندی پر جا کر شق ہوا۔ اور وہاں سے اشارہ ہوا۔
(۵۲) کرسٹل پیلس کی بڑی بڑی پچہتر شمعونکی روشنی جس کا رنگ بار بار بدلتا تھا۔
(۵۳) روشنی میں تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد پچیس بالوں کا چلنا جنمیں سے ہزار ہا خوبصورت ستارے گرتے تھے۔
(۵۴) ایک ہوائی اشارہ اڑایا گیا جو بلندی پر جا کر پھٹا اور وہاں سے اطلاع ملی۔
(۵۵) دس رنگین گولوں کے ذریعہ سے جادو کی دوسری روشنی جس سے گرد ونواح کے پھولوں پتوں پر اثر پڑتا۔ اور انکی صورت برابر بدلتی رہتی تھی۔
(۵۶) دو غباروں کا اڑنا جسپر میگنیشیم روشنی اور آتشبازی تھی جو بلندی پر پہنچکر چھوٹی۔
(۵۷) بڑے بڑے شل گولوں کی باڑھ جنمیں سے پانچ پچیس پچیس انچہ مدور اور چار بتیس بتیس انچہ مدور تھی جسمیں آتشی سانپ اور روپہلے رنگ کی تتلیاں وغیرہ نکلتی تھیں
(۵۸) بڑے بڑے شل گولونکی باڑھ جسمیں سے ایک اڑتیس انچہ کا جسمیں سے سُنہرے ستارے گرتے تھے جو پھر زمردین ہوجاتے اور ایک پچاس انچہ دور کا جس میں سے سُفید رنگ کے سانپ نکلتے تھے۔
(۵۹) مقناطیسی ترشح جو ایک سو خاص رومی شمعوں سے پیدا ہوئی تھی اور اسمیں سے نہایت پُر آب وتاب اور خوبصورت ستاروں کا پیدا ہونا۔
(۶۰) زمرد اور پکھراج کا ابر پچیس پچیس انچہ کے دس شل گولوں کے چلنے سے۔
(۶۱) ایک عجیب وغریب فوارہ پچاس فیٹ بلند اور دو فیٹ قطر کا ایک حلقہ میں گھومتا ہوا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ زمین پر رنگ برنگ کے زمرد برس رہے ہیں
(۶۲) ہوائی گیہوں کے پولے جو تین سو بالوں کے چلانے سے پیدا ہوئے تھے

جنمیں اُلٹے درخت معلوم ہوتے تھے۔

(۶۳) پانچ پچیس پچیس انچہ اور چار تیس تیس انچہ کے مدوّر شل کے گولوں سے الہ دین کے پہاڑی خزانہ کے سنہری جواہر کا گرنا۔

(۶۴) ایک اڑتیس انچہ اور ایک پچاس انچہ کے دَور کے شل گولوں کے چلانے سے ایک بگولا پیدا ہونا جسمیں تارے چمک رہے تھے۔

(۶۵) دریائے نیاگرا پر آتشزدگی اور سو فیٹ لمبی سوتے کی دہار کا پانی کیطرح زمُرّدیں گرنا اور زمین پر گر کر اُس سے پھُولوں کا پیدا ہونا۔

(۶۶) پچیس تاڑیوں کے چلنے سے مختلف قسم کے ستاروں کا گرنا۔

(۶۷) پچیس پچیس انچہ کے دس شل کے گولوں کے چلنے سے سُنہری اور تانبے کے رنگ کا ابر پیدا ہونا۔

(۶۸) پانچ سُرنگوں کے چلنے سے پھُولوں کے بڑے بڑے گملے نکلنا۔

(۶۹) پانچ پچیس پچیس انچہ مدوّر اور تین تیس تیس انچہ کے شل گولوں سے گیہوں کے پَودے اور طلائی زیور وغیرہ پیدا ہونا۔

(۷۰) ایک اڑتیس انچہ دَور کے گولے سے بہت سی آتشی مینڈکیوں کا نکلنا اور ایک پچاس انچہ مدوّر گولے سے ہیوُل نکلنا۔

(۷۱) بیس سنسناتے ہوئے بانوں کے چلنے سے عجیب کیفیت پیدا ہونا۔

(۷۲) ہز مجسٹی شاہ ایڈورڈ ہفتم شاہ و شہنشاہ اور ہر مجسٹی ملکہ الگزینڈرا کی بآن آتشی تصویر کا نمایاں ہونا جس کے نیچے لکہا ہوا تھا کہ "یہ مُدّت تک حکمرانی کریں"۔

(۷۳) تاجپوشی کی تین سو ہوائیوں کا چلنا جنمیں نہایت ہی خوشنما ستارے شعلہ افگن تھے۔

(۷۴) تاجپوشی کے ستارے جو ایک سو خاص رومی شمعوں سے پیدا ہوتے تھے۔

(۷۵) یادگار بانوں کا اڑنا جنہیں سے ستارے گر رہے تھے۔

(۷۶) رائل آئرش ابر ایک دم سے تیس تیس انچہ مدوّر پانچ شل گولوں سے پیدا ہونا۔

(۷۷) سو فیٹ لمبا اور بڑی بلندی سے گرنے والا آبشار۔

(۷۸) بتیس بتیس انچہ دَور دس شل گولوں سے یاقوت و زمرد کا ترشح۔

(۷۹) ایکہزار سرخ و سفید اور نیلے بانوں کا چلنا جس سے آسمان پر کروڑوں خوشنما ستارے پیدا ہو گئے تھے۔

(۸۰) تیس تیس انچہ مدوّر پانچ شل گولوں کے چلنے سے پرستان کی جھلک اور روشنی پیدا ہونا۔

اِس آتشبازی کے چھوٹنے کیوقت ناظرین جس بیساختگی کے ساتھ تحسین کے نعرے بلند کرتے تھے۔ اور بالخصوص تصاویر کی نموداری کیوقت جو پُر جوش چیئرز ہوتے تھے۔ وہ اِس انگریزی آتشباز کمپنی کی صنعت کی ایک بہترین شہادت کہی جاسکتی ہے۔ چنانچہ باوصف اِس بات کے موسم نہایت سرد تھا۔ اور عام تماشائیوں بلکہ عام مہمانوں تک کے لئے بھی کوئی انتظام مکان اور ہلوکا نہو سکتا تھا۔ مگر تمام لوگ بارہ بجے شب تک برابر ڈٹے رہے۔ جسکے بعد اختتام آتشبازی کیوقت حضور و اُمرائے اور ڈیوک صاحب بہادر مع دیگر ہمراہیان اپنے کیمپونکو تشریف لے گئے

فصلِ ہشتم

بہادرانِ غدر ۱۸۵۷ء کی دعوت و ملاقات

یہ تو ناظرین پڑھ ہی چکے ہیں کہ بہادرانِ غدر کے تمام اخراجات آمدورفت گورنمنٹ نے خود برداشت کئے تھے۔ اور انکی عزت و آسائش بہت کچھ ملحوظ رکھی تھی۔ ماسوا اس کے دربار میں انکی جسقدر آؤبھگت ہوئی وہ بھی لکھی جاچکی ہے جسکے بعد بقیہ کارروائی درج کرکے اِنسے رخصت ہونا چاہیئے۔

دعوت:۔ جس طرح دوسرے معزز مہمانوں کو دعوت دی گئی تھی ویسے ہی ۲ جنوری کی شب کو انگریز بہادرانِ غدر کو بھی انکے خیمہ میں ایک شاہی دعوت دی گئی جسمیں کھانوں کے ساتھ اُن افسانوں کا سُننا بڑا ہی پرلطف تھا۔ جو انپر زمانۂ غدر میں گذرے تھے۔ اِنہیں سے ایک شخص آرتھر اوڈان پہلی مدراس فیوزی سیرس کا بہادر سپاہی تھا۔ جو گو اِس وقت تو نابینا تھا۔ مگر لکھنؤ کی سرکاری فوج امدادی میں اُسنے نمایاں خدمات کی ہوئی تھیں۔ اُس شخص نے کھانے کے بعد ایسی عمدگی کے ساتھ ایک ہولناک مارچ کا گیت گا کر سُنایا کہ جس سے زمانۂ غدر کیحالت کا ایک عمدہ خاکہ کھنچ گیا تھا۔ اِس کے سوا ڈاکٹر ڈونٹ ایک وہ شخص تھا۔ جو دہلی کی دوبارہ فتح کے بعد داخلِ دہلی ہوا تھا۔ اِس نے اپنی تقریر میں بہادرانِ غدر کی اُس عزت و تعظیم پر جو دربار کے دِن حاضرینِ دربار کیطرف سے ہوئی تھی تہِ دل سے شکریہ ادا کرکے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ نعرہ ہائے خوشی جو ہمارے استقبال میں بلند ہوتے ہیں صرف ہمارا ہی حق نہیں بلکہ ہم سے زیادہ اِس کے وہ لوگ مستحق ہیں۔ جنہوں نے ہمارے دوش بدوش اُن معرکوں میں اپنی

جانیں خدماتِ سرکاری کی نذر کر دی تھیں۔ چنانچہ اُس نے اپنی تقریر کا خاتمہ بھی اسی پر کیا۔ کہ مَیں اپنے اُن ساتھیوں کی یاد میں ایک جامِ عزت پینے کی تجویز کرتا ہوں جو اُس زمانہ میں ہمارے ہم جلیس تھے۔ چنانچہ یہ جامِ عزت نہائت خاموشی سے نوش کیا گیا۔ جس سے مقتولین کا تقدس منظور تھا۔

اِس کھانے پر بتیس بہادرانِ غدر موجود تھے۔ اور یہ نامور بہادر اپنے قیام و استقبال کے لئے بہت ہی شکر گذار پائے جاتے تھے۔ بالخصوص اِس باہمی مکالمہ میں اِن کی چشمدید حکایتوں نے جو گو تاریخ میں تو موجود نہیں ہیں۔ مگر اپنی صداقت میں کوئی شبہ بھی نہیں رکھتیں۔ ایک عجیب سماں اُس وقت باندھ دیا تھا۔ جس کا خاتمہ گانے کے ساتھ کیا گیا۔

مُلاقات:- ۳ جنوری کی صبح کو تمام جنگ آزمایانِ غدر کو ہز ایکسیلنسی وائسرائے کے خیمہ میں طلب کیا گیا تھا۔ جس کے لئے یہ سب صاحبان پہلے تو اپنے کیمپ میں جمع ہوئے۔ اور ہر چند کہ انہیں سے بعض اپنی وردی میں اور بعض بلا وردی بھی تھے۔ مگر ہر ایک کے سینے پر اُس کی بہادری کے تمغے ضرور موجود تھے۔ جو جنگ کریمیا۔ اور معرکۂ لکھنؤ و دہلی کی خدمات میں اُنکو دیئے گئے تھے۔ چنانچہ اسی ہیئت سے یہاں اِنکا ایک فوٹو لیا گیا۔ اور پھر یہ سب لوگ گاڑیوں میں سوار وائسرائے صاحب کے کیمپ میں لیجائے گئے۔ جہاں وہ وائسرائے صاحب کے کیمپ کے باہر قطار باندھکر کھڑے ہوگئے۔ اِس گروہ میں تین سو دیسی اور ستائیس انگریز شریک تھے۔ چنانچہ لیڈی کرزن اور اِنکے مہمان اِس نظارہ کو بڑی ہی دلچسپی سے دیکھتے رہے۔ جس کے بعد وائسرائے صاحب نے معہ ڈیوک اوف کینات برآمد ہو کر دلی تپاک کے ساتھ کرنل میکنزی سے مصافحہ فرمایا۔ جسپر کرنل موصوف نے مندرجہ ذیل ایڈریس پڑھکر حضور وائسرائے کو سُنایا۔

ایڈریس

حضور والا!

ہم جنگ آزمایانِ غدر جنمیں یوروپین۔ یوریشن اور دیسی سب شامل ہیں۔ نہایت دِلی خلوص و ارادت کے ساتھ خود بدولت کی معزز یاد آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو دہلی دربار کی شرکت کے لئے ہم لوگوں کو عطا کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد حضور والا سے نہایت ادب کے ساتھ ملتجی ہیں کہ آنجناب براہ مہربانی ہماری طرف سے شہنشاہِ معظم اور ملکہ معظمہ کے حضور میں اس تقریب سعید کے لئے ہماری پُر خلوص مبارکباد پہنچانے کی تکلیف گوارا فرمائیں۔ جسکے لئے ہماری دعا ہے کہ خدا شہنشاہِ معظم کی سلطنت کو زمانہ دراز تک پُر امن اور مترقی رکھے۔

حضور وائسرائے نے اِس کے **جواب** میں یہ کلمات فرمائے۔ کہ۔

مَیں اور ہز رائل ہائینس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر تم لوگوں کو یہاں ملکر بالخصوص نہایت مسرور ہوئے ہیں۔ کیونکہ دربار ہال میں تمہیں آتے جاتے دیکھنے کا پُر مسرت موقع ہمیں میسّر ہوا تھا۔ واقعی یہ ایک نہایت موزون بات تھی۔ کہ جن لوگوں نے ۴۵ سال ہوئے مُلک کی خاطر لڑائی کی تھی۔ اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ اس عظیم الشان دربار کی رسومات میں اُنکو بھی شامل کیا جاتا۔ چنانچہ مجھے کہا گیا ہے کہ دربار میں تم لوگوں کو نہایت ہی عزت و تپاک سے ریسیو کیا گیا تھا۔ اور وہ موقع ایسا موثر اور پُر جوش ہوگیا تھا کہ شاید بہت کم ہندوستان میں دیکھا گیا ہے۔ جس کی بابت اُمید ہے کہ اس سے آپ نے بھی اپنے آپ کو بڑا سرابلند تصور کیا ہوگا۔

آپ نے جو یہ درخواست کی ہے کہ مَیں آپکے ایڈریس کو شہنشاہِ معظم کے حضور میں پہنچادوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مَیں خوشی کے ساتھ آپکی اس خواہش کو پورا

کر دونگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ شہنشاہ معظم کو بھی بہ نسبت دیگر ایڈریسوں کے تمہارے ایڈریس کے مطالعہ سے ازحد مسرت حاصل ہو گی۔"

اس کے جواب میں کرنل سیکنڑی نے گذارش کیا۔ کہ مَیں اپنے تمام جنگ آزمایاران غدر کیطرف سے جنمیں یوروپین۔ یوروشین اور دیسی سب شامل ہیں حضور والا کا ان مہربان الفاظ کے لئے شکریہ ادا کرتا ہوں جو حضور نے ہمارے اس وفادارانہ اور عاجزانہ اظہار اطاعت کو شہنشاہ معظم کے حضور میں پیش کرنیکا وعدہ کرنیمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مَیں سچ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پوری خوشی سے اپنی بقیہ زندگی کو اپنے شہنشاہ اور اسکے ملک کی عظمت کے لئے دینے کو آمادہ نہو۔

اس کے بعد لارڈ کرزن اور ڈیوک صاحب انکے گرد پھر پھر کے نہائت اخلاق و محبت سے مزاج پرسی کرتے رہے چنانچہ حضور والیسرائے نے اندھے آرتھر اون نامی سے کہا۔ کہ افسوس! تم دربار کو دیکھ نہیں سکے۔ پھر اس نے جواب دیا کہ جناب اس کا مجھے واقعی رنج ہے۔

ڈیوک صاحب نے چند ان دیسی جنگ آزماؤں کے ساتھ نہائت خوشی سے پہچانکر گفتگو فرمائی۔ جو انکے زمانہ سابق میں انکی ماتحتی میں کام کرتے رہے تھے۔ اور انکے ساتھ مصافحہ بھی کیا۔ اخیر میں کرنل سیکنڑی نے لارڈ کرزن اور ڈیوک اوف کناٹ کے لئے تین چیرز تجویز کئے۔ جو نہائت دلی گرمجوشی کے ساتھ دئیے گئے۔ اور بعد ازاں تین چیرز بادشاہ سلامت کے لئے بھی پرلے درجہ کے خلوص کے ساتھ دیئے گئے۔

اور پھر مجمع رخصت

ہوا

فصلِ نہم

اخبارات اور گورنمنٹ

دربارِ دہلی کے موقع پر چند ایک انگریزی و اُردو اخبارات کے ایڈیٹروں کو بھی گورنمنٹ نے طلب فرمایا تھا۔ جنمیں سے ہر ایک کے ساتھ دو دو نائیب یا اسسٹنٹ جا سکتے تھے۔ اِن صاحبوں کے لئے کیمپ۔ کھانے۔ سواری وغیرہ کا جملہ اہتمام گورنمنٹ نے اپنے خرچ سے کیا تھا۔ جسپر اُس کی بیش قرار رقم خرچ بھی آگئی۔ مگر یہ خرچ جس قدر ضروری تھا۔ اِس کے مقابلہ میں اگر اِس سے دوچند بھی ہو جاتا۔ تو کوئی بڑی بات نہ تھی۔ کیونکہ ایک یہی ذریعہ دربار کی اہمیت و پُرجلال اشاعت کا تھا۔ کہ جس کا کوئی اَور صیغہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جو اِس ترکیب سے بہت سستے داموں گورنمنٹ کو ہاتھ آسکتا تھا۔

دیسی اخبارات کے کیمپ میں بیالیس اخبارات کے قائم مقام موجود تھے۔ اور علیٰ ہذا انگریزی کیمپ میں بھی بہت صاحبان تشریف فرما تھے۔ یہ تعداد اگرچہ بظاہر ایک معقول تعداد ہے۔ اور ہندوستان کے سات آٹھ سو اُردو اخبارات میں سے بحصّہ رسدی اِنکی طلبگاری کچھ کم نہیں کہی جا سکتی۔ مگر دیسی اخبارات کو اِس اِنتخاب پر بہت کچھ اعتراضات رہے۔ لیکن اِن اعتراضوں کی گورنمنٹ کے روبرو کیا وقعت ہو سکتی تھی۔ جبکہ طلب شدہ اخبارات نے خود ہی اِسکے بڑے لمبے چوڑے جوابات دیدیئے ہوں۔ اصل یوں ہے کہ ہندوستان میں یوروپ کی اخبار نویسی کی تقلید ابھی تک ابتدائی حالت میں ہے۔ اور اخبارات والے اِس قسم کی عزتوں کو ایک ایسا معراج سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کا

شریک و سہیم کر لینا انکو خود گوارا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر زیادہ اشخاص کو بھی یہی عزت دیجاتی تو اس سے پریس کی وقعت بڑھ جاتی۔ اور اُن لوگوں کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا۔ مگر ابھی ہندوستان میں یہ خیالات بہت دیر میں جاکر پیدا ہونگے۔ بہر حال ۳۔ جنوری ۱۹۰۳ء کو ہز ایکسیلنسی وائسرائے بہادر نے اخبارات کے قایم مقاموں کے کیمپ میں تشریف لیجا کر انکی مزید عزت افزائی فرمائی۔ جس کی خبر ایک دن پہلے سے دیدی گئی تھی۔ اور اسپر قرار دیا گیا تھا کہ مسٹر سریندر ناتھ سین صاحب مالکِ اخبار انڈین مرر کلکتہ کی صدارت سے حضور ممدوح کی تشریف آوری پر دیسی پریس کیطرف سے ایک ایڈریس بھی دینا چاہیئے۔ چنانچہ حسب ضابطہ اُس کا ایک مسودہ حضور ممدوح کیخدمت میں پہلے سے بھیجدیا گیا۔ لیکن ان ملکی ریفارمروں میں اس کے بعد پھر ایک اُبال پیدا ہوا۔ کہ ایڈریس میں مسٹر گپتا۔ ایم۔ اے۔ انچارج آفسر کیمپ کی مہمانداری کی بابت ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جسپر اگلے دن پھر تحریک کی گئی کہ ایک نیا مسودہ طیار کیا جائے۔ لیکن اسی حیث وبیص میں وقت مقررہ آپہنچا۔ اور حضور وائسرائے ساڑھے گیارہ بجے مع فارن سکرٹری و پرائیویٹ سکرٹری صاحبان کیمپ میں تشریف فرما ہوگئے۔ جنکا استقبال مسٹر گپتا نے دروازہ کیمپ تک جاکر کیا۔ اور تشریف آوری پر مسٹر نریندر ناتھ سین نے خیر مقدم کے بعد بحیثیت پریذیڈنٹ نیٹو پریس ہونے کے آپکے حضور میں مندرجہ ذیل مختصر ایڈریس پیش کیا جو پہلے سے منظور ہو چکا تھا۔

بخدمت ہز ایکسیلنسی دی رائٹ آنریبل جارج نتھانیل بیرن کرزن آف کیڈلسٹن پی۔ سی۔ جی۔ ایم۔ سی۔ آئی۔ جی۔ ایم۔ آئی۔ آر وائسرائے و گورنر جنرل آف انڈیا

حضور انور! ہم قائم مقامان انڈین پریس جو یہاں جمع ہیں یور ایکسیلنسی کے

الطاف آمیز خیال کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے حضور انور کو آمادہ کیا ہے کہ اِس کیمپ میں تشریف لا کر ہماری عزّت بڑھائیں۔ اور ہم لوگوں کو موقع دیں کہ ذاتی طور پر یوئر ایکسیلنسی کی وساطت سے اُن خیالاتِ خیر اندیشی و وفاداری کا اظہار کریں۔ جو شاہِ قیصر کی ذاتِ والا صفات کی نسبت رکھتے ہیں۔ نیز اِس موقع سے فائدہ اُٹھا کر ہم نہایت ادب سے یوئر ایکسیلنسی کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دَورانِ قیام میں ایک ہمارے ہی ہموطن مسٹر جے۔ این۔ گپتا۔ ایم۔ اے۔ کے زیر اہتمام ہو رہی ہے جس نے ہمارے آرام دینے میں بہت سرگرمی دکھلائی ہے۔

والیسرائے کا جواب:۔ خاتمۂ ایڈریس پر ہز ایکسیلنسی نے ایک مختصر جوابی تقریر فرمائی۔ جس کا ماحصل یہ تھا کہ "میرا خیال تھا کہ غالباً دربار کے متعلق تقریریں کرنیکا کام اَب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ابھی ایک دو تقریریں اَور بھی کرنی ہوں گی۔ اگرچہ میری آواز دربار کی طویل تقریر سے تھک گئی ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے مُلاقات کرنا بھی نہایت ہی ضروری تھا۔

مَیں مسٹر سین سے مِلکر بہت خوش ہوا جو نیٹو پریس کا چیمپئن ہے۔ اور آپ صاحبان کا اِن لُطف آمیز الفاظ کے لئے جو آپ نے ایڈریس میں رقم فرمائے ہیں نہایت شکر گذار ہوں۔ ہز میجسٹی قیصر ہند کی خواہش تھی کہ نیٹو پریس کو پوری عزّت دیجائے جس کا وہ مستحق ہے اور اِسی وجہ سے مَیں نے خود نیٹو پریس کا کیمپ آراستہ کرنے کی تکلیف گوارا کی اور مناسب سمجھا کہ آپ کے ہی ایک ہموطن کو اِس کیمپ کا چارج سپرد کیا جائے۔ مجھے ایک دفعہ باثنائے دَورۂ مالدہ جانے کا اتفاق ہؤا۔ تو وہاں اِس ہوشیار کلکٹر کو دیکھا جس کی نسبت مجھے بہت خوشی ہے۔ کہ اِس کا تقرر آفیسر انچارج کیمپ کی حیثیت سے جو کیا گیا تھا اِس کو آپ بھی پسند کرتے ہیں

اور مطمئن ہیں۔ میں نے اس امر کا پورا انتظام کیا ہے۔ کہ تمام سرکاری تقریبوں میں جو دروازہ کے اندر خواہ باہر ہوں نیٹو پریس کو شریک کیا جائے۔ اور میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام رسوم میں شامل ہیں۔ جن میں کہ میں شامل ہوں میں بھروسہ کرتا ہوں کہ اس عالیشان دربار کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ اُس کی عظمت وشان کو جسکے وہ لائق ہے ملحوظ رکھیں گے۔ آخر میں ہزایکسیلنسی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی ملاقات سے ہمکو نہایت مسرت حاصل ہوئی ہے"

خاتمہ تقریر پر مسٹر نریندر ناتھ سین نے جتنے صاحبان اخبار وہاں موجود تھے سبکو نام بنام حضور والیسرائے کیخدمتمیں پیش۔ جن کا آپ نہایت اخلاق و محبت سے سلام لیتے اور مزاج پرسی فرماتے جاتے تھے۔ بلکہ قریباً ہرایک اخبار کی نسبت اپنی واقفیت کا بھی اظہار کرتے جاتے تھے۔ مسٹر ایلفرڈ نندی کی بابت آپنے فرمایا کہ مَیں نے آپ کے اکثر مضامین دیکھے ہیں۔ امرتا بازار پتر کا کے قائم مقام کا سلام لیتے ہوئے فرمایا کہ ایڈیٹر خود کیوں نہیں آیا۔ غرضکہ لارڈ کرزن کی اس عام معلومات پر تمام دیسی پریس عش عش کر اُٹھا۔ کہ خاص اسی ایک مضمون کے متعلق آپکی نگاہ کس قدر بلند ہے۔ اور اس پر آپکے حُسن اخلاق نے تو اور بھی سبکو اپنا گرویدہ کر رکھا تھا۔ اور واقعی ایسی حالتمیں جبکہ والیان ملک تک سے ملاقات بار نہ دیدنہ کی گئی ہو۔ دیسی اخبارات کے ایڈیٹروں سے ملنے کا وقت نکالکر آپنے اپنی اُس دلچسپی اور محبت کا پورا پورا ثبوت دیدیا ہے۔ جو آپ کو ہمیشہ سے پریس کے ساتھ رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ پہلے خود بھی بڑے بڑے مضامین لکھتے رہے ہیں۔

بہرکیف اس مختصر کاروائی کے ختم ہونے پر آپ کھانے کے کمرے کا اہتمام ملاحظہ فرماکر رخصت ہوئے۔ جسپر پُرخلوص چیرز دیئے گئے۔ اور آپ یہاں سے

منٹ کر انگریزی کیمپ میں تشریف لے گئے۔ جہاں اسی طرح ہر ایک ایڈیٹر سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ اور اس کے بعد اپنے فرودگاہ کو روانہ ہوگئے۔

دیسی اخبارات نے اس بات پر بہت کچھ ریمارک کئے ہیں۔ کہ اس دربار کے موقع پر تین یوروپین اخبار والوں کو گورنمنٹ نے اپنے اعزازی خطابات سے مفتخر فرمایا۔ لیکن دیسی پریس میں سے کوئی اس کا مستحق قرار نہ دیا گیا۔ لیکن اصلیت یہ ہے کہ خود دیسی اخبارات پر بھی لوگ فقرے کستے ہیں کہ انہوں نے میسرز کلنر کمپنی کی دعوتوں کے مزے میں ایک ایسے عجیب موقع کو کھو دیا جو حضور وائسرائے سے بالمشافہ ملاقات کا انہیں حاصل ہو گیا تھا۔ اور کوئی ایسی درخواست تک بھی پیش نہ کی جو تمام ملک تو درکنار خود انہیں کے پیشے کے لئے مفید ثابت ہوتی۔ جس پر اب کہا جاتا ہے کہ عنقریب دیسی اخبارات کچھ اصولی رعایات مانگنا چاہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ لائبل کا مقدمہ وہیں ہو سکے جہاں سے اخبار نکلتا ہو۔ یا محصول میں قدرے رعائیت دیجائے وغیرہ وغیرہ۔ مگر اب وقت نکل گیا۔

ع۔ تا سالِ دگر سے کہ خود زندہ کہ ماند۔

دربار کے متعلق ریمارک کرنے میں بھی دیسی پریس نے گورنمنٹ کے نزدیک
کوئی وقعت پیدا نہیں کی۔ اختلافِ رائے کا ہر شخص مالک و مختار ہے
لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح بعض اخبارات نے سخت و درشت
الفاظ میں دربار پر نوٹ لکھے ہیں انکی کم سے کم وائسرائے
صاحب کو ہرگز توقع نہ ہوگی۔ اگر یہی باتیں
یا اس سے زیادہ بھی نرمی
کے ساتھ کہدیجاتیں
تو مضائقہ کیا تھا۔

فصلِ دہم

دربارِ عطائے تمغہ جات

بتاریخ ۳ جنوری ۱۹۰۳ء

یہ دربار بھی چونکہ باعتبار اپنی اہمیت کے دربار یکم جنوری سے کچھ کم نہ تھا۔ اسلئے اس کے واسطے بھی خاص طور پر اہتمام کیا گیا تھا۔ صرف طبقہ اعلائے ستارۂ ہند اور انڈین امپائیر کے ممبران اور وہ صاحبان جو اس دربار میں ان مدارجِ خطابی میں داخل ہونے کو تھے۔ وہی اس کی باضابطہ شمولیت پاسکتے تھے۔ جن کی بابت ظاہر ہے کہ سوائے والیانِ ریاست اور اخص الخواص اشخاص کے اَور کون ہوں گے۔ مگر اس خیال سے کہ دربارِ تاجپوشی کے دوسرے مہمان اور سفرائے دولِ خارجہ بھی یہ پُرشوکت نظارہ دیکھ سکیں۔ انکو بھی ٹکٹ دیئے گئے تھے۔ ہر ایک نائٹ گرینڈ کمانڈر آف دی انڈین امپائیر اور نائٹ گرینڈ کمانڈر آف دی سٹار آف انڈیا کے ساتھ انکے دو دو مصاحبین کو بھی داخلہ کی اجازت تھی۔ اور یوروپین مہمانانِ حضور وائیسرائے بھی مدعو کئے گئے تھے۔ مگر باایں ہمہ چار ہزار سے زیادہ مجمع نہ تھا۔ ممبرانِ مدارجِ اعزازی کو اپنی اپنی مقررہ پوشاکوں اور جنگی حکام کو رویو کی وردی میں آنے کی ہدایت تھی۔ البتہ جو صاحبان کسی خاص لباس پہننے کے مجاز نہ تھے۔ انہیں درات کی پوشاک میں آنیکا حکم تھا۔ جس کی پابندی سب صاحبوں نے کر رکھی تھی۔

دیوانِ عام میں یہ دربار منعقد ہونا تجویز ہوا تھا۔ جس کو ضروری مرمت اور آرائش سے پہلے سے ایسا درست کر دیا گیا تھا کہ جسپر خود بخود شوکت برس رہی تھی۔ تختِ طاؤس کے نچلے حصّہ میں حضور وائیسرائے کے لئے جو ان کرسی رکھا گیا

خطابی کے گرینڈ ماسٹر ہیں۔ ایک مُرتفع چبوترہ بنایا گیا تھا جس میں انکی کی
مُکلّف چوکی کے دائیں طرف عالیجناب ڈیوک اوف کینناٹ کی کرسی تھی۔ اور
اور اُنکے پیچھے دونوں صاحبوں کی خاتونوں کی کرسیاں بچھائی گئی تھیں جنکے
پیچھے ڈائس سے نیچے اُن چاروں رئیس زادوں کے لئے کرسیاں رکھی گئی تھیں۔
جو حضور وائیسرائے اور ڈیوک اوف کینناٹ بہادر کے پیجز[1] بنائے گئے تھے۔
اور چبوترے کے یمین و یسار والیانِ ریاست اور ممبران درجہ ہائے خطابی کی
نشستیں باعتبار انکے مدارج کے ترتیب دی گئی تھیں جنکی کرسیوں کے پیچھے
انکی لیڈیوں کی کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔

دروازۂ قلعہ پر ایک فوجی باجہ اور ایک فوجی دستہ صاحبانِ سلامی کو خوش آمدید
کہنے اور انکی سلامی اُتارنے کو متعین ہو چکا تھا۔ اور والیانِ ریاست کو انکی گاڑیوں
پر سے لاکر انکی نشست گاہوں پر بٹھلانے کے لئے بھی گورنمنٹ افسران مامور
ہو چکے تھے۔ ایسا ہی جو صاحبان اس دربار میں تمغہ جات پانے والے تھے۔ انکی
نشستوں تک رہنمائی کرنے کے لئے بھی افسرانِ گورنمنٹ مقرر تھے۔ اور دوسرے
بے خطاب اشخاص کے لئے بھی ایسا ہی انتظام تھا۔

دیوانِ عام کے روبرو ایک عارضی دیوان اُذر بنایا گیا تھا جس میں مہمانوں
اور غیر خطاب یافتوں کی جگہ تھی۔ اور جہمیں انفراغ دربار کے بعد وائیسرائے صاحب

[1] نوٹ:۔ پیجز کے لغوی معنے گو خدمتگار یا خواص کے ہیں۔ مگر یورپ میں یہ درجہ سوائے بڑے بڑے گھرانوں کے کسی کو نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ لارڈ کرزن بہادر نے اپنی ۲۰ ستمبر ۱۹۰۲ء کی شملہ والی سپیچ میں اسکی تصریح کر دی تھی۔ کہ یہ منصب معمولی نہیں ہے۔ اور جسطرح لارڈ لٹن نے ۱۸۷۷ء کے قیصری دربار میں راجہ رام سنگھ و امر سنگھ صاحبان کو اس منصب سے سرفراز بخشی تھی ویسے ہی ہم بھی کرینگے۔

لئے بھی مع تمغہ یاب اور دوسرے معزّز اصحاب کے تشریف فرما ہونا تھا۔ اُسی کے پاس دیوانِ خاص کو ایک سنگھاری ہوئی دُلہن کی صورت میں سجا دیا گیا تھا۔ جس کی اِبتدائی عمارت گو خود بھی قلعہ میں ایک بے نظیر عمارت ہے۔ مگر اَب جبکہ اِس کی آرائش و زیبائش میں پُورا پُورا اہتمام بلیغ کیا گیا تھا۔ اُسکی حالت کچھ اَور سے اَور ہو گئی تھی۔

دیوانِ عام کے قریب ایک کمرہ تمغہ ہائے اعزازی کی مجوّزہ خلعت پوشی کے لئے تجویز ہو چکا تھا۔ جسمیں حضور وائسرائے۔ ڈیوک اوف کیناٹ صاحب اور دوسرے تمغہ پانے والوں کو اِس درجہ خطابی کی خلعتیں پہنائی جاتی تھیں جس سے وہ اِس دربار میں معزّز ہونیکو تھے۔

عام شاملین کے لئے حُکم تھا کہ سوا آٹھ بجے تک اپنی نشستوں پر موجود ہوں اور اُن صاحبوں کے لئے جو اِس دربار میں خطاب مع تمغہ و خلعت پانے والے تھے۔ اُنہیں ہدائیت کی گئی تھی۔ کہ ساڑھے آٹھ بجے تک کمرۂ اجتماعی میں پہنچ جائیں۔

قلعۂ معلّیٰ کی آرائش و زیبائش اور بالخصوص روشنی کی نسبت یہ کہنا کہ اُسوقت نہائیت ہی جوبن پر تھی ایک معمولی بات ہے۔ کیونکہ ایک تو اِس کی عمارت ہی ایسی عالیشان ہے۔ اور اُسپر بجلی کی خوش منظر اور مُنوّر روشنی کے اٹھارہ مہر اب دار مہتابی لیمپوں اور بائیس سوان کنڈی لیمپوں نے بہت سی شب ہائے مہتاب کو وہاں یکجا کر رکھا تھا۔ بہرحال اِسمیں کوئی شک نہیں کہ غالباً قلعۂ دہلی کو ایک عرصۂ دراز کے بعد یہ موقع ملا ہوگا۔ کہ اُس میں شہنشاہِ ہند کے نائب السلطنت کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے اور اُس کے اعزاز و مراحم سے بہرہ مند ہونے کے لئے ایسے ایسے جلیل القدر والیانِ ریاست آ کر حاضر ہوں۔ اور دور دست سلطنتوں کے سفیر اور نائب بھی اِس کارروائی کے دیکھنے کو پوری خوشدلی سے اِسمیں موجود پائے جائیں۔

المختصر مہمان اور تمغہ و خلعت پانے والے صاحبان اور والیانِ ریاست بعد شام قلعہ معلّےٰ میں پہنچ چکے تھے۔ اور جب ٹھیک سب صاحبان وقتِ مقررہ سے پہلے پہلے کمرۂ اجتماعی میں اور تمغہ پانے والے کمرۂ پوشاک میں داخل ہو گئے تو سب کے بعد ہز ایکسیلنسی حضور وائسرائے اور ڈیوک اوف کیناٹ بہادر تشریف لائے۔ جنکی پیشوائی کو سکرٹری صاحب۔ مدارج ہائے خطابی۔ اور انڈر سکرٹری صاحب فارن ڈیپارٹمنٹ آپکی گاڑیوں تک حاضر ہوئے۔ اور فوجی دستے نے گارڈ اوف اونر اور متعینہ باجے نے حسب معمول سلامی اُتاری۔ جس کے بعد حضورین ممدوحین مع اپنے سٹافوں کے کمرۂ پوشاک میں جلوہ افروز ہوئے۔ اور دونوں صاحبوں نے سٹار آف انڈیا کی پوشاک و تمغہ زیب تن فرمایا۔ جہاں پہلے سے ہی باقی ممبرانِ مدارجِ خطابی بھی اپنے اپنے تمغوں اور خلعتوں سے ملبّس و مزیّن ہو چکے تھے۔ اور پھر یہیں سے حضور وائسرائے اور ڈیوک اوف کیناٹ بہادر ملبوس ہائے خطابی پہننے کے بعد ایک جلوسی صورت بنا کے دیوانِ عام کے دربار کی طرف مفصلہ ذیل ترتیب سے روانہ ہوئے۔

ترتیب جلوس۔ ۱۔ انڈر سکرٹری فارن ڈیپارٹمنٹ اور سکرٹری صاحب مدارج ہائے خطابی۔

۲۔ کمپینین اوف دی انڈین امپائر یعنے صاحبان سی۔ آئی۔ ای۔

۳۔ کمپینین اوف دی سٹار اوف انڈیا یعنے صاحبان سی۔ ایس۔ آئی۔

۴۔ نایٹ کمینڈران سٹار اوف انڈیا یعنے صاحبان کے۔ سی۔ ایس۔ آئی۔

۵۔ نایٹ گرینڈ کمانڈران اوف انڈین امپائر یعنے صاحبان جی۔ سی۔ آئی۔ ای

۶۔ نایٹ گرینڈ کمانڈران اوف دی سٹار اوف انڈیا یعنے صاحبان جی۔ سی۔ ایس۔ آئی

خطاب داران نمبر ۵ و ۶ کے ساتھ انکے دو دو خواص بھی شاملِ جلوس تھے۔

۷۔ ایک افسر شاہی سٹاف کا۔

۸- ہزرائل ہائینس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر - جن کا دامن مندرجہ ذیل دو ریئس زادے اُٹھائے ہوئے تھے۔

الف- سری رائے راجہ اودے بہان سنگہ صاحب صفدر جنگ والیِ دہولپور۔

ب- راج رانا مان سنگہ صاحب فرزند ٹھاکر صاحب دلواڑہ۔

۹- ڈیوک صاحب کا سٹاف۔

۱۰- ہز ایکسیلنسی دی گرینڈ ماسٹر (مالکِ خطابات) یعنے حضور وائسرائے جنکا دامن مفصلۂ ذیل دو رئیس زادوں نے اُٹھایا ہوا تھا۔

الف- میاں ہری سنگہ صاحب خلف سر راجہ امر سنگہ صاحب کے- سی- ایس آئی سی- بی ریاستِ کشمیر۔

ب- صاحبزادہ حمید اللہ خاں صاحب فرزندِ اصغر ہز ہائینس بیگم صاحبہ بھوپال۔ اِنکے بعد حضور وائسرائے کا سٹاف جسمیں آپکے انگریزی اور دیسی ایڈیکانگ صاحبان اور سرجن صاحب شامل تھے۔

یہ تمام جلوس دو دو آدمیوں کی قطار بنا کر چلتا تھا- اور جونیئر (نئے) صاحبان سینیئر صاحبان (پُرانے خطابداروں) سے آگے آگے تھے۔

جلوس کے چلنے سے ایوانِ دربارِ عام تک پہنچنے اور وائسرائے صاحب کے چبوترہ پر چڑھنے تک باجہ گرینڈ مارچ کی گت برابر بجاتا رہا- داخلِ دربار ہونے پر سب صاحبوں نے سروقد تعظیم دی- اور اپنی اپنی چوکیوں سے اُٹھکر ایک قطار باندھے ہوئے تمام صاحبان نے وائسرائے صاحب کو آداب عرض کیا- جس کے بعد وائسرائے صاحب بحیثیت گرینڈ ماسٹر جب چبوترہ پر رونق افروز ہوئے تو باجے نے گرینڈ ہائنس کی گت چھوڑ کر نیشنل اینتھم بجانا شروع کیا- چنانچہ جب حضور ممدوح اور ڈیوک صاحب اپنی جگہ پر متمکن ہو گئے- اور باقی صاحبان بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے- تو سکرٹری صاحب

خطابی یعنے سر ہیوک بارنس صاحب بہادر نے رسوماتِ سٹار آف انڈیا کی ادائیگی کے لئے آپ کے حضور میں مؤدبانہ طور پر عرض کیا۔ جسے فوراً شرفِ قبول بخشا جاکر عطائے تمغہ جاتِ درجۂ اعلائے سٹار اوف انڈیا کی رسوم عمل میں آنے لگیں۔ سب سے پہلے سر ہیوک برن بارنس صاحب نائیٹ بنائے گئے۔ پھر راجہ صاحب کوچین کو جی سی ایس آئی بنایا گیا۔ؔ؎ اور پھر درجہ بدرجہ دوسرے صاحبان کو خلعت پہنانے کی اِبتدائی رسوم تو سکرٹری صاحب مدارجِ خطابی مع دو نائیٹ کمینڈروں کے ادا کرتے جاتے تھے اور تمغہ حضور وائسرائے بحیثیت گرینڈ ماسٹر اپنے ہاتھ سے بایں الفاظ عطا فرماتے تھے۔

"بنام نامی شہنشاہ ہندوستان وغیرہ اُنکے حکم سے مَیں آپکو معزز تمغہ طبقۂ اعلائے ستارہ ہند کا اعزازی نشان دیکر اعلان کرتا ہوں کہ اعلیٰحضرت ملکِ معظم بنظرِ عنائیت آپکو اِس درجہ کا گرینڈ کمینڈر مقرر فرماتے ہیں"۔

اِس کے بعد تمغہ پانے والے صاحب ادب کے ساتھ وائسرائے صاحب کو آداب بجا لاتے اور پھر سکرٹری صاحب تمغہ کو انکی پوشاک پر آویزاں فرما دیتے تھے۔ الغرض جب اِن صاحبوں کو تمغے پہنائے جا چکے۔ جو باعتبار اپنے مدارج کے اِس لائق تھے۔ کہ وائسرائے ہی بدستِ خاص انکو یہ عزت عطا فرمائیں۔ تو گرینڈ ماسٹر صاحب تبدیلی لباس کے لئے کھڑے ہوئے۔ جنکے اُٹھتے ہی تمام حاضرین سرو قد استادہ ہوگئے۔ اور حضورِ ممدوح ایک مختصر جلوس کے ساتھ بہ ترتیبِ ذیل کمرۂ پوشاک میں تشریف لے گئے۔ اور باجہ گرینڈ مارچ کی گت بجاتا رہا۔

(الف) انڈر سکرٹری صاحب فارن ڈیپارٹمنٹ۔

؎ فہرستِ خطابات میں سب ایسے خطاب یافتہ صاحبان کے نام مُفصّل درج ہو چکے ہیں ۱۲

(ب) سکرٹری صاحب طبقہ ہائے اعزازی۔

(ج) یکے بعد دیگرے ایڈیکانگ و ملٹری سکرٹری و ایڈیکانگ و پرائیویٹ سکرٹری حضور وائیسرائے۔

(د) ہز ایکسیلنسی گرینڈ ماسٹر (حضور وائیسرائے) مع دو پیجز۔

(ہ) ایڈیکانگان وائیسرائے و سرجن وائیسرائے۔

(و) ایک شاہی سٹاف کا افسر۔

(ز) ہز رائل ہائینس ڈیوک اوف کیناٹ مع دو پیجز۔

(ح) ہز رائل ہائینس کا سٹاف۔

(ط) ہز ہائینس مہاراجہ صاحب جیپور مع دو مصاحبان۔

(ی) مہاراجہ صاحب ٹراونکور مع دو مصاحبان۔

(ک) راجہ صاحب نابہ۔

کمرۂ پوشاک میں پہنچنے پر گرینڈ ماسٹر اور ڈیوک صاحب نے بجائے سٹار اوف انڈیا کے آرڈر اوف انڈیا کی خلعت و نشانات زیب فرماکے پھر دربار کی طرف مراجعت فرمائی۔ واپسی کیوقت جلوس کی ترتیب بالکل اُلٹی کردی گئی تھی۔ اور حسبِ دستور باجہ گرینڈ مارچ کی گت بجارہا تھا۔ چنانچہ اِس نئے طبقہ کے لباس میں جب آپ چبوترہ پر رونق افروز ہوکر اپنی کرسی پر متمکن ہوگئے اور باجہ بند ہوا۔ تو حسبِ قاعدہ سکرٹری صاحب مدارج اعزازی نے اعطائے تمغہ جات کی درخواست کی جسکے منظور ہونے پر تمام صاحبوں کو (جنکے نام پہلے سے تجویز ہوچکے تھے) تمغہ جات عطا ہوئے۔ اور سکرٹری صاحب ہی انکو لگاتے ہی رہے۔ ازاں بعد فہرستِ خطابات پڑھکر سُنائی گئی۔ جسکے خاتمہ پر سکرٹری نے عرض کیا کہ اَب کام ختم ہوچکا ہے۔ لہٰذا یہ جلسہ برخاست فرمایا جائے۔ جسپر وائیسرائے

صاحب نے حکم دیا کہ سکریٹری صاحب اختتامِ کارروائی کا اعلان کر دیں۔ اور خود مع ڈیوک صاحب کے کمرۂ پوشاک کیطرف روانہ ہوئے۔ جس میں جلوسِ اول کیطرح سب ممبر صاحبان طبقہ ہائے اعزازی آپ کے ہمرکاب تھے اور جو جس قدر معزز تھے۔ وہی آپکے پیچھے باقیوں سے آگے تھے۔ کمرۂ پوشاک میں صرف چند منٹ میں آپنے اور باقی اعلیٰ ممبرانِ طبقہ نے تبدیلِ لباس فرمالیا تو پھر پاس ہی کے کمرۂ اجتماعی میں تشریف لے گئے۔ اور پھر شاہی پارٹی رخصت ہوگئی۔ اور درجہ بدرجہ تمام والیانِ ریاست و معزز مہمان بھی تشریف لے گئے۔ جنکی مشایعت حسبِ دستور افسرانِ ماموره اور سلامی جنگی دستۂ متعینہ ادا کرتا تھا۔

ممبران درجہ ہائے خطابی کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:۔

صاحبانِ سی۔ آئی۔ ای

۱۔ میجر ٹی۔ ایچ۔ ہل۔
۲۔ رائے بہادر نانک چند پریزیڈنٹ کونسل اندور
۳۔ میجر اے۔ ایف۔ پن ہے۔
۴۔ اے۔ جے۔ ڈنلوپ اسکواٹر۔
۵۔ لفٹننٹ کرنل جی۔ ایچ۔ ڈی گملٹ۔
۶۔ کے۔ کرشنا سوامی راؤ۔
۷۔ اے۔ ایل۔ پی ٹکر صاحب۔
۸۔ اے۔ پڈلر صاحب۔
۹۔ ایس۔ پرسٹن صاحب۔
۱۰۔ اونریبل میجر ڈی کالمن۔
۱۱۔ صوبیدار میجر سردار خاں۔
۱۲۔ سردار میر آصف علیخاں۔
۱۳۔ میجر ٹی۔ ای سکاٹ۔
۱۴۔ لفٹننٹ کرنل جی۔ کے سکاٹ مانکریف
۱۵۔ ایف۔ ڈبلیو لٹمیر صاحب۔
۱۶۔ فریدونجی کوارجی تاراپوروالہ۔
۱۷۔ میجر جے۔ آر ڈنلوپ سمتھ۔
۱۸۔ اونریبل سٹرایچ۔ اے۔ سسم
۱۹۔ کرنیل ایس۔ سی۔ ایف پیلی۔
۲۰۔ کپٹن ڈبلیو۔ ایس گدرج۔

۲۱-رائے بہادر کیلاس چند رپوس۔
۲۲-مسٹر ایچ ہارش صاحب۔
۲۳-لفٹننٹ کرنل اے۔ ایم کرافٹس۔
۲۴-اونریبل مسٹر ڈبلیو۔ سی ہیوز۔
۲۵-بہادر پنڈت راج نرسا مڈلیار۔
۲۶-خان بہادر محمد یعقوب سی آئی ای۔
۲۷-لفٹننٹ کرنل۔ ایم۔ جے۔ میڈ۔
۲۸-خان بہادر حاجی جلال الدین۔
۲۹-خان بہادر خورشید جی رستم جی۔
۳۰-کھیتے والہ دی۔ پی۔ مدھوا راو۔
۳۱-خان بہادر دہنجی بہائی۔
۳۲-فقیر جی کاموڈور۔
۳۳-راؤ بہادر دہنپت رائے۔
۳۴-لفٹننٹ کرنل ایچ۔ کے۔ میکے
۳۵-کپتان اے۔ بی ہنچن۔
۳۶-میجر کنور بیر بکرم سنگہ۔
۳۷-ای۔ ایف جیکب۔
۳۸-اے پینی کیوک۔
۳۹-ورچن دیپ چند۔
۴۰-کرنل۔ ڈی۔ بی میسن۔
۴۱-میجر جے ریمزے۔
۴۲-آر۔ بی۔ کارلائل۔
۴۳-بی رابرٹسن۔
۴۴-راجہ بلونت سنگہ۔
۴۵-مرزا سجتیار شاہ۔
۴۶-رائے بہادر دولت رام۔
۴۷-سی۔ جی۔ ڈبلیو ہیسٹنگز۔
۴۸-رستم جی دہنجی بہائی مہتہ
۴۹-پی۔ این کرشنا مورتی۔
۵۰-نواب میجر محمد علی بیگ۔
۵۱-بریگیڈیر جنرل بی ڈف سی۔ بی
۵۲-اونریبل رائے بہادر پی انندا چارلو
۵۳-خان بہادر نارو جی پستنجی وکیل۔
۵۴-سر جے ایلیٹ۔
۵۵-اونریبل اے اینڈرسن۔
۵۶-اونریبل رائے بہادر چھونی لال
۵۷-راجہ بھوپ اندر بکرم سنگہ۔
۵۸-ٹی۔ ہیگم۔
۵۹-سرجن جنرل بی فرینکلن۔
۶۰-آر۔ ایم۔ ڈین
۶۱-سر پی پلے فیر۔
۶۲-حافظ عبدالکریم۔

۶۳- میجر ڈبلیو۔ آر۔ پیلڈنگ۔
۶۴- ٹی۔ آر۔ اے۔ تھمبو چٹی۔
۶۵- اونریبل ایس۔ ڈبلیو ایڈگرلے۔
۶۶- اونریبل سی۔ ای بکلنڈ۔
۶۷- گنگادھر راؤ مدھیو چٹ نویس۔
۶۸- خان بہادر حق نواز خاں۔
۶۹- اے۔ سی ہنکن۔
۷۰- فضل بھائی وسرام جی۔
۷۱- اونریبل ایف۔ جے ای سپرنگ۔
۷۲- لفٹنٹ کرنل ای۔ ایچ فن۔
۷۳- اونریبل لفٹنٹ کرنل سر جی۔ ایم مچی
۷۴- پی۔ جی۔ میلی ٹس۔
۷۵- اونریبل فیروز شاہ مروانجی مہتہ۔
۷۶- اونریبل دیوان بہادر ایس سری نواس آئنگر۔
۷۷- بی۔ ایس۔ کمیری۔
۷۸- شیخ بہاء الدین نواب انب۔
۷۹- راؤ صاحب ٹھاکر بہادر سنگھ۔
۸۰- مہاراجہ ہربلب نارائن سنگھ۔
۸۱- دیوان گنپت رائے۔
۸۲- خان بہادر قادر داد خاں۔
۸۳- جے۔ جی سکاٹ۔
۸۴- میجر ایچ ڈالے۔
۸۵- اونریبل ایچ۔ ٹی واٹ۔
۸۶- اونریبل جے۔ بی فلر۔
۸۷- ایچ ایچ رسلے۔
۸۸- میجر ایف۔ ای ینگ ہسبنڈ۔
۸۹- کرنل ٹی۔ ایچ ہنڈلے۔
۹۰- اونریبل جے بکنگھم
۹۱- خان بہادر شیخ حافظ عبدالکریم۔
۹۲- کرنل ایس ایس جیکب۔
۹۳- ایچ پی ٹاڈ نیلر۔
۹۴- اے۔ ڈبلیو پاول۔
۹۵- رام کرشنا گوپال بھنڈارکر۔
۹۶- لفٹنٹ کرنل جے۔ ایل واکر۔
۹۷- کرنل بی سکاٹ۔
۹۸- نواب بہادر سید امیر حسن۔
۹۹- کرنل سی ڈبلیو میور سی بی۔
۱۰۰- کمار سری کلوبا۔
۱۰۱- کرنل نواب محمد اسلم خاں۔
۱۰۲- جی واٹ۔
۱۰۳- محمد حسن خاں۔
۱۰۴- پنڈت پیت رام۔

۱۰۵- راے بہادر ریتھو رام۔
۱۰۶- سردار سلطان جان۔
۱۰۷- مرزا غلام احمد۔
۱۰۸- ریورنڈ ای لافونٹ۔
۱۰۹- کمانڈر جی-ای ہالنڈ۔

صاحبانِ سی-ایس-آئی

۱- اونریبل جی ولسن
۲- اونریبل ڈی بی رابرٹس۔
۳- ایس-اے اسکوائر۔
۴- برگیڈئیر جنرل جی-ایل آر-رچرڈسن
۵- جے-او-ملر اسکوائیر۔
۶- اونریبل ایف ایس-پی سلے۔
۷- ای-این بیکر اسکوائر۔
۸- اونریبل اے-ایچ-ٹی مارٹنڈل
۹- اونریبل ایچ-ایم ونٹر باتھم۔
۱۰- سرجن جنرل-ڈی سنکلئیر۔
۱۱- اونریبل جے-پی ہیوٹ۔
۱۲- راجہ صاحب ٹیہری۔
۱۳- اونریبل لفٹنٹ کرنل ڈی-ابرٹسن۔
۱۴- اونریبل-اے-ٹی-ارنڈل۔
۱۵- نواب بہادر یار محمد خاں۔
۱۶- ایل-ڈبلیو کنگ-اسکوائیر۔
۱۷- اونریبل مسٹر اے-ڈبلیو کرڈیک شنک
اونریبل مسٹر جے-اے بورڈلن۔
۱۹- اونریبل راجہ تصدق رسول خاں۔
۲۰- ایم-ایم فینوکین اسکوائر۔
۲۱- سردار بہادر کاشی راؤ سرد۔
۲۲- میجر اے-ایچ-میکماہن۔
۲۳- ایچ-اے-اینڈرسن اسکوائیر
۲۴- کرنل جے-اے-بنلے۔
۲۵- ایچ-ایف-ڈی مونٹ اسکوائیر
۲۶- اونریبل مسٹر سی-ڈبلیو بولٹن۔
۲۷- اونریبل مسٹر جے مونٹیتھ۔
۲۸- جے-ایم میکفرسن-اسکوائیر۔
۲۹- اونریبل مسٹر اے-ایچ-ایل فریزر۔
۳۰- اونریبل مسٹر سی-ایل ٹپر۔
۳۱- اونریبل لفٹنٹ کرنل ایچ-اے-ڈین۔
۳۲- اونریبل مسٹر ڈی سی جے-ابٹسن۔
۳۳- اونریبل لفٹنٹ کرنل ڈی ڈبلیو کے بار
۳۴- سردار جیون سنگھ۔
۳۵- راؤ چھتر پتی بہادر جاگیر دار علی پورہ۔
۳۶- اونریبل کرنل ہی-ای ییٹ۔

۳۷۔ راجہ پیارے موہن مکرجی۔

۳۸۔ کرنل سر سی سکاٹ مونکریف

۳۹۔ کرنل ایل جے ایچ گرے۔

۴۰۔ میجر جنرل پی لوٹ۔ سی۔ بی۔

۴۱۔ راجہ جے کرشن داس بہادر۔

صاحبانِ کے سی۔ آئی۔ ای

۱۔ ہز ہائینس مہاراجہ بہادر بیکانیر۔

۲۔ سر ای۔ اے۔ آر گلہارڈو۔

۳۔ سر ہرنام سنگھ۔

۴۔ بابا سر کھیم سنگھ بیدی۔

۵۔ پرنس آف ارکاٹ۔

۶۔ سر ایم۔ ایم بہاؤنگری۔

۷۔ نواب صاحب لوہارو۔

۸۔ مہاراجہ صاحب گدہوڑ۔

۹۔ مہاراجہ صاحب اجودھیا۔

۱۰۔ مہاراجہ صاحب بوبیلی۔

۱۱۔ نواب صاحب جنجیرہ۔

۱۲۔ سر راجہ گوپال کرشن آف ونکٹ گیری

۱۳۔ نواب سر امام بخش خاں مزاری

۱۴۔ خان مزاری سردار خاران۔

۱۵۔ ٹھاکر صاحب لیمڑی۔

۱۶۔ سر ایف ڈبلیو ملکین۔

صاحبان۔ کے۔ سی۔ ایس آئی

۱۔ سلطان سر احمد لاہج۔

۲۔ سر جے لاٹوش۔

۳۔ سر سی۔ ایم ریواز۔

۴۔ مہاراؤ بہادر والیٔ کوٹہ۔

۵۔ نواب صاحب جوناگڑھ۔

۶۔ سر جے۔ ایف پرائس۔

۷۔ مہاراجہ صاحب آف دتیا۔

۸۔ راجہ صاحب کپورتھلہ کے سی۔ ایس آئی۔

۹۔ راجہ صاحب کوچین۔

۱۰۔ سر ای سی۔ بک۔

۱۱۔ ٹھاکر صاحب پالیتانہ۔

۱۲۔ مہاراجہ کیسری سنگھ بہادر والیٔ سروہی

۱۳۔ سر ایف ڈبلیو۔ آر۔ فرائر۔

۱۴۔ راجہ امر سنگھ صاحب کشمیر

صاحبانِ جی۔سی۔آئی۔ای

۱۔ آغا سر سلطان محمد شاہ۔
۲۔ میجر جنرل اے۔گیسلی۔
۳۔ مہاراؤ صاحب بوندی۔
۴۔ لارڈ ایمپتہل۔
۵۔ مہاراجہ صاحب اورچھا۔
۶۔ لارڈ نارتھکوٹ۔
۷۔ مہاراجہ صاحب بنارس۔
۸۔ ٹھاکر صاحب سوروی۔
۹۔ ٹھاکر صاحب گونڈل۔
۱۰۔ میر صاحب خیرپور۔
۱۱۔ مہاراجہ صاحب فردلی۔
۱۲۔ خان صاحب قلات۔
۱۳۔ نواب صاحب ٹونک۔
۱۴۔ مہاراجہ صاحب کوچ بہار۔
۱۵۔ مہاراؤ صاحب کچھ۔

صاحبان جی۔سی۔ایس۔آئی۔

۱۔ مہاراجہ سر پرتاب سنگھ بہادر والی ایڈر۔
۲۔ مہاراجہ صاحب ریواں۔
۳۔ مہاراجہ صاحب گوالیار۔
۴۔ مہاراجہ صاحب کولہاپور۔
۵۔ مہاراجہ صاحب کشمیر۔
۶۔ سر شمس الامرا مدار المہام بہادر رئیس حیدرآباد دکن۔
۷۔ مہاراجہ صاحب جے پور۔
۸۔ مہاراجہ صاحب اندور۔
۹۔ مہاراجہ صاحب والیٔ بڑودہ
۱۰۔ نظام حیدرآباد دکن۔
۱۱۔ راجہ سر ہیرا سنگھ صاحب والیٔ نابھہ

فصل یازدہم

نماز و دعا

دربار کے لمبے پروگرام میں جہاں - دربار - دعوت - اِفتتاحِ نمائش عطائے خطابات اور حتّیٰ کہ فوجی ورزشوں اور کھیلوں تک کے لئے بڑی فراخدلی سے وقت نکالا گیا تہا - شہنشاہِ حقیقی کی حمد و ثنا کے لئے بھی کسی نہ کسی وقت کا نکالنا ازبس ضروری تہا - کیونکہ فی الحقیقت تمام سلطنتوں کا اصلی مالک اور لازوال شہنشاہ وہی ہے - اور بادشاہوں کو تاج و تخت صرف اُسی کی جناب سے عطا ہوتے ہیں - اِسلئے اکثر بادشاہانِ سلف میں تخت و تاج پاتے ہی اپنے خالق کے روبرو سجدۂ شکر و سپاس میں گر پڑنا بہی لازمی طور پر داخلِ رسم تہا چنانچہ تاجپوشیِ لنڈن کے حالات میں موجودہ شاہ و شہنشاہِ ہند کے الفاظ اور وہ مراسم جو تاجپوشی کیوقت وہاں عمل میں آئی تہیں - ناظرین کو فراموش نہوئی ہونگی - جس کے مُطابق کوئی شک نہیں - کہ اگر شہنشاہِ معظم خود یہاں موجود ہوتے تو اس دربار میں صرف اعلان ہی نہ پڑھا جاتا - بلکہ کُچھ نہ کُچھ مذہبی رسوم بھی ادا ہوتیں - جنکی عین بروقت ادائیگی سوائے شہنشاہ کے کوئی صاحب کر سکتے تھے لہٰذا اس کے لئے اتوار کا دِن مُقرّر ہوا - جو مذہبِ عیسوی میں ایک مقدّس دِن مانا جاتا ہے - اور کیمپ کے مشرقی پولو گراونڈ کا میدان اس عظیم الشان متفقہ دُعا و مناجات کے لئے تجویز کیا گیا - جس میں کثیر التعداد شائقین جمع ہو گئے

۱۱ - بجے قبل دوپہر کا وقت اِس عبادت کے لئے مُقرّر ہو چکا تہا - جس کے لئے بہت پہلے سے پولو گراونڈ کے سامنے کیطرف افواجِ انگریزی اپنی پوری

وردیوں میں صف بستہ کھڑی کردی گئی۔ اور دوسری طرف نہایت شاندار باجے
مشتعین کئے گئے۔ جسمیں چھ سو باجہ نواز۔ اور پانسو باجہ کی آواز پر سُر ملانے والے
اشخاص موجود تھے۔ اور پھر انکے پیچھے درختوں کی سرسبز قطار تھی جو ایک پاؤں سے
کھڑی اپنے خالق کی تقدیس کا خاموش گیت گا رہی تھی۔

وقتِ مقررہ سے پیشتر تمام ملکی و جنگی حکام اپنی اپنی وردیوں میں اور لیڈیاں
نہایت نفیس ڈریسوں میں پہنچنی شروع ہو گئیں۔ جنمیں ہر درجہ اور ہر طبقہ کے
لوگ شامل تھے۔ اور ہر مقام کے بڑے بڑے پادری صاحبان مثلاً بشپ اوف
کلکتہ مع اپنے چیپلن پادری ایم۔ اے مور صاحب کے۔ اور بشپ اوف لاہور
مع پادری فرگوسن ڈیوی صاحب کے۔ اور بشپ اوف مدراس مع پادری بینی
فاسٹر صاحب کے۔ اور بشپ آف لکھنؤ مع پادری ایم کرون کے۔ اور پادری ڈبلیو
ای سکاٹ صاحب پیر پادری بمبئی۔ اور ایچ۔ ڈبلیو گرفتھ صاحب پیر پادری لاہور
اور پادری ٹی۔ ایف کول صاحب چیپلن دارجلنگ۔ پادری۔ سی۔ ای۔ ڈی
گرانڈکن صاحب چیپلن پونا۔ اور پادری پی۔ ایس گردو صاحب چیپلن نیمچ۔ اور
پادری سی۔ اے گلمور صاحب چیپلن کوئٹہ وغیرہ سب مقدس پرا باندھے موجود
تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے۔ کہ آج تو انہیں کا جلسہ تھا۔

غرضکہ جب وزیٹر صاحبان۔ مہمانانِ حضور وائسرائے اور اعلیٰ حکام انگریزی وغیرہ
سب جمع ہو چکے۔ تو پھر وائسرائے صاحب بہادر مع بیگم صاحبہ۔ ڈیوک آف کیناٹ
بہادر مع بیگم صاحبہ۔ گرینڈ ڈیوک ہیسی۔ اور کمینڈر انچیف صاحبان تشریف
لاکر شریک ہوئے۔ اور ٹھیک وقت پر پادری ڈاکٹر کاپلسٹن صاحب
بشپ اوف کلکتہ میٹروپولیٹن (آپ ہندوستان و سیلون کے اسقفِ اعظم ہیں) نے
شاندار نمازِ شاہی ان الفاظ سے شروع کی۔ کہ

"خدا اپنے مقدس گھر میں جلوہ گر ہے جسکے روبرو تمام دنیا کو دم بخود رہنا چاہئے"
پھر حسب دستور ایسے ہی اور بھی الفاظ ادا ہوتے رہے۔ اور رسم مروجہ کے
مطابق تُریاں وغیرہ بھی بجتی رہیں۔ اور اختتام نماز تک ایک ایسی پُراثر خاموشی
اِس عظیم الشان مجمع پر طاری رہی۔ جس سے خود بخود مذہبی اثر ظاہر ہو رہا تھا
نماز کے بعد اسقف اعظم صاحب نے حسب معمول ایک خاص تعداد دُعاؤں
کی پڑھی جنمیں بادشاہ۔ ملکہ۔ خاندانِ شاہی۔ حضور وائسرائے اور عمائدین دینی
و دُنیوی کے لئے الگ الگ الفاظ و مصطلحات مقرر ہیں۔ اِن کے بعد
ہندوستانی حکمرانوں اور شہزادوں کے لئے ایک دُعا مانگی گئی۔ جس کا لکھنا
ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ دُعا اِن الفاظ میں تھی۔ کہ۔

اے خُدائے رحیم۔ ہم بعجز و ادب تمام تجھسے تمام ہندی شہزادوں اور
حکمرانوں کے لئے دُعا و التجا کرتے ہیں۔ کہ تو انہیں سید ہا رستہ دکھا اور
اِنپر اپنی رحمت نازل فرما۔ تاکہ تیرے بے شمار بندے جو انکے ماتحت ہیں۔
نیکی اور دیانتداری سے پُرامن زندگی بسر کرسکیں بطفیل مسیح علیہ السلام آمین
اِس کے بعد پھر آخری دُعا پڑھی گئی۔ جو معمولاً تمام باشندوں کے حق میں کیجاتی
ہے۔ اور پھر اسقف اعظم نے ایک وعظ کیا۔ جس کے خاتمہ پر بشپ اوف مدراس
نے شکرانۂ الٰہی ادا کیا۔ اور پھر بشپ اوف کلکتہ نے اپنا پادریانہ عصا لیکر
تمام حاضرین کے لئے دُعائے خیر و برکت مانگی۔ اور جلسہ برخاست ہوا۔ جس کے
خاتمہ پر نیشنل اینتھم (قومی راگ) سب حاضرین نے ملکر گایا۔ اور پھر سب سے
پہلے حضور وائسرائے مع لیڈی صاحبہ۔ اور ڈیوک اوف کیناٹ بہادر مع لیڈی
صاحبہ اور گرینڈ ڈیوک ہیسی۔ کمینڈر انچیف وغیرہ معزز ہنگام رخصت ہوگئے
جنکے جانیکے بعد رفتہ رفتہ تمام مجمع منتشر ہوگیا۔ اور یہ کارروائی باحسن وجوہ

اختتام پذیر ہوئی۔

جس کے بعد پھر اُسی دن جبکہ بباعث اتوار کے سرکاری تقریبات سے حکّام اور مہمانوں کو بالکل فراغت تھی۔

ہز ہائینس حضور نظام خلد اللہ ملکہ کیطرف سے گارڈن پارٹی

کا انتظام عمل میں آیا جس میں حکّام گورنمنٹ و عمائد اور بعض بعض چیدہ چیدہ والیانِ ریاست کو اس موقع پر لطف ملاقات کے لئے ایوان لیڈ لو کیسل میں یکجا ہونیکی پُر تپاک دعوت دی گئی تھی۔

حضور ممدوح کے فرودگاہ کی آرائش وزیبائش کے متعلق ناظرین کتاب پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ نہائیت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ ایک تو کوٹھی ہی ایسی تھی کہ دہلی بھر میں فرد کہی جائے۔ جسپر جھنڈیوں۔ پھریرونکی آویزش اور پھول پھلواڑی کی نزہت اور اسپر جلال وہیبتِ شاہی کی صولت نے اِس کو وہ رتبہ دے رکھا تھا۔ کہ کوئی دوسرا کیمپ اُس کے مقابل نہو سکتا تھا۔ لیکن گارڈن پارٹی کیوقت حضور کی اردلی سپاہ کا جماؤ اور نیزہ بردار رعب سوارونکا زرد رنگ کی وردی اور سُرخ پٹکوں سے سجاؤ کچھ اَور ہی جلوہ دکھا رہا تھا۔ اس کے علاوہ فوجی باجہ بھی طرح طرح کے دلکش راگوں سے تفریح دے رہا تھا۔

مہمانوں میں سے ایسا کون تھا جسے حضور یاد فرمائیں اور وہ عزت وفخر سے حاضر نہو۔ والیانِ ریاست میں سے ہز ہائینس گائکواڑ بڑودہ۔ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بیکانیر۔ ولیعہد صاحب مسقط۔ راجہ صاحب کپورتھلہ وغیرہ۔ اور یورپین حکّام میں معتدد افسرانِ گورنمنٹ اور چیدہ چیدہ دیسی شرفاء سب موجود تھے۔ ایک وسیع زرد رنگ کے شامیانہ میں جو نہائیت شان وشوکت سے لگا ہوا تھا۔ چیدہ پارٹی دی گئی تھی۔ حضور نظام بالکل سادہ ڈریس میں تھے۔ لیکن

آپ کے خدّام اور متوسّل ایسی مُکلّف پوشاکوں سے ملبّس ہو رہے تھے۔ کہ کسی بڑے سے بڑے سجے ہوئے والیٔ ریاست کو بھی جلوسی پوشش کا فخر نہ ہو سکتا تھا۔ انہیں تمام افسران میں سے چند صاحبان نہایت اخلاق کے ساتھ ہر ایک صاحب کو استقبال مناسب کے ساتھ حضور کے روبرو پیش فرماتے جاتے تھے۔ اور حضورِ ممدوح بھی نہایت فرحت و بشاشت اور اخلاق و مروّت کے ساتھ ہر ایک صاحب سے علیٰ قدر مراتب مصافحہ و مزاج پُرسی فرما کر عزّت افزائی فرماتے جاتے تھے۔ جس سے سب صاحبان حضور ممدوح کے اخلاق اور افسرانِ متعینہ کے آداب کے نہایت شکر گذار واپس ہوئے۔

والیانِ ریاست کی باہمی ملاقاتیں بھی

اکثر اسی دن ہوتی رہیں۔ لیکن جیسا کہ ہز ایکسیلنسی لارڈ کرزن بہادر نے خیال فرمایا تھا۔ کہ یہ موقع ان صاحبوں کی ملاقات باہمی کے لئے بڑا مفید اور کار آمد ہوگا۔ اور سب صاحبان آپسمیں مل ملا کر ملکی اور قومی محبتوں کو تازہ فرما سکیں گے۔ یہ بات پوری نہوئی۔ سوائے ہز ہائینس نظام۔ ہز ہائینس گیکواڑ بڑودہ کے اکثر والیانِ ریاست انہیں صاحبوں سے رسمیہ طور پر ملاقات فرماتے رہے۔ جو پہلے سے تعلق رسل و رسائل اور ملاقات کا رکھتے تھے۔ وجہ یہ کہ گورنمنٹ کی پالیسی اِس سے پہلے ایسی رکھی گئی تھی۔ کہ دو والیانِ ریاست آپسمیں ملاقات کرنے میں سخت محتاط رہیں۔ چنانچہ اَب وہ عادتیں ایسی راسخ ہو گئی ہیں۔ کہ باوصف اجازت عام کے بھی یہ صاحبان اِس موقع سے ازدیادِ تعلقات محبت میں پیش قدمی نہ فرما سکے

فصل دوازدہم

سٹیٹ بال (شاہی جلسۂ رقص) اور دعوت

منعقدہ ۶۔ جنوری ۱۹۰۳ء بوقت شب

دہلی کے قلعہ میں اگرچہ اس سے پہلے شاہانِ سلف کیوقت میں سینکڑوں ہزاروں توکیا لاکھوں جلسے بھی رقص وسرود کے ہوچکے ہوں توکوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ ایشیائی حکمرانوں کے ساتھ ایسی باتیں خصوصیت کے ساتھ منسوب ہوچکی ہیں۔ لیکن اسمیں کوئی شک نہیں کہ قلعہ کی اس پرانی عمارت کو ایسے جلسے سوائے عہدِ انگریزی کے پہلے کبھی دیکھنے نصیب نہوئے ہونگے کہ جنمیں معزز عہدہ داروں اور حکّام کی خاتونیں رقص وسرود کا ایکٹ بنفسِ نفیس خود ادا کرتی ہوں۔

اس جلسۂ عیش ونشاط کے لئے دس بجے شب کا وقت مقرر کیاگیا تھا۔ سوائے حکّام یوروپین اور مہمانانِ ولائیت کے دیسی مہمانوں کو باریابی کا موقع نہ ہوسکتا تھا۔ مگر حضور وائسرائے نے خاص طور پر چند عالیقدر اور ممتاز والیانِ ریاست کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ کہ انگریزی بے تکلفی اور طریقِ رقص وسرود کا وہ بھی آکر مطالعہ فرمالیں۔ چنانچہ آٹھ بجے کے بعد شاملین کا پہنچنا شروع ہوگیا۔ دروازۂ قلعہ پر ایک فوجی دستہ سلامی کے لئے۔ اور انگریزی باجہ خوش آمدید کے لئے متعین ہوچکا تھا۔ دیوانِ عام میں جلسۂ رقص کا انتظام تجویز ہوا تھا۔ اور دیوانِ خاص میں حضور وائسرائے ڈیوک آف کیناٹ۔ کمینڈر انچیف اور دیگر بڑے بڑے معزز حکّامِ گورنمنٹ کے لئے کھانے کی میز بچھائی گئی تھی۔ اور

ایک دوسرے کمرے میں دوسرے یورپین مہمانوں کے لئے بڑے وسیع پیمانہ پر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ چنانچہ ایسے کمروں کی صفائی اور آرائش خاص طور پر اُس دن قابلِ دید ہو گئی تھی۔ سنگ مرمر کی چمک اور شاملین کی پوشاکوں کی بھڑک کو برقی روشنی نے گویا پر لگا دیئے تھے۔ جس سے نگاہ کو ایک جگہ ٹِکنا محال ہو گیا تھا۔ کیونکہ جتنے بھی صاحبان شریک تھے۔ سب نے چمکیلے اور نفیس لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ بالخصوص لیڈیوں کی پوششیں تو اور بھی قابلِ دید تھیں جنکے ساتھ جواہرات کا شمول گویا سونے پر سُہاگے کا کام دے رہا تھا۔ اور جو خاص خاص والیانِ ریاست بُلائے گئے تھے وہ بھی اپنی زرّین پوشاکوں اور جواہرات کے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ اور یہ تمام کیفیتیں کچھ ایسا عجیب نظر فریب عالم اِس وقت ناظرین کے روبرو پیشِ نظر کر رہی تھیں کہ لائق دید تھا نہ قابلِ شُنید۔

وقتِ مُقررہ تک جب سب صاحبان موجود ہو گئے۔ تو سب کے بعد ہز ایکسیلنسی وائسرائے بہادر مع ڈچس اوف کینائٹ صاحبہ۔ اور ڈیوک اوف کینائٹ بہادر مع لیڈی کرزن صاحبہ بیگم وائسرائے بہادر تشریف لائے۔ جنکو حسب معمول فوجی دستے اور بلجے نے سلامی دی۔ اور حاضرین نے جلوسی صورتیں بڑھکر استقبال کرنے کے بعد دیوانِ عام میں داخل کیا۔

لیڈی کرزن بہادر نے آج وہ نایاب جوڑہ زیب بر کیا ہوا تھا۔ جس پر ہندوستانی صنعت گری کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اور جو بالخصوص اِس موقع کے مناسب آپ نے طیار کرایا تھا۔ ڈچس اوف کینائٹ بھی سفید زرکار پوشاک سے سجی ہوئی تھیں ڈچس اوف مالبرو بھوسلے اور سفید رنگ کا جوڑہ پہنے ہوئے ایک ایسی مرصّع نکلشائی لگائے ہوئے تھیں۔ جو بے اختیار ہر کسی کی نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔

دوسری لیڈیاں اور صاحبان بھی اکثر سفید رنگ کی پوشاکوں سے سجے ہوئے تھے۔
دیوانِ عام کے ہر کمرہ پر چیدہ باجے متعیّن ہو چکے تھے۔ جنکے باجہ نواز بھی ایسے ہی مشاق منتخب ہوئے تھے۔ کہ جنسے بہتر ملنے غالباً دشوار سمجھنے چاہئیں۔ اور انکی سُریلی گتیں خود بخود ایک دلولہ طبیعتوں میں پیدا کر رہی تھیں۔ چنانچہ داخل ہوتے ہی باجے کی سنانہ آواز پر شاہی رقصی جوکڑی یعنے ڈیوک اوف کینا ٹ مع لیڈی کرزن اور لارڈ کرزن مع ڈچس اوف کینا ٹ سرگرم رقص ہو گئے جنکے بعد ہائینس اور عالیقدر حکام نے اپنے اپنے جوڑوں کے ساتھ رقص فرمایا۔ رقصی جوڑوں کی ابتدائی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ ہز ایکسیلنسی لارڈ کرزن بہادر وائیسرائے ہند۔ ڈچس اوف کینا ٹ کے ساتھ۔
۲۔ ڈیوک اوف کینا ٹ بہادر۔ لیڈی کرزن کے ساتھ۔
۳۔ لارڈ نارتھ کوٹ صاحب گورنر بمبئی۔ لیڈی ایمپتھل بیگم گورنر مدراس کے ساتھ۔
۴۔ گرینڈ ڈیوک اوف ہیسی۔ لیڈی نارتھ کوٹ بیگم گورنر بمبئی کے ساتھ۔
۵۔ لارڈ کچنر صاحب کینڈر انچیف۔ مسز بورڈلن صاحبہ کے ساتھ۔
۶۔ سر چالس ریواز صاحب لفٹننٹ گورنر پنجاب۔ لیڈی لاٹوش بیگم لفٹننٹ گورنر صوبجات متحدہ کے ساتھ۔
۷۔ لارڈ ایمپتھل صاحب گورنر مدراس۔ ڈچس اوف پورٹ لینڈ کے ساتھ۔
۸۔ سر فریڈرک فریزر لفٹننٹ گورنر بہار۔ ڈچس اوف مالبرو کے ساتھ۔
وقس علٰے ہذا۔

غرضکہ اس رقص و سرود میں ایک گھنٹہ بسر فرما کر حضور وائیسرائے مع اپنے ممتاز جلیسوں کے کھانے کے کمرے کیطرف تشریف لے گئے۔ اور مہمانان یورپین دوسرے کمرے میں کھانے پر جا بیٹھے جس سے انفراغ کے بعد

پھر بھی جلسہ رقص و سرود بدستور گرم رہا۔ لیکن ڈیوک آف کیناٹ بہادر مع ڈچس صاحبہ کے ساڑھے بارہ بجے کیمپ کو واپس تشریف لے گئے۔ جنکی مشایعت حسب معمول ادا ہوئی۔ اور بعدازاں لارڈ کرزن بہادر وائسرائے ہند بھی مع لیڈی صاحبہ ایک بجے پر پندرہ منٹ جلسہ کو رقصاں چھوڑ کر نہفت فرمائے کیمپ ہوئے۔ جنکی مشایعت بدستور جلوسی طریق پر عمل میں آئی۔ اور اپنی طبیعت کے موافق معزز والیانِ ریاست بھی تشریف لیجاتے رہے۔ لیکن کرنل ہیرنگ صاحب ملٹری سکرٹری مع سٹاف اور مہمانان حضور وائسرائے بہادر کے تین بجے قبل صبح تک جلسہ قائم کئے رہے۔ اور جب اختتامِ جلسہ پر باقی صاحبان کو بھی تشریف لیجانا پڑا تو وہ اِس جلسہ کے گوناگوں نظاروں کی پُرمسرت یاد اپنے دلوں میں لے گئے۔

یہ جلسہ اِس موقع پر گویا قومی مسرت اور پُرجوش ولولہ کا ثبوت تھا۔ جو یورپین اقوام میں رائج ہے۔ اور بعض ایسی باتیں جو ایشیائی ملکوں میں مستحسن نہیں سمجھی جاتیں۔ یوروپین ممالک میں بڑی دلچسپی سے دیکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ قیصری کا انگریز مصنف کہتا ہے کہ ایشیائی باشندوں میں خواہ کوئی کتنا بڑا جلسہ ہو۔ اپنے آپکو ضبط رکھنے اور غُل غپاڑا نہ ڈالنے کی عادت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوروپ میں ہی باتیں جلسوں کے پُرجوش بنانیکے لئے کیجاتی ہیں۔

فصل سیزدہم

والیانِ ریاستہائے ہند کا جلوسِ علیحدہ

بتاریخ ۷- جنوری ۱۹۰۳ء

جلوسِ سواری میں چونکہ والیانِ ریاستہائے ہند والیسرائے صاحب کے بعد صرف ایک ایک ہاتھی پر ہی سوار گذرے تھے - اور اُنکے اہلکار اختتامِ جلوس کے بعد ہاتھیوں پر سوار شریکِ جلوس ہوئے تھے - جس سے اِنکی اصلی شان وشوکت کا بخوبی اظہار نہو سکتا تھا - لہٰذا ۷- جنوری ۱۹۰۳ء کا دِن اِس بات کے لئے مقرر کیا گیا کہ اِس میں اُن معزز والیانِ ریاست کو مع جلوس دیکھا جائے - جو ۲۹ دسمبر کے جلوس میں شریک تھے - چنانچہ اس کے واسطے قرار دیا گیا کہ ہر ایک والیٔ ریاست اپنے اُس شاہانہ جلوس کے ساتھ اِس تقریب میں شامل ہو - جس کے ساتھ وہ اپنی دار الریاست میں تہواروں یا ایسی دوسری تقریبات میں نکلنے کے عادی ہیں - تاکہ اِنکے اِس طرح شریک ہونے سے سفرائے دولِ غیر وغیرہ پُوری طرح اِس بات کا اندازہ کرلیں کہ ہندوستان کی شہنشاہی کیسے کیسے جلیل القدر والیانِ ریاست اپنے ماتحت رکھتی ہے -

اِس کارروائی کے لئے دربار ہال کا مقام تجویز کیا گیا تھا - اور چونکہ دربار ہال سے بعض والیانِ ریاست کے کیمپ بہت بڑے فاصلہ پر تھے - اِسلئے ساتھ ہی یہ بھی طے کر دیا گیا - کہ والیانِ ریاست کی آمد میں کسی درجہ وغیرہ کا لحاظ نہ کیا جائے - جو جو صاحبان بھی پہنچتے جائیں بلاخیالِ مراتب شریک ہوتے جائیں - ساڑھے گیارہ بجے کا وقت اِس نظارہ کے لئے مقرر ہو چکا تھا -

جس کیواسطے صبح سے ہی افواج اور افسرانِ متعلقہ اپنی اپنی خدمتوں پر مستعد ہو گئے۔ تین ہزار امپیریل سروس افواج زیر انتظام بریگیڈیر جنرل سٹوارٹ بیٹسن صاحب دربار ہال کے سامنے اپنی عجیب وغریب شاندار وردیوں میں صف بستہ کھڑی کر دی گئیں۔ اور چیدہ فوجی باجے صحنِ دربار میں متعین کر دیئے گئے تھے۔ تاکہ اس عظیم الشان جلوس کے دلچسپ نظارے کو وہ اپنی خوش آئند گتوں سے اور بھی زیادہ دلکش بنا دیں۔ میجر ڈنلاپ سمتھ صاحب کو ایسے جلوسوں کے باترتیب معائنہ کرانے کی خدمت تھی۔ اور پہرہ چوکی پر گھاگرہ پلٹن کے گورہ سولجر متعین ہو چکے تھے۔

عام لوگوں کو تو بوجہ اس بات کے کہ اردو میں کوئی مفصل پروگرام شائع نہیں ہوا تھا۔ ایسی کارروائیوں کی کچھ زیادہ خبر نہ تھی۔ لیکن انگریزی خوان اور بعض ایسے اشخاص جو پہلے سے اس عالیشان نظارہ کی خبر پا چکے تھے۔ دس بجے دربار ہال کے گرد و پیش جمع ہونے شروع ہو گئے۔ درباریوں کے لئے کوئی خاص ٹکٹ نہ تھا۔ بلکہ درباری ٹکٹ ہی دکھا کر وہ دربار ہال میں جا سکتے تھے۔ بہر حال دس بجے سے گیارہ بجے تک قریباً دس ہزار صاحبان وہاں پہنچ گئے تھے۔ جنکی تفریح کے لئے باجہ اپنی مستانہ سُروں کو چھیڑ رہا تھا۔ جسکے بعد والیانِ ریاست کی آمد شروع ہوئی۔ اور سب سے اخیر ساڑھے گیارہ بجے ہز ایکسیلنسی وائسرائے صاحب بہادر مع لیڈی صاحبہ اور ہز رائل ہائینس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر مع بیگم صاحبہ اپنے اپنے سٹافوں کے ساتھ رونق افروزِ دربار ہال ہوئے۔ جنکے آنے پر حسبِ قاعدہ باجے نے نیشنل انتھم بجایا۔ اور جب حضورینِ ممدوحین اپنی اپنی نشستوں پر متمکن ہو گئے تو والیانِ ریاست کا جلوس گذرنا شروع ہوا۔ یہ جلوس

لہرسئے کی صورت میں دربار ہال کے بائیں ہاتھ سے داخل ہوکر حضور والیسرائے اور ڈیوک صاحب کو سلام کرتا ہوا دوسری طرف سے نکل جاتا تھا۔ بلکہ اکثر سدھائے ہوئے ہاتھی بھی بغیر سلام کے نہ جاتے تھے۔ نام کو تو صرف چالیس والیانِ ریاست کا جلوس ہی آیا تھا۔ مگر یہ کیسا پُرشوکت اور کتنا طویل تھا اس کا اندازہ اِسی امر سے ہوسکتا ہے کہ اِس کے گذرنے میں تین گھنٹے سے کم وقت صرف نہوا۔

پہلے ریاستہائے بمبئی کی باری آئی۔ جنکے بعد میسور۔ بڑودہ۔ ریاستہائے وسط ہند۔ رؤسائے راجپوتانہ۔ ممالکِ متحدہ۔ اور پھر ریاستِ کشمیر اور برما کے جلوس گذرے۔

سب ریاستوں کے جلوس اِس اہتمام اور ٹھاٹھ سے سجے ہوئے تھے کہ غالباً کسیکو کسی پر ترجیح دینا مناسب نہوگا۔ جنمیں سے ہر ایک بجائے خود بہت کچھ قابلِ داد اور لائقِ دید تھا۔ اور غالباً جس کے دیکھ لینے کے بعد علی العموم صاحبانِ یوروپین اور بالخصوص سفرائے دولِ خارجہ کے دِل پر ایسا اثر ہوا ہوگا۔ کہ جسکو وہ کبھی بھول نہیں سکتے۔ خاصتاً فرنچ اور پرتگیز کے سفیر جنکی سلطنتیں کسی وقت گورنمنٹ ہند کی رقابت کے لئے تاریخی شہرت رکھتی ہیں۔ اِن نظاروں کو دیکھکر بہت ہی متاثر ہوئے ہوں گے۔ سب کے ہاتھیوں کی مستکیں عموماً نہایت خوشنمائی سے رنگی ہوئی تھیں۔ زیورات بھی ایسے پہنائے گئے تھے کہ ۲۹ دسمبر کے جلوس میں بھی نہ ہوں گے۔

اگرچہ درباری باجے ان جلوسوں کے گذرتے وقت گرینڈ مارچ کی گت بجاتا جاتا تھا۔ مگر خود انکے ڈھولوں۔ دماموں۔ تریوں۔ قرناؤں کی آواز اِس قدر بلند اور بعض اوقات خوش آیند بھی تھی۔ کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔

جلوسوں میں طرح طرح کے ہاتھی سنہری روپہری ہودوں - جھولوں اور زیورات سے سجے ہوئے اور قابلِ دید کوتل گھوڑے سونے اور چاندی کے سازو یراق سے لدے ہوئے - اور خوبصورت اونٹ مناسب سازو سامان سے کسے ہوئے پیشِ نگاہ ہوتے تھے جنکے ساتھ سواروں کے رسالے اور پیدل پلٹنیں عجیب بہار دکھاتی تھیں - اور پھر ساتھ ہی طرح طرح کی گاڑیاں - پالکیاں اور عجیب و غریب سواریاں گذرتی تھیں جن کے ساتھ عصا برداروں اور برچھی برداروں کے زرق برق مجمعے نہایت خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتے تھے - چند روساء کے جلوس میں ہاتھیوں کی گاڑیاں بھی نظر سے گذریں - جو غالباً بڑا عجیب نظارہ تھیں - مثلاً ریواں کی ایک بڑی طول طویل دو پہیّی گاڑی تھی - جسمیں دو ہاتھی جُرٹے ہوئے تھے - جسکو لوگوں نے بڑے شوق سے ملاحظہ فرمایا - لیکن جب ایک ایسی گاڑی آئی جسمیں چار ہاتھی جُتے ہوئے تھے - تو پہلی کی وقعت اس کے روبرو ہیچ ہو گئی - مہاراجہ صاحب بنارس کے پندرہ ہاتھی بھی جو ایک سے ایک زیادہ سجا ہوا تھا بڑے ہی لائق دید تھے - علیٰ ہٰذا اندور کے دو ہاتھی بھی بڑے ہی سجے ہوئے تھے - اور نابہ کے ایک ہاتھی کو دیکھکر بھی یوروپین صاحبوں کو بڑی مسرت ہوئی ہوگی کیونکہ اُس کے دونوں بڑھے ہوئے دانتوں پر کئی ایک فانوس آویزاں کر کے سجائے ہوئے تھے - جو اگر رات کا وقت ہوتا تو روشن ہو کر اور بھی لطف دیجاتے - اِس ریاست کے جلوس میں کچھ بازدار بھی گذرے جو ہاتھوں پر باز بٹھلائے ہوئے تھے - جنسے راجہ صاحب نابہ کا شوقِ بازداری ثابت ہوتا تھا - لیکن معلوم اِس جلوس میں انکو کس مناسبت سے شریک کیا گیا تھا - جو اگر شامل جلوس نہوتے - تو کچھ کمی بھی نہو جاتی -

زرہ بکتر پہنے ہوئے سوار بھی اس جلوس میں بڑے شوق سے دیکھے گئے۔ کیونکہ اب ان چیزوں کے استعمال کی وہ حالت نہیں رہی جو آج سے سو برس پہلے تھی۔ انمیں سے ریواں اور دتیا کے دو شخص سراپا آہنی زرہ بکتر میں غرق ہاتھیوں پر سوار ایسے خوفناک معلوم ہوتے تھے کہ ہر ایک نظر انکے ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر نہ دیکھنے کی خواہشمند ہو جاتی تھی۔

مہاراجہ صاحب بڑودہ کے جلوس کی شان نرالی تھی یعنے جس طرح نمائشگاہ میں انکا جواہراتی قالین ایک بے عدیل چیز ثابت ہوا تھا ویسے ہی جلوس میں بھی انکی سونے چاندی کی توپیں بے نظیر چیزیں تھیں۔ یہ خوبصورت طویل القامت توپیں ویسے ہی پہیّوں کی گاڑیوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ اور نہایت خوبصورت بیل انکے کھینچنے پر لگائے گئے تھے۔ چاندی کی توپ کے بیلوں کی سنگوٹیاں اور پہیے سونے کے تھے۔ اور سونے کی توپ کے بیلوں کی سنگوٹیاں اور پہیے چاندی کے۔ اِنسے ہندوستان کی گذشتہ ثروت کا خیال اور ایک دفعہ تاریخِ گذشتہ کا تصوّر ضرور ہو جاتا تھا۔

ہر ایک ریاست کے پرانے نشاناتِ امارت و حکومت مثلاً ماہی مراتب اور علم و نقارہ وغیرہ بھی بڑے لطف سے جلوہ گر ہوتے تھے۔ اگر ریواں کا سنہری علم اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ تو بھوپال کا سبز جھنڈا اپنی دلاویزی جتا رہا تھا۔ وغیرہ وغیرہ

ان جلوسوں کے ساتھ بعض دفعہ سپاہیان جلوس اپنے فنون پٹہ سازی اور جمناسٹک کی بھی نہایت صفائی کے ساتھ سیر کھلاتے جاتے تھے۔ جس پر ہر طرف سے چیرز اور نعرہ ہائے تحسین بلند ہو کر انکی داد دے رہے تھے۔ جیسے کہ راجپوتانے کے لوگوں نے عجیب قسم کی لمبی لمبی لکڑیوں پر چلنے سے یا کشنگڑھ کے سوار دو گھوڑوں پر بجائے بیٹھنے کے کھڑے رہنے سے۔ یا الور کے دو سواروں نے

اپنے گھوڑوں کو یہاں تک الف کرلنے سے کرلنے عمودی شکل پیدا ہو گئی ایسے حیرت انگیز فنون شہسواری دکھائے۔ کہ ناظرین دیکھکر عش عش کر اُٹھے۔

برہما کی ریاستہائے شان کی ٹوپیاں اور چھتریاں بھی کچھ ایسی غیر مانوس اور نئی چیزیں تھیں کہ ہر شخص انکو بڑی دلچسپی سے دیکھنا چاہتا تھا۔

ایساہی کشمیر کیطرف سے لداخ کے لوگ اپنے دہشتناک چہروں کے ساتھ اور کوتے کے نانگے بہبوت ملے ہوئے ڈھال تلوار کے ساتھ پٹہ بازی کرتے ہوئے گذرے۔

کشمیر کے جلوس میں دو دیوزاد بھی تھے۔ جنکا قد آٹھ فیٹ بلند ہے۔ اسپر ہز ہائینس نے جو پوشاک انکو عطا فرمائی تھی وہ انکو اور بھی رُعب دار بنا رہی تھی۔ یہ ریاست کشمیر کے ہی باشندے اور ہز ہائینس کے نمکخوار ہیں۔ پہلا شخص رزّاق نام ایک شخص کا بیٹا ہے۔ اور قدرتِ الہی ہے کہ اس کے والدین بجائے طویل القامت ہونیکے پست قد ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بڑی تلاش سے بہم پہنچایا گیا تھا۔ مگر اسمیں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کے اس نظارے کو تمام لوگ کبھی نہ بھولیں گے۔

سب کے آخر علاقہ کشمیر میں سے گلگت و یاسین کے لوگ بغیر زین وغیرہ کے گھوڑوں پر سوار گذرے جنکی صورت سے بہادری جلوہ گر ہو رہی تھی۔

یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ نابہ کے جلوس کے ساتھ ایک باؤنا (پستہ قد) آدمی بھی تھا لیکن ایسے باؤنے کئی دفعہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور جبکہ وہ علاقہ ریاست کا باشندہ بھی نہ تھا تو پھر معلوم نہیں انکو جلوس میں دکھلانے کی کیا خصوصیت تھی۔

الغرض یہ شاندار قابلِ یادگار اور لائقِ دید جلوس تین گھنٹے تک گذرتا رہا جسکے بعد ڈھائی بجے جلسہ برخاست ہوا۔ اور حسب قاعدہ سب سے پہلے حضور وائسرائے مع لیڈی صاحبہ۔ اور ڈیوک صاحب بہادر مع بیگم صاحبہ تشریف لے گئے۔

جنکی واپسی کیوقت حسب قاعدہ فوج اور باجے نے سلامی اُتاری۔ اور پھر دوسرے اعیانِ گورنمنٹ اور والیانِ ریاست مراجعت فرما ہوئے۔

اِس نظارت میں ہز ہائینس حضور نظام دکن خلداللہ ملکہ کیطرف سے کوئی جلوس نہ آیا تھا۔ اور نہ آسکتا تھا۔ کیونکہ معمولی طور پر ہر سال محرّم میں وہاں حضور کا جو جلوس نکلتا ہے اُسمیں صرف تین سو ہاتھی شامل ہوتے ہیں۔ جو اگران تمام جلوسوں کے ہاتھی جمع کرکے المضاعف کردیئے جاتے تو پھر انکا جلوس بن سکتا

بہرکیف اِس کارروائی سے یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ اگر دیسی رئیسوں کو اپنے اِسی طرح کے شاہانہ جلوس کے ساتھ حضور وائسرائے کی سواری میں شمولیت کی اجازت دیجاتی تو وہ جلوس ایک بڑا ہی قابلِ دید اور بڑے درجہ کا تاریخی ہوجاتا حضور وائسرائے ہند اگرچہ ایسی باتوں کو خود سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ابتک توجہ نہوئی ہو۔ تو آیندہ کیلئے وہ اِس ترکیب کو ضرور نوٹ کرجائیں۔ کیونکہ اِس طرح رؤساء ہند کو مع اُنکے جلوسوں کے شامل کرنے سے نہ صرف اُنکی ہی عزت بڑھتی ہے۔ بلکہ گورنمنٹ کی شوکت بھی بدرجہا بڑھ جاتی ہے۔

بہرحال اِس تمام کارروائی میں کوئی حادثہ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ سوائے اِس کے کہ یا تو ایک گاڑی کے گھوڑے کسیقدر بھڑک گئے تھے۔ یا ایک ہاتھی کے زیورات گر گئے تھے۔ مگر اِس سے ناظرین کے لُطف اور امن میں کوئی خلل نہیں آیا۔

اور تمام ریاستوں کے جلوس جس طرح حضور وائسرائے کے روبرو گذرے تھے اِسی طرح سے بنلٹ اپنے کیمپوں کو بعد سلام واپس ہوگئے۔

یہ جلوس اگرچہ پُرانے ڈھنگ کے تھے۔ لیکن انہیں بھی انگریزی قطع کا بہت کچھ دخل پایا جاتا تھا۔ اور اگر انگریزی تقلید کی یہی رفتار جاری رہی تو غالباً آیندہ زمانہ میں پُرانے اصلاح اور وردیاں بالکل محو ہوجائینگی۔

فصل چہاردہم

فوجی ورزشیں اور ریویو

تقریب دربار پر چونکہ انگریزی و دیسی افواج اور امپیریل سروس کے اس معقول تعداد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا تھا کہ غالباً ہندوستان میں بحالتِ امن کسی جگہ قبل ازیں اتنی فوجی جمعیت یکجا نہ ہوئی ہوگی۔ اور بالخصوص اس لحاظ سے کہ اِن افواج شاہی میں ہر فرقہ اور ہر مذہب علاقہ کی افواج کی رجمنٹیں شامل ہوئی تھیں۔ یہ نظارہ بہت ہی کچھ غیر معمولی ہوگیا تھا جو بیک نگاہ گورنمنٹ کی فوجی قوت کے ساتھ تمام فرقہ ہائے مختلفہ میں اُس کی ہر دلعزیزی کو بھی عین الیقین سے ثابت کر دیا تھا لہٰذا اس بے نظیر فوجی طاقت کی نمائش کے واسطے درباری ایام میں فوجی ورزشوں اور بہادرانہ کھیلوں کے لئے بھی بہت سا وقت رکھدیا گیا تھا تاکہ شاملین دربار کو وقتاً فوقتاً اِن فنونِ ضرب و حرب کی مشاق افواج کے کرتب دیکھنے کا موقع ہوتا رہے۔ چنانچہ ایام دربار میں کسی نہ کسی پولو یا دوسرے کرتبوں کیلئے قریباً روزانہ وقت دیا جاتا تھا جو معمولی پیمانوں پر باعثِ تفریح ناظرین و موجب مشق افواج ہوجایا کرتا تھا لیکن جو بڑے بڑے کھیل ہوئے۔ انمیں پہلے تو ۳ جنوری کو دربار ہال کی عمارت میں یہ بہادرانہ سین دکھایا گیا تھا جسکے لئے ڈھائی بجے بعدِ دوپہر کا وقت معین ہوچکا تھا۔ اور جسپر اکثر افسرانِ گورنمنٹ اور مہمانانِ یوروپین و روسا و امرائے ہند اور ڈیوک و ڈچس آف کناٹ بھی تشریف فرماتھے۔ اس دن فن نیزہ بازی میں سب

سبقت لے جانے والی رجمنٹ کو وائسرائے صاحب کیطرف سے ایک کپ انعام میں دینا تجویز ہوا تھا۔ جو پندرہویں بنگال لینسرز نے حاصل کیا۔

اسکے سوا اور بھی کئی قسم کی ورزشیں دیکھنے میں آئیں۔ مثلاً سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پشت پر سے جھک کر زمین پر سے رومال اٹھانا وغیرہ وغیرہ۔

اس کے بعد ۵ جنوری کو پھر پہلے سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ڈھائی بجے اسی مقام پر فوجی کرتب دیکھے گئے۔ جس میں حضور وائسرائے معہ لیڈی صاحبہ اور ہر دو دختران خود۔ گرینڈ ڈیوک میبی۔ لارڈ اور لیڈی نارتھکوٹ اور کثیر التعداد یوروپین حکّام و مہانان اور والیان ریاست ہائے ہند موجود تھے۔ اس میں سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی پیٹھ سے جھک کر زمین پر سے چیزیں اٹھانے کے سوا گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے سواروں کا تلوار کی ورزشیں کرنا اور چھلانگیں مارنا نہایت ہی خوش آیند نظارہ تھا۔ جو دیکھنے والوں پر فوج کی چستی و چالاکی کا سکہ بٹھا دیتا تھا۔ اور اسکے ساتھ نیزہ بازی کے کرتب بھی نہایت صفائی سے دکھائے گئے۔ جن کے دیکھنے سے بھی ناظرین بہت محظوظ ہوتے رہے اور جلسہ برخاست ہوا۔

اسکے بعد جو سب سے بڑا موقع فوجی جمعیت کے دیکھنے کا تھا اسکے لئے ۸ جنوری کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ کیونکہ

گریٹ ریویو یا علیمہ فوجی شاہی

پوری پوری طاقت کے ساتھ اسی دن نظر افروز ہونے والا تھا جسکی

شرکت کے لئے تمام یورو پین اور دیسی مہانوں کو دعوت دی گئی تھی۔ اور عام و خاص بھی اُسکے بہت مشتاق تھے۔

چنانچہ ۸ جنوری ۱۹۰۳ء کی صبح سے ہی تمام فوجوں میں طیاریاں شروع ہوگئیں۔ اور پولو گراونڈ کا میدان خوش وضع وردی پوش گورے اور ہندی سواروں اور پیادوں سے پُر ہونا شروع ہوگیا بارش ایک دن پہلے ہوچکی تھی۔ جس سے گو اُسوقت تو لوگوں کو سردی سے تکلیف ہوئی ہوگی۔ مگر اس رویو کے لئے وُہ بارش بہت ہی مفید ثابت ہوئی۔ کہ جس نے گرد و غبار بالکل فرو کرکے ہوا کو سرد و صاف کردیا تھا۔ مطلع بالکل شفاف تھا اور آفتاب کی کرنیں سپاہیوں کے اسلحہ جات کو نہایت آب و تاب سے چمکا رہی تھیں۔

۹ بجے صبح سے مہمانوں کی آمد آمد شروع ہوگئی تھی۔ جس میں عام درباری و والیانِ ریاست اور حکّام و عمائدینِ گورمنٹ سب شامل تھے۔ اور عام تماشائی تو اِس سے بھی پہلے سے جمع ہونے لگ گئے تھے۔ میدانِ علیمہ میں صدہا گز تک فوج ہی فوج نظر آتی تھی۔ جن کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سوائے دُوربین کے دیکھنا سخت مشکل تھا۔ افواج کی مختلف رجمنٹیں اور پلٹنیں خاکی سُرخ اور کئی دوسرے رنگوں کی وردیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ جن کے سروں پہ لنگیاں یا پگڑیاں یا سفید ٹوپیاں ایک عجیب نظارہ پیدا کرا دیتی تھیں توپخانہ بھی اپنی کئی قسم کی چھوٹی بڑی توپیں جن میں پہاڑی اور مشینری سے چلنے والیں اور ہلکی بھاری سب قسم کی موجود تھیں طیار کئے سامنے کھڑا تھا۔ غرضکہ جملہ کام لیس ہوچکا تھا۔ کہ دس بجے

ہز اکسیلنسی کمینڈر انچیف بہادر معہ اپنے پرسنل سٹاف کے تشریف لاکر معائنہ فرمانے لگے۔ اور اس عظیم الشان ریویو کی کمانڈ اپنے دستِ خاص میں لیکر مستعد کار ہو گئے۔ جن کے بعد ڈچس اوف کیناٹ صاحبہ اور لیڈی کرزن صاحبہ تشریف لائیں جن کی گاڑی فلیگ سٹاف کے بائیں جانب کھڑی کردی گئی اور ٹھیک ساڑھے دس بجے ہز ایکسیلینسی وائیسرائے بہادر معہ ڈیوک اوف کیناٹ بہادر اور گرینڈ ڈیوک ہیسی اور میجر جنرل سر ایڈمنڈ ایلس اور برگیڈیر جنرل کالنس اور کرنل بیرنگ صاحب ملٹری سکرٹری گھوڑوں پر سوار نمودار ہوئے جن کی جلو میں وائیسرائے صاحب کا باڈی گارڈ اور انڈین کیڈٹ کور کا پر فخر دستہ آرہا تھا۔ اس شاہانہ سواری کے آتے ہی توپخانہ سے اکتیس اتواپ کی شاہی سلامی سر ہونے لگی۔ اور باجے نے نیشنل اینتھم کا گیت گانا شروع کیا۔ جس سے دور و نزدیک سب کو خبر ہو گئی۔ کہ حضور نائب السلطنت اور عالیجناب شاہزادہ صاحب بہادر تشریف شریف لے آئے ہیں۔ الغرض سلامی کے بعد حضورین ممدوحین اس شاہی جھنڈے کے پاس جو سلامی کے لئے مقرر ہو چکا تھا۔ جا کر کھڑے ہو گئے۔ جن کے ساتھ جنرل اوکو صاحب سفیر جاپان بھی جا شریک ہوئے۔ اور کارروائی کا آغاز ہونے لگا چنانچہ ایک طرف سے فوج نے پیہم حرکت جو شروع کی تو باوصف بارش کے باعث گرد ابیٹھ جانے اور باوجود کثیر التعداد سقوں کے چھڑکاؤ پر متعین ہونے کے بھی ایکدفعہ ہی اتنا غبار بلند ہوا کہ فوج معہ گھوڑوں کے اسی میں نظر سے چھپ گئی۔ لیکن چونکہ قدرت بھی ان شاندار تقریبوں کے پرعظمت

کرنے کے لئے امداد دے رکھی تھی۔ اسلئے فوراً ہی ایک سرد ہوا نے اس گرد و غبار کا خاتمہ کر دیا۔ اور ایک پُر ہیبت فوج کا نظارہ پیشِ نگاہ ہوگیا۔ اتنے میں بہادرانِ غدر بھی تشریف لے آئے جن کے آنے نے ایک فوری گرم جوشی تمام حاضرین میں پھیلا دی اور خوشی کے نعرے اِن کے استقبال کو ہر چہار طرف سے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ جب وہ بھی اپنی جگہ پر جم گئے تو بائیں طرف سے سرگروگانِ فوج ہز ایکسیلینی کمینڈر انچیف بہادر کی اردل میں بدیں تفصیل آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے سب سے آگے میجر کوپر صاحب۔ ڈی۔ اے۔ کیو ایم۔ جی جن کے پیچھے رسالدار ایوب خاں اور میجر شیر سنگھ دو ایڈیکانگ تھے۔ اور ان کے بعد ہر چہار کمانڈ کے لفٹنٹ جنرل صاحبان اور پھر کمینڈر انچیف کے ایڈیکانگ صاحبان۔ جن کے پیچھے میجر جی بارو اور میجر ٹینیر اور پھر لفٹنٹ کرنل صاحبان برڈ ووڈ اور سی ڈی سی ہملٹن و گلمور۔ پھر کرنل صاحبان ایچ سی۔ ڈبلیو بل۔ کرسٹوفر۔ الیٹ۔ سکاٹ اور شون نامی پھر سر جنرل ٹامس ای گیلوے۔ اور میجر جنرل صاحبان ہنری میکلاڈ اور سمتھ ڈارین۔ پھر لفٹنٹ جنرل ولزلے۔ بنڈن بلڈ اور لو اور پھر

ہز ایکسیلنسی دی کمینڈر انچیف بہادر

یہ جلوس جُوں جُوں شاہی جھنڈے کے قریب پہنچتا جاتا تھا۔ تُوں تُوں چیئرز پر چیئرز بلند ہوتے جاتے تھے۔ آخر کار کمینڈر انچیف صاحب بہادر حسبِ دستور وائسرائے صاحب کو فوجی سلام کرنے کے بعد ان کے دائیں جانب آکر خود بھی ڈیوک آف کیناٹ بہادر کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ اور اور گو باقی سٹاف تو بائیں جانب ہٹ کر کھڑا ہوگیا۔ مگر میجر الیف۔ اے

میکسول ڈی سی جو اسوقت بطور اے ڈی کانگ ان کے ساتھ تھے۔ اور بدستور آپکے پاس کھڑے رہے۔ پھر فوجی ریویو حسب ذیل شروع ہوا۔

۱۔ اسپی توپخانے کی بیٹریاں ڈی۔ ایچ اور جے۔

۲۔ پہلا کیولری برگیڈ زیر کمان کرنل لٹل۔ جس میں چوتھی ڈریگون گارڈ پندرہویں ہسارز۔ چوتھی بمبئی کیولری اور نویں بنگال لینسرز شامل تھیں

۳۔ دوسری برگیڈ زیر کمان کرنل جے۔ سی۔ ایف گارڈن صاحب جسمیں نویں۔ آٹھویں۔ گیارہویں اور انیسویں بنگال لانسرز شامل تھیں۔

اسمیں میجر جنرل بشمین صاحب ایک پنشنر عہدہ دار جو اسوقت صرف ہندوستان کی سیر اور اس تقریب عظیم کی شرکت کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اپنی پرانی رجمنٹ نویں لینسرز کے آگے آگے چلتے تھے۔ جن کے آنے پر بڑے چیرز بلند ہوتے رہے۔

۴۔ تیسری برگیڈ زیر کمان برگیڈیر جنرل رچرڈسن صاحب جس میں گائڈس اور پانچویں پنجاب کیولری اور سنٹرل انڈیا ہارس اور اٹھارہویں بنگال لانسرز اور دیگر ملی جلی رجمنٹ ہائے یعنے پہلی اور دوسری پنجاب کیولری دسویں اور چودہویں بنگال کیولری شامل تھیں۔ اور انہیں سے گویا فوج سواران باقاعدہ کا خاتمہ ہوا۔

۵۔ چوتھی برگیڈ زیر کمان برگیڈیر جنرل سٹوارٹ بیٹن صاحب جسمیں امپیریل سروس کیولری کے دستے مندرجہ ذیل ریاستوں کیطرف سے شریک تھے۔ الور۔ بھوپال۔ گوالیار۔ حیدرآباد۔ جودھپور۔ میسور پٹیالہ اور رامپور لینسرز۔

ان دستوں کا گذرنا نہایت ہی دلکش نظارہ تھا۔ کیونکہ اول تو انکی

رنگ برنگ وردیاں بھی بڑی خوشنما تھیں۔ اور اُنکی چستی و چالاکی اُن تمام روایات کو بداہتاً غلط ثابت کر رہی تھی۔ جو دیسی ریاستوں کی افواج کے ساتھ منسوب کیجاتی ہیں۔ اور دوسرا زیادہ تر دلچسپی اِن میں اسلیئے پیدا ہو گئی تھی۔ کہ کئی ایک والیانِ ریاست نے اپنے اپنے دستوں کی کمان خود لے رکھی تھی۔ چنانچہ جودھپور کے سفید وردی والے دستے کے آگے خود نوجوان مہاراجہ صاحب جودھپور سوار تھے۔ اور الور کی سبز و سنہری وردی والی فوج کے آگے الور کے نوخیز مہاراجہ چل رہے تھے۔ اور گوالیار کی نیلی اور سُرخ وردی والی فوج کے آگے آگے خود سندھیا کے جواں ہمت مہاراجہ کمان کرتے جاتے۔ اور پٹیالہ کی فوج کے آگے ایک سفید چھوٹے گھوڑے پر نابالغ مہاراجہ صاحب پٹیالہ نظر آتے تھے۔ جن کے باقاعدہ سلام نے اسقدر پُر مسرت گرمجوشی ناظرین میں پیدا کردی تھی کہ وائیسرائے صاحب کو بھی غالباً اِن کا سلام بہت ہی بھلا معلوم ہوا ہوگا۔

۶۔ توپخانہ شاہی زیر کمان برگیڈیر جنرل ڈبلیو لیچ صاحب تین برگیڈ ڈویژن کیے ہوئے

الف۔ زیرکمان لفٹنٹ بنیس فورڈ جسمیں ستر ہویں اور سترھویں اور انہترویں بیٹریاں شامل تھیں

ب۔ زیرکمان لفٹنٹ کرنل کارٹر صاحب۔ جس میں آٹھویں چوبیسویں اور چونتیسویں اور بہترویں بیٹریاں شامل تھیں۔

ج۔ زیرکمان لفٹنٹ کرنل ڈاکن صاحب جسمیں چھیالیسویں۔ اکانویں اور چورانویں بیٹریاں شامل تھیں۔

۷۔ توپخانہ محاصر۔

الف۔ زیرکمان میجر ٹھیکرے جسمیں اٹھترویں اور بہترویں توپخانہ کوہی کی بیٹریاں

تعیں اور جنکی توپوں کو گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ ان گھوڑوں پر دیسی سپاہی سوار تھے جو غالباً پہلا نظارہ تھا
ب۔ زیر کمان لفٹنٹ کرنل اگیز چھیویں اور ساتویں انگریزی بیٹریوں میں انگریزی سپاہی اور پشاور و کویٹہ و کشمیر کی بیٹریوں میں دیسی سپاہی تھے۔ جنکی آمد پر بھی بڑے زور و شور سے چیرز ہوئے۔ کیونکہ اِن پہاڑی توپچیوں کی ہٹ محنت زبان زد خاص و عام ہوچکی تھی
۸۔ دو برگیڈ ڈویژن چھ انچی اور سات انچی منہ کی توپوں کے جو فیلڈ آرمی میں سب سے بھاری توپخانہ تھا۔ زیر کمان لفٹنٹ کرنل ہرپیسن صاحب بدیں تفصیل۔

الف۔ اکاذیں اور ایک سو چوتھی بیٹریاں زیر حکم میجر گریم صاحب۔

ب۔ بیالیسویں اور اکاونویں سفرمینا بیٹریاں زیر حکم میجر مٹلن صاحب

اِن توپوں میں سے ہر ایک توپ گاڑی پر رکھی ہوئی تھی۔ اور سولہ سولہ مضبوط اور طاقتور بیل انہیں کھینچے لئے جاتے تھے۔ ان کے ہانکنے والے بھی دیسی تھے۔ اور غالباً یہی پہلا موقع تھا کہ بیلوں کے سیکشن کو بھی علیمہ شاہی میں حاضری کا موقع دیا گیا ہو۔ سفرمینا تمام فوج میں جو دلچسپی رکھتی ہے کسی بیان کی محتاج نہیں۔ اور وہی اس موقع پر بھی اس کو داد دیتی رہی۔ ان کے ساتھ زیر کمان لفٹنٹ کرنل برٹن صاحب مندرجہ ذیل فوجی دستے شریک تھے۔

الف۔ مدراس کی پہلی اور دوسری اور تیسری بنگال کمپنی۔

ب۔ سرمور۔ مالیر کوٹلہ کی امپیریل سروس کمپنیاں۔

۹۔ والنٹریوں کا دستہ جس میں ایک سو چہتر چیدہ والنٹیر لفٹنٹ کرنل گرے کمانڈنٹ اور کیپٹن بننگٹن ایجوٹنٹ کے ماتحت تھے۔

۱۰۔ لائٹ ہارس جنہیں بہار۔ کانپور۔ سرہ دہلی۔ کلکتہ بمبئی اور آسام

کے فوجی دستے شریک تھے۔

۱۱- مونٹڈ رایفلز۔ جسمیں شمالی بنگال۔ ڈیرہ دون اور چھوٹے ناگپور کی افواج شامل تھیں۔ اور جو ہاتھوں میں رائفلیں پکڑے گھوڑوں پر سوار نہایت شاندار معلوم ہوتی تھی۔ اور یورپین اور دیسی دونوں رجمنٹوں کے قایم مقام موجود تھے۔

۱۲- بیکانیر کا رسالہ شتر سواران۔ جسکے آگے آگے خود مہاراجہ صاحب بہادر بیکانیر یورپی سپاہیانہ وضع سے گھوڑے پر سوار آرہے تھے اور جن کی فوج شتر سوار کی خوبصورتی اور چالاکی پر بے اختیار داد دیجارہی تھی۔

اسکے بعد فوجِ پیادگان شروع ہوئی۔ جسکی ترتیب یہہ تھی۔

۱- پہلا ڈویژن۔ زیر کمان برگڈیر جنرل سر۔ جے ولف مرّے صاحب بدیں تفصیل

الف- پہلا برگڈ باتحتی برگڈیر جنرل بلوڈن صاحب جسمیں جنوبی ویلس بورڈرس اور ویلس رجمنٹ اور چوتھی راجپوت اور بتیسویں پایونیر شامل تھیں

ب- دوسرا برگڈ زیر کمان کرنل ڈیس وکن صاحب جس میں گارڈن ہائیلینڈرس۔ ۲۷ ویں بلوچی اور ۲۳ ویں پایونیر شریک تھیں۔

ج- تیسرا برگڈ۔ زیر کمان برگڈیر جنرل سر۔ جے ولکس صاحب جسمیں رائل آئرس رائفلز فسٹ بٹالین تیسری گورکھا چھبیس جاٹ اور ۱۳ ویں راجپوت شامل تھی

د- ساتواں برگڈ باتحتی میک رائے صاحب جس میں نارتھمپٹن شائر رجمنٹ پندرہویں سکھ۔ چونتیسویں پایونیر اور ۳۸ ویں ڈوگرہ شریک تھی۔

۲- دوسرا انفنٹری ڈویژن زیر کمان میجر جنرل سر الیفرڈ گیسلی صاحب۔

الف- چوتھا برگڈ زیر کمان برگڈیر جنرل نارفوک۔ جسمیں ہیڈ فورشائر رجمنٹ بیسویں پنجاب انفنٹری اور ۵۳ ویں گورکھا شامل تھیں

ب - پانچواں برگیڈ - زیر کمان برگیڈیر جنرل پیچ صاحب جسمیں دوسری کنگس رائل رائفلز اور پہلی دوسری گورکھا - پہلی انتیسویں گڑھوال رائفلز شامل تھیں۔

ج - چھٹا برگیڈ زیر کمان کرنل سپریس صاحب - جس میں یارک شائر رجمنٹ نارتھ سٹیفرڈ شائر رجمنٹ - ۲۸ ویں مدراس انفنٹری - چوتھی حیدرآباد کنٹنجنٹ انفنٹری اور فرانٹیر بٹالین شامل تھیں۔

د - آٹھواں برگیڈ - زیر کمان برگیڈیر جنرل سوربولے نول صاحب جس میں والنٹیر کنٹنجنٹ - ۲۸ ویں پنجاب انفنٹری اور مفصلہ ذیل امپیریل سروس دستے شامل تھے۔

الور - بھرت پور - جیند - کپورتھلہ - کشمیر - نابھہ - پٹیالہ - ان افواج کا نظارہ بھی بڑا ہی خوش آیند تھا - کیونکہ ان میں نابھہ بٹالین کے آگے خود عمر خوردہ راجہ صاحب نابھہ سوار چلے آتے تھے - جن کی ریش سفید کا تقدس اس نظارہ کو اور بھی شاندار کر دیتا تھا - اور جو گورنمنٹ کی خیر خواہی اور وفاداری کے خیالات کی ایک اچھی تصویر ناظرین کے روبرو پیش کر دیتا تھا - راجہ صاحب حسب قاعدہ حضور وائسرائے کو سلامی دے کر ایک طرف کھڑے ہو گئے - اور یقین ہے کہ جس محبت اور قدر کے ساتھ اُن کا سلام دیکھا گیا تھا - وہ ان کو بھی فراموش نہ ہوگا کیونکہ وائسرائے اور ڈیوک صاحب نے انہیں نہایت تپاک سے رسیو فرمایا تھا

۴ - توپ خانہ معہ سواران پانچ لائنوں میں - جس میں بڑے بھاری توپ دیکھنے میں آتے تھے - کہ سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے جب اپنی پوری رفتار پر ہوتے تھے - تو بگل بجایا جاتا تھا - جس کے سنتے ہی

وہ الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ اِسکے علاوہ سواروں کی چستی و چالاکی۔

۴۔ ہارس اور فیلڈ بیٹریاں جو سرپٹ دوڑتی ہوئی سلامی دیتی تھیں۔

یہ تمام فوج جسکی کیفیت ناظرین نے چند منٹوں میں پڑھ لی ہے پورے تین گھنٹے میں وائسرائے اور ڈیوک صاحب کے روبرو سے گذری تھی۔ کیونکہ اس میں بیس ہزار پیدل اور دس ہزار سواران رسالہ اور بے شمار توپخانہ موجود تھا۔ اور پھر اِن میں سے ہر ایک کی سلامی کے وقت نعرہ ہائے تحسین کا بلند ہونا اِن کے خوش وضع رویہ کو اور بھی مؤثر اور مصئون کرتا جاتا تھا۔ اور یہ نظارہ اسقدر پسندیدہ تھا کہ کوئی آنکھ ایسے خاتمہ کو پسند نہ کرتی تھی۔

افواج پریڈ کی صحیح تعداد انتیس ہزار چھ سو سولہ جوان بیان کی گئی ہے۔ جن کے ساتھ ایک سو چوبیس توپیں علاوہ ازاں تعین اور تفصیل یہ تھی

نو ہزار چھیانوے	گھوڑے
دو سو چھتر	خچریں
چار سو چوہتر	بیل
سات سو چوہتر	انگریزی افسران
نو ہزار نو سو چالیس	انگریزی وارنٹ افسران و نان کمشنڈ افسران و سپاہیان
اٹھارہ ہزار نو سو دو	دیسی افسران و سپاہیان

اِنہیں کی زیادہ توضیح اس طرح ہو سکتی ہے۔

افسرانِ سٹاف	۱۰۲
رائل ہارس آرٹیلری	۲۳۴
برٹش کیولری	۱۰۹۳

دیسی کیولری	۳۲۷۲
امپیریئل سروس کیولری	۱۴۵۰
فیلڈ آرٹیلری	۹۵۸
گیریزن آرٹیلری	۶۲۷
مونٹنڈ آرٹیلری یعنے توپخانہ کوہی	۶۰۳
سفرمینا	۹۷۷
مونٹنڈ والنٹیر سواران	۱۷۶
مونٹنڈ انفنٹری	۴۸۰
برٹش انفنٹری	۶۴۹۵
نیٹو انفنٹری	۹۴۹۵
امپیریئل سروس انفنٹری	۲۹۷۰
والنٹیران	۶۸۴
میزان اعظم	۲۹۶۱۶

الغرض اس عظیم الشان ریویو کے بعد حضور وائسرائے اور ڈیوک اوف کینائٹ بہادر اپنے کیمپ کو تشریف لیگئے اور اکتیس توپ کی سلامی نے اس سین کا خاتمہ کیا۔ یہ پہلے سے انتظام ہوچکا تھا کہ جو افواج سلامی دیتی جاتی تھیں۔ وُہ وائسریگل کیمپ کے رستے میں دو رویہ صف بستہ ہوتی جائیں۔ چنانچہ یہ تمام فوجیں میدان پریڈ سے وائسریگل کیمپ تک صف بستہ تھیں کہ وائسرائے صاحب اسیطرح بسواری اسپ معہ ڈیوک صاحبان اور کمینڈر انچیف بہادر کیمپ کو تشریف لے گئے۔ اور چلنے سے پہلے کمینڈر انچیف صاحب کو اس عالیشان ریویو کے کامیاب خاتمہ پر مبارکباد دے کر افسران و سپاہیان فوج سے اپنے اظہار خوشنودی کے پیام کے اعلان کی تحریک فرمائی جسمیں ڈیوک اوف کینائٹ بہادر نے بھی بخوشی اپنا نام نامی شامل کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اور اسیطرح یہ نادر الوجود فوجی ریویو ختم ہوا۔

فصل پانزدہم

رخصتانہ پارٹیاں

بتاریخ ۹- جنوری ۱۹۰۳ء

۱۰- جنوری ۱۹۰۳ء چونکہ حضور وائسرائے اور ڈیوک آف کیناٹ بہادر کے رخصت کی تاریخ تھی۔ لہذا ۹ جنوری ۱۹۰۳ء کو "رخصتانہ پارٹیاں" روساءو امرائے ہندکو دی گئیں۔ جن میں ایک کا نام راجپوت "ایٹ ہوم" اور دوسری کا "ایوننگ پارٹی" تھا۔ جن کی مختصر کیفیت درج ذیل ہے۔

راجپوت "ایٹ ہوم"

کا انتظام بوقت سہ پہر پولو گراونڈ میں کیا گیا تھا۔ جہاں پولو اور فٹ بال کا بھی ساتھ ہی اہتمام تھا۔ والیانِ ریاست کی جلوسی سپاہ وائسرائگل کیمپ سے پولو گراونڈ تک صف بستہ کھڑی تھی۔ جس سے اس مختصر سی تقریب کی شان بہت کچھ بڑھ گئی تھی۔ درباری صاحبان کھلے میدان میں اس مکان کی نشستوں پر بٹھلائے گئے تھے۔ جو پولو وغیرہ دیکھنے کو معززین کے لئے علے العموم ہوا کرتا ہے۔ اور عام تماشائی اس مخصوص احاطہ کے باہر جمع کھڑے تھے۔ جو پولو وغیرہ کے لئے مخصوص تھا۔ حضور وائسرائے اور راجپوتانے کے روسا و امراء کے لئے مکان کے اندر میز لگائی گئی تھی۔ جس میں سب صاحب نہایت خوشی اور عزت کے ساتھ شریک و مشغول پائے جاتے تھے۔ یہ معمولی باتیں سب جانتے ہیں کہ پہلے دیسی روساءو امراء آیا کرتے ہیں اور بعد میں

حضور وائسرائے اور ڈیوک صاحب بہادر نیز ایسے مواقعات پر مختصر طور پر سب کا سلام ہونا اور کسی کسی سے مزاج پرسی کا بھی ہو جانا ایسی باتیں ہیں کہ اُس سے سب صاحب واقف ہیں۔ چنانچہ ویسا ہی یہاں بھی ہوتا رہا اور باہر میدانِ پولو میں پہلے گلگت ٹیم پولو کھیلتی رہی اور پھر منی پور ٹیم اپنے کرتب دکھاتی رہی۔ آدھ گھنٹہ تک یہ دونوں اپنے اپنے جوہر دکھا چکیں تو ساڑھے تین بجے گارڈونز اور رائل آرش رائفلز کے گورہ سپاہیوں میں فٹ بال ہوا جس میں گارڈونز والے فتحمند رہے۔ پھر الور اور جودھپور کے درمیان پولو ہوئی۔ جسمیں الور والے کامیاب ہوئے اس نظارہ کو وائسرائے صاحب مکان پولو کی چھت پر سے دیکھ رہے تھے جسکے خاتمہ پر حضورِ ممدوح نیچے تشریف لاکر میدانی چبوترے پر متمکن ہوئے [illegible] ڈچس اوف کیناٹ صاحبہ نے وہاں عطائے انعامات شروع فرمایا جہاں چاندی کے پیالے اور دوسرے فتحمندی کے نشانات کامیاب ٹیموں کو تقسیم کرنے کے لئے رکھے ہوئے تھے۔ اس غرض پر لفٹننٹ کرنل کلیری ہل صاحب فتحمند ٹیموں کو بلاکر آپکے حضور پیش کرتے اور حضورِ ممدوحہ نشانات عطا فرماتیں۔ جسکے بعد حضور وائسرائے نے فرمایا۔ کہ میں یہ چاندی کے پیالے اور نشانِ فتحمند ٹیموں کو دینے میں اپنی طرف سے اظہارِ مسرت کرتا ہوں اور ٹیموں کو ان کے شائستہ طور و طریق اور عمدہ کھیلوں کے لئے مبارکباد کہتا ہوں"

انعام یافتگان کے نام یہ ہیں

پولو کپ	الور ٹیم کو
نشو آرمی کپ	پونا ہارس کو

نیزہ بازی کا نشان	پندرہویں بنگال لینسرز کو
جمنگ ہائی سکینسز کا نشان	برٹش کیولری کی پانچویں ڈریگون گارڈس کو
فٹ بال کے لئے	گارڈن ہائی لینڈرس کو
لکڑی کے ساتھ گیند کا کھیل کھیلنے کے لئے	۲۳ پنجاب انفنٹری کو
فوجی کرتبوں کے لئے	سرحدی کالنس اور کانپور لائٹ ہارس کو

اس کارروائی کے بعد جلسہ برخاست ہؤا۔ اور لفٹنٹ کرنل کلیری ہل صاحب نے تین چیرز حضور وائسرائے کے لئے اس استحقاق سے نہایت زور و شور کے ساتھ ادا کئے کہ صاحب موصوف بھی ان غرضوں کے پورے پورے معاون و مددگار رہیں۔

اسکے بعد حضور وائسرائے مع لیڈی صاحبہ اور ڈیوک صاحب مع ڈچس صاحبہ اور دوسرے تمام معزز مہمان صاحبان بھی اپنی اپنی فرودگاہوں کو خوشی و خورمی کے ساتھ واپس ہوئے۔

"ایوننگ پارٹی"

پروگرام دربار کے اختتام پر اگرچہ یوں بھی ایک ایسی پارٹی کا انعقاد سخت ضروری تھا جس میں گورنمنٹ کی طرف سے معزز مہمانوں کو الوداع کہی جائے۔ لیکن اس پارٹی میں ایک اور بات بھی تھی۔ جو اسکی ضرورت کو اور بھی لابدی بنا دیتی تھی۔ اور وہ یہ کہ دربار عطائے تمغہ جات میں تو جسقدر ہندوستانی آرڈر وغیرہ تھے سب دلکر دیئے گئے۔ لیکن شاہی برطانیوی اعزاز اس میں عطا نہ ہوئے تھے اور نہ انکی ادائگی کے لئے وہ موقع زیادہ تر موزون بھی تھا اور بعض ہندی مدارج کے اعزاز یافتہ صاحبان بھی باقی رہ گئے تھے۔ اس لئے

ایک دربار یا ایوننگ پارٹی کا اسغرض سے منعقد ہونا لازمی ہوگیا تھا کہ جسمیں وُہ اعزاز عطا کئے جائیں۔ چنانچہ اسی ایوننگ پارٹی میں اس تقریب کا ادا ہونا تجویز کرکے سب صاحبوں کو اطلاعیں ویدی گئی تھیں۔ اور مقام انعقاد والیسرائے صاحب کا کیمپ قرار پایا تھا جس کے استقبالی شامیانہ میں یہ عالیشان رسُوم ادا ہونی قرار پائی تھیں۔ اور بنظرِ مناسب یہ بھی ساتھ ہی طے ہوگیا تھا کہ شاہی تمغہ جات ہز رائیل ہائینس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر برادرِ حضورِ ملکِ معظم اپنے دستِ خاص سے عطا فرمائیں۔ چنانچہ ۹ جنوری کو بعد شام سب معززین دوالیانِ ریاست والیسرگل کیمپ میں پہنچنے شروع ہوگئے۔ جن کے استقبال وتفریح کو حسب دستور فوجی دستہ اور باجہ پہلے سے متعین ہوچکا تھا۔ روشنی بھی اپنی پوری بہار دکھارہی تھی اور اس آخری ایوننگ پارٹی کے جملہ لوازم نہایت خوبی کے ساتھ مہیا ہوچکے تھے۔ کہ حضور والیسرائے اور ڈیوک ڈوچس اوف کیناٹ بہادر کمینڈر انچیف صاحب کے ہاں کھانا کھانے کے بعد آکر شامل پارٹی ہوئے۔ کمینڈر انچیف صاحب بہادر اور گورنرانِ بمبئی ومدراس اور لفٹننٹ گورنرانِ پنجاب وبنگال وبرہما چیف کمشنران وایجنٹ گورنر جنرل صاحبان بھی سب کے سب شریک تھے اور دیسی روسا بھی حسب معمول بڑے ٹھاٹھ سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ جس سے اس مجمع کی حالتِ مجموعی بہت ہی باوقعت ہوگئی تھی بہرحال حضور والیسرائے اور ڈیوک صاحب کی تشریف آوری پر تعظیم اور سلام وغیرہ کی مراسم ادا ہونے کے بعد سب سے پہلے ڈیوک صاحب بہادر نے شہنشاہ معظم کی طرف سے جی سی بی کا شاہی برطانوی

اعزاز کا خطاب و تمغہ ہز ہائینس حضور نظام خلد اللہ ملکہ کو پہنایا جسکے بعد کے سی بی کا خطاب و تمغہ میجر جنرل سی رسی ایجرٹن صاحب اور میجر جنرل ای۔ایل ایلیٹ صاحب کو عطا کیا گیا۔ اور بعدازاں حضور وائسرائے نے مندرجہ ذیل صاحبان کو سی آئی۔ای کا خطاب تمغہ عنایت فرمایا۔

۱۔ سر ولیم کلارک صاحب جج چیفکورٹ پنجاب۔

۲۔ مسٹر ایم سی ٹرنر صاحب۔

۳۔ لفٹنٹ کرنل جے ایل واکر صاحب۔

پھر مندرجہ ذیل صاحبان کو نائیٹ ہڈ کا خطاب و تمغہ عطا ہوا۔

۱۔ ڈاکٹر جارج واٹ صاحب۔

۲۔ ہرکشن داس نروتم داس صاحب۔

بعدازاں ہز رائیل ہائینس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر نے ہز ہائینس مہاراجہ سر شاہو چترپتی والی کولاپور جی سی ایس آئی کو جی سی وی او کا خطاب و تمغہ مرحمت فرمایا۔ اور پھر ہز ہائینس سر آغا خان بہادر رئیس اعظم بمبئی۔ مہاراجہ صاحب ایڈر۔ مہاراجہ صاحب کوچ بہار وغیرہ کو طلائی تمغے عنایت کئے۔ کیونکہ یہ صاحبان حضور ملک معظم کے دربار تاجپوشی لنڈن پر بھی شریک تھے۔ اور یہ ولایتی تمغے ان صاحبوں کو پہونچانے کے لئے ہز رائیل ہائینس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر کے سپرد کئے گئے تھے۔

ان رسومات کے بعد معمولی گفت وکلام ہوتی رہی اور پھر جلسہ برخاست ہوا۔

فصل شانزدہم

اختتام دربار اور شاہی روانگی

۱۰ جنوری سنہ ۱۹۰۳ء

ناظرین! درباری پروگرام ختم ہوچکا ہے۔ جلوس۔ افتتاحِ نمایش۔ دربار۔ دعوت۔ دربارِ اعطائے تمغہ جات۔ سٹیٹ بال۔ والیانِ ریاست کی جلوسی اردوں کا معائنہ۔ فوجی ورزشیں اور رویو۔ مختلف دعوتیں اور ملاقاتیں سبھی اپنے وقت پر خیر و خوبی سے ہوچکی ہیں اور بلا مبالغہ اس دو ہفتہ کی مدت میں غالباً حضور وائسرائے اور مہمانانِ دربار کو سوائے درباری پروگرام کی تکمیل کے کسی دوسرے کام کی طرف توجہ تک نہیں ہوسکی۔ لہذا مقرر شدہ تاریخ ۱۰ جنوری سنہ ۱۹۰۳ء کو اس عدیم المثال شان و شکوہ کی نمایش کا خاتمہ کرکے حضور وائسرائے اور ڈیوک اوف کیناٹ بہادر اپنے اپنے دوروں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ جن کے بعد تمام والیانِ ریاست اور معائدین و حکام بھی اپنے اپنے مقامات کو روانہ ہوجائینگے۔ لیکن چونکہ روانگی سے پہلے افواجِ شاہی اور افسرانِ انتظام کی درباری خدمات کا شکریہ بھی حسبِ قاعدہ ضروری تھا۔ اس لئے جمعہ کی شام مندرجہ ذیل نوٹیفکیشن گورنمنٹ کی طرف سے شائع کیا گیا کہ

"ہز اکسلینسی وائسرائے و گورنر جنرل کشور ہند ان تمام افسرانِ جنگی و ملکی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو دربار تاجپوشی کے متعلق نہایت تندہی۔ مستعدی قابلیت اور سرگرمی سے خدمات کرتے رہے ہیں۔ اور

اِن کی محنتوں کی کامیابی پر اُنہیں مُبارکباد بھی دیتے ہیں۔ نیز اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ ہز رائیل ہائنیس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر نے بھی براہِ عنایت اس اداے شکریہ و مُبارکباد میں اپنا نام بھی شریک کرنے کی درخواست کی ہے"

اسکے ساتھ ہی ایک فوجی حکم ہز ایکسیلینسی کمینڈر انچیف بہادر کی طرف سے بدیں مضمون نافذ کیا گیا۔ کہ

" ہز ایکسیلینسی کمینڈر انچیف بہادر افواجِ ہند بڑی خوشی سے افواج موجودہ دربار کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہز ایکسیلینسی وائسرائے و گورنر جنرل کشور ہند نے اِن کی پریڈ کے معائنہ سے اظہار پسندیدگی فرماکر اپنے اظہار خوشنودی کو اِن تک پہنچانے کی خواہش فرمائی ہے۔ اور حضور ممدوح کے ساتھ عالیجناب فیلڈ مارشل ہز رائیل ہائنیس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر نے بھی درخواست کی ہے۔ کہ ان کی طرف سے فوج پر اُنکی سپاہیانہ مستعدی کے لئے اظہار خوشنودی کردیا جائے لہذا ہز ایکسیلینسی کمینڈر انچیف بہادر نہایت خوشی کے ساتھ پریڈ گراؤنڈ کی قابل تعریف مستعدی کے لئے یہ کلمات فوج تک پہنچاتے ہیں"

اسکے علاوہ یہ خبر بھی تمام حلقوں میں مشہور ہوگئی۔ کہ عنقریب جشن تاجپوشی کے طلائی اور نقرئی تمغہ جات مسکوک ہوکر والیانِ ریاست معزز مہمانوں اور افسران گورنمنٹ میں تقسیم کئے جائینگے۔ جن کی تعداد دو ہزار ہوگی۔ اور ان کو اسی طرح لگایا جائے گا۔ جس طرح تاجپوشی لنڈن کے تمغہ جات پہنے جاتے ہیں۔

شاہی روانگی کے لئے ۱۰ جنوری کا دن گیارہ بجے قبل دوپہر کا وقت

مقرر ہو چکا تھا۔ جسکے لئے حسبِ قاعدہ وائسرگل کیمپ سے ریلوے سٹیشن تک فوجِ شاہی صف بستہ کردی گئی۔ اور والیان ریاست و حکّام و نمائندگانِ سلطنت اور دوسرے درباری صاحبان شاہی مشایعت کے لئے ریلوے سٹیشن پر پہنچنے شروع ہو گئے۔

ممبرانِ مشایعت کا معزز گروہ دس بجے سے ہی ریلوے سٹیشن پر جمع ہونے لگ گیا تھا جن میں جاگیردار صاحبان۔ والیانِ ریاست۔ سفرائے دولِ خارجہ۔ لفٹنٹ گورنران و گورنران و چیف کمشنران و ایجنٹ گورنر جنرل صاحبان یوروپین حکام وغیرہ سب شامل تھے جسکے بعد اپنے وقت پر ہز ایکسیلنسی حضور وائسرائے مع لیڈی صاحبہ اور ہز رائیل ہائینس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر مع بیگم صاحبہ تشریف شریف لائے جن کی اردل میں حضور وائسرائے کا مقررہ باڈی گارڈ اور انڈین کیڈٹ کور کا عالیشان دستہ بڑی شان و شوکت سے اظہارِ تفاخر کرتا چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ اسی اعزاز و تمکنت کے ساتھ جب شاہی سواری پلیٹ فارم سٹیشن پر پہنچی۔ تو فوج کے متعینہ دستہ نے مقررہ سلامی ادا کی۔ اور حضورینِ ممدوحین داخل سٹیشن ہو کر معزز حاضرین کے سلام لینے میں مشغول ہو گئے۔ ڈیوک اوف کیناٹ بہادر کی سپیشل بجانب پشاور چونکہ پہلے جانے والی تھی۔ اسلئے پہلے آپ ہی ہر ایک صاحب سے رخصت ہو کر اپنی سپیشل میں سوار ہو گئے جن کی گاڑی کے متحرک ہونے کیساتھ ہی نیشنل انتھم نے ختم ہوتے گتیس بجا کر بعد حاضرین نے چیرز دیکر آپ کو الوداع کیا۔ ڈیوک صاحب کی سپیشل کی روانگی کے پانچ گھنٹے بعد تک پھر حضور وائسرائے بہادر ہر ایک صاحب سے مصافحہ فرماتے اور رخصت ہوتے رہے۔ بالخصوص انڈین کیڈٹ کور کے

نوجوان بہادر مل پر آپکی نظر عنایت بہت زیادہ تھی اور والیان ریاست میں سے ہز ہائینس نظام دکن خلد اللہ ملکہ کیساتھ زیادہ تر مصروف مکالمہ تھے۔ مگر اسکے ساتھ ہی کسی بھی معزز والی ریاست کو آپنے مصافحہ وغیرہ سے فراموش نہیں فرمایا چنانچہ سب سے رخصت ہو کر جب آپ اپنی سپیشل میں سوار ہوئے تو پہلی طرح اسکے متحرک ہونے پر بھی نیشنل انتھم کی خوش آیند آواز اور حاضرین کے دلی چیرز بلند ہوتے رہے اور آپ کی روانگی کے پانچ منٹ بعد ایک تیسری سپیشل ٹرین میں لیڈی کرزن صاحبہ سوار ہو کر بجانب ڈیرہ دون تشریف لے گئیں۔ اور حاضرین کا جم غفیر اپنی فرودگاہوں کو رخصت ہونے لگا۔ اور ہر ایک صاحب اپنی اپنی روانگی کی فکر کرنے لگے

والیان ریاست روسا و عمائدین کی روانگی کے لئے اسیقدر لکھدینا

کافی ہے۔ کہ ان صاحبوں کی رخصت ۱۱ سے لیکر ۱۵ تک انکی اپنی رضی کے موافق ہوتی رہی۔ اور افسران متعینہ ان کی مشایعت کی رسوم ادا کرتے رہے۔ جاگیردار اور دوسرے معزز مہمان بھی قریباً انہیں تاریخوں میں زیادہ تر روانہ ہوئے۔ البتہ یورپین صاحبان ان کے بعد تشریف لیگئے۔ یا ہز ہائینس حضور نظام دکن خلد اللہ ملکہ نے ۲۰ جنوری تک اقامت فرمائی۔ ریلوے کو آمد سے زیادہ روانگی کا اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ کیونکہ آمد تو تواریخ مختلف ہوئی تھی۔ لیکن روانگی کے لئے وقت تھوڑا اور کام بہت تھا۔ محکمہ تار بھی ان دنوں بہ نسبت سابق زیادہ مصروف نظر آتا تھا۔ کیونکہ ہر ایک صاحب کیطرف سے تار پر تار جارہی تھی۔

روانگی کا سین جیسا کہ علی العموم وحشت افزا ہوا کرتا ہے۔ ویسا ہی یہاں بھی دیکھنے میں آتا تھا۔ کہ بڑے بڑے لوگ سامان بند ہوا لئے اور مزدوروں کے انتظام میں ادہر ادہر پھر رہے تھے۔ اور ریلوے سٹیشن پہ بھی بھڑ بھڑکا اور دھکا پیل ہوتی تھی کہ سٹیشن خاصہ نمونہ محشر نظر آتا تھا۔

فصل ہفتدہم

قلمرو ہند کا عالمگیر جشن مسرت

اسوقت تک جسقدر کارروائی لکھی گئی ہے وُہ صرف دہلی کے دربار تاجپوشی کی ہی تھی۔ جسمیں دیسی اور انگریزی حکمرانوں اور سفرائے دول خارجہ بڑے بڑے جاگیرداروں اور مشہور مشہور لوگوں کو یکجا ہو کر اس جشن مسرت کی شمولیت و شرکت کا سب سے بڑا موقع دیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ تاجپوشی کا اعلان عام ضابطہ کے طور پر بھی اور اس تقریب کی اہمیت کے مقاصد کے لئے عام طور پر ہر چھوٹے سے چھوٹے قصبہ قریہ اور ہر ایک ادنےٰ سے ادنےٰ آدمی کے کان تک پہنچانا بھی لازمی اور ضروری تھا۔ اسلئے ہندوستان بھر کے تمام صوبوں کے۔ ہر ایک ضلع میں اور ہر ایک تحصیل میں سرکاری طور پر میونسپلٹی یا ڈسٹرکٹ بورڈ یا صاحب ضلع یا مہتمم سب ڈویژن یا تحصیلدار کے ذریعہ یکم جنوری کو ایسے ہی جلسے اظہار مسرت و شادمانی کے منعقد کئے گئے۔ اور ان میں وہاں کے حاکم نے اعلان شاہی کو مناسب ایزادی کے ساتھ پڑھکر شائقین کو سُنا دیا۔

لیکن چونکہ اِن جلسوں کی بنا لارڈ کرزن بہادر نے اس قسم کی رکھی تھی کہ یہ بجائے محض سرکاری جلسوں کے قومی جلسے ہو جائیں۔ اور اہالیانِ ہند اس میں جسقدر چاہیں اظہار مسرت وغیرہ کی کارروائیاں اپنا روپیہ لگا کر کھلے دل کر سکیں۔ اسلئے باستثنائے چند مقامات دور دست کے تمام ہندوستان کے اضلاع اور تحصیلات وغیرہ میں اِن جلسوں کا

اہتمام بالعموم باشندوں کے اپنے دیئے ہوئے روپیہ سے کیا گیا یعنے پہلے تو ہر ایک ضلع و تحصیل کے حاکم نے بایمائے گورنمنٹ اخراجاتِ جلسہ کے لئے عام چندے کھول کر بلا جبر و اکراہ جن لوگوں نے اس میں کچھ دینا چاہا اسکو قبول فرمایا۔ اور پھر حسب ضرورت میونسپل کمیٹی یا ڈسٹرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی معقول رقم اس میں شامل کرکے مندرجہ مدات میں خرچ کی۔

(الف) روشنی کے لئے۔

(ب) آتشبازی کے لئے۔

(ج) لڑکوں کو مٹھائی دینے کے لئے۔

(د) غربا کو کھانا کھلانے میں۔

(ھ) غربا کو پارچات تقسیم کرنے میں۔

اِن مقامات کی اگر تفصیل لکھی جائے تو سوائے تطویل کے کچھ حاصل نہوگا۔ کیونکہ ہندوستان کا کوئی ضلع اور تحصیل اس سے خالی نہیں رہی۔ بلکہ تحصیلات کے علاوہ مشہور قصبوں میں وہاں کے روساء نے خود اپنے صرف سے بڑے بڑے عظیم الشان جلسے کئے۔ اور شہروں میں بھی مشہور مشہور حکام رس لوگوں نے جو متمول بھی تھے دل کھولکر فیاضی دکھائی۔

ارادہ تو یہ تھا کہ ہر ایک شہر کی میونسپلٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ نے جسقدر روپیہ اپنی گرہ سے اور پبلک چندے سے اسمیں صرف کیا ہے۔ اُسکی تصریح کردی جائے۔ تاکہ اُنکی وفاداری تاریخی طور پر بھی قلبند ہو جائے چنانچہ ہندوستان بھر کے ڈسٹرکٹ بورڈوں اور میونسپل کمیٹیوں کو مُصنف کی طرف سے اِن معلومات کی بہمرسی کی درخواست بھی بھیجی گئی تھی لیکن

افسوس ہے کہ بہت کم جوابات موصول ہوئے جس سے تعجب ہوتا ہے کہ اگر یہی جماعتیں جو اپنے اہل ملک کی طرف سے ان کی وکالت کی حیثیت کے ساتھ قائم ہیں۔ تعلیمی معاملات اور علمی یادگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں۔ تو پھر عوام سے تو شکایت ہی کیا ہے۔ جن میونسپلٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں کے جوابات موصول ہوئے ہیں۔ اگر انکی رقوم کو درج کردیا جائے۔ تو چونکہ اس سے باقی ایک بہت بڑی تعداد کی کارروائی پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسلئے بامر مجبوری ان موصول شدہ جوابات کو بھی ممنونیت کے کے ساتھ ترک کیا جاتا ہے۔

اصلیت یوں ہے کہ مصنف کا ویسی ہونا بھی بہت کچھ رکاوٹ کا باعث ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی صاحب بہادر ایسا خیال فرماتے تو شاید سبھی کو بلا استثنٰے انہیں مطلوبہ شمار و اعداد کے بھیجنے میں تامل نہ ہوتا مگر خیر

ہماری سینہ فگاری کوئی تو دیکھے گا
نہ دیکھے آج نہ دیکھے۔ کبھی تو دیکھے گا

بہرحال ہندوستان کے تمام مقامات میں سرکاری حکام نے یکم جنوری کو (باستثنائے کلکتہ کے) اپنے اپنے مناسب پیمانوں پر تقریب تاجپوشی کے جلسے منعقد فرمائے۔ روشنی و آتشبازی۔ بچوں کو مٹھائی بانٹنے اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور بعض بعض جگہ کپڑا بھی دینے سے اس دربار کی جسقدر مقبول شہرت اور یاد تمام ہندوستان کے باشندوں میں ہوگئی ہے۔ وہ کسی دوسرے جلسے کی نہیں ہوئی۔ جسکی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ اسکے مصارف اور محاصل دونوں ہی پبلک پر منحصر تھے۔ جس میں حکام سرکاری نے اپنی شرکت نہایت بہتر طریق سے دکھائی تھی۔

دیسی ریاستوں کے جلسے

والیانِ ریاست اور جاگیردار و تعلقہ دار صاحبان نے اس موقع پر جو کچھ کیا وُہ بھی خاص طور پر قابل یاد ہے۔ کیونکہ گو ان صاحبوں کا ایک کثیر گروہ دربار دہلی میں شریک تھا اور ضابطہ کے طور پر ان کی شرکت کے بعد کسی مزید روئی کی ضرورت نہ تھی۔ مگر نہایت خوشدلی کے ساتھ اِن کی ریاستوں اور جاگیروں میں بھی ایسے جشن ہائے مسرت پُورے پُورے اہتمام و انصرام سے منعقد ہوتے رہے۔ اور چونکہ آتشبازی۔ روشنی۔ غریبوں کے طعام و پارچات اور بچوں کی مٹھائی کے طریق۔ لنڈن سے ہی تصنیف ہوکر آئے ہیں۔ جن کے مصنف خود اعلیحضرت ملک معظم ہیں۔ اس لئے علے العموم ہندوستان کے انگریزی مقامات کے سوا دیسی ریاستوں میں بھی یہی طریق اظہارِ مسرت کے لئے پسند ہوئے۔ فرق یہ تھا کہ ہندوستان میں بالعموم پبلک چندہ دن سے اسکے لئے روپیہ جمع کیا گیا تھا۔ اور والیانِ ریاست نے اکثر خزانہ ریاست سے اسکو ادا کیا تھا۔

اسوا اسکے والیانِ ریاست نے اس موقع کی یادگار میں اپنی رعایا کے ساتھ اسقدر احسان ہائے عظیم کئے ہیں۔ کہ جس سے صاف طور پر یہ بات ذہن نشین ہوجانی چاہیئے کہ اس سے بڑھ کر خوشی وُہ خاص اپنی تاجپوشی پر بھی نہ کرتے۔ اور غالباً کوئی نظیر ایسی دکھائی بھی نہیں جاسکتی۔ کہ اُنھوں نے اس سے بڑھکر فیاضی خاص اپنی تقریباتِ مسند نشینی میں بھی کی ہو۔ اور لاکھوں روپیہ زرِ مالگذاری رعایا کو صرف اسی یادگار میں معاف فرمادیا ہو جیساکہ نواب صاحب رامپور۔ مہاراجہ صاحب کوٹہ وغیرہ وغیرہ جنکے اسمائے ... پرتاب سنگھ صاحب اہلوالیہ جالندھر تک نے کیا ہے۔ اور غالباً کوئی

ریاست ایسی باقی نہیں رہ گئی۔ جس نے اس موقع پر کوئی نہ کوئی رعایت اپنی رعایا سے نہ کی ہو۔ جس سے کھُلے طور پر معلوم ہوجاتا ہے کہ اُنھوں نے گورنمنٹ کی خوشی کو خاص اپنی ذاتی خوشی تصوّر کرلیا تھا۔ جو ایک بہُت بڑی کامیابی گورنمنٹ کی کہی جاسکتی ہے۔ رہائی قیدیاں بھی حسبِ دستور والیانِ ریاست ہائے ہند نے اس موقع پر اُسی فراخ دلی اور فیاضی سے دکھائی۔ جیسے کہ وہ اپنے مواقعات تہنیت پر کیا کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر گورنمنٹ کو خاص توجہ ہونی چاہیئے۔

ایسے تمام جلسوں میں جو ہندوستان کی انگریزی عملداری میں یا والیانِ ریاست ہائے ہند کی قلمروؤں میں اُس تاریخ منعقد ہوئے تھے۔ انگریزی افسران اضلاع وتحصیل یا ریاستوں کے اہلکاران اعلےٰ صدر جلسہ قرار پاتے رہے۔ لیکن

کلکتہ کا جشن تاجپوشی

۲۶۔ جنوری ۱۹۰۳ء کو خود ہز ایکسیلنسی وائسرائے بہادر کی صدارت سے کلکتہ میں پُورے تزک واحتشام کے ساتھ منعقد ہوُا۔ جس میں اہالیانِ کلکتہ نے بڑی فراخ حوصلگی سے چندہ جمع کرکے بظاہر اسکو دربار دہلی کا ایک چھوٹا سا جواب بنا دیا تھا۔ کیونکہ اُسمیں بھی حضور وائسرائے کی شاہانہ سواری بڑے تزک واحتشام سے نکالی گئی۔ اور سٹیٹ بال بھی ویسے ہی اعلےٰ پیمانہ پر کیا گیا۔ جیسا کہ اس دارالسلطنت کے شایانِ شان تھا۔ اس موقع پر ایک لاکھ روپیہ چندہ سے جمع کیا گیا تھا۔ جس کے خرچ کا اہتمام بھی وہیں کے عمائدین کے ہاتھ میں تھا۔ نتیجہ یہ ہوُا۔ کہ تمام اخراجات نکال کر دس ہزار روپیہ بچ رہا۔ جو غریبوں کو چار چار آنے فی کس تقسیم کیا گیا

اسی ضمن میں یہ بھی لکھدینا ضروری ہے۔ کہ بابو بھجن لال صاحب لوہیا ایک مارواڑی مہاجن اور کارخانہ دار نے اپنے صرف سے میدانِ کلکتہ میں اس عالیشان تقریب پر ایک ایسے وسیع پیمانہ پر غربا کو دعوت دی کہ جو غالباً ہندوستان بھر میں ایک خاص امتیاز رکھتی ہے۔ اس دعوت میں تیس ہزار ہندو مسلمان مرد اور عورتیں شریک تھیں اور اہتمام اسقدر تھا۔ کہ پچاس ہزار آجاتے تو بھی کوئی کمی نہ ہوتی۔ اس عالی ہمت شخص کی اس سچی فیاضی کے دیکھنے کو ہز ایکسیلنسی حضور وائسرائے اور ہز آنر نواب لفٹنٹ گورنر بنگالہ خود بھی بنفسِ نفیس موقع پر تشریف لے گئے تھے۔

قصائدِ تہنیت

بھی اس تقریب سعید پر جسقدر لکھے گئے ہیں۔ یقیناً کسی بھی والئ ملک کی مسند نشینی پر کبھی نہ لکھے گئے ہوں گے۔ سب سے بڑی قابل داد بات یہ ہے کہ یہ قصائد وغیرہ بلا کسی امیدِ صلہ کے لوگوں نے اپنی خوشی خاطر سے لکھہ کر شائع کرائے ہیں۔ ایسی بے قدری کی حالت میں جبکہ انعام و جاگیر تو درکنار سوکھی واہ واہ اور گورنمنٹ کی طرف سے پروانۂ خوشنودی تک کی توقع نہو اسقدر نظموں اور تاریخوں کا سوائے دلی تحریک کے نکلنا بالکل محال اور ناممکن ہے اور جب اس بات کو دیکھا جائے کہ شاعروں کا فرقہ ہمیشہ سے اپنی علمی سلطنت کے مقابل کسی بڑی سے بڑی سلطنت کی بھی پرواہ نہیں کرتا جیسا کہ حضرت حافظ شیرازی ہندو بخارا کو اپنے معشوق کے خال پر بخشد ینے کے لئے خاص طور پر شہرت پاچکے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان بادشاہانِ سخن کا بغیر کسی امید کے خود بخود سلطنت کی مدحت کی طرف رجوع ہوجانا بڑا ہی مغتنمات سے سمجھنا چاہیئے۔ نظمیں۔ قصائد۔ تاریخیں اس کثرت

سے لکھی گئی ہیں۔ کہ اگر اُن کو جمع کیا جائے تو غالباً اس کتاب سے دوگنی ایک۔ اور کتاب بن سکتی ہے۔ لیکن تاریخ سے اُسکو کچھ تعلق نہیں ہوسکتا اسلئے یہاں ایک ایسا ترکیب بند درج کیا جاتا ہے جو باعتبار اپنی سلاست وفصاحت اور نیچرل شاعری کے اُس انگریزی شاعری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو اردو میں آجکل ایک نئی رُوح پھونک رہی ہے۔ یہ ترکیب بند **چودھری خوشی محمد** صاحب بی۔ اے پرسنل اسسٹنٹ سٹلمنٹ کمشنر صاحب ریاست کشمیر کی تصنیف لطیف سے ہے۔ اور واقعی اس قابل ہے کہ اس شاعری کے مخالف زمانہ میں بھی حضور وائسرائے اور اعلیحضرت ملک معظم کے حضور میں پیش ہوکر داد پا سکے۔ فہو ہذا۔

ترکیب بند در تہنیت جلوس ہمایوں شہنشاہ معظم ایڈورڈ ہفتم قیصر ہند خلد اللہ ملکہ وسلطنتہ

سچ بتا اے شہر دہلی اے عروس روزگار — آئی تھی تیرے گلستاں میں کبھی ایسی بہار
تو نے دیکھے ہیں بہت جاہ و حشم کے سالہا — تجھپہ گذرے ہیں بہت اقبال کے لیل و نہار
تیری کھنڈروں میں پڑے ہیں سینکڑوں تخت شہی — خاک میں سوتے ہیں تیرے تاج بخش و تاجدار
تجھ میں ہندو راج کے آثار دولت ہیں عیاں — تجھ میں اسلامی حکومت کے نشاں ہیں یادگار
دیدۂ دوراں نے لیکن پیشتر دیکھی نہ تھی — آج جوبن پر ہے تیرے جو تجلّے آشکار
تیرے گلشن میں بہار آئی نہ تھی ایسی کبھی — گلبن عشرت کو تیرے تھی سدا تشویش خار
تجھپہ امن و عافیت کی یوں گھٹا چھائی نہ تھی — ساتھ برق و باد کے آتا تھا یاں ابر بہار
کہہ رہی ہے یوں زبان حال سے مینار قطب — میری آنکھوں نے نہ دیکھی تھی یہ بزم زرنگار
آ رہی ہے مقبروں سے بھی صدا احسنت کی — شہر خاموشاں میں ہیں رطب اللساں سب شہریار
بہہ رہا ہے سیل دولت کا جہاں آباد میں — کر رہا ہے اس زمیں پر آسماں گوہر نثار

عرصۂ عالم میں دیکھے گا نہ چرخِ چنبری
یہ شکوہ و فرّۂ جشنِ جلوسِ قیصری

ہو رہا ہے آج شاہنشاہ کے زیرِ علم — سو بسو جشنِ فریدوں کو بکو نوروزِ جم
بارگاہِ قیصری اِک قلزمِ مواج ہے — اسکی موجیں ہیں یہ فوجیں اور حباب اسکے خیم
کوہ پیکر ہاتھیوں کی ہے کہیں چھائی گھٹا — ہیں کہیں توپیں گرجتی رعد آسا دمبدم
جگمگا اٹھی چراغوں سے سوادِ شہر و دشت — رات کو دن کا سماں ہے نور ہے وقفِ ظلم
جھونپڑی ہے یا محل ہے شہر یا دشت و جبل — سب میں شادی کا عمل ہے مٹ گیا ہے نامِ غم
مشرقی شان و تجمل مغربی آئین و نظم — مل گئے آرائشِ دربارِ عالی میں بہم
بزمِ دولت صنعتِ ہندی سے ہے آراستہ — جسکی ہے تصویر سے قاصر مصوّر کا قلم
لہلہاتے سو بسو ہیں تاجداروں کے نشاں — یونین جیک اک طرف ہے۔ فالِ اجماعِ امم
ہے وہ ملبوسِ شہاں پرتابِ الماس و گہر — کھل گیا جن کی چمک سے بزمِ انجم کا بھرم
پی رہے ہیں اہلِ محفل جامِ صحتِ شاہ کا — کہہ رہے ہے میٹھی سروں میں ہیں مزامیر و نغم

خالقِ کون و مکاں کی ہو تجھے حفظ و اماں
اے شہِ ایڈورڈ ہفتم قیصرِ ہندوستاں

اے شہِ فرخ لقب عالی نسب والا مکاں — ہے تیری ذاتِ معلّٰی زینتِ بزمِ جہاں
ہے عیاں صورت سے تیری فرّۂ شاہنشہی — ہے نہاں سیرت میں تیری لطف و جود بیکراں
شاہ کی جانب رعایا کے کھچے جاتے ہیں دل — شاہ کی جانب ہوں جیسے بحر کی موجیں دواں
آفتابِ سلطنت ہے تیرا رخشاں رات دن — جس نے بخشا بزمِ عالم کو فروغِ جاوداں
عتبۂ شاہنشہی ہے سجدہ گاہِ روزگار — آستانِ قیصری ہے بوسہ گاہِ خسرواں
شرق میں اور غرب میں امصار میں کہسار میں — بحر و بر میں خشک و تر میں حکم ہے تیرا رواں
چرخ پر انجم ہیں گویا بحر میں تیرے جہاز — جابجا تیرے جزائر ہیں مثالِ کہکشاں

کوہ و صحرا پست و بالا سے نہیں رکتا یہ سیل
فوج دریا موج تیری جس طرف پھیری عناں

بدھ۔ عیسائی۔ مسلماں۔ سکھ۔ ہندو۔ پارسی
اس سمندر میں ملی ہیں آکے صدہا ندیاں

ہے تیرے مردانِ جنگی میں مروت اسقدر
بخشتے ہیں رزمگہ میں دشمنوں کو آب و ناں

ہے خلائق پروری کا آج سہرا سر تیرے
ایک عالم میہماں ہے خوانِ یغما پر تیرے

اے شہنشاہِ معظم منبع جود و عطا
شکر تیری نعمتوں کا ہم سے ہو کیونکر ادا

مندروں میں گا رہے ہیں تہنیت کے تیری راگ
مسجدوں میں مانگتے ہیں تیری دولت کی دعا

ہو گئے شیر و شکر زنار تسبیح و صلیب
رنگ وحدت نے دیا زنگِ تعصب کو مٹا

ظلِ عالی بن گیا ہم کو حصارِ عافیت
آئے دن کے زلزلوں کا دغدغہ جاتا رہا

امن و آزادی تجارت کے بنے ہیں خضرِ راہ
علم و دانش سے بڑھی ہے بزمِ صنعت کی ضیا

علم کا چمکا ستارا ایسی آب و تاب سے
سب بلند و پست میں جس سے اجالا ہو گیا

اہلِ دانش پر ہوئے اسرارِ فطرت منکشف
تابع انساں ہو گئے برق و دخاں آب و ہوا

جن بیابانوں سے تھا ابرِ بہاری بے خبر
آج نہروں نے وہاں جنگل میں منگل کر دیا

جن پہاڑوں نے نہ دیکھے تھے بشر کے نقشِ پا
آج ہیں واں کاخ و ایواں باغ و بستاں دلکشا

اخترِ دولت ہے تیرا شہا گیتی فروز
تیرہ خاکِ ہند کو جس نے منور کر دیا

تو ہے محبوبِ جہاں اے خسروِ عالم پناہ
تو دماغوں کا ہے مالک اور دلوں کا بادشاہ

برکتیں اللہ کی شاملِ حال تیری قوم پر
جن کے احسانات کا بارِ گراں ہے ہند پر

ہر سفر میں ہمعناں ہر راہ میں ہیں رہنما
بزم میں ہیں زیبِ محفل رزم میں ہیں اپنی سپر

قحط میں رنج و عنا میں فتنہ و آشوب میں
اہلِ انگلستان نے لی وقت پر اکثر خبر

اس مبارک قوم کی الفت پہ ہم کو ناز ہے
جسکا ہر میداں میں ہمت کا قدم ہے پیشتر

کارپردازانِ دولت انتظامِ ملک میں
ہیں فلاحِ خلق کی تدبیر میں شام و سحر

شمعِ بزمِ سلطنت ہے شاہ کا نائب جناب
جس کا ہر لب پر ہی چرچا جسکا ہر دل میں ہے گھر

باغ ہی ہندوستاں اور لارڈ کرزن باغباں
ہر گل و شاخ و شجر پر باغباں کی ہے نظر

اُسکی ہر تقریر سے تحریر سے تدبیر سے
ہمت عالی ہے اور روشن دماغی جلوہ گر

معبدوں کو اسکی فیاضی نے روشن کر دیا
اُس کی ہمدردی نے آثارِ سلف کی لی خبر

ہے نسیمِ لطف سے اُسکے بہارِ علم و فن
آبیاری سے اسی کی تازہ ہی کشتِ ہنر

یہ شکوہِ بارگاہ - یہ انجمن پیرائیاں
سب باغِ لارڈ کرزن کی ہیں رنگ آرائیاں

اے شہِ والا مکاں اے زینتِ تختِ شہی
ہو مبارک تجھکو یہ تاج و سریرِ قیصری

آئے ہیں حضرت میں تیری ہم مسلمانانِ ہند
لائے ہیں نقدِ ارادت ہدیۂ شاہنشہی

دیکھتے ہیں ہم جبینِ شاہ میں ظلِ الٰہ
شان و شوکت میں تیری پاتے ہیں شانِ ایزدی

بعد طاعت کے اطاعت فرض ہی اسلام میں
دین و ایماں ہی ہمارا شاہ کی فرمانبری

دم سے درہم سے قدم سے جان سے اور مال سے
تیری خدمت میں نہ ہوگی ہم سے ہرگز کوتہی

سایۂ دولت میں تیری ہیں کروڑوں کلمہ گو
تیری اسلامی حکومت ہی شہا سب سے بڑی

عرضِ حاجت کی نہیں اس آستاں پر احتیاج
جانتا ہے شاہ خود رسمِ رعیت پروری

قوم کی تعلیم کی اک فکر دامنگیر ہے
دیکھتے ہیں ہم اسی میں جلوۂ لطفِ شہی

شکرِ احساں ہے دلوں میں اور لبوں پر یہ دعا
تا ابد قائم رہے یہ تخت و تاجِ قیصری

ملکۂ روشن گہر سے ہو فروغِ بزمِ دہر
تاج میں اسکے ہو کوہِ نورِ مہرِ خاوری

خیر و خوبی سے ولیعہد بلند اختر رہے
سر پہ اسکے سایۂ شاہ جہاں پرور رہے

فصل ہژدہم

نتائج دربار

دربار کے مفاد و مضار پر جس شد و مد اور دلچسپی کے ساتھ اخبارات اُردو انگریزی میں بحث ہوتی رہی ہے۔ غالباً کسی بڑے سے بڑے مضمون پر بھی اس سے زیادہ نہ ہوئی ہوگی۔ قریباً دو سال تک جس تقریب کے متعلق خبروں اور نوٹوں کے شائع کرنے کا موقع اخبارات کو ملتا رہا ہے۔ وہ یہی تقریب تھی تخمینہ اخراجات کی نسبت قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے اور چونکہ وہی ایک ایسی بات تھی۔ جس نے بعض صاحبوں کے مُنہ سے اس تقریب کو بے ضرورت کہلوا دیا تھا۔ اسلئے اب کہ دربار ختم ہو چکا ہے۔ اور اُسکے اخراجات کی تقریباً صحیح صحیح جانچ پڑتال بھی ہو چکی ہے۔ اُس کا ذکر سب سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہند کو اخراجات دربار کی نسبت جو رقم جیب خاص سے خرچ کرنی پڑی ہے۔ وہ بارہ لاکھ روپیہ ہے۔ اگرچہ اخراجات کا ابتدائی تخمینہ چھبیس لاکھ ہوا تھا۔ اور وقت پر اس سے بھی متجاوز ہو گیا تھا۔ مگر سامانِ فروختنی کو بیچنے کے بعد جو رقم گورنمنٹ کو دینی پڑی ہے وہ صرف بارہ لاکھ روپیہ کی ہے۔ اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹوں نے جو کچھ اس تقریب پر خرچ کیا ہے۔ اس کی تعداد چودہ لاکھ روپیہ ہے۔ جن دونوں کی مجموعی تعداد چھبیس لاکھ روپیہ بنتی ہے نمائش اور شغفی جنگ کے اخراجات اِسکے علاوہ ہیں۔ جو گو اس موقع پر دربار کے شامل تو ضرور تھے مگر فی نفسہ وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ چھبیس لاکھ روپیہ اگرچہ ایک معقول رقم ہے لیکن پھر بھی اس عظیم الشان

کام کے روبرو اسکی چنداں وقعت نہیں رہجاتی۔ اور بلا تامل ماننا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ نے بہت سستے داموں اس عدیم المثال میلہ کا انعقاد کر لیا جسکے شاملین سوائے اخص الخواص صاحبان کے اور کوئی نہ تھے پس اس رقم میں اتنے بڑے معزز گروہ کا یکجا کرنا اور اس بے نظیر سرکاری تقریب تہنیت کا ادا کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ چھبیس لاکھ روپیہ کی رقم میں رعایا برایا کے دلوں میں ایک جوش مسرت کا پیدا کر کے شاہی جاہ و جلال کی نمائش کرا دینا۔ اور سفرائے دول خارجہ کے دلوں پر گورنمنٹ کی طاقت وسطوت کا سکہ بٹھا دینا بالکل ارزاں سمجھنا چاہیئے۔ کیونکہ اگر ایسے سوا کسی اور ترکیب سے خواہ اسقدر روپیہ کا چار چند بھی خرچ کر دیا جاتا۔ تو جس طرح اس دربار کے لئے ہندوستان بھر کے ایک سے دوسرے سرے تک جوش مسرت و اظہار وفاداری کا سمندر بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کسی دوسری طرح ممکن نہ تھا۔ اور سفرائے دول خارجہ کے روبرو تو غالباً کوئی اور ذریعہ امنیت کے ساتھ گورنمنٹ کی ہر دلعزیزی اور اعزاز و وقار کے اظہار کا سوائے اس دربار کے سخت مشکل تھا۔ اس لحاظ سے اس دربار کا نتیجہ گورنمنٹ کے لئے بہت ہی اچھا ہوا کہ اس نے ہندوستان میں اس مختصر رقم کے ساتھ مشرقی اور مغربی طرز کا ملا جلا ایک عالیشان نمود کا کام اپنے حسب دلخواہ انجام دے لیا۔

شاملین دربار کے اخراجات کا (جن میں راجے مہاراجے نواب جاگیردار اور بڑے بڑے رئیس اور دوسرے درباری صاحبان سب شامل تھے) کوئی صحیح اندازہ سوائے سخت جد و جہد سرکاری کے معلوم ہونا محال ہے۔ صرف قیاسات سے ہی ان کے اخراجات کا اندازہ کر لی

تین اور کوئی پانچ کروڑ لگاتا ہے - جو واقعی ایک بڑی ہی عظیم المقدار رقم ہے - اور خصوصاً جبکہ گذشتہ قحط سالی نے دیسی رئیسوں کے خزانوں کی رطوبت کو بہت کچھ جذب کرلیا ہو تو ایسی حالت میں اتنی بڑی گرانڈیل رقم کا بار ان پر پڑجانا کوہِ گراں سے کم معلوم نہیں ہوتا - لیکن جب اس امر کو دیکھا جائے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص بندشیں ایسی نافذ نہ ہوئی تھیں کہ جن سے اِن کے اخراجات بڑھ جاتے - بلکہ یہ ان کے اپنے اختیار میں تھا - کہ اگر وہ چاہتے تو اس سے کم میں بھی اپنا گذارہ کرلیتے - جسکو انہوں نے اپنے آبائی اور قدیم دستور کے موافق بلا کسی خیالِ کفایت کے نہایت فراخدلی سے انجام دیا - تو پھر اسکا اعتراض تمامہ گورنمنٹ پر ہی نہیں رہ جاتا - بلکہ گورنمنٹ اور شاملین دربار دونوں میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے اور اسکے ساتھ جب اس امر کو دیکھا جاوے کہ اس روپیہ کا کم سے کم نصف حصّہ ملک کے ہی مزدوروں کاریگروں اور تاجروں کے حصّہ میں آیا ہے - اور اسکے ساتھ جب بھی دیکھا جائے کہ یہ دربار جسکی شمولیت کے لئے انہوں نے اسقدر صرفِ کثیر برداشت کئے ضروری بھی تھا اور موزون بھی - تو پھر یہ اعتراض بالکل ہلکا رہ جاتا ہے -

رعایا کے اخراجات کا بھی صحیح موازنہ سوائے ایک عرصہ دراز کے بعد سرکاری رپورٹوں کے مرتب ہونے کے عام طور پر قیاسی ہی ہوسکتا ہے - یہ اُس روپیہ سے مقصود ہے جو ہندوستان کے ہر ایک قصبہ و شہر میں اس موقع پر اظہارِ مسرت کے جلسوں کے لئے رعایا کی طرف سے خرچ کیا گیا تھا - اور جس میں پرائیویٹ لوگوں کے جلسے بھی شامل سمجھنے چاہئیں - اس روپیہ کا اندازہ ایک لاکھ پونڈ یا پندرہ لاکھ روپیہ سے زیادہ

نہیں ہوسکتا۔ یہ رقم اپنے ساتھ کچھ سرکاری روپیہ بھی لے کر بچوں میں تقسیم شیرینی۔ غریبوں میں تقسیم طعام و پارچات اور روشنی و آتشبازی یا ازیں قبیل دوسری کھیلوں پر صرف ہوئی ہے۔ رقم تو نامعقول نہیں۔ مگر اسکا مصرف اور نتیجہ اتنا معقول ہے کہ اسکے روبرو اس رقم کی کچھ حیثیت معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ باشندوں نے اپنے پاس سے جسقدر رقم دی ہے وہ تو غالباً غریبوں کے تقسیم طعام و پارچات اور بچوں میں تقسیم شیرینی پر ہی خرچ ہوئی ہے۔ جسکے یہ معنے ہیں کہ اس تقریب پر متمول باشندوں نے غریبوں کی دستگیری اور بچوں کی خاطر داری کردی۔ اور یہ ایسا مفید اور مبارک کام ہے کہ جو ہر مذہب و ملت میں یکساں سراہا جاچکا ہے دوسرا اس سے جو چہل پہل اور خوشی کی ریل پیل تمام ہندوستان میں پھیل گئی تھی۔ اُس نے گورنمنٹ کے دل پر رعایا کی صداقت و محبت کی نسبت جو گہرا نقش جمادیا ہوگا۔ وُہ رقم کی حیثیت سے بہت ہی بڑا قیمتی ہے اور جب یہ دیکھا جائے کہ اہل ہند عموماً میلوں تماشوں میں شامل ہونا اور سامان تفریح کے لئے روپیہ خرچنا بہت عرصہ سے جانتے ہیں تو پھر اس رقم کا مجموعی طور پر باشندگان ہند کی طرف سے ایسے بڑے عظیم الشان میلے اور ایسے چیدہ چیدہ جامع تفریح پر خرچ ہوجانا کچھ بڑی بات نہیں۔

نمائش اگرچہ ایک علیحدہ چیز تھی۔ مگر چونکہ ایام و مقام دربار میں منعقد کی گئی تھی۔ اسلئے اسکے مفاد و مضار کو دیکھنا ضروری ہے۔ جس کا نتیجہ اُمید سے زیادہ مفید اور کارآمد نکلا۔ اوّل تو بڑی بات یہ ہے کہ کہ قریب قریب خرچ کے آمدنی بھی ہوگئی۔ اور پھر یہ کہ اس سے دیسی

رئیسوں میں اپنے ہاں کے فنون صنعت و حرفت کی ترقی وقدردانی کا نئے سرے سے ایک دفعہ پھر ولولہ پیدا ہوگیا۔ جس میں بالخصوص ہزایکسیلنسی لارڈ کرزن بہادر کی تقریر نے جادو کا کام کر دکھایا تھا اور اسی پُرزور تحریک کا نتیجہ تھا کہ رئیسوں کو خریداری سامان کی رغبت پیدا ہوکر نمائشگاہ کو بھی فائدہ ہوگیا۔ اور سب سے پہلے نواب صاحب بہادر مرشد آباد نے اپنے ہاں ایک ایسی ہی صنعتی نمائش کے افتتاح کا قصد مصمم فرمالیا۔

اسی ضمن میں یہ بھی لکھدینا ضروری ہے کہ لارڈ کرزن بہادر نے جو اپنی نمائشی تقریر میں ہندوستان کے روساء و اہل دول کو یورپ کی ساختہ اشیاء سے نفرت دلاکر دیسی ساخت کی اشیاء کی قدردانی کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اسپر یورپ کے اخبارات میں بڑے بڑے مضامین چھپے اور ایک یوروپین کارخانہ کی طرف سے یہ کہا گیا۔ کہ لارڈ کرزن دوسروں کو نصیحت تو کرتے ہیں مگر خود اُن کا گھر یوروپین فرنیچر سے ہی سجا ہوا ہے۔ اور اب اس دربار کی تقریب پر بھی بہت سا سامان یورپ سے ہی مہیا کیا ہے۔ لارڈ ممدوح نے تو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن یوروپ کے ایک مشہور شاعر نے اسکا ایک نہایت لطیف جواب نظم میں حضور وائسرائے کی طرف سے یوں ادا کیا۔ کہ

"میں یوروپین ہوں، اسلئے تم میرے گھر کو ہمیشہ یوروپ کی چیزوں سے سجا ہوا پاؤگے جبکی مجھے قدرتی طور پر محبت ہونی چاہیئے۔ لیکن تم (روساء و امراء ہند سے خطاب ہے) اپنے گھروں کو اپنے ملک کی چیزوں سے سجاؤ کہ یہی حب الوطنی کی دلیل ہے"

فوجی اخراجات اگرچہ فوج کے متعلق ہر سال ہوا کرتے ہیں۔ اور اب بھی وہ معمولاً ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ اِن میں قدرے اضافہ بھی تھا۔ اور دربار سے بھی تعلق تھا۔ اسلئے ان کی نسبت یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اس تقریب کی شرکت سے اُنکی ضرورت پر غالباً بہت سے اہل الرائے متفق ہوگئے ہوں گے۔ کیونکہ تمام حاضرین دہلی فوج سرکاری کی چُستی و چالاکی اور انتظام سے پرلے درجے کے متاثر ہوگئے تھے۔ اور اس رقم نے جو معمولاً سال بسال خرچ ہوا کرتی تھی۔ گویا پبلک کی طرف سے اسی موقع پر اپنی ضرورت اور نمائش دکھا کر منظوری حاصل کرلی تھی۔ کیونکہ معمولی مشقوں میں پبلک اور بالخصوص ایسے ایسے جلیل القدر مہمانوں کو تو شرکت کا اتفاق ہی نہیں ہوا کرتا۔

پس بہیئت مجموعی اس دربار کا نتیجہ

گورنمنٹ کے لئے نہایت اطمینان بخش ثابت ہوا کہ اس نے پوری دانشمندی کے ساتھ سفرائے دولِ خارجہ والیان ریاست اور رعایا کے دلوں پر مسرت انگیز و فرحت آثار طریق سے اپنی سطوت و قوت کا سکہ بٹھادیا۔ اور اس پرانی رسم کو اُن آئین و ضوابط سے انجام دیا کہ جس سے اہل رعایا کی خلوص و عقیدت اور والیانِ ملک کے خیالاتِ وفاداری کو بھی بہت عمدگی کے ساتھ اظہار کا موقع مل گیا۔ چنانچہ انہیں وجوہات سے اس کو سب لوگ

کامیاب دربار

سمجھتے ہیں اور انہیں نتائج کے بھروسے پر لارڈ جارج ہملٹن صاحب وزیر ہند نے ولایت میں اپنی پُرزور تقریر میں اس کو ایک عالیشان کامیابی

تعبیر فرما کر بیان کیا کہ یہ صرف ایک معمولی کھیل یا تماشہ ہی نہ تھا بلکہ اس سے بہت بڑے پولیٹیکل نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ ہندوستان کی وفاداری زندگی کی ایک بہترین دلیل ہے وغیرہ وغیرہ علٰے ہذا خود شہنشاہِ معظم نے بھی اسکی کامیابی اور شانداری کو تسلیم کرکے لارڈ کرزن بہادر کو درجہ وکٹوریا کی زنجیر مرحمت فرمائی اور اسیطرح عالیجناب ڈیوک آف کیناٹ بہادر نے بھی گو اس سے پہلے کئی سال ہندوستان میں بسر فرمائے تھے۔ مگر اب جبکہ اس اہم تقریب کے بعد مارچ میں وُہ ہندوستان سے مع الخیر ولایت میں تشریف لے گئے ہیں۔ اپنی اس دفعہ کی سیاحت اور دربار کی اس عظیم الشان کامیابی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ علٰے ہذا تمام لوکل گورنمنٹوں اور حکّام نے بھی اسکو پوری کامیابی سمجھا ہے۔ غرضکہ گورنمنٹ کے لئے یہ دربار ہر طرح کامیاب ہوا ہے۔

اب نتائج دربار کا دوسرا پہلو دکھایا جاتا ہے۔ اور وُہ یہ کہ شاملین دربار اور رعایا کے لئے اسکے نتائج کیا نکلے۔ پس

شاملین دربار کی نسبت یہ کہنا کہ تمام طبقات عام اس سے کہ والئِ ملک ہوں یا عام درباری سب کے سب دلی خوشی اور چاؤ کے ساتھ اس میں شامل ہوئے تھے اور ہر ایک نے اس شمولیت کو باعثِ اعزاز سمجھا تھا بالکل ایک امرِ واقعہ سمجھنا چاہیئے۔ گو موسم سرما کی شدت اور ڈیرے خیموں کے قیام کے باعث کوئی شخص زکام اور کھانسی سے بمشکل ہی بچا ہوگا۔ مگر ہندوستانیوں کی فطرت میں تقربِ سلطانی کی جو خواہش پڑ چکی ہے وُہ ان تکالیف پر بھی اس اعزاز شمولیت کو بالاتر ہی سمجھتے رہے۔ علاوہ

ازیں ہز ایکسیلنسی وائسرائے صاحب نے ڈہائی ہزار تمغے منظور فرمائے ہیں - جو سوائے خفضو وائسرائے کے پرائیویٹ مہمانوں کے تمام مہمانان و منتظمان دربار و بہادران مخلد کو بلا استثناء عطا ہونگے اور زیر جوا فواج اس تقریب پر موجود تھیں انکے افسروں کو بھی بدیں تفصیل دئے جائینگے کہ فی پیدل پلٹن ۸ تمغے اور فی پلٹن سواران ۹ تمغے - الیسی کم خرچ بالا نشین تجویز غالباً کبھی نہ سوجھی ہوگی جو نہایت سستی واموں خرکائی دربار کو خوش کر دیگی والیان ریاست کو عام طور پر طلائی تمغہ دئے جائیں گے اور اسکے سوا ان ریاستوں کو جنہوں نے قحط سالی میں گورنمنٹ سے قرضہ لیا تھا - تین سال تک ان کا سود معاف رہیگا - جس کی مقدار قریباً ساٹھ لاکھ روپیہ ہوتی ہے - چند خاص ریاستوں کو یہ رعایت ملنا بعوض ایک جماعت کثیر کے اخراجات و تکالیف کے کچھ بڑی نہیں کہی جاتی - اور نہ یہ انعام اس دربار کی عظیم الشانی کے بھی موافق تسلیم کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہی جماعت ہے جسکے اخراجات سب سے زیادہ ہوئے ہیں - اور یہی صاحبان ہیں جنکی شرکت دربار ضروری اور لازمی بھی تھی پس اگر ان کے الیسے قرضے اس موقع پر بالکل معاف کر دئے جاتے - تو واقعی یہ امر دربار کے شایان شان بھی ہوتا - اور کسی کو اس عطیہ پر اعتراض کا موقع بھی نہ ملتا مگر چونکہ گورنمنٹ روپیہ کے معاملہ میں خود بھی نہایت پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے - اسلئے یہ کہنا کہ یہی ایک الیسا موقع ہوا ہے جسپر اسقدر بھی تخفیف کی اپنے مالی معاملہ میں گورنمنٹ نے جرأت کی ہے بالکل تاریخی شہادت ہے - لہذا امید ہے کہ والیان ریاست اس یادگار کو بھی بیقدری کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں گے اور چونکہ اس دربار کی شرکت ایک طرح پر انکی وفاداری اور صداقت شعاری اور بھی رجسٹرڈ ہوگئی ہے

کیونکہ ایشیائی طریق پر شاہی مسرت میں حصّہ لینا خاص تقرب و داد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور غالباً گورنمنٹ بھی اس سے غیر متاثر نہیں رہتی چنانچہ اس موقع پر بھی اکثر صاحبوں کو خطابات وغیرہ دیئے گئے ہیں۔ اور باقیوں کو بھی ایسی ہی امید رکھنی چاہیئے۔ اسلئے بہیئت مجموعی اِن صاحبوں کیلئے بھی اسکا نتیجہ بہتر ہی کہا سکتا ہے۔

رعایا کے حق میں اس دربار کا نتیجہ نہایت ہی اعلےٰ سمجھنا چاہیئے۔ کیونکہ جنوری کی درباری تقریر میں وائسرائے صاحب نے عام باشندگانِ ہند کے ساتھ رعایت کرنے کا جو وعدہ کیا تھا۔ اسکو بڑی خوبی سے ایفا فرمایا ہے۔ اور ایک بہت بڑی شکایت جو مدت سے انکم ٹکس کے متعلق چلی آتی تھی۔ اُسکی اصلاح اس تقریب کی یادگار میں نہایت عمدگی کے ساتھ کردی گئی ہے۔ گو حسابی اعداد و شمار کے موافق بجٹ بھی اسی کا مقتضی تھا۔ لیکن بہرحال گورنمنٹ بہت جلد اُسکے اجراء کے لئے طیار نہ تھی اسکے علاوہ نمک کے محصول میں بھی آٹھ آنہ فی من تخفیف کردی گئی ہے تاکہ غرباء بھی اس دربار کی یادگار سے محروم نہ رہیں۔ گو اس کا اثر بھی چنداں محسوس نہ ہو مگر گورنمنٹ کی فراخدلی میں کوئی کلام نہیں کیا جاسکتا اِن دونوں تخفیفوں سے دو کروڑ دس لاکھ روپیہ سالانہ سفید پوش باشندگانِ ہند اور غربا کو معاف کیا گیا ہے جو ایک عمدہ اور بہترین یادگار رکھی جاسکتی ہے یہ رعایت یکم اپریل سے نافذ کی گئی ہے۔ جسکے مطابق پانچسو کی آمدنی والے ٹیکس سے مستثنےٰ ہوگئے ہیں۔ جن کی تعداد تمام ٹیکس دہندوں میں بقدر تین حصہ کے تھی۔ اور اب گویا ٹیکس کا بار صرف دو حصّوں پر رہ گیا ہے جسکی بابت یہ کہنا کہ اسکی معافی کی بھی توقع رکھنی چاہیئے۔ یہ تو محض

خیال ہی خیال ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ بجٹ کی عمدگی کی حالت میں شاید اسکو بجائے ایک ہزار کے ڈیڑھ ہزار پر کردیا جائے اور اس طرح سو روپیہ مہینے تک کی آمدنی والے اس تکلیف سے بچ جائیں۔ کیونکہ واقعی طور پر موجودہ زمانہ میں سو روپیہ مہینا میں سے پانچ روپیہ مہینا سرکار کی نذر کردینا کوئی شخص خوشی سے گوارا نہیں کرسکتا۔

فوجی اعزاز وانعام بھی جسقدر ہوئے ہیں۔ وہ کچھ کم شکریہ کے لائق نہیں اور بالخصوص ہندوستانی افسرانِ فوج کا شہنشاہ معظم کی اردل کے لئے بھیجا جانا فوج کی بہت بڑی سربلندی کی دلیل ہے جسکو وہ اس دربار کا بہت اچھا نتیجہ سمجھی گی۔

فوج سے اب جو صاحبان شہنشاہ کے حضور میں بھیجے گئے ہیں انکے نامی یہ ہیں
رسالدار میجر عمدہ سنگھ دوم پنجاب کیولری ۲۔ رسالدار میجر علی محمد خاں دوم بنگال کیولری ۳۔ رسالدار احمد خاں دوم رجمنٹ سنٹرل انڈیا ہارس ۴۔ صوبیدار میجر جوند سنگھ ۴۵ بنگال انفنٹری ۵۔ صوبیدار رام چندرا ڈمولے سوم بمبئی انفنٹری ۶۔ صوبیدار میجر میر عباس چہارم مدراس انفنٹری۔

پس مجموعی طور پر یہ دربار گورنمنٹ انگریزی۔ والیانِ ریاست۔ امرائے ہند۔ عام رعایا۔ اور صنعت و حرفت کے لئے بہت بڑا بانتیجہ دربار ثابت ہوا ہے۔

لیکن

ایک بات کی باشندگانِ ہند کو اور بھی خواہش ہے۔ جسکو [illegible] نمنٹ کو کچھ بھی خرچ نہیں آتا اور ہندوستان کے باشندے اسکو ایک خاص انعام اس دربار کا سمجھیں گے یعنے

لارڈ کرزن بہادر وائسرائے ہند کی میعاد حکومت میں اضافہ

جسمیں وہ اُن اصلاحات کو تمامہ جاری کر سکیں جو اُنھوں نے انتظام ہند میں ضروری سمجھ کر شروع کر رکھی ہیں اور جن کو اہالیانِ ہند بڑی دلچسپی کی نظر سے دیکھتے ہیں ؎

یارب ایں آرزوئے من چہ خوش است
تو بایں مدّعا مرا برساں

اب حضور وائسرائے کی وہ تقریر درج کی جاتی ہے۔ جو آپ نے مارچ ۱۹۰۳ء میں بجٹ ہند پر بحث کرتے وقت دربار دہلی اور تخفیف ٹیکس کے متعلق فرمائی ہے

تقریر حضور وائسرائے

انکم ٹیکس میں تخفیف | ہندوستان میں آکر میں نے جن امور کی تکمیل کا ارادہ اپنے دل میں ٹھان رکھا ہے جن خاص کاموں کا ذکر میں وقتاً فوقتاً کرتا رہا ہوں ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے باشندوں کا مالی بوجھ کم کیا جائے۔ سنہ ۱۸۹۹ء کے بجٹ پر میں نے جو تقریر کی تھی اُس میں میں نے دکھایا تھا کہ تخفیفِ انکم ٹیکس کا وقت ابھی تک نہیں آیا۔ اسکے بعد ہم قحط وغیرہ مشکلات میں پھنس گئے جن سے تخفیف وغیرہ کے تمام خیالات بالائے طاق رکھنے پڑے۔ میں نے اپنی بجٹ سوم کی تقریر میں پھر اس معاملے کی طرف خفیف اشارہ کیا تھا مگر چونکہ اُسوقت تک ہم منزلِ مقصود پر نہیں پہنچے تھے اس لئے خالی امیدیں باندھنا یا پیشینگوئی کرنا قبل از وقت تھا۔ گذشتہ سال آمدنی خرچ کی نسبت بہت زیادہ تھی اور میں نے بجٹ کی تقریر میں وہ مختلف ذرائع بیان کئے تھے۔ جن سے یہ رقم صرف کیجا سکتی تھی انجام کار ہمارا فیصلہ یہ تھا۔ کہ زیادہ مصیبت زدہ آبادی کی مالی امداد کیجائے چنانچہ ہم نے محاصلِ اراضی کی ایک معقول

رقم جو دو کروڑ روپے کے برابر تھی۔ یعنی ۱۳ لاکھ ۲۰ ہزار پونڈ معاف کر دی۔ اب میرے پانچویں سال میں ہم اس تجویز کو عملی صورت دینے کے قابل ہو گئے ہیں کہ جس کا خیال ہمارے دلوں میں ایک مدت سے تھا۔ اور میری موجودہ تقریر بجٹ سب تقریروں میں زیادہ خوشگوار ہوگی کیونکہ یہ تخفیف ٹیکس کے متعلق ہے کہ جسکے برابر کوئی تخفیف گذشتہ بیس سال سے ہندوستان میں نہیں کی گئی۔

ہندوستان میں مسئلہ ٹیکس سے متعلق میری رائے یہ رہی ہے اور تمام امور کو مدنظر رکھکر مجھے یہ باور کرنے کا کبھی موقع نہیں ہوا کہ ہندوستان کا ٹیکس سخت یا زیادہ ہے۔ بہیئت مجموعی میرا خیال یہ ہے کہ ایام قحط وغیرہ میں کاشتکاروں کو معافی یا رعایت دیتے ہوئے ہندوستان کا ٹیکس بالکل ہلکا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہا سال سے جن میں قحط کے سال بھی شامل ہیں سالانہ اخراجات نکال کر بھی ایک معقول رقم بچ جاتی ہے۔ تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ وقت آپہنچا ہے۔ جب لوگوں سے کچھ کم لینا چاہیئے اور یہ خیالات ہیں جنہوں نے مجھے اور میرے ہمعصروں کو اس رعایت کے اعلان کرنے کی تحریک کی ہے نفس الامر یہ ہے کہ اس رعایت کا اقرار ایک مدت سے کیا گیا تھا جسے رعایا کے انتظار صبر نے اب قابلِ ایفا بنا دیا ہے۔

نمک اور انکم ٹیکس | سر ایڈورڈ لا (جنہیں میں عمدہ نتائج کے حصول پر اور اس اعتدال پر جسکے ساتھ انہوں نے ان نتائج کا اعلان کیا ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں) نے اپنے سٹیٹمنٹ میں دکھلایا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو مالی امداد دینے کی کوشش کی ہے جو بڑے محتاج ہیں انکم ٹیکس کی تخفیف سے

اوسط درجے کی جماعتوں اور محصول نمک کی تخفیف سے کروڑوں آدمیوں کو فائدہ پہنچے گا اِس طرح دو کروڑ دس لاکھ روپے یا ۱۴ لاکھ پونڈ کی قربانی کی گئی ہے۔ اور اِس کے بعد کوئی شخص یہ کہنے کا مستحق نہ ہوگا۔ کہ ہم نے اہل ملک کی مالی بہتری بسوچ یدہ و دانستہ توقف کیا یا یہ کہ گورنمنٹ اہل ملک کا محنت سے کمایا ہوا روپیہ خود غرضی یا کوتہ اندیشی سے خرچ کرتی ہے۔

بعض اصحاب نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ کوئی شخص نمک کی کمی محصول کی پرواہ بھی نہ کرے گا۔ لیکن جب ہم اِن نتائج پر غور کرتے ہیں جو ۱۹۰۲ء میں کمی محصول سے حاصل ہوئے تو اِسوقت صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اٹھنی کا فرق آخر کار لوگوں تک دو طریق سے پہنچ جاتا ہے ایک تو بذریعہ قیمت نمک کے اور دوسرے نمک کے کم و بیش خرچ سے۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہوا ہوں کہ یہی رائے آنریبل مسٹر گوکھلے کی ہے جنکی آج کی تقریر حسب معمول مدلل اور مؤثر ہے مگر محصولِ نمک کی تخفیف کے ساتھ اِس بات کا عہد ہرگز نہیں کیا گیا کہ پھر اس میں اضافہ نہ ہو سکے گا۔ انگلستان کا انکم ٹکس جو ایک قسم کا ریزرو فنڈ ہے ملک کی مالی حالت کے مطابق کم و بیش ہوتا رہتا ہے اور ہر ایک مہذب ملک کا فرض ہے کہ وہ اِن غیر معمولی ضروریات کے لئے۔ جو جنگ یا کسی اور وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تیار و آمادہ رہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ محصول جس نے اپنی کمی کی سفارش خود کی ہے معمولی وجوہ سے دوبارہ نہ بڑھایا جائے یعنی محصول کے اضافہ کے لئے بھی ویسے ہی زبردست حالات ذمہ دار ہونے چاہئیں جیسے موجودہ سرسبز مالی حالات۔ کہ جنہوں نے کمی محصول کی تحریک کی ہے۔

میں خود امید کرتا ہوں کہ نمک کی کمی محصول کے باعث اب لوگ اسے

زیادہ مقدار میں استعمال کرنے لگیں گے اور کر اس کثرتِ استعمال اور رعایا کے دلی شکریہ سے گورنمنٹ کو رعایت کرنے کا کافی انعام ملجائیگا میں معزز ممبروں کی خدمت میں اس امر کا ظاہر کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ گذشتہ صدی کے وسط سے آج تک شمالی ہند اور بنگال میں محصول نمک کی شرح (سوائے ۱۸۸۲ء سے ۱۸۸۸ء تک کے چھ سالوں کے) اڑھائی روپے من سے کبھی کم نہیں ہوئی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ اعداد وشمار موجودہ رعایت کو غیر معمولی انعام ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں اور ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قومی حالت کے سرسبز ہونے پر گورنمنٹ سب سے پہلے فیض یاب ہونے کا موقعہ غریبوں کو دیتی ہے اور یہ ایک ایسا غور طلب امر ہے کہ جس پر نظر ڈالنے سے مدبران ملک کو ان کی فلاح وبہبودی کا پورا پتہ ملجاتا ہے گورنمنٹ ان حالات کے قطع نظر ان کی بہتری کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے تاکہ ملک کی سرسبزی وخوشحالی کے ترقی پانے سے یہ فرقہ بھی ان فوائد سے محروم نہ رہے جس سے اہل ثروت گروہ مستفید ہوتا رہتا ہے۔

ہندوستان کی زندگی اس مالی رعایت سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ہندوستان سے اور ہندوستان سے باہر بھی لوگوں کو اس ملک کی حالت کے مستحکم ہونے کا یقین ہوگیا ہے۔ ہم ہر سال اس میز پر ایسے نقشہ جات پیش کرتے رہے ہیں جن سے یہ ثابت کرنے کی غرض تھی کہ ہندوستان میں اس قسم کی قدرتی زندگی موجود پائی جاتی ہے جسے طاعونِ ملعون۔ قحط یا اور کسی قسم کا فالتو خرچ مغلوب نہیں کرسکتا۔ ہم نے ہمیشہ بڑھنے والے محاصل پیش کئے ہیں۔ نیز زائد رقم جو خرچ نکال کر بچ رہی تھی اور اس

قسم کے دیگر امور بھی جو ملک کی مالی ترقی کی دلیل ہیں ہم وقتاً فوقتاً (گذشتہ سال کی طرح) مالی رعایت کرنے کے قابل ہوئے ہیں لیکن ان سب حالات کے باوجود بھی ایسے عقلمند شخص ملک میں موجود ہیں جو اسکی مالی ترقی ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ ہندوستانی کسان کی غریبی ملک کا تنزل اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ ملک کی تباہی سے یہ امور ہیں جو ان لوگوں کے پولیٹیکل خیالات کا خلاصہ ہیں مگر ان کے خیالات محض فرضی اور باطل ہیں یہ لوگ عموماً حسب ذیل دلیل کیا کرتے ہیں " ہم تمہارے اعداد وشمار کو باور نہیں کرتے۔ نہ ہم اس بحث کو شمار میں لاتے ہیں کہ جو خرچ نکال کر دکھاتے ہو۔ ہم تمہاری وقتاً فوقتاً مالی رعایتوں کو بھی محسوس نہیں کرتے۔ جب تک کہ تم ٹیکس میں کمی نہ کرو۔ ہم گورنمنٹ کی ہمدردی یا ملک کی سرسبزی کے قایل نہ ہوں گے " تو بہت خوب۔ میں ان نکتہ چینوں کو انہی کے الفاظ میں جواب دیتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے غصہ کو کم کر کے آیندہ مقابلتاً زیادہ فیاضی سے کام لیں۔

مگر میرے الفاظ کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھنا چاہیئے کہ چونکہ ہم انکم ٹیکس میں چودہ لاکھ پونڈ سالانہ کم کرنیکے قابل ہو گئے ہیں۔ اسلئے ہندوستان میں بالکل افلاس نہیں رہے۔ نہیں۔ نہیں ہندوستان میں ابھی بہت کچھ غریبی کا سامنا کرنا باقی ہے آبادی کی ترقی اور وسعت اور ان کی معاش کا طریق وغیرہ یہ سب مل ملا کر اس بات کو لازم قرار دیتے ہیں کہ ملک میں افلاس قایم رہے مگر میں یہ نہیں مانتا کہ اہل ہندوستان دن بدن غریب ہو رہے ہیں بلکہ بخلاف اسکے مجھے یقین ہے کہ انکی حالت روبترقی ہے اور اگر حالات معمولی رہے تو وہ ضرور ترقی کرتے جائینگے لیکن یہ ترقی صرف

ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں انتظامی کل ہے اور وہ لوگ جو نکتہ چینی کرتے ہیں حالات کا تاریک پہلو دیکھنے کی بجائے اسپر خوشی سے غور کریں۔

ایک اور معاملہ کی طرف میں کونسل اور عام پبلک کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مالی تخفیف کو مدنظر رکھیں گذشتہ تین ماہ میں ہم نے بارہا سُنا ہے کہ دربار دہلی ایک احمقانہ اور شرر انگیز فضول خرچی تھی۔ کیونکہ ہم نے لوگوں کا روپیہ تو خرچ کر ڈالا ہے اور اسکے صلہ میں کسی مالی تخفیف کا اعلان نہیں کیا۔ شاید میرا معزز دوست مسٹر چارلو اس معاملہ میں کسی قدر غلطی پر ہو کیونکہ اُس نے بڑی فیاضی سے کہا ہے۔ کہ "گذشتہ باتوں کو بھول جانا چاہیئے"! گویا واقعی دربار دہلی میں کوئی بات ایسی تھی جو بھول جانے کے قابل ہے ہمارا خیال ہرگز یہ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں بڑی خوشی سے دربار کے موقعہ پر اس تخفیف کا اعلان کرتا۔ مگر گورنمنٹ کا دستور العمل ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ٹیکس کی تخفیف بجٹ سے منسوب کیجائے اور سال کے خاتمہ یا شروع پر اس کا اعلان کیا جائے میں نے اپنی دوبارہ سپیچ میں اشارتاً اس کا ذکر کر دیا تھا مگر ہمارے سرگرم دوست تین ماہ تک بھی انتظار نہ کر سکے اِن کے خیال کے مطابق سنہری موقعہ ہاتھ سے چلا گیا تھا مگر کیا دربار پر سے ناکامیابی کا الزام اب بھی رفع نہ ہوگا۔ جبکہ مارچ میں اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ جسے یہ لوگ جنوری میں سُننے کے لئے بے صبر تھے۔ آئندہ تاریخ میں جب کبھی دربار دہلی کا ذکر صرف اس محدود مالی حیثیت سے ہی کیا جائے گا تو یہ لوگ (جن کا میں نے ابھی

ذکر کیا ہے) دربار کو کامیاب کہیں گے۔ کیونکہ یہ رعایت تین ماہ بعد سُنائی گئی ؟ مَیں خیال نہیں کرتا کہ اس سوال کے جواب میں اب بھی کچھ شک وشبہ کی گنجائیش ہے۔

دربار دہلی

اِن الفاظ سے مجھے قدرتاً تحریک ہوتی ہے کہ میں دربار کے متعلق بھی کچھ کہوں جس میں پہلے تو مجھے دربار کے اخراجات کا ذکر کرنا چاہیئے اگر ہم دربار کی پولیٹیکل عظمت کو نظر انداز کر دیں اور اسکا مطلب صرف روپیہ آنہ اور پائی ہی لیں تو پھر بھی مَیں کہوں گا کہ مَیں نے جو کچھ گذشتہ ستمبر کی تقریر میں کہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک نکلا ہے۔ میرا ریمارک یہ تھا کہ ساڑھے چھبیس لاکھ روپیہ کا ایک جزو اعظم متفرق مدّوں سے حاصل ہو جائے گا اور یہ کہ ایسا عظیم الشان پولیٹیکل کام ہندوستان میں اس سے زیادہ کفایت شعاری کے ساتھ سرانجام نہیں دیا گیا۔ اس وقت اِن پیشین گوئیوں کی صداقت عالمگیر طور پر تسلیم نہیں کی گئی تھی مگر اب حالات نے انہیں راستی مجسّم ثابت کر دیا ہے خزانہ عامرہ سے دربار کے لیئے ساڑھے بارہ لاکھ یعنی ۸۳۰۰۰ پونڈ لیئے گئے ہیں۔ اگر ہم انہیں لوکل گورنمنٹوں کے اخراجات جو پونے چودہ لاکھ یعنے ۹۰۰۰۰ پونڈ ہوتے ہیں شامل کریں تو کل دربار کے اخراجات ۱۸۰۰۰۰ پونڈ ہوتے ہیں۔ کیا کوئی شخص میرے سامنے یہ لفظ کہنے کی جرأت کرے گا کہ برٹش ہندوستان (جسمیں دیسی ریاستیں شامل نہیں ہیں) کے تیئس کروڑ باشندوں پر یہ رقم بارِ گراں ہے۔ جبکہ اس سے قیصرِ ہندوستان کی تاجپوشی کی رسم ادا کی گئی ہے۔ برطانیہ کلاں کی آبادی چار کروڑ دس لاکھ ہے اور وہاں اسی مطلب کے لئے ایک لاکھ پونڈ منظور ہوا تھا۔ یعنے فی کس چھ پائی۔ برطانیہ نے ستر ہزار پونڈ ہندوستانی

مہمانوں کی خاطرداری پر صرف کئے ہیں ہندوستان میں تینتیس کروڑ
آبادی کے مقابلہ میں ہمارا تاجپوشی کا خرچ صرف ایک لاکھ اسّی ہزار
پونڈ ہوا ہے یا دو پائی فی کس۔ کیا ہندوستانیوں کو یہ رقم اپنے شہنشاہ
کی تاجپوشی کے لئے دینا ناگوار گذرتی ہے کیا اسقدر رقم ہندوستان
میں کبھی صرف ایک شادی یا بادشاہ کی تخت نشینی کے موقعہ پر ہی خرچ
نہیں کی گئی؟ کیوں؟ یہ رقم تو اس رعایت کا ساتواں حصہ ہے
جو ہم تخفیف ٹیکس سے رعایائے ہند کو نہ صرف ایک سال کے لئے
بلکہ سال بسال دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جنوری میں ہر ایک ہندوستانی
کو دو پائی زیادہ خرچ کرنی پڑی تھی اب وہ ہر سال اس سے آٹھ گنا
رقم اپنی جیب میں ڈال لیا کرے گا۔ یہ رعایت جب کروڑہا باشندوں
پر پھیلائی جاتی ہے تو فرداً فرداً بالکل بے حقیقت معلوم ہونے لگتی
ہے لیکن حاصل کنندگان اس کا اثر اچھی طرح محسوس کرینگے اور میں
اُمید کرتا ہوں کہ اگر ان سے مشورہ لیا جائے تو وہ جواب میں فوراً درخواست
کرینگے کہ اس قسم کا ایک دربار ہر سال ہونا چاہیئے بشرطیکہ اس کے
نتائج ایسے خوشگوار ہوا کریں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ خیر دربار اس حیثیت سے تو اچھا ہے مگر
دیکھنا چاہیئے کہ اس کا اثر والیان ریاست و روساء ملک پر کیسا پڑا؟ خیر
میں نہیں کہہ سکتا کہ ان ذی عزت لوگوں نے دربار پر کیا خرچ کیا اور نہ
کوئی اور شخص اس سوال کا قطعی جواب دے سکتا ہے گو بہت سے مبالغہ
آمیز تخمینے میری نظر سے گذرے ہیں۔ مگر یہ جانتا ہوں کہ والیان ریاست
نے جو کچھ خرچ کیا اُن کا روپیہ ملک کے اندر خرچ ہوا۔ اس روپیہ سے

غریب لوگوں کو محنت مزدوری کرنے کا موقعہ ملا - اور یہ کہ ایک والیٔ ریاست بھی ایسا نہ نکلے گا جو اپنے اخراجات کی شکایت کرتا ہو -

مگر مَیں کہتا ہوں کہ اِن خشک سوالات کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لئے اِس سوال پر غور کریں کہ خود دربار کا کیا اثر ہوا ہے - مَیں نے جنوری سے لے کر آج تک اخبارون میں دربار کی نمائش اور شان و شوکت کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ دربار کی غرض صرف برٹش راج کی شان و شوکت دکھانا تھا - افسوس ہم بعض اوقات ایک دوسرے کا مافی الضمیر سمجھنے میں کیسی غلطی کھا جاتے ہیں - میں خیال کرتا ہوں کہ کاغذوں کے کئی ریم اور سیاہی کے کئی گیلن درباری نمائش پر بحث کرنے میں صرف کئے گئے ہیں - مگر مَیں صاف کہہ دوں گا کہ ان مضامین کے پڑھنے سے مجھے ہمیشہ دلی رنج ہوا ہے کیونکہ میرا خیال اِس بارہ میں مختلف رہا ہے میں فرضی باتیں نہیں کرتا مگر مَیں اُمید کرتا ہوں کہ دربار محض ایک تصویرگاہ یا جلوس نہ تھا قوم کی تاریخ میں یہ ایک نشان تھا اور گورنمنٹ کی رسوم میں بمنزلہ ایک باب کے تھا اِسکی غرض کیا تھی؟ اِس کی غرض برٹش راج کے تمام ایشیائی والیانِ ملک کے دل پر یہ امر نقش کرنا تھا کہ اب وُہ ایک نئے اور واحد شہنشاہ کے زیرِ سایۂ زندگی بسر کرتے ہیں اور کہ وُہ اس عظیم الشان موقعہ پر شاہانہ تیقین حاصل کرلیں - دربار کا اثر کیا تھا - مذکورہ بالا والیانِ ملک کو اچھی معلوم ہوگیا - کہ وُہ اس مہربان سایۂ میں آکر ایک بن گئے ہیں اور کہ وُہ اس عظیم الشان کل کے چھوٹے چھوٹے غیر متعلق اجزاء نہیں ہیں بلکہ اُن کے مجموعہ سے ایک

مسلسل عالیشان کل پیدا ہوتی ہے بے انصافی اور بے اعتباری کے خیالات ان کے دلوں سے مِٹ گئے اور مغرب میں عرب کے شیخوں سے لیکر مشرق کے ذیشان سرداروں تک ہر ایک اپنے دل میں مشترکہ وفاداری اور خوشدلی لے گیا کیا یہ تھوڑی سی بات ہے، ؟ کیا یہ معمولی بات ہے کہ رعایا شہنشاہ کی تاجپوشی کے موقعہ پر تبادلہ خیالات کریں - ایک طرف سلامتی اور عزت کا وعدہ اور دوسری طرف سے فوری اطاعت کا اقرار ؟ کیا یہ تھوڑی سی بات ہے کہ کسی سلطنت کے باشندوں کو یہ معلوم کرنے کا موقعہ دیا جائے کہ ان کی سلطنت کیا ہے ؟ مجھے یقین ہے کہ دربار نے تمام واقعات سے بڑھ کر ہندوستانیوں کو وہ راستہ دکھا دیا جسپر وہ خدا کے فضل سے چل رہے ہیں دربار نے ہندوستانیوں کو نہ صرف ایک ہوجانے کا سبق سکھلایا بلکہ تمام اہل جہاں کے دلوں پر ہندوستان کی مادی اور اخلاقی ترقی نقش کردی - دربار کبھی بھول نہیں سکتا - ڈھولک کی آواز اب سنائی نہیں دیتی سپاہی اور بادشاہ اس جہان فانی سے چلدیے مگر اس یکتائی اور حب الوطنی کا زبردست اثر ابھی تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا - اب یہ امر کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مشرق کے تخت پر ایک ایسا شخص رونق افروز ہے جس نے ۳۰ کروڑ اہل ایشیا کے خیالات اور فوائد کو ایک زندہ چیز بنا رکھا ہے اور ان تیس کروڑ باشندوں کو فرداً فرداً اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے اجتماع میں انکی طاقت مخفی ہے - دربار کے ایک بے غرضانہ تماشائی نے کیا خوب کہا تھا " آج سے پہلے مجھے یہ راز معلوم نہ تھا - کہ مشرق کی قسمت اب بھی ہندوستان کی ہتھیلی میں ہے "

میرے خیال میں دربار نے صرف طاقت ہی کا سبق نہیں سکھلایا بلکہ فرض کا بھی - دربار میں ایک بھی سرکاری افسر یا حکمران راجہ یا دور اندیش تماشبین ایسا

نہ ہوگا۔ جس نے کبھی یہ خیال نہ کیا ہو کہ ایسے مہتم بالشان جلسہ کی شرکت ذمہ داری اور فخر دونوں سے ملی ہوئی تھی اور یہ کہ اس حفاظت یا سلامتی یا موقعہ کے عوض میں جو مجھے سلطنت سے حاصل ہے کچھ میرا بھی فرض سلطنت کیطرف ہے

صنعتی نمایش

دربار کے بعد واجب التعظیم ممبر کچھ ریمارک صنعتی نمایش کے متعلق بھی سننا پسند فرمائینگے کہ جو ملک کی دستکاری اور صنعت و حرفت کو ترقی دینے کی غرض سے قائم کی گئی تھی۔ یہ نمائش ہندوستان کی آیندہ دستکاری پر کیا اثر ڈالے گی اس کا جواب فی الحال نہیں دیا جا سکتا مگر یہ یقینی امر ہے کہ نمائش کو دیسیوں اور اجنبیوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے میں عجیب و غریب کامیابی ہوئی۔ نمائش گو بہت تھوڑی مدت تک کھلی رہی اور اس عرصہ میں ۴۰۰ ہزار اشخاص نے فیس دے کر اسکی سیر کی۔ ٹکٹوں کی فروخت سے ۳ لاکھ روپیہ آمدنی ہوئی اور کل خرچ ۴ لاکھ روپیہ تھا اسکی عمارت پہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ صرف ہوا تھا اور اسکے علاوہ نمائش پر نصف لاکھ روپیہ متفرق خرچ اٹھ گیا۔ پس ہم بڑی آسانی سے اس بات کا دعوےٰ کر سکتے ہیں کہ بالکل معمولی خرچ سے ہندوستانی صنعت کو رونق حاصل ہو گئی نمائش سے بہت سی خوبصورت چیزیں خرید کر پرائیویٹ مکانوں اور عجائب گاہوں میں رکھی جائینگی یہ چیزیں ہندوستانی صنعت کے لئے ہر ایک قسم کے اشتہار کا کام دینگی کہ جو فائدہ اس کے علاوہ ہے۔

شرکاء نمائش میں سب سے زیادہ خوش والیانِ ریاست تھے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور نظام نمائش کو دیکھ کر اور کسی راجہ مہاراجہ کی نسبت کم خوش نہیں ہوئے تھے!!

فصل نوزدہم

دربار تاجپوشی سنہ ۱۹۰۳ء اور دربار قیصری سنہ ۱۸۷۷ء پر ایک سرسری نظر

اس دربار کی عظمت و شان اور جاہ و جلال کی نسبت یہ کہنا شاید مبالغہ نہ سمجھا جائے گا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دربار بھی اس سے زیادہ شاندار عجیب اور معنی خیز نہیں ہوسکتا۔ جسکے شاملین میں ہزاروں رئیسوں ۔ سینکڑوں والیانِ ریاست اور بیسیوں اعلیٰ سے اعلیٰ حکام سلطنت اور سفیران دول خارجہ کے ہجوم کم ایک ایسا نظارہ کہنا چاہیئے کہ انسانی آنکھوں کو تو کیا چشمِ فلک کو بھی اپنی اتنی لمبی عمر میں صرف چندہی بار دیکھنا نصیب ہوا ہوگا۔ سنہ ۱۸۷۷ء میں ملکہ معظمہ متوفیہ کے خطاب "قیصرہ ہند" کی قبولیت کے اظہارِ مسرت میں جو دربار ہوا تھا اگرچہ اعلیٰ پیمانے اور شاہی ٹھاٹھ کیساتھ پہلے درجہ کی شانِ دربا یانہ سے لئے ہوئے تھا اور دور دور ملکوں میں لوگ اُسکی کیفیت سُنکر دنگ رہ گئے تھے لیکن اس دربار کو اُس سے بدرجہا زیادہ شہرت و وقعت کا حق حاصل ہے کیونکہ اول تو یہ تقریب ہی ایسی بڑی تھی کہ جسکو اُسکے ساتھ کوئی نسبت نہ ہوسکتی تھی اور دوسرے یہ کہ اُس دربار میں صرف حکومتِ قیصری کے رُعب و داب کا پتہ چلتا تھا لیکن اس دربار میں سلطنتِ انگریزی کے استحکام و اثر کا مشاہدہ سب کو برای العین نظر آجاتا تھا۔ اس کے سوا ہز ایکسلینسی لارڈ کرزن بہادر وائسرائے و گورنر جنرل کشور ہند کی جدت پسند طبیعت اور

مستعد ہمت نے بالخصوص اِس دربار کو اَور بھی عظیم الشان بنا رکھا تھا کیونکہ ایک تو اُنکی ذاتی محبت و برتاؤ کے موافق جتنے والیانِ ریاست اور رؤسائے ملک اِس میں شامل ہوئے وُہ نہ صرف ضابطہ کے طور پر ہی آئے تھے بلکہ جس طرح اپنے قومی جشنوں کی تیاریاں دلی چاؤ سے ہونے کا دستور ہے۔ بالکل اُسی محبت و خلوص سے اُنہوں نے اِس جشن کی بھی شرکت کی تھی اور ہر چند کہ لارڈ کرزن بہادر کی قدامت پسندی اور ایشیائی طریق کی برقراری کے لحاظ سے شرکائے دربار عموماً اپنے ہندوستانی قومی لباسوں میں ملبوس نظر آتے تھے اور اُن کے ڈیرے خیمے اور ساز و سامان بھی قدیم طرزوں کو یاد دلاتے تھے لیکن پھر بھی ہر چیز سے خود بخود انگریزی اثر ظاہر ہو رہا تھا اور غالباً اگر گورنمنٹ اِس موقع پر شاملینِ دربار کے لیئے انگریزی پوشاک کو لازمی قرار دیدیتی تو بہت کم حلقوں میں اِس پر کچھ سوچنے کی تکلیف کیجاتی - حالانکہ ۱۸۵۷ء میں اگر کوئی ایسا حکم دیا جاتا تو اُس کی منسوخی کے لئے کوئی کوشش اُٹھا نہ رکھی جاتی - یہ سب کچھ اُس انگریزی انگریزی اثر کا نتیجہ ہے جو اُسنے بالعموم ہندوستانی رؤساء و عوام کے طریقوں پر اپنا سکہ بٹھانے سے حاصل کر لیا ہے وہی ہندوستانی جو پہلے گورنمنٹ کے حکام و احکام کی اجنبیت کے باعث ہر بات پر جھجکتے اور دبکتے تھے یا ریل و تار کے کارخانوں کو عجوبہ سمجھکر حیران ہوتے تھے - اَب برقی روشنی اور خود بخود چلنے والے پنکھوں اور موٹر کار گاڑیوں تک کو بھی سمجھی بوجھی اور دیکھی دکھائی چیزیں سمجھ کر کچھ تعجب نہیں کرتے - کیونکہ گورنمنٹ کے خیالات اور انگریزی قوم کے ایجادات لوگوں کی طبیعتوں سے بالکل مانوس ہو گئے ہیں - ریل اور تار کی ترقی نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہندوستان

کے نرخوں وغیرہ کو یکساں کردیا ہے اور رسل و رسائل کی آسانی سے تجارتی اور تمدنی آسانیاں اس قدر پیدا کردی ہیں جو پہلے کبھی ہندوستانیوں کے ذہن میں بھی نہ گذرتی تھیں۔ ۱۸۸۰ء میں صرف دس ہزار میل ریلوے ہندوستان میں جاری تھی۔ لیکن اب تیس ہزار میل میں موجود ہے اور سال بسال اس قدر ترقی کرتی جاتی ہے کہ عنقریب کوئی مشہور قصبہ و قریہ اُس سے خالی نہ رہ جائے گا۔ ۱۸۸۰ء میں تعلیم کی حالت نہایت ابتدائی مدارج تک تھی۔ لیکن اب ہندوستان کے پانچ صوبے (پنجاب۔ بنگال مدراس۔ بمبئی۔ الہ آباد) اپنی اپنی الگ یونیورسٹیاں رکھتے ہیں۔ جن سے سال بسال سینکڑوں گریجوایٹ اور انڈر گریجوایٹ پاس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۰ء تک والیان ریاست کی تعلیم کے لئے کوئی جداگانہ انتظام نہ تھا۔ مگر اب اُن کے واسطے بھی پانچ علیحدہ علیحدہ کالج موجود ہیں۔ جن میں شاہی بچے تعلیم پاتے اور سن بلوغ کو پہنچنے پر اپنے کاروبار کو انگریزی طریق پر جا چلاتے ہیں۔ ۱۸۸۰ء تک کوئی ایسا پرائیویٹ کالج ہندوستان میں موجود نہ تھا۔ جو گورنمنٹ کی مجوزہ سکیم کے موافق خود بخود دیسی طلباء کو تیار کرے۔ مگر اب ہندوستان میں بیسوں ایسے کالج موجود ہیں اور اسی پر مدارس ابتدائی کی حالت کو سمجھ لینا چاہیئے غرضکہ گورنمنٹ کے دستور اور طور و طریق کو ہندوستانیوں نے اس قدر سمجھ لیا ہے اور اس قدر اُس سے تعلق کرلیا ہے کہ اس کی شادی غمی کے واقعات کو اب وہ اپنی ذاتی شادی غمی کی تقاریب سے کم نہیں سمجھتے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو بہت ہی کم بادشاہوں کو میسّر ہوتی ہے۔ روس اور فرانس کی سلطنتیں اس وقت شخصی اور جمہوری

حکومتوں کی غالباً سب سے بڑھی ہوئی مثالیں ہیں۔ مگر دونوں کے
حاکم برابر ہر وقت معرضِ خطر میں رہا کرتے ہیں۔ اور ان کی تاجپوشی
سے لے کر یومِ وفات تک کی کوئی تقریب سازشیوں کے احتمال
سے خالی نہیں جاتی۔ مگر بفضلِ الٰہی ہندوستان میں وُہ بات
نہیں بلکہ یُوں کہنا چاہیئے کہ تمام مقبوضاتِ انگلشیہ میں برٹش
گورنمنٹ کی حکومت کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے خود ان کی اپنی
گورنمنٹ ہے اور یہ ایک ایسی بڑی بھاری کامیابی
ہے۔ جو بہت ہی کم خوش نصیب فرمانرواؤں کے
حصّہ میں آئی ہوگی۔ پس اس لحاظ سے کہ
اس دربار کی خوشی منانے والے نہ صرف گورنمنٹ
انگریزی کے ہمقوم اور متعلقین ہی تھے بلکہ
اسکی خوشی میں پُوری ہندوستان کی
تین کروڑ رعایا شامل تھی جس نے
جابجا اپنے اپنے اضلاع میں اظہارِ
مسرت میں کوئی دقیقہ اُٹھا
نہیں رکھا۔ اس دربار
کو دُنیا کا ایک نہایت
مبارک اور قابلِ یادگار
واقعہ کہنا
چاہیئے

*

فصل بستم

دربار ہائے تاجپوشی انگلستان و ہندوستان
سرسری نظر

جسقدر حالات دونوں درباروں کے اپنے اپنے موقع پر درج ہو چکے ہیں اور جو نوٹ وقتاً فوقتاً انکی نسبت دیئے جاتے رہے ہیں۔ اگرچہ اُن کے بعد اب کسی جداگانہ مضمون کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی چونکہ دونوں دربار الگ الگ منعقد ہوئے اور دونوں کا انتظام جداگانہ ہوا اسلیئے مناسب ہے کہ ایک اجمالی نظر دونوں کی حالت پر ڈالی جائے۔

دربار انگلستان کے حالات جسقدر دیکھے جاتے ہیں اُن سے پتہ لگتا ہے کہ وُہ ایک مذہبی رسم کی ادائگی تھی جس کا ادا کرنا شہنشاہ کو ضروریات تھا چنانچہ اِس تقریب کا ویسٹ منسٹر ایبی میں ادا ہونا خود اِس امر کا شاہد ناطق ہے جلوس اور مہمانداری و روشنی وغیرہ بھی اگرچہ نہایت اعلےٰ سے اعلےٰ اہتمام کے ساتھ ہوتی رہی ہیں۔ لیکن باایں ہمہ اسکی رنگت ایک قومی جشن کی معلوم ہوتی تھی۔ سلطنتی دربار کی کوئی خاص شان اسمیں سوائے اسکے نہ تھی۔ کہ اسکے شاملین میں سفرائے دول غیر ہندی مہمانان اور نوآبادیوں کے قایٔمقام بھی شریک تھے۔ یا یہ کہ ایک لاکھ پونڈ یا پندرہ لاکھ روپیہ اسکا خرچ خزانہ گورنمنٹ سے ادا ہوا تھا اور ایک لاکھ پونڈ تاج کی قیمت کے لئے دیا گیا تھا۔ یہی باتیں ہیں کہ جنہوں نے اسے قومی کے ساتھ سلطنتی جشن بھی کر دیا تھا۔ اسکے سوا دربار انگلستان کی

شان و شوکت کی اصلی وجہ یہ تھی کہ اُسمیں خود شہنشاہ معظم نے بنفس نفیس تمام رسُوم کو ادا فرمایا تھا - اور چونکہ انگلستان کی رعایا کو اپنے ایک ہم مذہب اور ہمقوم بادشاہ کی تخت نشینی پر فطرتی محبت بھی ہونی لازمی تھی - اسلئے اُسنے جو کچھ بھی اس موقع پر کیا - وہ ضروری بلکہ لابدی تھا - لیکن اسکی رونق و شانداری کی زیادتی کو ہندی مہمانوں اور قائمقامانِ نوآبادی کا کیساتھ جسقدر تعلق ہے غالباً کبھی فراموش نہیں ہو سکتا کیونکہ انہیں لوگوں کے لئے مختلف جلسوں اور پارٹیوں کا انعقاد ہوتا تھا اور انہیں کی نمائش یا دلدہی کیلئے سرکاری اور غیر سرکاری دعوتیں مع تقریروں کے ہوا کرتی تھیں قوم کیطرف سے جو گرانقدر رقم شہنشاہِ معظم کی نذر کی گئی تھی - وہ سترہ لاکھ کا چک تھا جسکو شہنشاہِ معظم نے ہسپتالوں کی بہتری میں صرف فرمادیا - اور قوم کو بطور یادگار قصر آسبورن عطا فرمایا - جو مالیت میں اس پیشکش سے بدرجہا زیادہ ہے - اسکے علاوہ اُس جشن کی دلچسپی اور دلاویزی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ شہنشاہِ معظم ایک سخت امتحانِ بیماری کے بعد اس رسم کی ادائگی کے قابل ہوئے تھے جنکی بیماری کا بوجہ انکی ہر دلعزیزی کے ہر شخص کو جس طرح دلی رنج تھا - اسی طرح شفایابی پر خوشی بھی از حد ہوئی تھی اور یہ ایسی باتیں تھیں جنہوں نے اس تقریب کے شاندار بنانے میں بڑی مدد دے رکھی تھی اظہارِ اطاعت کی رسُوم میں انگلستان کے بڑے بڑے لوگ شامل تھے لیکن انگلستانی امرا و روسا میں قریباً سبھی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ صرف جاگیرات کے مالک ہیں اور انتظامِ دیوانی و فوجداری میں بالکل کالعدم ہو چکے ہیں جو لوگ شریک دربار تھے وہ بھی لنڈن کے ہی آس پاس کے رہنے والے تھے اور سفرائے دول غیر میں سے بھی جو بعض لوگ موجود تھے انکی موجودگی باعتبار تعلقاتِ سلاطین کے رسمی بات تھی - دُور دراز ملکوں سے جسقدر مہمان بلائے گئے تھے انکا خرچہ

خود گورنمنٹ نے دیا تھا - اسکے سوا ایک بڑی بات یہ تھی کہ غربا کی دعوت کا انتظام
اس پیمانہ پر کیا گیا تھا کہ غالباً انگلستان میں تو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا - ان
حالات سے دربار انگلستان کا رعایا کے لیے خوش آیند ہو جانا من قبیل ضروریات سمجھنا چاہیے
ہندوستان کے دربار کو دیکھا جائے - تو اول اسکے شاملین کی تعداد تقریباً شاملین دربار
انگلستان سے دوگنی نظر آئیگی اور علیٰ ہذا خرچ بھی دوگنا ہی دکھائی دے گا -
لیکن اسکے شرکا کون لوگ تھے ؟ یہ وہ لوگ تھے - جو سمندر پار رہنے والے شہنشاہ کی رعایا
کہلاتے ہیں - اور جنکو کوئی مذہبی یا قومی تعلق شہنشاہ سے نہیں ہے بلکہ صرف ایک سلطنتی
تعلق ہے - علاوہ اسکے اظہار اطاعت کرنیوالے صاحبان اُن مذاہب کے تھے جو بالکل ضد ہمدگر
ہیں - ہندو مسلمان - سکھ - پارسی - پنجابی - بنگالی - مرہٹے - دکھنی - میواڑی - مارواڑی
سرحدی - بلوچی - سردار سب موجود تھے اور اسکے سوا ایک ایسے والیان ملک شریک دربار تھے
جو مثل گورنمنٹ کے اپنے علاقہ میں اختیارات سلطنت رکھتے ہیں نیز بعض ایسے رئیس بھی
تھے - جنکے ساتھ کسی زمانہ میں گورنمنٹ مساوی برتاؤ کرتی رہی ہے - جیسے کہ ہز ہائینس
حضور نظام یا ہز ہائینس مہاراجہ گائیکواڑ وغیرہ - اسکے علاوہ ان صاحبوں نے جس خلوص
کے ساتھ بیشمار روپیہ اس دربار کے لحاظ صرف کر دیا تھا - شائد اسکا مقابلہ انگلستانی
امراء میں سے کسی نے بھی نہیں کیا بعض بعض سفرائے دول غیر جس طرح خاص انگلستان
میں گئے تھے ویسے ہی دربار ہندوستان میں بھی موجود تھے - اور معمولی جاگیردار تو اس کثرت سے
شامل تھے کہ مہمانوں میں سے سوائے ایڈیٹران اخبارات اور بہادران غدر کے کوئی شخص
ایسا نہ ہوگا - جو جاگیردار نہ ہو - آتشبازی - جلوس - فوجی علیمہ - وغیرہ وغیرہ جتنی بھی
تقریبات تھیں - غالباً انگلستان کے دربار سے زیادہ نہیں تو کم پیمانہ پر بھی نہ ہوئی
تھیں اور اسپر نمائش صنعت و حرفت کا افتتاح اور بھی پر لطف تھا - یہ سب باتیں ایسی
تھیں جن سے یہ جشن سلطنتی جشن کہلاتا ہے - لیکن قیاس غالب ہے کہ جو لوگ دربار انگلستان

بیں شریک تھے یا جو سفرائے دوَلِ غیر اس موقع پر موجود تھے اُنہوں نے باعتبار باشندوں کی پُرمسرت شمولیت کے اور باعتبار مختلف مذاہب کے خود مختار حکمرانوں کے دلی اظہار اطاعت کے اسکو قومی جشن سے کسیطرح کم محسوس نہ کیا ہوگا جو گورنمنٹ کی ہر دلعزیزی کا ایک بہترین ثبوت ہے جو لوگ اس دربار کے انعقاد پر اعتراض کرتے تھے انہیں ضرور دیکھنا چاہئیے کہ باوجود اسقدر متواتر قحط سالی کے جسکا ہندوستان کو مقابلہ کرنا پڑتا رہا ہے۔ کروڑوں روپے کا خرچ جو والیانِ ریاست اور عام رعایا نے بطیب خاطر اس موقع پر کیا ہے۔ کیا وہ بھی اس دربار کی ہر دلعزیزی کا ثبوت نہ مانا جائے گا۔ اور جب دلی تیاک سے یہاں کے رئیسوں امیروں نے اسکی شرکت کی کوششیں کی تھیں۔ کیا وہ بھی اس دربار کو مدِ فضول ثابت کراتی ہیں۔

ناظرین دونوں درباروں کی کیفیت پر غور کرینگے تو اُن کو صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کا دربار۔ انگلستان کے دربار سے بہت بڑھا ہُوا تھا۔ اور باعتبار پولیٹیکل شانداری کے تو انگلستان سے بدرجہا اس کا رتبہ بالاتر نظر آتا ہے۔ کیونکہ یہ دربار مشرقی و مغربی مراسم کا ایک مجموعہ ہوگیا تھا۔ اور باعتبار ہندوستان کی وسعت و ضخامت کے بھی اسکو وہی رتبہ حاصل تھا۔ جو ایک دربار شہنشاہی کو حاصل ہونا چاہیئے۔ اس سے گورنمنٹ کی ہر دلعزیزی اور رعایا کی اطاعت و فرمانبرداری اور سلطنت کے امور میں دلچسپی اور والیان ریاست کی صداقت شعاری کا نظارہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ انگریزی طرز معاشرت کا ہندوستان کی طرزِ معاشرت و تمدن پر گہرا سایہ ڈال لینے کا بھی بخوبی موازنہ ہو جاتا تھا

باب سوم

مشاہیر دربار

قبل اسکے کہ اس باب میں چند ممتاز اور نامور والیان ریاست اور مشہور امرا کی تصاویر مع ان کے مختصر مناصب و مناقب کے بیان کرنا ناظرین کتاب کی خدمت میں پیش کیجائیں - اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے - کہ ہندوستان میں تقلید اور چوری کا مواد اسقدر موجود ہے کہ غالباً کوئی جگہ اس سے خالی نہیں - باکم ازکم یہ کہ یہہ ملک ایجاد و اختراع اور دیانت داری کا بہت ہی کم قدردان ہے جسمیں امیر سے غریب تک چیز کا سستا ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں - حالانکہ انگریز باوصف کفایت شعاری کے بھی سستی اشیائ کو بہت کم چاہتے ہیں - اور ایک ہندوستانی مثل بھی مشہور ہے کہ "مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار" انگریزوں پر اکثر شکایت کی جاتی ہے کہ یہ ولایتی اشیاء زیادہ منگاتے ہیں اور دیسی ساخت کی چیزیں بہت کم استعمال کرتے ہیں - لیکن حق الامر یہ ہے کہ دیسیوں میں چیز کے سستا کرنے کے لئے اس کی اسقدر مٹی پلید کردیجاتی ہے جسے اسکی حیثیت ہی بگڑ جاتی ہے - ہنکس کی کچھ روپے والی لالٹین کے مقابل دلی والوں نے ڈیڑھ روپے کی لالٹین بنا کے بظاہر ڈھانچ تو ویسے کا ویسا کھڑا کردیا - مگر ویسی صفائی ویسی چمک اور ویسی روشنی کس طرح دے سکتے تھے - اس لئے یوروپین مذاق

میں فیل ہو گئے۔ یہی حال ہندوستان کے ہر اہل پیشہ کا نظر آتا ہے۔ جو ہرگز چیز کی عمدگی کا خیال نہیں کرتے۔ بلکہ اُسکے سستا کرنے پر اور اُسکی ترکیب چُرانے پر اسقدر مرمٹتے ہیں کہ خریدا کے پلّے کچھ نہیں پڑتا۔ پنجاب میں پہلے روئی صاف کرنے کی ایک مشین تھی جو واقعی اِسکی ضرورت سے کم تھی۔ مگر لوگوں نے اسمیں فائدہ جو دیکھا تو اِسقدر مشینیں بن گئیں کہ اَب اِن کا خرچ چلانے کے لئے مالکوں کو بے نفع بھی چلانے کی ضرورت پڑتی ہے کتب فروشوں اور چھاپے خانے والوں کی یہ حالت ہے۔ کہ وُہ اشتہارات میں بڑے بڑے لمبے چوڑے تعریفی الفاظ اپنی کتابوں کے لئے لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ نہ تو باعتبار اصل معنوں کے اور نہ باعتبار کسی اہتمام ظاہری کے وُہ کسی قابل ہوتی ہیں اور بجائے اِسکے کہ ملک میں ایک جماعت تحقیق کے ساتھ لکھنے والوں کی پیدا ہو جائے۔ مضمون چوروں اور نقالوں کی ترقی ہو رہی ہے۔ جو نہایت بُری طرح اچھے مصنفوں کی کتابوں کا ستیاناس کرکے صرف اشتہاری برکت سے ٹکے سیدھے کر لیتے ہیں کیونکہ بالعموم آجکل کے اہل مطابع اس ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ جس کسی نئی کتاب کی شہرت و مقبولیت ہوئی اُنھوں نے جھٹ اِسکے مضامین کو بتغیر الفاظ نہایت معمولی لکھوا کر گندہ کاغذ پر چھپوا دیا اور چاہے صدہا غلطیاں ہی نہیں عبارتیں بھی بے جوڑ ہوں۔ تضادیں ہوں بھی تو بازاری ٹکے سیر والی مگر اُنھوں نے اشتہار دید یا کہ ہماری کتاب میں اتنی تصاویر اور یہ حالات درج ہیں۔ لوگوں کو کیا

معلوم اُنہوں نے جس چیز کو سستا پایا طلب کرنا شروع کیا۔ غرضیکہ صرف اپنی فائدہ رسانی کے لئے ملک میں بُری کتابوں اور ناقص تصاویر کے پھیلانے میں کوئی عار نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ جب اس کتاب کی اشاعت کی تجویز کی گئی۔ تو چند لوگوں کو مرض نقالی نے بھی بدستور ستانا شروع کیا۔ اور اُنہوں نے بھی تصاویر چھاپنے کا اعلان کر دیا۔ مگر کیسی تصاویر کہ گو صاحب تصویر سے ملیں یا نہ ملیں مگر کتاب باتصویر کا نام تو ہو جائے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اس کتاب کو ضخیم المقدر جامع بنا دیا جاتا۔ مگر انہیں وجوہات سے اس کے نکالنے میں جلدی کرنی پڑی۔ کیونکہ دیر میں نقصان کا احتمال تھا۔ علاوہ ازیں والیان ریاست و امرائے ہند کی معزز جماعت ایسے معاملات کی طرف سے کچھ ایسی بے پرواہ واقع ہوئی ہے کہ وُہ ایسی کتابوں کی تکمیل میں امداد دینا کچھ ضروری نہیں سمجھتی۔ ہرچند مصنف کی طرف سے اِن صاحبوں کی خدمت میں عریضے لکھے گئے تھے مگر کسی ایک نے تو جواب تک نہ دیا۔ کئی صاحبوں نے حالات بھیج دیئے اور تصاویر نہ بھیجیں کئی صاحبان نے تصاویر عنایت فرمائیں مگر حالات ندارد۔ لہذا مصنف کو سوائے اسکے چارہ نہ تھا۔ کہ وُہ جن صاحبان کی تصاویر اسکے پاس پہنچ گئی تھیں۔ اُن کو درج کر کے تکمیل کتاب کے لئے والیانِ ریاست کے ضروری حالات اپنے ذاتی جدوجہد اور سرکاری رپورٹوں سے تلاش کر کے اس حصہ کو مکمل کر دیتا۔ چنانچہ بفضلِ الٰہی اس میں اسقدر کامیابی ہوگئی ہے کہ باستثنائے چند کے تمام والیانِ ریاست کے

ضروری حالات لکھ دئیے گئے ہیں۔ جن کے بعد شائد دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ غالباً ہندوستان بھر میں اس قسم کی کتاب ان داموں اس اہتمام کے ساتھ طیار نہ ہوگی۔ اس میں جتنی تصاویر لی گئیں ہیں ان سب کو عکسی طریق پر میسرز بسنت رام اینڈ سنز فوٹو گرافر اور انگریور لاہور نے طیار کیا ہے۔ جنہیں پنجاب گورنمنٹ نے اپنا انگریور مقرر کرنے کے علاوہ انعامی امداد سے بھی اعزاز دیا ہے۔ ایسا ہی چھپائی چونکہ تمام لاہور کے پریسوں میں اچھی نہ ہو سکتی تھی اسلئے الہ آباد و مدراس و کلکتہ کے کارخانوں میں اسکی تصاویر چھپوائی گئی ہیں اور وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ جس کاغذ پر تصاویر چھپی ہیں وہ بھی ولایت سے منگایا گیا ہے۔ عمارات وغیرہ کی ایسی تصاویر جو بہ نسبت فوٹو کے دستی اچھی بن سکتی تھیں۔ وہ بھی لاہور کے مشہور آرٹسٹ ماسٹر میراں بخش صاحب ڈرائینگ ماسٹر ریلوے ٹیکنیکل سکول لاہور نے طیار کی ہیں۔ جو اپنے فن میں اسوقت لاہور کا مایۂ ناز ہیں۔ اور غالباً اتنے بڑے اہتمام کی عام نقالوں سے کوئی امید نہیں ہو سکتی۔

یہ جو کچھ لکھا گیا ہے۔ بالکل امر واقعہ ہے۔ اس سے مصنف کا یہ مقصد نہیں کہ ایک کتاب کو اگر ایک شخص لکھے تو دوسرے ہرگز اسپر قلم ہی نہ اٹھائیں۔ نہیں ہ دوسروں کو اگر کچھ زیادہ معلومات بہم پہنچی ہوں یا اس سے بہتر لکھ سکتے ہوں تو ضرور لکھیں مگر اپنے فائدے کے لئے ان مصنفوں کو جو کسی خیال کے پیدا کرنے اور اسکو قلمبند کر کے شائع کرنے میں پہلے پہل دقت اور روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔

نقصان پہنچانا ہرگز۔ اُن لوگوں کو شایاں نہیں جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں۔ انگریزوں نے جو ہر ایک بات میں آج اعلےٰ ترقیات حاصل کرلی ہیں اور کرتے جاتے ہیں۔ اُن کا اصُول یہ ہے کہ وُہ کسی ہم پیشہ کو نقصان نہیں پہنچاتے اور جس کام کو شروع کرتے ہیں پہلے اسکی ضرورت کو دیکھہ لیتے ہیں۔ اندھا وہند سبقت لے جانے کے پیچھے نہیں پڑتے۔ پس ہندوستان کے کم سے کم وُہ افراد جو انگریزی تقلید میں اپنے کارخانوں کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ بلکہ انگریزوں کی تقلید میں مذہب کو بھی انگریزی سانچے میں ہی ڈھالنا چاہتے ہیں کہ پردہ مستورات تک اُٹھہ جائے۔ اُنہیں ایسے ضروری معاملات میں بھی انگریزوں کی تقلید کرنی چاہیئے۔ نہ یہ کہ ہاتھی کے دانتوں کی طرح دکھانے کے اَور اور کھانے کے اَور۔ اِن صاحبوں کو سینکڑوں میدان ایجاد و اختراع کے موجود ہیں۔ نقالی پر ہی تو ملکی ترقی کا انحصار نہیں آ رہا۔ بات سے بات یاد آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے صدائے ہند پریس لاہور نے کرسمس کارڈوں کی طرح عید الفطر اور عید الضحےٰ کی تقاریب پر اسلامی طرز کے نو ایجاد عید کارڈوں کا رواج دیا۔ چونکہ بات بالکل نئی تھی۔ سینکڑوں روپے اشتہارات پر خرچ ہو گئے جو کارڈوں کی اصلی لاگت سے بھی بہت زیادہ تھے۔ لیکن جب رواج ہونے لگا تو چند اور صاحبوں نے بھی چھاپنے شروع کر دیئے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کارخانوں کی سدِّ راہ ہو جاتی ہیں۔ ناولوں کی طرف دیکھئے کہ کسی نام کا کوئی ناول مقبول ہوا۔ تو جھٹ اُسی نام کا ایک بے حقیقت سا ناول دوسرے

کی طرف سے شائع ہوگیا۔ غرضکہ ایسی حالت میں ملک سے اچھی کتابوں اور اعلےٰ اہتمام کی توقع اُٹھ جاتی ہے۔ مگر با ایں ہمہ کتاب کو اس قسم کا جامہ پہنانے میں دریغ نہیں کیا گیا۔ کہ جس سے وہ علمدوست رؤساء و امرا کی الماریوں میں جگہ پاسکے اور بادشاہی حضور میں حاضر ہوسکے۔ چونکہ ایسی تصاویر اس سے پہلے اردو کتابوں میں بہت ہی کم لگائی گئی ہیں اسلئے ان کے بنوانے اور چھپوانے کے اہتمام سے ناظرین بالکل ناآشنا ہیں۔ البتہ تمدن عرب یا خیابانِ فارس کے مترجم صاحبان اِن دِقتوں کا بخوبی اندازہ کرسکتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات کے تصفیہ کے لئے کسقدر وقفہ اس کام میں پڑ جاتا ہے اور خط و کتابت میں کتنا وقت ڈاک کی نظر ہوجاتا ہے۔ اسکے سوا بڑی بات یہ ہے کہ اس عکسی طریقہ میں بھی وہی تصاویر اچھی اسکتی ہیں جنکے فوٹو اعلےٰ درجہ کے لئے گئے ہوں۔ معمولی فوٹو گرافروں کی بنائی ہوئی یا پُرانی تصاویر کے عکس اچھے نہیں آتے اور رؤساء کو چونکہ ابھی تک اس تصریح کیساتھ اس فن سے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ اسلئے وہ اس بات کی چنداں پرواہ نہیں کرتے۔ کہ اعلےٰ تصاویر مؤلف کو بہم پہنچائی جائیں پس جیسی تصویر ملی ویسا ہی اسکا بلاک بنگیا۔ ماسوا اسکے فوٹو کیطرح اس کام میں بھی ابر اور ہوا سخت مارج ہوتے ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ فروری کے اخیر سے اخیر اپریل تک عموماً موسم ایسا ہی رہا ہے۔ کہ کبھی تو ابر ہے کبھی تیز ہوا۔ اور کبھی تڑاقے کی دہوپ۔ مگر بہرکیف امید کیجاتی ہے کہ علمدوست اہل ملک موجودہ صورت میں بھی کتاب ہذا کی قدر افزائی سے دریغ نہ فرمائیں گے۔ اگر اس کے سکنیڈ اڈیشن کی نوبت پہنچی تو امید ہے کہ تصاویر اس سے زیادہ بھی ہوں گی اور اعلےٰ بھی۔



هزایکسیلنسی لارڈ جارج نیتهانیل بیرن کرزن صاحب
بهادر بجمیع القابهم ویسرای گورنر جنرل
کشور هند

فصل اوّل

حُکّام و عمائدین انگریزی

(جو سنٹرل کیمپ میں تشریف فرما تھے)

عالیجناب معلّے القاب (الف) ہز اکسیلینسی دی رائٹ اونریبل لارڈ جارج نتھینیل بیرن کرزن اوف کیڈلسٹن صاحب بہادر جی۔ ایم۔ ایس۔ آئی جی ایم۔ آئی۔ ای وائسرائے و گورنر جنرل کشور ہند

ہز ایکسیلینسی لارڈ کرزن بہادر بالقابہ جو بحیثیت نائب شہنشاہ ہندوستان ہونے کے اِس عدیم المثال دربار کی صدارت کے لئے منتخب ہوئے تھے۔ اِن کا وجود قدرت کی مہربانیوں اور انسانی کوششوں کی کامیابی کا ایک ایسا دلچسپ نمونہ ہے کہ غالباً بہت کم لوگ تاریخ میں اس قابلیت کے ملینگے۔ چنانچہ روایت ہے کہ اپنے ایام طالبعلمی میں آپ فخریہ فرمایا کرتے تھے۔ آئی۔ ایم کرزن۔ سپیریر پرسن یعنے میرا نام کرزن ہے اور میں ایک اعلےٰ درجہ کا انسان ہوں جسکو قدرت نے ثابت بھی کرکے دکھا دیا۔

لارڈ ممدوح کی نسبت اکثر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ وائسرائے ہند ہونے سے پہلے آپ صرف مسٹر کرزن تھے۔ اور آپ کا خاندان گو بہت قدیم اور باثروت خاندان رہا ہے۔ مگر پولیٹیکل لائف میں آپ ہی نے ایسا نمایاں حصہ لیا ہے کہ فخرِ خاندان ہو گئے ہیں۔ خاندان کرزن کی حکومت ایک ہزار سال سے ڈربی شائر چلی آتی ہے

جو ہمیشہ اپنے کاروبار میں عزت کے ساتھ مصروف رہتا تھا اور آخرالامر گذشتہ سے پیوستہ صدی کے ابتداء میں گورنمنٹ سے اسکو بیرن سکارسڈیل کا اعزاز بھی دیا گیا تھا۔ جس کے بعد بیرن سکارسڈیل نے ایک خوشنما قصر کیڈلسٹن ہال کے نام سے تعمیر کرایا جو اپنی وضع کے اعتبار سے بہت ہی قابل تعریف ثابت ہوا۔ چنانچہ اس مکان کی نسبت یہ ایک عجیب مزیدار روایت ہے۔ کہ اسمیں ایکدفعہ لارڈ ولسلی صاحب بھی مہمان ہوئے تھے۔ جنہوں نے اسکی طرز عمارت کو نہایت ہی پسند کیا۔ حتیٰ کہ جب وُہ کچھ زمانہ بعد ہندوستان کی گورنر جنرلی پر ممتاز ہوئے تو انہوں نے کلکتہ میں ایک ویسا ہی قصرِ عالیشان گورنر جنرل کی رہائش کے لئے بنانے کا حکم دیا۔ جسمیں ایک عرصہ کے بعد اب لارڈ کرزن بہادر بحیثیت وائسرائے و گورنر جنرل ہند اقامت فرما ہیں۔

لارڈ کرزن بہادر ۱۸۵۹ء کی پیدائش ہیں۔ ابتداء میں تو آپ نے عام سکولوں میں تعلیم پائی تھی۔ مگر پھر ایٹن کالج اور آکسفورڈ میں بھی اعلےٰ تعلیم پاتے رہے۔ لیکن جہاں کہیں رہے بسبب اپنی محنت اور لیاقت اور بالخصوص نیک چالچلن کے ہونہار طالب علم کا خطاب حاصل کرتے رہے۔ آخرش ۱۸۸۲ء میں آپ نے بی۔ اے اور ۱۸۸۴ء میں ایم اے کی ڈگری پائی۔ تقریر و تحریر دونوں میں آپ کو ابتداء سے ایک خاص لگاؤ رہا ہے۔ چنانچہ آکسفورڈ میں وُہ اپنی فصیح و بلیغ تقریروں کے لئے اسقدر مشہور

تھے۔ کہ آخر کواسکی پریزیڈنٹی پر بٹھائے گئے۔ اور پھر فیلوشپ اوف آل سولس پر بھی مقرر فرمائے گئے۔ جو خاص اعلے درجہ کے مضمون نگاروں اور سپیکروں کے لئے ہی مختص ہے ۱۸۸۹ء میں آپ ڈربی شائر کے ڈپٹی مجسٹریٹ اور ڈپٹی لفٹنٹ کئے گئے۔ اور کچھ عرصہ آپ ہیڈ فیلڈ کے کارخانہ آہن سازی کے مہتمم اعلے بھی رہے ہیں۔

اخبارات ورسالجات کی مضمون نگاری سے آپ کو ہمیشہ دلی تعلق رہا ہے۔ اور اس اعتبار سے آپ ایک پیشہ ورنامہ نگار تسلیم کئے گئے ہیں۔ تالیف وتصنیف کا بھی آپ کو بخوبی شوق ہے گو آپ کی تصنیفات عموماً پولیٹیکل ہوتی رہی ہیں۔ جنمیں سے آپ کی ایک نادر تصنیف کا منشی ظفر علی خاں صاحب بی۔ اے مترجم ہوم ڈیپارٹمنٹ سلطنت آصفیہ نے خیابانِ فارس کے نام سے اس لیاقت سے اردو ترجمہ بھی چھپوا دیا ہے۔ کہ لارڈ ممدوح نے خود بھی نہایت ہی پسند فرمایا ہے علاوہ بریں آپکی تقریریں بھی ایک علیحدہ کتاب کی صورت میں چھپ گئی ہیں۔ جن میں عوام و خاص کے لئے بہت بڑا قابل دید مواد موجود ہے۔ سیر و سیاحت بھی آپ نے اس قدر فرمائی ہے۔ جو ایک باخبر حاکم کے لئے ضروری سے بھی زیادہ ہے۔ روس۔ یونان کناڈا۔ صوبجات متحدہ امریکہ۔ چین۔ کوریا۔ جاپان۔ ایران وسط ایشیا۔ بخارا۔ سمرقند۔ کابل وغیرہ کی سیر آپ نے اس تحقیق کی نظر سے کی ہے۔ کہ بہت کم لوگوں نے کی ہوگی۔ یعنے وہاں

کی اقوام اور حکمرانوں کے طریق ماند و بود اور ان کے پولیٹیکل حالات کا آپ نے نہایت ہی گہری نظروں سے مطالعہ فرمایا ہے ہندوستان کا سفر وایسرائی سے پہلے آپ نے چار دفعہ فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک سے آپ کو ابتداء سے ہی خاص دلچسپی رہی ہے۔

پارلیمنٹ انگلستان میں آپ صرف چھبیس برس کی عمر میں داخل ہو گئے تھے۔ اور آپ کا پہلا داخلہ بطور ایک کنسرویٹو ممبر کے سوتھ پورٹ ڈویژن کی طرف سے ہوا تھا۔ لیکن آپ نے بہت جلد پارلیمنٹ اور وزارت میں اپنی فصیح و بلیغ تقریروں کی دھاک باندھ دی۔ اور ۱۸۹۱ء میں آپ انڈیا اوفس میں انڈر سکرٹری اوف سٹیٹ فار انڈیا مقرر کئے گئے جسکے بعد بہت جلد یعنے ۱۸۹۵ء کی وزارت کے جنرل الیکشن میں آپ نظارت عظمےٰ خارجہ کے انڈر سکرٹری منتخب ہوئے۔ اور پھر قضا و قدر نے آپ کو ہندوستان کی نائب السلطنتی اور گورنر جنرلی پر ممتاز فرمایا۔ جس کا ۶۔ جنوری ۱۸۹۹ء کو لارڈ الیگن بہادر سے آپ نے چارج لیا۔

آپکے عہد وائسریلٹی کے کارناموں کی تفصیل کو ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہاں تشریف لاتے ہی آپ نے تمام انتظامی کلوں میں جو جو نقص پائے۔ اور جنہیں پہلے سے اپنی کئی ایک سیاحتوں میں آپ نے ملاحظہ فرما رکھا تھا انکو محمودی تن دہی سے درست فرمانے کا عزم مصمم کر لیا غرضکہ جس صیغہ اور

شعبہ میں آپ نے اصلاح کی ضرورت سمجھی۔ بڑی فراخ دلی سے اس کے لئے آمادگی ظاہر فرمائی۔ اور ہر شخص کی (ادنے ہو یا اعلےٰ) بات سُنکر جواب شافی دیا۔ مختصر یہ ہے کہ تحریر و تقریر میں ایسا مستعد کوئی وائسرائے اس سے پہلے ہندوستان کو نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ انہیں وجوہات سے آپ حاکم اور محکوم میں یکساں ہر دلعزیز ہو چکے ہیں اور انہیں براعث سے آپ کی نسبت میعاد عہدہ کی زیادتی کی بھی تجویزیں ہوتی رہتی ہیں۔ جن کو بشرط کامیابی باشندگانِ ہند اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے۔ اور اسکے ساتھ جن جن اصلاحات کا لارڈ ممدوح نے آغاز کردیا ہے۔ ان کو اپنے وقت میں سرسبز دیکھ کر آپ کو بھی اطمینان ہو جائیگا کیونکہ تعلیم۔ پولیس۔ ریلوے۔ آثار قدیمہ۔ زراعت وغیرہ میں جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ ابھی اس کا ابتدا ہے۔

لاہور میں آپ کی وائسرلٹی بھی خاص طور پر یادگار رہیگی کیونکہ ایک تو آپ نے مسجد وزیر خاں مرحوم میں اپنی طرف سے ایک عمدہ ممبر (ٹرکش وضع کا) اور مسجد شاہی میں ایک بڑی لالٹین محرابی قسم کی عنایت فرمائی اور دوسرا ان مساجد کی مرمت ضروری کے لئے بھی اپنے نئے مجوزہ محکمہ محافظ آثار قدیمہ سے قریباً دو دو ہزار روپے منظور فرمائے اور نیز جس مسجد میں ٹریفک منیجر نارتھ ویسٹرن ریلوے کا دفتر موجود ہے۔ اس کو بھی خالی کر کے مسلمانوں کے حوالے کرنے کا حکم صادر کیا۔

(ب) عالیجناب لیڈی کرزن صاحبہ بیگم جناب وائیسرائے صاحب

بیگم صاحبہ موصوفہ امریکہ کے ایک مشہور دولت مند مسٹر ایل۔ زیڈ لیٹر کی صاحبزادی ہیں۔ جو شہر واشنگٹن میں اپنی قیمتی جایداد اور وسیع کاروبار کے مالک ہیں۔ لارڈ کرزن بہادر کی وائیسرلیٹی ہندوستان سے بہت تھوڑا عرصہ پہلے اس خوش نصیب جوڑے کا عقد مناکحت باندھا گیا تھا۔ جسکے بعد بہت جلد لیڈی صاحبہ ہندوستان کی ملکہ کی حیثیت سے اپنے شوہر نامدار کیساتھ رونق افروز ہندوستان ہوئیں۔

بیگم صاحبہ حسن وجمال خداداد کیساتھ آرائش و زیبائش اور فیشن کی بھی بہت بڑی دلدادہ بیان کیجاتی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے۔ کہ ایک دفعہ صرف اپنی تصویر اتروانے کے لئے آپ وائنا تشریف لے گئی تھیں ہندوستان میں آپنے جشن تاجپوشی پر پہننے کے لیے ایک قیمتی جوڑا طیار کرایا تھا۔ جو ویسی صنعت گری کا نمونہ کہنا چاہیئے۔ مگر صرف یہی خیال آپکے پیش نہاد خاطر نہیں رہتا۔ بلکہ رفاہ عام امور میں بھی آپ خاطرخواہ حصہ لیتی رہتی ہیں۔ چنانچہ لیڈی ڈفرن صاحبہ نے جس فنڈ اور زنانہ ڈاکٹری کی بنیاد رکھی تھی۔ اسکی صدارت آپ ہی فرماتی ہیں۔ اور بڑی دلچسپی فایدہ عام کے لئے ظاہر کرتی رہتی ہیں۔ امریکہ کے لوگ آپ کو نہایت فخریہ الفاظ سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور امید ہے کہ صاحبہ موصوفہ بہت جلد انگلستان کو بھی اپنی خوش اخلاقی اور لیاقت سے اپنا ویسا ہی ثناخوان بنالیں گی۔

آپکے بطن سے اسوقت تک دو اولادیں ہوئی ہیں۔ اور دونوں لڑکیاں ہیں۔



هر ایکسلنسي لیڈي کرزن



هز رائل هاینس ڈیوک اوف کیناٹ بہادر
بالقابہ برادر شاہنشاہ معظم

(ج) عالیجناب ڈیوک اوف کیناٹ بہادر برادرِ اصغر شہنشاہ معظم

صاحب موصوف جو اس دربار تاجپوشی میں شہنشاہ معظم کی طرف سے اس تقریب سعید کی خاندانی طور پر شرکت کیلئے بھیجے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان میں نہایت ناموری کے ساتھ شہرت رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ بنگال و بمبئی کی فوجی کمانڈوں پر ۱۸۸۳ء سے ۱۸۹۰ء تک بڑی خوبی کے ساتھ کام کر گئے ہیں اور انہیں ایام میں ہندوستان کی سیر و سیاحت بھی بہت اچھی طرح کر چکے ہیں۔ چنانچہ پنجاب کے مقامات دہلی۔ لاہور۔ پشاور وغیرہ آپ کے لئے اس سفر میں نئے مقامات نہ تھے۔ ہندوستان سے جانے کے بعد آپ ۱۸۹۱ء میں انگلستان کی ڈسٹرکٹ کمانڈ پر مقرر ہوئے۔ اور پھر ۱۸۹۳ء میں سرایولین وڈ کے قائمقام مقرر فرمائے گئے۔ تاجپوشی شہنشاہ کی انگلستانی تقریب پر ہندوستان اور نو آبادیوں کی جو فوج ولایت گئی تھی۔ اُسکے سپہ سالار بھی آپ ہی بنائے گئے تھے۔ غرضکہ خاندان شاہی میں آپ پورے معنوں میں بہادر سپاہی ہیں۔ آپکی پیدائش یکم مئی ۱۸۵۰ء کو ہوئی تھی۔ اور آپ کا پورا نام یہ ہے:۔

ہز رائیل ہائینس آرتھر ولیم پیٹرک البرٹ ڈیوک اوف کیناٹ وسٹرا تھ ارن۔ کے جی کے ٹی۔ کے پی۔ جی سی ایس آئی۔ جی سی آئی ای۔ جی سی وی او جی سی بی جی سی ایم جی۔ اے ڈی سی جنرل۔ پرنس آف دی یونائیٹڈ کنگ ڈم (شہزادہ برطانیہ کلاں)

شرکت دربار کے بعد آپ مختلف مشہور مقامات اور دیسی ریاستوں کا دورہ فرما کر مارچ ۱۹۰۳ء میں مع الخیر مراجعت فرمائے انگلستان ہوئے ہیں۔

(د)

ڈچس اوف کینناٹ صاحبہ

ہر رائل ہائنس پرنس لوئیسا مارگرٹ الگزینڈرا وکٹوریا اگسٹس اوف پرشیا کا نام نامی ہی آپ کی زوجیت میں آجانے پر آپ کے لقب کے اعتبار سے ڈچس اوف کیناٹ ہوگیا ہے۔ آپ پرشیا کی شہزادی ہیں۔ مگر ابتداء میں ہی چونکہ آپ کی کھلائی دنرس، ایک انگریزی نسل کی عورت تھی۔ اسلئے آپ کو زبان انگریزی میں بخوبی مذاولت ہوگئی تھی۔ حسن وجمال کے ساتھ حسنِ اخلاق اور حسنِ انتظام بھی قضا و قدر نے بڑی فراخ دلی سے عطا فرمایا ہے جسکے لئے آپ انگلستان میں خاص طور پر مشہور ہیں اور انگلستان کے سوا بھی جہاں کہیں ڈیوک صاحب کے ساتھ آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے سب لوگ آپکے اخلاق و آداب کے تہ دل سے قائل ہوتے رہے ہیں۔

رفاہ عام امور میں بھی آپ ہمیشہ دلچسپی لیتی رہتی ہیں۔ اور ہندوستان میں چونکہ پہلے بھی اپنے نامور شوہر کے ساتھ ایک معقول عرصہ گذار چکی ہیں۔ اسلئے موقع دربار کی شرکت سے آپ بہت ہی محظوظ ہوئی ہیں۔



ہر رائل ہاینس ڈچز اوف کیناٹ بہادر



ہزایکسلنسی لارڈ کچنر بہادر بالقابہ کمنڈرانچیف ہند

ہزایکسیلنسی جنرل ایچ۔ ایچ۔ وسکونٹ کچنرآف خرطوم وغیرہ جی۔ سی۔ بی۔ او۔ ایم۔ جی۔ کمینڈر انچیف کشورہند


حضور ممدوح لفٹنٹ کرنل ایچ ایچ کچنر باشندہ کانگسٹن کے خلف الرشید ہیں آپ ۱۸۵۰ء میں بمقام بیلی لانگ فورڈ متولد ہوئے تھے۔ آپ کے نام نامی سے ایک زمانہ واقف ہے۔ افواج مصر میں رہنے کا آپکو اکثر اتفاق رہا ہے۔ جہاں ۱۸۸۸ء میں آپ ایڈجوٹنٹ جنرل مقرر ہوئے تھے وہیں ۱۸۹۰ء میں اِن کی حسنِ خدمات پر گورنمنٹ نے سردار کا خطاب دیا۔ اور بعدازاں ساڑھے چار لاکھ نقد کا انعام اور لارڈ صاحب کا معزز خطاب بمنظوری پارلیمنٹ آپ کو دیا گیا۔ بعدازاں جنگ سوڈان وخرطوم میں آپنے وہ کارہائے نمایاں دکھائے کہ آپکا لقب فاتح خرطوم مشہور ہوگیا۔ اسکے بعد جنگ ٹرانسوال کی آپنے کمان لی۔ اور ایک عرصہ کی چھڑی ہوئی لڑائی کو اپنی حسن تدبیر اور قوتِ بازو سے چند ہی مہینوں میں باحسن وجوہ طے فرماکر اُس ملک کو گورنمنٹ انگریزی کے زیر حکومت کردیا چنانچہ جب آپ فتح ٹرانسوال کے بعد لنڈن میں پہنچے ہیں تو پارلیمنٹ سے پچاس ہزار پونڈ (ساڑھے سات لاکھ روپیہ) کا انعام آپ کو نذر کیا گیا اور اسکے سوا جسقدر عزت وتوقیر آپ کی ملک معظم داراکینِ خاندان حکام سلطنت اور بالخصوص عوام کیطرف سے کی گئی وہ آپ ہی کا حصّہ تھا۔ اواخر ۱۹۰۲ء سے آپ ہندوستان کی کمینڈر انچیفی پر آئے ہیں اور گو ابھی تک کوئی جنگ تو ہندستانی سپاہ کو پیش نہیں آیا مگر آپ کی دیکھ بھال نے ایک غیرمعمولی مستعدی اور طیاری فوج میں ضرور پیدا کردی ہے۔ یہ بات غالباً تعجبات میں داخل ہے۔ کہ ابتک باوصف چونتن سال ہونے کے آپنے شادی نہیں کی۔

(۶) ہز آنر ایبل سر چارلس منٹگمری ریواز صاحب بہادر کے سی ایس آئی لفٹنٹ گورنر پنجاب

جناب موصوف مارچ ۱۹۰۲ء سے پنجاب کی لفٹنٹ گورنری پر جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ جس سے پہلے آپ کونسل حضور وائسرائے بہادر کے ممبر اعلیٰ تھے اور اُسی زمانہ میں آپ نے ایکٹ انتقالِ اراضیات پنجاب کا مسودہ تجویز فرما کر کونسل میں پیش فرمایا تھا۔ جو قانون کی حیثیت پا چکا ہے سر چارلس پرلے درجہ کے بیدار مغز اور معاملہ فہم حکمران ہیں اور گو بحیثیت عہدہ پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں۔ لیکن ذاتی طور پر بھی آپ کو صیغۂ تعلیم سے بڑی دلچسپی ہے اور حسنِ اتفاق سے چونکہ مسٹر ڈبلیو بیل صاحب ایسے حامی تعلیم و تعلّم اسوقت سررشتہ تعلیم پنجاب کے ڈائرکٹر ہیں اسلئے یہ زمانہ علم و عمل کے لئے بہت مبارک زمانہ کہنا چاہئے۔ چنانچہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ لاہور کے دو نامی مولوی صاحبان اس دربار پر شمس العلماء کے خطاب سے بھی مخاطب کئے گئے ہیں۔

دربار دہلی چونکہ صوبہ پنجاب میں منعقد کیا گیا تھا۔ جو اس وقت آپ ہی کے اہتمام میں ہے۔ اسلئے آپ کی عزت و تعظیم کا لحاظ بھی اس موقع پر زیادہ کیا جاتا تھا جسکے یوں بھی آپ ہر طرح سے مستحق ہیں اور گو اس موقع پر ایک کارونیشن کمیٹی علیحدہ ہی مقرر کردی گئی تھی۔ مگر پھر بھی پنجاب نے انتظامی ہاتھ بٹانے میں جو امداددی ہو وہ اُسی کا حصہ ہے اور اس سب شکریہ کے مستحق نواب لفٹنٹ گورنر بہادر ہیں۔

اس فصل میں اگر دوسرے صوبجات ہندوستان کے حکام والاتقام کی تصاویر و حالات بھی درج ہوجاتے تو غالباً زیادہ موزون ہوتا۔ مگر بوجہ عدم دستیابی انہیں مشاہیر دربار پر اکتفا کرنا پڑا۔ باقیوں کے نام درج ہیں



جناب مسٹر ڈبلیو بئل صاحب بہادر ڈائرکٹر
اوف پبلک انسٹرکشن پنجاب

جناب مسٹر ولیم بیل صاحب بہادر ایم اے ڈائرکٹر پبلک انسٹرکشن سکرٹری صیغۂ تعلیم گورنمنٹ پنجاب و انسپکٹنگ آفیسر کالج ہائے رئیس زادگان ہند

صاحب موصوف ۱۶ اکتوبر ۱۸۸۵ء کو ملازمتِ سرکاری میں داخل ہوئے اور ۱۵ نومبر ۱۹۰۱ء کو عہدۂ ڈائرکٹری پر ترقی فرمائے گئے۔ ڈائرکٹری پر آنے سے پہلے ایک عرصہ تک آپ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہ چکے تھے۔ اور اس تمام عرصہ میں بوجہ اپنی علمی قابلیت اور فاضلانہ تبحر اور اس کے ساتھ قدر دانانہ ہردلعزیزی کے آپ نے تعلیم یافتہ جماعت میں اس قدر ناموری حاصل کی کہ آپ کا نام پنجاب میں پوری محبت اور ادب کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ ڈائرکٹری پر مقرر ہو کر آپ نے اس صیغہ میں جو نمایاں اصلاحیں کیں اور جسقدر تعلیم و تعلّم میں بیش بہا کوششیں فرمائیں۔ وہ کبھی یہاں کے طلباء۔ اُستادوں اور مصنفوں کو نہ بھولینگی۔ دربارِ دہلی کی نمائش کے بعد آپ نے اواخر اپریل و اوائل مئی میں اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ پر ایک تعلیمی نمائش بمقام لاہور منعقد فرمائی۔ جسے آپکی اوّلیات سے سمجھنا چاہیئے۔ اس نمائش میں تمام وہ سامان جو اس وقت صیغۂ نوشت و خواند اور آرٹ وغیرہ میں مستعمل ہوتے ہیں پوری توجہ سے جمع کئے گئے تھے۔ نمائش کیا تھی۔ گویا ایک بیش بہا ذریعہ عینی مشاہداتِ علمی کی ترقی کا تھا۔ جو یہانتک مقبول ہوا۔ کہ جبتک نمائش کھلی رہی۔ جوق در جوق تعلیم یافتہ صاحبان بلا استثنائے امیر و غریب شوق دلی سے اسکے ملاحظہ کے لئے جاتے رہے۔ اور بالآخر الامر دیگر صوبجات میں بھی اس کی

تقلید کا خیال پیدا ہوا۔ جس سے اُمید ہے کہ بیش بہا فوائد حاصل ہوں گے
علاوہ ازیں آپ کی دیگر حُسن خدمات اور علم دوستی کے کارنامے بھی اس قدر ہیں
کہ جنکا احصار اِس مختصر میں سخت مُشکل ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کی تعلیمی دلچسپی اور
علم دوستی پر گورنمنٹ اور پبلک دونوں یکساں مُطمئن اور مسرور ہیں۔ چنانچہ
رئیس زادگانِ ہند کی تعلیم و تربیت کے لئے جو تین کالج ہندوستان بھر
میں قایم رکھنے منظور ہو چکے ہیں۔ اِنتظامِ جدید میں اُسکے لئے ایک انسپکٹنگ
آفیسر کا عُہدہ بھی تجویز کیا گیا ہے۔ اور اِسپر آپ کا تقرر ہوا ہے۔
جس پر ہر چہار طرف سے اُردو و انگریزی اخبارات نے اِظہارِ مسرت کرکے
گورنمنٹ کے اس اِنتخاب کی بڑے پُرزور لفظوں میں تائید کی ہے۔
پنجاب بھر کی جس قدر مجالس یا جماعتوں کو تعلیمی مُعاملات سے دلچسپی
ہے۔ وہ سب آپ کے حُسنِ سلوک کی مُعترف ہیں۔ اور جس قدر مُصنفین کو
آپ کے درِ دولت تک رسائی ہو سکی ہے۔ سب آپکی قدردانی
اور فیض رسانی کے قائل و ثناخوان ہیں۔ اِس کے
علاوہ رئیس پارٹی سے بھی آپ کا برتاؤ نہائیت
مُعززانہ ہے۔ اور سب لوگ آپ کے
حُسنِ سلوک کے مدّاح ہیں۔ امید کہ آپکی
اعلیٰ لیاقتیں اور بے نظیر مشہوری
آپکو مزید ترقیات دلوائیگی۔
اور بہت جلد آپ اعلیٰ
سے اعلیٰ عہدوں پر
جلوہ فرما نظر آئینگے

جناب مسٹر ایلگزنڈر ایندڑسن صاحب بہادر سی۔آئی۔ای کمشنر قسمت لاہور

صاحب موصوف ۱۳۔ جولائی ۱۸۷۴ء کو سرکاری ملازمت میں شامل ہوکر ۴۔ نومبر ۱۸۷۵ء کو داخلِ ہندوستان ہوئے تھے۔ جس کے مطابق ہندوستان میں کام کرتے ہوئے آپکو اب بتیس سال سے بھی زائد عرصہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے۔ کہ اس مدت میں جو وسیع تجربہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اُس کا بہت کم آفیسر دعویٰ کرسکتے ہیں۔ تحقیق حالات اور انصاف پروری آپ کا اصل اصول ہے۔ چنانچہ گرم موسم میں بھی عندالضرورت دورہ سے آپ کو عار نہیں ہوتا۔ پنجاب کے رؤساء کے کیرکٹر سے بھی اعلیٰ درجہ کے واقف ہیں۔ اور خاندانی و مستحقِ رعایت اشخاص سے اخلاق و مروّت ملحوظ رکھتے ہیں۔ جس سے سب لوگ انکے مدّاح و ثناخوان پائے جاتے ہیں۔ دربارِ دہلی کے موقع پر بھی آپ شریک تھے

مسٹر چارلس ہربرٹ ایٹکنسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر لاہور

صاحب ممدوح اُن لائق افسروں میں سے ہیں جو لاہور جیسے صدر مقام کا اہتمام رکھنے کی پوری پوری لیاقت رکھتے ہیں۔ قریباً پانچ سال سے آپ ضلع لاہور کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ اور اس تمام عرصہ میں گورنمنٹ اور عوام و خواص جسقدر آپکے طریقِ عمل سے خوش رہے ہیں۔ غالباً بہت کم افسروں کو ایسا موقع ملا ہوگا۔ انتظام سرکاری اور رفاہِ عام کی ترویج کے لئے آپکی خدمات خاص طور پر قابلِ شکریہ ہیں۔ اور علیٰ ہذا شہر کی تمام اعلیٰ پبلک باڈیز بھی انکی امداد و معاونت کی شکرگذار ہیں۔ غرضکہ آپ ایک صاف دل اور روشن خیال حاکم ضلع ہیں۔ شریفوں اور رئیسوں کی عزت کرتے اور غریبوں پر رحم فرماتے ہیں۔ اور اسکے ساتھ ہی انصاف و عدالت کو ہر وقت اپنا نصب العین بنائے رہتے ہیں۔ اور جو بات انکے عہدِ دولت کی پبلک کو ہمیشہ خوشی کے ساتھ یاد رہیگی وہ یہ ہے۔ کہ کارونیشن کے موقع پر اُنہوں نے جس اعلیٰ اہتمام کے ساتھ جلسۂ تاجپوشی کا انتظام کیا۔ وہ واقعی پنجاب کے اس صدر مقام کے عین لائق اور مناسب تھا۔ اور اسپر لطف یہ ہے کہ روپیہ کا کثیر حصّہ چندہ سے فراہم ہوا۔ اور چندہ میں ہرگز ہرگز کوئی حکومتی اثر نہیں ڈالا گیا بلکہ جسقدر بھی لوگ شریک ہوئے سب اپنی خوشئ خاطر سے ہوئے۔ چندہ سے جو روپیہ جمع ہوا اسکی تعداد چار ہزار تھی۔ اور اسکے علاوہ ڈھائی ہزار روپیہ میونسپل کمیٹی سے دیا گیا تھا۔ اسکو اس عمدگی کے ساتھ خرچ کیا گیا کہ جس سے بہتر مصرف یقیناً نہ مل سکتے تھے۔ یعنی ایک تو میونسپل کمیٹی کیطرف ایک مبارکبادی ایڈریس چاندی کے نفیس کاسکیٹ میں روانہ ہوا۔ دوسرے ٹونہال میں ایک عظیم الشان پبلک دربار منعقد کیا گیا۔ جسمیں صاحب ممدوح صدر نشین جلسہ تھے۔ جنہوں نے نہایت متانت و ثقاہت اور شاہی عب و داب کے ساتھ اعلانِ شاہی پڑھکر سنایا۔ اور بہر چند دلچسپ کھیل دکھائے گئے یتیموں بیواؤں کو زرِ نقد۔ محتاجوں کو کپڑا کمبل اور طلباء کو شیرینی تقسیم کی گئی۔ رات کو دیپ مالا اور آتشبازی کی بہار دکھائی گئی۔ غرضکہ دربارِ دہلی کا خاصہ نمونہ اہلِ لاہور کے لئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مہیا کر دیا گیا تھا۔ جھنڈیوں۔ نشانوں اور پھول پھلواری کی زیب و زینت نے جو دل آویزی پیدا کر دی تھی۔ اُس سے ہر چہار طرف عالمِ مسرت جلوہ گر تھا۔

صاحب موصوف ۲۳ ستمبر سنہ ۱۸۹۱ء کو سرکاری ملازمت میں اور ۲۰ دسمبر سنہ ۱۸۹۱ء کو ہندوستان میں داخل ہوئے۔ جسکو اب قریباً بارہ برس ہوتے ہیں۔



جناب مسڈ سی ایچ اٹیکنس صاحب بہادر
ڈپٹی کمشنر ضلع لاہور

اعلیٰ حکّامِ گورنمنٹ

مندرجہ ذیل گورنر۔ لفٹننٹ گورنر۔ چیف کمشنر۔ ایجنٹ گورنر جنرل۔ اور لفٹننٹ جنرل کمانڈ صاحبان کے لئے سنٹرل کیمپ میں الگ الگ کیمپ لگائے گئے تھے۔ جنمیں سے ہر ایک کے ہمراہی بتعدادِ کثیر ہمرکاب تھے۔ جن کے ناموں سے ناظرینِ کتاب کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوسکتی۔ اِسلئے صِرف صاحبانِ کیمپ کے اسمائے گرامی درج کئے جاتے ہیں۔

جنگی حکّامِ اعلیٰ

۱۔ میجر جنرل ڈی۔ جے۔ ایس میکلاڈ صاحب سی۔ بی۔ ڈی۔ ایس۔ او لفٹننٹ جنرل کمانڈنگ بنگال مع لیڈی و مس صاحبات۔

۲۔ جنرل سر رابرٹ کنلائیف لا صاحب جی۔ سی۔ بی لفٹننٹ جنرل کمانڈنگ بمبئی مع مس صاحبہ۔

۳۔ لفٹننٹ جنرل سر جی۔ بی ولسلی صاحب کے۔ سی۔ بی لفٹننٹ جنرل کمانڈنگ مدراس۔

۴۔ لفٹننٹ جنرل سر بنڈن بلڈ صاحب کے۔ سی۔ بی لفٹننٹ جنرل کمانڈنگ پنجاب مع لیڈی و مس صاحبات۔

مُلکی حکّامِ اعلیٰ

۱۔ آنریبل مسٹر جے۔ بی۔ فلر صاحب سی۔ آئی۔ ای۔ چیف کمشنر آسام مع لیڈی صاحبہ۔

۲۔ آنریبل کرنل سی۔ ای ییٹ صاحب سی۔ ایس۔ آئی۔ سی۔ ایم۔ جی ایجنٹ گورنر جنرل بلوچستان مع لیڈی صاحبہ۔

۳- لفٹننٹ کرنل- ایم جے- میڈ صاحب سی- آئی- ای ریزیڈنٹ بڑودہ مع لیڈی صاحبہ۔

۴- اونریبل مسٹر جے- اے بورڈلن صاحب سی- ایس- آئی- قایم مقام لفٹننٹ گورنر بنگال- مع لیڈی صاحبہ۔

۵- ہزایکسیلنسی رائیٹ اونریبل ہنری سٹافورڈ بیرن نارتھ کوٹ صاحب جی- سی- آئی ای- سی بی- گورنر بمبئی مع لیڈی صاحبہ۔

۶- اونریبل سر فریڈرک فرائیر صاحب کے- سی- ایس- آئی لفٹننٹ گورنر برہما- مع لیڈی صاحبہ۔

۷- اونریبل مسٹر سی- ایس بیلی صاحب ایجنٹ گورنر جنرل سنٹرل انڈیا مع لیڈی صاحبہ۔

۸- اونریبل مسٹر جے- پی- ہیوٹ صاحب سی- ایس- آئی- سی آئی ای- قائیم مقام چیف کمشنر سنٹرل پراونسس مع مس صاحبہ۔

۹- اونریبل لفٹننٹ کرنل سر ڈیوڈ بار صاحب کے- سی- ایس- آئی- ریزیڈنٹ حیدرآباد مع لیڈی صاحبہ۔

۱۰- ہزایکسیلنسی رائیٹ اونریبل آرتھر اولیور ویلیر بیرن امپتہل صاحب جی- سی- آئی- ای- گورنر مدراس مع لیڈی صاحبہ۔

۱۱- اونریبل لفٹننٹ کرنل ڈی- رابرٹس صاحب سی- آئی- ای ریزیڈنٹ میسور

۱۲- اونریبل لفٹننٹ کرنل ایچ- اے ڈین صاحب سی- ایس- آئی چیف کمشنر و ایجنٹ گورنر جنرل صوبہ سرحدی مع لیڈی و مس صاحبات۔

۱۳- اونریبل سر چارلس منٹگمری ریواز صاحب کے- سی- ایس- آئی لفٹننٹ گورنر پنجاب مع لیڈی صاحبہ۔

۱۴۔ آنریبل مسٹر اے۔ ایچ۔ پی۔ مارٹنڈل صاحب سی۔ ایس۔ آئی ایجنٹ گورنر جنرل راجپوتانہ مع لیڈی صاحبہ۔

۱۵۔ آنریبل سر جیمس ڈگنز لاٹوش صاحب کے۔ سی۔ ایس۔ آئی لفٹنٹ گورنر صوبجات متحدہ آگرہ و لکھنؤ مع لیڈی صاحبہ۔

۱۶۔ امپیریل کیڈٹ کور۔ یہ دستہ چونکہ ہندوستانیوں اور انگریزوں میں خاص دلچسپی رکھتا ہے اسلئے اِس کا حال کسیقدر مفصل با تصویر درج کیا جاتا ہے۔

(ح)

انڈین کیڈٹ کور

یعنی

ہندوستانی والیانِ ریاست اور شہزادوں کا فوجی دستہ

یہ معزز فوجی دستہ جس کے قائم کرنے کی عزت لارڈ کرزن بہادر موجودہ وائسرائے و گورنر جنرل ہند کو حاصل ہوئی ہے۔ دربارِ اکبری میں راجپوت راجوں مہاراجوں کی کمربستگی کا جو حال اکثر تاریخی کتابوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اُس کا مکمل اور مہذب نمونہ سمجھنا چاہیئے۔ جس کی تجویز قیام کیوقت اکثر والیانِ ریاست نے اور بالخصوص مہاراجہ صاحب دربھنگہ نے پُرزور تائیدیں کی تھیں۔

یہ دستہ اِس غرض سے قائم کیا گیا ہے۔ کہ ایک تو والیانِ ریاست میں انکا آبائی فن سپہ گری جو دن بدن مُتنزل ہو رہا تھا۔ ہمیشہ کے لئے زندہ رہ سکے۔ جس کی گو اُن لوگوں کو اپنے معاملات میں تو کوئی ضرورت نہیں رہی۔ مگر گورنمنٹ کی خدمات میں وہ اِس سے کام لیکر بخوبی ناموری پیدا کر سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ انگریزی کے مُلکی و جنگی افسروں کی تربیت میں اچھی طرح صاحب السیف و القلم ہو سکتے ہیں۔ دوسرا اِس دستہ کا وجود باشندگانِ ہندوستان اور خصوصاً دولِ خارجہ کے روبرو سرکارِ انگلینڈ کی شہنشاہی۔ ہر دلعزیزی اور جاہ و جلال کا ایک ایسا بدیہی اور بیّن ثبوت پیش کر دیتا ہے جو اِسی مضمون کے کئی ایک دفاتر کے دیکھنے سے بھی نہیں ہو سکتا۔

اِس دستہ کے قیام کے لئے موسمی لحاظ سے ڈیرہ دون اور میرٹھ مقامات مُقرر ہیں۔ جو شاید کسی وقت شملہ اور کلکتہ سے تبدیل ہو جائیں کیونکہ گورنمنٹ ہند کے ہیڈ کوارٹر ہونے کے باعث وُہی شہر انکے قیام کے لئے زیادہ تر موزون ہو سکتے ہیں۔ دربارِ دہلی میں انکا کیمپ حضور وائسرائے کے کیمپ کے قریب لگایا گیا تھا۔

وردی بھی اِنکی ہندوستان کی مُروّجہ فوجی وردی سے بالا تر رکھی گئی ہے۔ جو بالکل راجپوت بہادروں کی قدیمی پوشاک ہے۔ چنانچہ اِس میں ناظرین سب صاحبوں کی صورتیں مُلاحظہ فرمائیں گے۔ گھوڑے سب کے مُشکی یک رنگ اور انکی زینیں چیترے کے کھال کی تجویز ہوئی ہیں۔



امپریال کیدت کور یعنی فوج شهزادگان هند.

اِس پُر فخر دستہ کے افسران صاحبانِ ذیل مُقرر ہو چکے ہیں۔

۱۔ کرنل مہاراجہ سر پرتاب سنگھ صاحب بہادر جی۔سی۔ایس۔آئی۔ والیِ ایڈر اور نریری کمانڈنگ آفیسر

۲۔ میجر ڈبلیو۔ اے واٹسن صاحب سی۔آئی۔ ایچ۔ کمانڈنگ آفیسر

۳۔ کیپٹن ڈمی۔ ایچ کیمرن صاحب سی۔آئی۔ایچ۔ ایجوٹنٹ۔

۴۔ لفٹنٹ راؤ بہادر ٹھاکر دیپ سنگھ صاحب۔ اسسٹنٹ ایجوٹنٹ۔

سلہ۔ کرنل مہاراجہ سر پرتاب سنگھ صاحب موجودہ مہاراجہ جودھپور کے حقیقی چچا ہیں۔ راٹھور راجپوت خاندان سے ہیں جنکا سلسلۂ پُشت مہاراجہ رامچندر سے ملتا ہے۔ اور باعتبار اپنی تجربہ کاری اور بہادری کے راجپوتانہ بھر میں یکتا گنے جاتے ہیں۔ ایک عرصۂ دراز تک سابق مہاراجہ جسونت سنگھ صاحب بہادر والیِ جودھپور کیوقت آپ ریاست جودھپور کے مجاز و کل مختار و کارزنا رہے ہیں۔ جس کا اِس عمدگی سے آپنے انتظام فرمایا کہ ریاست آباد ہو گئی۔ جودھپور کی ہر کمیں اہم یقین مہاراج پرتاب سنگھ کا نام کبھی بھول نہیں سکتیں۔ کیونکہ مارواڑ میں بھی اِنکے بانی ہوئے ہیں۔ مہاراجہ جسونت سنگھ صاحب کے انتقال کے بعد بھی برابر آپ ہی جودھپور کے مدار المہام اعلیٰ رہے۔ حتیٰ کہ ۱۹۰۲ء میں سابق مہاراجہ ایڈر کے لاولد فوت ہو جانے پر ریاستِ ایڈر کے مہاراجہ تسلیم کئے گئے جبکے تب آپکو آٹ لبی راج دھانی میں رہنا ضروریات سے ہو گیا۔ ریاستِ ایڈر کی آمدنی چھ لاکھ روپیہ سالانہ اور آبادی قریب تین لاکھ کے ہے۔

مہاراجہ صاحب گورنمنٹ کے ہمیشہ سے خیر اندیش رہے ہیں جنگ تیراہ و چین میں آپ بذاتِ خاص شریک تھے جہاں آپسے بڑے بڑے کارہائے نمایاں ظاہر ہوئے۔ ملکہ وکٹوریہ متوفیہ کی شہری اور الماسی جوبلی کی تقریبات پر آپ ولائت میں شریک ہوئے۔ اور اب ملکِ معظم کی تاجپوشی کیوقت بھی لنڈن میں طلب ہوئے تھے۔ جہاں آپکو شہنشاہ کا ایڈیکانگ بھی بنایا گیا۔ اور ملک بھر میں آپکی بہادری کی دھاک بندہ گئی۔ جس کی تفصیل کی اِس کتاب میں گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ کہ لارڈ رابرٹس تک آپ کی بے جگری و دلاوری کے بڑے زور سے معترف ہیں۔

آپکا کیمپ علیحدہ روسار میں بھی لگا ہوا تھا۔ جسمیں مندرجہ ذیل صاحبان درباری تھے کنور سری دولت سنگھ صاحب ولیعہد۔ پروہت رام ناتھ صاحب سکرٹری۔ بابو گہنس نرائن صاحب پرائیویٹ سکرٹری۔ دیا بھائی صاحب وکیل ریاست و ۱۲ یوروپین مہمان۔

تشریف لائے۔ سور مہاراج مع دو صاحبزادوں کے۔ ٹھاکر ہری سنگھ۔ ٹھاکر لکھمن سنگھ۔ منڈوتی ٹھاکر دیپ سنگھ موتی۔ ٹھاکر روپ سنگھ کوکاریا۔ ٹھاکر دلپت سنگھ لندنی۔ ہمت سنگھ۔ ما سرو ٹھاکر بھا ونسنگھ پرتھی۔ ٹھاکر رائے آف لعل۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ مہیں دم گمھوا۔ ٹھاکر سنت سنگھ رئیس لاون لاڈی۔ مہاراج کشن سنگھ۔ مہاراج تیج سنگھ۔ ٹھاکر کشور سنگھ صاحبان۔

جنگی جوانوں (طلبائے صیغہ جنگ) میں مُفصّلہ ذیل پانچ والیانِ ریاست شریک ہیں

۱- ہز ہائینس مہاراجہ سردار[لے] سنگھ صاحب بہادر والیٔ ریاست جودھپور۔

۲- ہز ہائینس مہاراجہ ادہراج[سے] والیٔ ریاست کشنگڑھ۔

[لے] - ریاستِ جودھپور کا رقبہ سینتیس ہزار مربع میل - آبادی تقریباً پچیس لاکھ اور آمدنی اندازاً پینسٹھ لاکھ سالانہ ہے - فوج میں ۳۱۹۲ سوار ۵۲ ۳ ۶ پیادہ ہیں - سلامی ۱۷-۲۱ توپ کی مقرر ہے مہاراجہ ۱۸۸۰ء کی پیدائش ہیں ۲۴- اکتوبر ۱۸۹۵ء کو پندرہ برس کی عمر میں بجائے اپنے متوفی والد کے مسند نشین ہوئے - اور سنِ بلوغ پہنچنے پر اختیار بھی پائے - مہاراجہ پرتاب سنگھ (جنکا ذکر ہو چکا ہے) تمام انتظام ریاست کے کفیل تھے - ۱۹۰۲ء میں اُنکے ایڈر کی گدی پر جانے اور آپکے انڈین کیڈٹ کور میں داخل ہونے کے باعث کاروبارِ ریاست کی سربراہی راؤ بہادر پنڈت سکھدیو پرشاد صاحب جوڈیشل سکرٹری و افسر محکمہ خاص کرتے ہیں - ریاست میں ایک کونسل بھی مقرر ہے - جس کے ممبر ہیں کے متعدد اہلکار و جاگیردار ہیں - مہاراجہ صاحب انگریزی بخوبی جانتے ہیں - اور راٹہور راجپوتوں کے اُس خاندان سے ہیں جو پہلے قنوج میں حکمران تھا - اور جسمیں سے سیوا جی نے مارواڑ کو اپنا مستقر بنایا تھا - اِسی خاندان کی شاخیں بیکانیر کشن گڑھ - ایڈر اور احمد نگر میں حکمران ہیں۔

مہاراجہ جودھپور کا کیمپ روڈ سائے راجپوتانہ کے کیمپ میں علیحدہ بھی لگا ہوا تھا اور مندرجہ ذیل درباری آپ کے ساتھ تھے۔

مہاراجہ ارجن سنگھ صاحب برادر رشتہ - مہاراجہ رتن سنگھ صاحب برادر رشتہ کمانڈنگ آفیسر دارڈ انفنٹری - مہاراج ظالم سنگھ صاحب - مہاراج فتح سنگھ صاحب - مہاراج شیر سنگھ صاحب ٹھاکر منگل سنگھ صاحب جاگیردار لوکراں - ٹھاکر جن سنگھ صاحب اسوپ - راؤ بہادر ٹھاکر سنگھ صاحب جاگیردار گجاواں ممبر کونسل - ٹھاکر شیو ناتھ صاحب جاگیر بخشی و معتمد ریزیڈنسی - راؤ بہادر پنڈت سکھدیو پرشاد صاحب سی - آئی - ای سینیر ممبر محکمہ خاص کرنل جے کرافٹس صاحب ایم - ڈی ریزیڈنسی سرجن - لفٹنٹ ایس ایچ جیکب اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ - مسٹر ڈبلیو ہوم صاحب مینیجر اسٹیٹ ریلوے مع لیڈی صاحبہ - مسٹر آر ہاڈ صاحب ٹریفک مینیجر مع لیڈی صاحبہ - مسٹر جی - بی گائڈ صاحب آڈیٹر۔

[سے] - کشن گڑھ کا رقبہ ۸۵۸ مربع میل - آمدنی ساڑھے چار لاکھ - آبادی ڈیڑھ لاکھ - اور سلامی ۱۵ توپ کی ہے - راؤ بہادر بابو شیام سندر لال صاحب سی - آئی - ای مدار المہام ہیں - آپکا کیمپ بھی روڈ سائے راجپوتانہ میں علیحدہ نصب تھا - اور مندرجہ ذیل صاحبان اُسمیں شریک تھے -

مہاراج مان سنگھ صاحب رئیس فتحگڑھ - مہاراج ڈی جیون سنگھ صاحب رئیس کیری - مہاراج کرپا سنگھ صاحب رئیس ... راجہ گوبند سنگھ صاحب رئیس لاوشہ - ٹھاکر گوپال سنگھ صاحب رئیس ... - ٹھاکر ... سنگھ صاحب رئیس ... ٹھاکر مہارت سنگھ صاحب رئیس ... پورہ کرنل آنند سنگھ صاحب - راؤ بہادر بابو شیام سندر لال صاحب سی - آئی - ای - دیوان و مدار المہام

۳- ہز ہائینس مہاراج رانا صاحب[1] - دہولپور -

۴- ہز ہائینس راجہ صاحب[2] رتلام -

۵- ہز ہائینس[3] نواب صاحب جاورہ -

---

[1] - دہولپور کا رقبہ ۱۲۰۰ میل مربع - آبادی قریباً ڈہائی لاکھ - آمدنی ۱۵ لاکھ - اور سلامی ۱۵ - اتواپ کی ہے - اِنتظامِ ریاست کونسل کے سپرد ہے - رئیس نوعمر ہیں - اور ابہی کامل الاختیار نہیں ہوئے - ڈیوک صاحب کی جبہ برداری پر یہی مقرر ہوئے تھے - آپ کا موروثی خطاب - رئیس الدولہ سپہدار الملک مہاراج ادہراج سوائی لوکیندر بہادر دلیر جنگ جے دیو ہے - رؤسائے سنٹرل انڈیا میں آپکا کیمپ علیحدہ بھی نصب تھا - اور مندرجہ ذیل اہلکار اس میں آپکے ہمرکاب تھے -

مسٹر جے لیمبرڈ صاحب - مسٹر فورپ صاحب انجنیر ریاست مع لیڈی صاحبہ - کنور روپ سنگہ صاحب سردار - کنور چمن سنگہ صاحب سردار - سردار اُمراؤ سنگہ صاحب ریونیو افیسر نواب خواجہ محمد خاں صاحب سردار - سردار فتح سنگہ صاحب سردار - سردار انند ربیر سنگہ صاحب سردار - طالب حسین صاحب کمانڈنٹ افواج - سردار بہادر بہگت صاحب افسر عدالت وحساب - کنور بہیم سنگہ صاحب سردار -

[2] - رتلام کا رقبہ بارہ سو میل مربع - آبادی تقریباً دو لاکھ - اور آمدنی اندازاً پندرہ لاکھ ہے - اتواپ سلامی ۱۳ ہیں - راجہ صاحب میو کالج اجمیر کے تعلیم یافتہ ہیں - اِنتظامِ ریاست اہلکاران کی مدد سے چلتا ہے - آپ کا کیمپ بھی زمرۂ رؤسا میں علیحدہ تھا - اور مندرجہ ذیل اہلکار ریاست اسمیں شریک تھے -

خان بہادر کپتان جی رستم جی صاحب تہانہ والہ کامدار - ٹہاکر بہیم سنگہ جی صاحب راؤ بہادر رگھناتہ جی صاحب - مولوی عبدالحق صاحب - پردہان سالگرام جی صاحب -

[3] - نواب صاحب جاورہ کی ریاست کا تذکرہ مع اُن کی جُداگانہ تصویر کے دوسری جگہ درج ہے - آپ کی ریاست کا رقبہ ۶۰۰ میل مربع - آبادی ۸۴۲۰۲ - آمدنی قریباً دس لاکھ - اور سلامی ۱۳ ضرب اتواپ کی ہے -

ولیعہدان و رئیس زادگان ہندوستان میں سے مندرجہ ذیل صاحبان داخل ہو چکے ہیں:

۱- نواب محمد ولی الدین[1] خاں صاحب فرزند ہز ایکسیلنسی نواب سر وقار الامرا بہادر مرحوم مدار المہام دکن۔

[1] - نواب محمد ولی الدین خاں صاحب ہز ایکسیلنسی سکندر جنگ اقبال الدولہ اقتدار الملک وقار الامراء نواب سر محمد فضل الدین خاں صاحب مرحوم کے سی۔ ایس۔ آئی مدار المہام دکن کے فرزند دوم ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی جناب نواب محمد مختار الدین صاحب سلطان الملک بہادر تو اپنی ریاست میں مقیم ہیں لیکن چونکہ آپکو فوجی فنون سے دلچسپی ہے اسلئے انڈین کیڈٹ کور میں داخل ہوئے ہیں۔ آپکا خاندان دکن میں ایک اعلیٰ درجہ کا نیک نام اور معزز و مقدس خاندان ہے جس کا سلسلۂ نسب حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر رح اور حضرت ابراہیم ادہم رح اور حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق سے جا ملتا ہے۔ بانی سلطنت دکن حضرت آصف جاہ اوّل کے ساتھ آپکے اجداد میں سے نواب ابوالخیر خان بہادر امام جنگ حیدرآباد آئے تھے۔ اور امرائے درجۂ اوّل میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن انکے خلف الرشید نواب محمد ابوالفتح خاں شمس الدولہ شمس الملک شمس الامرا بہادر تیغ جنگ نے اپنے حسن لیاقت سے اور بھی ترقی کی اور سلطنتِ آصفیہ سے باون لاکھ کی جاگیر بھی پائی۔ اور اس کے علاوہ انکے صاحبزادے ابوالفخر فخرالدین شمس الدولہ شمس الملک شمس الامراء بہادر امیر کبیر کو آصف جاہ ثانی نے اپنی عزتِ دامادی بھی عطا فرمائی۔ جس کے بعد اس خاندان کی شادیاں شاہی گھرانے میں شروع ہو گئیں۔ جو اب تک برابر ہوتی ہیں۔ انکے دو صاحبزادے ہوئے۔ ایک محمد سلطان الدین خاں سبقت جنگ محتشم الدولہ بشیر الملک بہادر جنکے خلف الصدق نواب محمد مظہرالدین خاں رفعت جنگ بشیر الدولہ عمدۃ الملک اعظم الامرا امیر کبیر سر آسمان جاہ مرحوم کے سی۔ ایس آئی سابق مدار المہام دکن تھے۔ اور دوسرے محمد رشید الدین خاں جنگ اقتدار الدولہ اقتدار الملک بہادر ہوئے۔ جنکو خدا نے دو صاحبزادے عطا فرمائے۔ ایک محمد محی الدین خاں خورشید الامرا سر خورشید جاہ تیغ جنگ بہادر۔ دوسرے ہز ایکسیلنسی سر وقار الامرا جن کا انتقال ۱۹۰۲ء میں ناگہانی طور پر وقوع میں آیا۔ اس خاندان کا تعزز و تقدس صرف سلطنت آصفیہ میں ہی نہیں کیا جاتا بلکہ علاقۂ انگریزی میں بھی اسی عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس خاندان کی دونوں شاخوں کے ارکانِ اعلیٰ کو ستترہ ستترہ توپ کی سلامی گورنمنٹ سے مقرر ہے۔ اور حضور وائسرائے ملاقات باز دید بھی فرماتے ہیں۔

نواب محمد ولی الدین خاں بہادر بڑے وجیہ اور لائق رئیس زادے ہیں۔ مذاق نہایت اعلیٰ اور جرأت سپاہیانہ رکھتے ہیں۔ اُمید کہ مثل اپنے اجداد کے حضور نظام خلد اللہ ملکہ کے ظل عاطفت میں بڑی بڑی ترقیات حاصل کرینگے۔ منشی عبد الغفار بیگ خاں صاحب (خلف بخشی فیض محمد خاں صاحب مرحوم) آپکے صدر تعلقدار پائیگاہ ہیں۔ جو ایک پہلے درجہ کے ثقہ بجز امین۔ متدین خیر خواہ اور لائق اہلکار ہیں۔ اور جو نسلاً بعد نسلاً اس خاندان کی اعلیٰ خدمات کے لئے نامور رہے ہیں۔ اور جن کی حضوری سے غالباً نواب صاحب کو بہت بڑی مدد ملے گی۔

۲- سردار بسنت سنگھ صاحب اٹاریوالہ۔
۳- کنور پرتاب سنگھ صاحب کامان۔
۴- کنور زور آور سنگھ صاحب بہاؤنگر۔
۵- مہاراج اکھے سنگھ صاحب جے دسور
۶- ٹھاکر گوپال سنگھ صاحب گونڈل
۷- بہوپرام سنگھ صاحب جے پور
۸- کنور رام سنگھ صاحب دیرپور
۹- کنور کہان سنگھ صاحب کوٹہ
۱۰- ٹھاکر دیو سنگھ صاحب کوٹہ
۱۱- راجہ ہمند سنگھ صاحب مدر۔
۱۲- کنور بہارت سنگھ صاحب تلام۔
۱۳- صاحبزادہ امانت اللہ خاں صاحب ولیعہد ٹونک۔
۱۴- کنور رائے سنگھ صاحب چھوٹا اودیپور
۱۵- خان محمد اکبر خاں صاحب بجوتی تمن دار
۱۶- سردار محمد خاں صاحب سردار گڑھ۔
۱۷- آغا قاسم شاہ صاحب۔
۱۸- صاحبزادہ طالع محمد خاں صاحب پالن پور۔

(ط)

فہرست قایم مقامان نوآبادی ہائے و ڈیپوٹیشن ہائے دولِ غیر

(جن کو گورنمنٹ اوف انڈیا نے مدعو فرمایا تھا)

قایم مقامانِ نوآبادیہا

آسٹریلیا - سر رچرڈ بیکر صاحب مع مس صاحبہ۔
کیپ سے - سر رچرڈ صاحب و لیڈی سالیمن صاحبہ۔

ڈیپوٹیشن ہائے دولِ غیر

پرتگالی مقبوضاتِ ہند

ہز ایکسیلنسی سر ایڈوارڈو۔ اے آر گلہارڈو صاحب گورنر جنرل علاقۂ پرتگیز متعلق ہند۔
بہمراہیانِ ذیل :- کیپٹن ایڈری اینو۔ اے۔ ڈی۔ سا۔ ملٹری سکرٹری۔

کپتان ایچی دیواسے - ڈی - سوزا - سکرٹری۔
کپتان مینو دل اے - ڈی - میتھوس کارڈ بیروایڈیکانگ۔
کپتان جاسے کم - جے فیریرا ڈی ایکوائر ایڈیکانگ۔
ایڈوارڈو ڈی - بی - گلہارڈو - پرائیویٹ سکرٹری۔

فرانسیسی مقبوضاتِ ہند

ہز ایکسیلنسی - مانسیر - وکٹر - لیبرسے زاک - گورنر فرانسیسی مقبوضاتِ ہند مع میڈم صاحب ہمراہیان، - کپتان میجرل صاحب وعبدالمجید خاں صاحب۔

جاپان

لفٹنٹ جنرل بیرن یاسوکاٹا اوکوضاحب۔
بہمراہیانِ ذیل:- میجر مت سوی یوہی - کپتان سوکے تاکا ایٹو - لفٹنٹ تداتاکا او تاکا - میجر ٹی - ای سکاٹ سی - آئی - ای - ڈی ایس او تیسری سکھ انفنٹری - گورنمنٹ کیطرف سے جنرل مذکور انکی خدمت میں متعین تھے۔

سیام

جنرل چو فیا سراو نگس صاحب۔

مسقط

سید تیمور بن فیصل صاحبزادہ سلطان مسقط۔
ہمراہیان - سید یوسف بن الشید ذواوی - سید محمد بن نصیر غشوم - میجر پی زڈ - کاکس سی - آئی - ای - پولیٹیکل ایجنٹ مسقط - مع لیڈی صاحبہ۔

نیپال

ہز ایکسیلنسی مہاراج چندر شمشیر جنگ رانا بہادر پرائم منسٹر و مارشل نیپال۔

ہمراہی مفصلہ ذیل رؤساء و عمائدین ریاست۔
رانا بہادر فتح شمشیر جنگ سینئر کمانڈنگ جنرل۔
رانا بہادر گھنڈرا شمشیر جنگ کمانڈنگ جنرل
رانا بہادر موہن شمشیر جنگ لفٹنٹ جنرل۔
راجہ گرو قبالیہ۔ راج پنڈت جی۔
چنتا رایا کرنل بشنو پرشاد شاہ۔
راجہ جیا پرتھی بہادر سنہ۔ گرو پروہت پرگراج پنڈت جی۔
کرنل بہادر گھمیر سنگھ رایا مجہی۔
کرنل بہادر تھاپہ ہرکہا جنگ۔
کرنل بہادر گڑھ ٹورہ مہابیر سنگھ۔
لفٹنٹ کرنل کلانند۔
لفٹنٹ کرنل جیت بہادر
لفٹنٹ کرنل بشنو کمار پانڈے۔
سردار رودرامن
میجر کپتان دل بہادر بسنیت۔
میجر کپتان گڑہ لور ادبھیراب بہادر۔
کپتان گبرلی امبر دہوج۔
کپتان ادہکاری بشنو من سنگھ۔
سوبہا مریچی من سنگھ۔
ڈاکٹر ادہرناتھ چٹر جی۔
راج بید دیوانند صاحب۔
لفٹنٹ کرنل سی۔ڈبلیو راولنشا آئی سی۔ایس ریزیڈنٹ نیپال مع میم صاحبہ و مس صاحبہ
کپتان ہوگو۔ آئی۔ ایم۔ ایس۔ ریزیڈنسی سرجن مع مس صاحبہ۔

فہرست افواجِ سرکاری جو دربار پر حاضر تھیں (ک)

حضور وائسرائے کا باڈی گارڈ۔	(سوئنٹہڈ انفنٹری)
رائل ہارس آرٹیلری ایچ بیٹری۔	(ڈیڑہ بٹالین)
چوتھی ڈریگون گارڈس۔	(پہلی انفنٹری ڈویژن کے افسران)
گیارہویں بنگال لینسرز۔	(پہلی انفنٹری برگیڈ کے افسران)
پہلی پلٹن نارتھمپٹن شائر رجمنٹ کی	پلٹن ساؤتھ ویلز بورڈرس۔
پندرہویں سکھ۔	دوسری پلٹن ویلش رجمنٹ۔
(افسرانِ افواج)	چوتھی راجپوت۔
دربار کے خاص فوجی سٹاف افسران۔	بتیسویں پنجاب پایونیرز۔
(کیولری ڈویژن کے افسران)	(افسران دوم انفنٹری برگیڈ)
(کیولری برگیڈ کے افسران)	دوسری پلٹن گارڈن ہائیلنڈرس۔
رائل ہارس آرٹیلری ڈی بیٹری۔	دوسری پلٹن آرگل وسدر لینڈ
پندرہویں ہسارز	ہائیلنڈرس۔
نویں بنگال لینسرز۔	ستائیسویں بلوچ لائٹ انفنٹری۔
چوتھی بمبئی کیولری۔	تیسویں پنجاب پایونیر
کیولری برگیڈ کے افسران۔	(تیسری انفنٹری برگیڈ کے افسران)
رائل ہارس آرٹیلری آئی بیٹری۔	پہلی پلٹن رائل آئرش رائفلز
نویں لینسرز۔	چھٹی جٹ لائیٹ انفنٹری۔
آٹھویں بنگال لینسرز۔	تیرہویں راجپوت انفنٹری۔
انیسویں بنگال لینسرز۔	پہلی پلٹن اور تیسری گورکھا

سٹاف ڈویژنل ٹروپس۔
(پہلی انفنٹری ڈویژن کے افسران)
اٹھتالیسویں برگیڈ ڈویژن رائل فیلڈ آرٹیلری۔
چھیالیسویں بیٹری رائل فیلڈ آرٹیلری۔
۹۱ ویں بیٹری رائل فیلڈ آرٹیلری
۴۵ ویں بیٹری رائل فیلڈ آرٹیلری۔
چھٹی مونٹن بیٹری آر۔جی۔اے۔
ساتویں مونٹن بیٹری آر۔جی۔اے۔
(کمپوزٹ رجمنٹ پی پی ایف کیولری)
دوسری سکوارڈرن گائیڈز کیولری۔
دوسری سکوارڈرن پانچویں پنجاب کیولری
چوتھی پنجاب پائونیر
پہلی بنگال سفرمینا۔
تیسری بنگال کیولری۔
(افسرانِ دوم انفنٹری ڈویژن)۔
افسرانِ چہارم انفنٹری برگیڈ۔
پہلی پلٹن نارفوک رجمنٹ۔
پہلی پلٹن بیڈفورڈشایر رجمنٹ
بیسویں پنجاب انفنٹری۔

۳۸ ویں ڈوگرہ انفنٹری۔
(افسرانِ پنجم انفنٹری برگیڈ)
دوسری پلٹن کنگز رائل رائفل کور
تیسری پلٹن رائفل برگیڈ۔
پہلی پلٹن دوسری گورکھا رائفلز۔
پہلی پلٹن اُنتالیسویں گڑھوال رائفلز۔
(چھٹی انفنٹری برگیڈ کے افسران)
دوسری پلٹن پارک شایر رجمنٹ۔
پہلی پلٹن نارتھمپٹن شایر رجمنٹ
اٹھائیسویں مدراس انفنٹری۔
چوتھی انفنٹری حیدرآباد کنٹنجنٹ۔
(افسرانِ ڈویژنل افواج دوم برگیڈ انفنٹری)۔
پہلی برگیڈ ڈویژن رائل فیلڈ آرٹیلری۔
۶۷ ویں بیٹری رائل فیلڈ آرٹیلری۔
۶۹ ویں بیٹری رائل فیلڈ آرٹیلری۔
پشاور مونٹن بیٹری۔
کوئٹہ مونٹن بیٹری۔
سنٹرل انڈیا ہارس کی پہلی (کمپوزٹ) رجمنٹ۔

سنٹرل انڈیا ہارس کی دوسری (کمپوزٹ) رجمنٹ۔
(کمپوزٹ رجمنٹ پی۔ ایف۔ ایف انفنٹری)
ایک ڈبل کمپنی پہلی پی۔ آئی۔
ایک کمپنی دوسری پی۔ آئی۔
ایک ڈبل کمپنی چوتھی پی۔ آئی۔
ایک کمپنی چوتھی سکھ۔
ایک ڈبل کمپنی گائیڈز انفنٹری۔
دوسری کمپنی مدراس سفرمینا۔
(افسرانِ کور ٹروپس)
۱۰ ویں بنگال لینسرز۔
کمپوزٹ دیسی رسالہ کی رجمنٹ۔
۳۸ ویں برگیڈ ڈویژن رائل فیلڈ آرٹیلری۔
۲۴ ویں بیٹری رائل فیلڈ آرٹیلری
۳۴ ویں بیٹری رائل فیلڈ آرٹیلری۔
۷۲ ویں بیٹری رائل فیلڈ آرٹیلری۔
(رڑکی گیریزن کمپنیاں)
۷۱ ویں کمپنی رائل گیریزن آرٹیلری۔
۷۲ ویں کمپنی رائل گیریزن آرٹیلری۔

۱۰۴ ویں کمپنی رائل گیریزن آرٹیلری۔
تیسری بنگال سفرمینا۔
چوتھی بنگال سفرمینا۔
چوتھی بمبئی سفرمینا۔
بنگال سفرمینا کا غبارہ ساز اور پُل طیار کرنیوالا سیکشن۔
والنٹیر کننٹجنٹ
دو سکوارڈرن سواران والنٹیر کے۔
آٹھ کمپنیاں پیدل والنٹیر کی۔
(امپیریل سروس ٹروپس)
جنکی تصریح نہیں ہوئی۔
مندرجہ ذیل محکمہ جات بھی فوج کے ہی زیر اہتمام تھے۔
سنٹرل سپلائی ڈیپارٹمنٹ۔
بیش ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ۔
انگریزی جنرل ہسپتال۔
دیسی جنرل ہسپتال۔
آرڈیننس ڈسپنسری۔
جنگی کمپنی مکھن سازی۔
متعدد فیلڈ ہسپتال۔

(۵)

بہادرانِ ۱۸۵۷ء

یوروپین و یوروشین بہادرانِ غدر
(جو دہلی اور لکھنؤ کی مُہمات میں شریک تھے)

علاقۂ کورگ و میسور

جے سالمین سینئر آپا تھیکری مُتعلقہ ۲۷ مدراس انفنٹری حال مقیم بنگلور۔

علاقۂ بمبئی

مسٹر جیمس کرمی ایکٹنگ ڈپٹی کمشنر پولیس مقیم بمبئی۔

سارجنٹ پیٹرول کرانوی مُتعلقہ ۹۳ ویں سدرلینڈ ہائلنڈرز مقیم ضلع دہاروار۔

پنجاب

پادری ڈبلیو فرگوسن چیپلن ۷۹ ویں ہائلنڈرز مقیم چمبہ۔

کپتان جے۔ جی ڈوپر پائن مُتعلقہ ۱۶ ویں رجمنٹ ملکہ مُعظمہ مقیم جالندھر۔

لفٹنٹ جے۔ ایچ کولیٹر مُتعلقہ ۱۶ ویں رجمنٹ ملکہ مُعظمہ حال مقیم شملہ۔

کپتان۔ ڈی ڈگل۔ مُتعلقہ ۱۶ ویں رجمنٹ ملکہ مُعظمہ حال مقیم سیالکوٹ۔

پی گیٹلے سب کنڈکٹر مُتعلقہ بنگال رائل ہارس آرٹیلری مقیم ضلع دہلی۔

لفٹنٹ سی۔ ایچ ہیرس مُتعلقہ ۲۳ ویں رائل ویلش فیوزیلرز مقیم انبالہ۔

مسٹر این ڈبلیو بنکرافٹ مُتعلقہ بنگال ہارس آرٹیلری مقیم ضلع شملہ۔

کرنل اے۔ آر۔ ڈی میکنزی مُتعلقہ گائیڈس کور کیولری و ویلز پارس مقیم شملہ۔

کپتان جے۔ ایم کورٹنے۔ آئی۔ ایس۔ ایم۔ ڈی مُتعلقہ سابق ۳ یوروپین و حال ۱۰۷ رجمنٹ مقیم انبالہ۔

سارجنٹ آتھر اوون متعلقہ ۵۶ ویں پیدل مقیم لاہور۔

علاقۂ بنگال

مسٹر ایچ۔ ڈبلیو دیترال متعلقہ کمسریٹ ڈیپارٹمنٹ مقیم کملہ ضلع ٹپرا۔
میجر آر۔ پی ڈن۔ وی۔ ڈی متعلقہ ترپ اول برگیڈ بنگال ہارس آرٹلری مقیم کلکتہ

ممالک متحدہ آگرہ واودھ

میجر سی او گارمن مقیم ڈیرہ دون۔
کپتان ٹی پرائس مقیم ڈیرہ دون۔
کپتان جے۔ راجرس مقیم علیگڑھ۔
جے بیلی علمبردار فوج پیادہ مقیم علیگڑھ
کپتان سی برسکو مقیم جھانسی۔
کپتان لی مقیم نینی تال۔
کپتان ڈبلیو جے راٹلیف مقیم لکھنؤ۔
سرجن کپتان ٹینی مقیم لکھنؤ۔
ڈی جے ٹرٹیشم سیز آپاتھیکری درجہ اول متعلقہ انڈین سبارڈینیٹ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ مقیم الہ آباد۔
جے ایچ۔ اپاتھیکری درجہ اول متعلقہ انڈین سبارڈینیٹ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ مقیم الہ آباد
کارپورل پی چارلس متعلقہ سابق لاہور لائٹ ہارس مقیم بنارس۔
ای ڈس برد سنر اپاتھیکری درجہ اول متعلقہ انڈین سبارڈینیٹ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ مقیم آگرہ۔
ڈرم میجر۔ ای۔ ڈی کردز متعلقہ ۹ ویں پنجاب انفنٹری مقیم میرٹھ۔
سارجنٹ آر بائیلو متعلقہ ایف ۱۹ ویں ہسارز مقیم میرٹھ۔

ٹرپ سارجنٹ میجر ٹی۔ ہل متعلقہ ۱۹ اویں ہسارز مقیم نینی تال۔

اے گلاگھر کنڈکٹر متعلقہ آرڈیننس ڈیپارٹمنٹ مقیم کانپور۔

سینیئر اسسٹنٹ سرجن و آنریری اسسٹنٹ سرجن کپتان ایم ملز متعلقہ انڈین گارڈینیٹ ملٹری ڈیپارٹمنٹ مقیم لکھنؤ۔

سارجنٹ اپاتھکری ای ڈیل متعلقہ انڈین س۔م۔ڈ مقیم کانپور۔

سارجنٹ جے پیٹرز متعلقہ سابق لاہور لائٹ ہارس لکھنؤ۔

ایس ولسن اپاتھکری درجہ اول متعلقہ ا۔س۔م۔ڈ مقیم میرٹھ

راجپوتانہ

اے۔ ایس کلبری۔ آئی۔ ایس۔ ایم ڈپٹی اسسٹنٹ اپاتھکری مقیم بہلیرا۔

ممالک متوسط

ڈبلیو وی بیورز سب کنڈکٹر متعلقہ ملٹری ورکس مقیم کمپٹی۔

اے۔ فری گریڈ۔ ڈرم میجر ۲۷ ویں رجمنٹ مدراس انفنٹری مقیم ناگپور۔

سی آدمس بیٹری سارجنٹ متعلقہ ۲۰ ویں برگیڈ رائل آرٹلری مقیم جبلپور۔

آنریری لفٹنٹ یارڈ کر متعلقہ ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ مقیم جبلپور۔

دیسی بہادران غدر

میسور و کورگ

حوالدار پیرو مل متعلقہ کیو۔ اوسفر مینا۔

حوالدار محمد قاسم متعلقہ ۸ ویں مدراس انفنٹری

صوبیدار جوندار او متعلقہ ۴ پولس ای ف ویلز اون لائٹ کیولری۔

صوبیدار امیر حسین بہادر پہلی مدراس انفنٹری

حوالدار سلطان خان متعلقہ ۳۰ نیٹو انفنٹری

صوبیدار اسماعیل جی اسمعیل ۳ سویں نیٹو رجمنٹ

جمعدار سید حسین متعلقہ ۲ مدراس انفنٹری

صوبیدار سید محی الدین بہادر متعلقہ ۲۶ مدراس رائفلز۔
حوالدار سید ابراہیم متعلقہ ۱۶ مدراس انفنٹری
کلر حوالدار دیر اسامی متعلقہ کیو۔ او سفر مینا
حوالدار شیخ فرید۔
حوالدار یعقوب خاں متعلقہ ۲۳ رجمنٹ ر
ینیٹو انفنٹری۔

صوبہ سرحدی شمال مغرب

دفعدار محمد ایوب متعلقہ ۱۳ بنگال کیولری
رسالدار محمد اکبر خاں متعلقہ پنجاب کیولری
جمعدار غلام خاں متعلقہ ۴ پنجاب کیولری
کوٹ دفعدار لطیف علیخاں متعلقہ گائیڈ کیولری
جمعدار شاہ پسند خاں متعلقہ گائیڈ کیولری۔
کوٹ دفعدار یونس خاں متعلقہ گائیڈ کیولری۔
دفعدار مہر علی متعلقہ گائیڈ کیولری۔
کوٹ دفعدار شمس الدین متعلقہ دوسری پنجاب کیولری
صوبیدار میجر عبداللہ خاں متعلقہ ۲۶ بنگال انفنٹری۔
سردار بہادر رسالدار میجر میر عالم خاں متعلقہ ۹۔ بنگال کیولری۔
حوالدار منور متعلقہ گائیڈ انفنٹری۔
دفعدار سلطان خاں متعلقہ گائیڈ کیولری۔
حوالدار مست متعلقہ پہلی پنجاب انفنٹری۔
صوبیدار امیر خاں متعلقہ ۹ بنگال انفنٹری۔
حوالدار منیر متعلقہ گائیڈز انفنٹری۔
خان بہادر جمعدار محمد متعلقہ ۹ بنگال انفنٹری
جمعدار ابراہیم خاں متعلقہ ۱۹ بنگال انفنٹری
یہ صاحب بطور مہمان گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی بلائے گئے تھے۔
صوبیدار شاہ پسند متعلقہ ۱ بنگال انفنٹری۔
جمعدار میاں گل متعلقہ ۹ بنگال انفنٹری۔
دفعدار محمد اسلام متعلقہ گائیڈ کیولری۔
حوالدار گوجر متعلقہ پہلی پنجاب انفنٹری۔
حوالدار سرور شاہ متعلقہ ۷ بنگال انفنٹری۔
جمعدار میر افضل متعلقہ ۴ پنجاب انفنٹری۔
صوبیدار رحیم خاں متعلقہ پہلی پنجاب انفنٹری
رسالدار رب نواز خاں بدّوزئی۔
حوالدار بہرام خاں متعلقہ پہلی پنجاب انفنٹری
حوالدار سعید خاں متعلقہ پہلی پنجاب انفنٹری۔
نائیک شیر زمان متعلقہ پہلی پنجاب انفنٹری۔

حوالدار کرپالائی متعلقہ ۱۲ پنجاب انفنٹری۔

رسالدار عبداللہ خاں متعلقہ ۵ پنجاب کیولری۔

صوبیدار مظفر خاں متعلقہ ۱۲ پنجاب انفنٹری۔

صوبیدار قادر خاں متعلقہ ۱۲ پنجاب انفنٹری۔

صوبیدار الہ یار خاں متعلقہ ۵ ـ ویں پنجاب کیولری۔

رسالدار در محمد خاں بہادر کہکوانی متعلقہ پٹھان فوج بیقاعدہ بماتحتی میجر لینڈ

ممالک متحدہ آگرہ واودھ

جمعدار محمد اسمعیل متعلقہ ۳ بنگال کیولری۔

جمعدار نواب خاں متعلقہ ۳ کیولری لکھنؤ۔

رسالدار پردھان بھگونت سہائے مقیم میرٹھ۔

دفعدار گنگارام متعلقہ ۱۴ بنگال لینسرز بلندشہر

رسالدار میجر حسین علیخاں سردار بہادر متعلقہ ۷ ـ ویں بنگال کیولری علیگڑھ۔

حوالدار نوند سنگھ فیض آباد۔

نایک شیخ بخش مقیم فیض آباد۔

دفعدار گوردت سنگھ مقیم فیض آباد۔

دفعدار بختاور خاں مقیم فیض آباد۔

صوبیدار شیخ ہدایت مقیم فیض آباد۔

حوالدار بہادر گورنگ متعلقہ ۴ گورکھا رائفلز۔

جمعدار موتی رام ۵ گورکھا رائفلز۔

حوالدار جوہر سنگھ کہتری مقیم ضلع الموڑہ۔

حوالدار گمان سنگھ مروال ضلع الموڑہ۔

حوالدار موہن سنگھ ضلع الموڑہ۔

حوالدار گمان سنگھ سیسل ضلع الموڑہ۔

حوالدار گلاب سنگھ بوہرہ ضلع الموڑہ۔

نایک مان سنگھ بہرہ ضلع الموڑہ۔

حوالدار کشن بیر ضلع الموڑہ۔

حوالدار کلو ضلع الموڑہ۔

حوالدار کہما تاری ضلع الموڑہ۔

حوالدار بدہی بالا پتہ ضلع الموڑہ۔

حوالدار جیسرام اپادسیا ضلع الموڑہ۔

حوالدار آسا سنگھ چنائی ضلع الموڑہ۔

نایک ناہر سنگھ جیوتشی ضلع الموڑہ۔

حوالدار کشن سنگھ ضلع الموڑہ۔

صوبیدار پرتاب سنگھ ۳ گورکھا رائفلز۔

حوالدار وزیر سنگھ تہاپا ۳ گورکھا رائفلز۔

نایک کلیان سنگھ متعلقہ ۱۰ برگیڈ رائل آرٹلری

رسالدار محمد نور خاں متعلقہ ۷ بنگال کیولری۔

جمعدار امین اللہ خاں متعلقہ ۳ بنگال کیولری

صوبیدار رام ندلواری متعلقہ ۴۲ نیٹو انفنٹری۔
صوبیدار میجر شیودا س سنگھ متعلقہ ۷ نیٹو انفنٹری
صوبیدار میجر مولی میگی سردار بہادر آنریری کپتان متعلقہ ۳۹۔ گڑھوال رائفلز۔
حوالدار جانکی پرشاد متعلقہ بارہ بنکی پولیس
دفعدار امیر خاں کور اوف گائڈز۔
دفعدار شیر محمد متعلقہ ۷ ابنگال کیولری
حوالدار میسو تھاپہ ۳۔ گورکھا رائفلز۔
حوالدار جوہر سنگھ متعلقہ ۳۔ گورکھا رائفلز
نایک بہوہت رانا متعلقہ ۲۔ گورکھا رائفلز
حوالدار رکبیر ناگر کوٹی متعلقہ ۲۔ گورکھا رائفلز
حوالدار سنگھ رام رانا متعلقہ ۴۔ گورکھا رائفلز۔
حوالدار نہتو بشت متعلقہ ۳۔ گورکھا رائفلز۔
حوالدار سنگھبیر کہتری متعلقہ ۵۔ گورکھا رائفلز
حوالدار دہنبیر لوہار متعلقہ ۴۔ گورکھا رائفلز
حوالدار رگہوبیر رانا متعلقہ ۲۔ گورکھا رائفلز
حوالدار دہنبیر گرون متعلقہ ۴۔ گورکھا رائفلز۔
بگل میجر نندو ڈامی متعلقہ ۲۔ گورکھا رائفلز
صوبیدار موہن سنگھ مہر متعلقہ ۴۔ گورکھا رائفلز۔
حوالدار امر سنگھ راوت متعلقہ ۴۔ گورکھا رائفلز۔
صوبیدار رامی رام کہاگائے متعلقہ ۴۔ گورکھا رائفلز

حوالدار پہیر تھاپا متعلقہ ۴۔ گورکھا رائفلز
حوالدار سنگھ بیر اگی متعلقہ ۴۔ گورکھا رائفلز
صوبیدار دہن بیر متعلقہ کور اوف گائڈز
حوالدار مکتی رام متعلقہ گورکھا رائفلز
صوبیدار دھابیر چانکسی متعلقہ ۱ گورکھا رائفلز
صوبیدار رام غلام متعلقہ بنگال سفر مینا۔
جمعدار بدری بن متعلقہ کور آف گائڈز۔
دفعدار جواہر سنگھ متعلقہ ۱۸۔ بنگال کیولری
نایک چندر سنگھ متعلقہ ۳۔ گورکھا۔
نایک سوبہا متعلقہ ۴۴۔ نیٹو انفنٹری۔
حوالدار پورن دوبے متعلقہ ۱۴ بنگال انفنٹری
صوبیدار رام سرن سنگھ متعلقہ ۱۶ نیٹو انفنٹری
حوالدار جگن ناتھ پانڈے متعلقہ پہلی ودہ فوج بنگالہ
حوالدار پنجاب تیواری متعلقہ ۱۶ نیٹو انفنٹری۔
نایک گوردہن سنگھ متعلقہ ۴۴ نیٹو انفنٹری۔
جمعدار بہوانی سنگھ متعلقہ ۱۶ نیٹو انفنٹری
صوبیدار میجر بلدیو پاٹھک متعلقہ ۱۴ نیٹو انفنٹری
نایک گیان سنگھ متعلقہ ۳۔ گورکھا رجمنٹ۔
جمعدار جگت رام متعلقہ ۳۔ گورکھا رجمنٹ۔
حوالدار جیون سنگھ متعلقہ ۳۔ گورکھا رجمنٹ۔
سردار بہادر صوبیدار میجر جوت سنگھ کھتری متعلقہ ۱۴ بنگال انفنٹری

حوالدار لچھمن متعلقہ ۳۔ گورکھا رائفلز۔

نائیک وصلی خاں متعلقہ ۲۲۔ بمبر گنڈر ائل آرٹیلری کانپور۔

نائیک امراؤ سنگھ متعلقہ سفر مینا کانپور۔

دفعدار بلدیو سنگھ متعلقہ ۱ بنگال لینسر کانپور

صوبیدار کاشی رام متعلقہ ارڈنینس ڈیپارٹمنٹ کانپور۔

دفعدار ہتورا سنگھ متعلقہ ۵ بنگال کیولری

دفعدار آصف الدولہ خاں متعلقہ ۱۲ بنگال کیولری۔ فرخ آباد۔

حوالدار موتی متعلقہ ۱۴ نیٹو انفنٹری

صوبیدار میجر ہندو ۳ بنگال انفنٹری۔

رسالدار نواب خاں متعلقہ ۶ بنگال کیولری

سردار بہادر رسالدار میجر متھورا سنگھ متعلقہ ۶۔ بنگال کیولری۔ فرخ آباد۔

دفعدار سیر اپرشاد سنگھ لیس متعلقہ ۶۔ بنگال کیولری ضلع فرخ آباد۔

صوبیدار اجودھیا پٹیک متعلقہ بنگال سفر مینا ساکن ضلع رائے بریلی۔

نائیک پنچم متعلقہ بنگال سفر مینا۔ ناگپور۔

مدراس

سردار یعقوب خاں۔ چوتھی پرنس اوف ویلز اون کوئیلری بلاری۔

نائیک قادر شریف۔ چوتھی پرنس اوف ویلز اون کوئیلری بلاری۔

حوالدار گوبند رائے۔ چوتھی پرنس اوف ویلز اون کوئیلری بلاری۔

حوالدار میجر محمد وزیر چوتھی مدراس کوئیلری بلاری۔

حوالدار سید عبداللہ چوبیسویں نیٹو انفنٹری چنگلپٹ۔

آنریری منشی فسٹ گریڈ ہاسپٹل اسسٹنٹ پندرھویں مدراس انفنٹری چنگلپٹ۔

صوبیدار سید الٰہی اُنیسویں مدراس انفنٹری۔ الور۔

حوالدار جمیل خاں ۳۴ ویں مدراس انفنٹری الور۔

حوالدار لچھمی ۲۲ ویں مدراس انفنٹری الور۔

حوالدار سید قادر ۲۴ ویں مدراس انفنٹری الور۔

حوالدار عظیم الدین ۲۶ ویں مدراس انفنٹری الور۔

صوبیدار مُراد خاں ساکن مدراس۔
صوبیدار شیخ حسین ۲۷ ویں مدراس انفنٹری مدراس۔
نائیک کشنا سوامی ۲۷ ویں مدراس انفنٹری مدورا۔
حوالدار عثمان خاں ۲۷ ویں مدراس انفنٹری نلور۔
صوبیدار سید عباس بہادر ۵ ویں لائیٹ کیولری شمالی ارکاٹ۔
حوالدار جلال شریف ۱۶ ویں مدراس انفنٹری سالم۔

صوبیدار الٰہی بیگ ۱۲ ویں مدراس انفنٹری سالم۔
حوالدار فضل بیگ ۱۶ ویں مدراس انفنٹری سالم۔
حوالدار شیخ عبداللہ ۱۷ ویں مدراس انفنٹری تنجور۔
صوبیدار محمد صاحب ۱۷ ویں مدراس انفنٹری تنجور۔
حوالدار وِنیکا سوامی ٹینی ویلی۔
جمعدار شیخ قادر ۲۷ ویں مدراس انفنٹری ضلع ویلور۔

بنگال

رسالدار لال ورسنگھ شاہ آباد۔

بمبئی

جمعدار ارجن دیوی ۱۲۴ ویں بلوچ انفنٹری ساکن ریاست ساونت واڑی۔
حوالدار گوبند ہری کنوار کر ۱۱۴ ویں نیٹو انفنٹری رتنا گرہی۔
حوالدار سری پتراس رگیوجی راؤ کھڈا نی رتنا گرہی۔

حوالدار گوبند دیاجی منجریکر ۱۱۰ ویں رجمنٹ رتنا گرہی۔
صوبیدار میجر بابو خاں کیچی خاں ۱۲۷ ویں بمبئی انفنٹری حیدرآباد سندھ
صوبیدار میجر اسلام شاہ ۱۲۷ ویں بمبئی انفنٹری کراچی۔

راجپوتانہ

خان بہادر الٰہی بخش ہاسپٹل اسسٹنٹ اجمیر
نائیک جودھ سنگھ ۱۳ ویں بنگال انفنٹری الور

نائیک ہیت رام پہلی بنگال انفنٹری الور
دفعدار پنچ سنگھ دوسری پنجاب کیولری الور

سنٹرل انڈیا

وردی میجر شیخ شبراتی بہادر گونا۔

پنجاب

رسالدار میجر خان بہادر محمد عبدالقادر ۷ ویں بیقاعدہ کیولری گورگانوں۔
رسالدار رحمت خاں ۷ ویں بنگال کیولری کنجپورہ کرنال۔
دفعدار محمد علیشاہ متعلقہ رجمنٹ نواب جانفشانخان مرحوم کابل مقیم کرنال
دفعدار محمد نادر شاہ ۱۰ ویں بنگال کیولری کرنال
رسالدار محمد امیر دوسری بنگال کیولری جھجر ضلع رہتک۔
حوالدار پنجاب سنگھ دوسری رجمنٹ ضلع انبالہ۔
حوالدار گنگا سنگھ رجمنٹ ۱۵ ضلع ہوشیارپور۔
حوالدار بکرماں سنگھ رجمنٹ نمبر ۳۰ ضلع ہوشیارپور۔

صوبیدار روز یر سنگھ پہلی گورکھا رائیفل نمبر ۱ دہرم سالہ کانگڑہ۔
صوبیدار بھیم سنگھ پہلی گورکھا رائیفل نمبر ۲ دہرم سالہ کانگڑہ۔
جمعدار پنج بیر پہلی گورکھا رائیفل نمبر ۱ دہرم سالہ کانگڑہ۔
صوبیدار بہادر پہلی گورکھا رائیفل نمبر ۱ دہرم سالہ کانگڑہ۔
جمعدار سوبہا سنگھ ۳۲ ویں پنجاب انفنٹری ضلع لدھیانہ۔
محمد عثمان غنی ہاسپٹل اسسٹنٹ گورکھا رائیفل فیروزپور چھاونی۔
جمعدار مہدی خاں سابق دوسری سنٹرل انڈیا ہارس حال ۱۹ ویں بنگال لینسرز جہلم۔
صوبیدار بہادر مولچند گائیڈز کیولری ضلع جہلم

دفعدار بخش خاں شاہ پور۔
دفعدار الٰہ بخش خاں پندرھویں ملتانز
بنگال کیولری مظفر گڑھ۔
سردار بہادر صوبیدار جیون سنگھ
چوتھی پنجاب سکھ انفنٹری سیالکوٹ
سردار بہادر صوبیدار
جیون سنگھ چوتھی پنجاب سکھ
انفنٹری سیالکوٹ۔
کلر حوالدار روڑے خاں ۷ ادیں بنگال
انفنٹری کوٹلہ سیداں امرتسر۔
حوالدار جیٹھا سنگھ دوسری سکھ
انفنٹری امرتسر
دفعدار دتا خاں ۹ بنگال کیولری
گورداسپور۔
حوالدار لبھا سنگھ چوتھی رجمنٹ
پٹیالہ۔
حوالدار پریم سنگھ دوسری رجمنٹ
پٹیالہ۔
دفعدار رمضان خاں پہلی پنجاب
کیولری جیند
دفعدار سہدار بیگ ۸ ویں
بنگال کیولری جیند۔
جمعدار کشن سہائے ریاستی رجمنٹ
نابھہ۔
دفعدار بیگ راج رجمنٹ نمبر ۹
ہرلیسن ہارس نابھہ۔
حوالدار جیوا سنگھ ۱۴ بنگال انفنٹری
نابھہ۔
دفعدار ہرنام سنگھ ۱۰ کیولری
کپورتھلہ۔
جمعدار بیر سنگھ ۵۔ انفنٹری کمپنی
نمبر ۳۔ کپورتھلہ
صوبیدار چنتا سنگھ پہلی پنجاب
انفنٹری کپورتھلہ۔
حوالدار دسوندا سنگھ
کپورتھلہ۔
سردار بہادر رسالدار میجر
میر واجد علی رجمنٹ نمبر ۲ رسالہ
باقاعدہ پاٹودی۔
دفعدار امید حسین رجمنٹ نمبر ۲۱
رسالہ باقاعدہ پاٹودی۔

فصل دوم

فرمانروا و امرائے سلطنت آصفیہ

(الف)

اعلیحضرت آصفجاہ مظفر الممالک نظام الملک نظام الدولہ رستم دوران افلاطون زمان میر محبوب علیخان بہادر فتح جنگ جی سی ایس آئی جی سی بی فرمانروائے سادس سلطنت آصفیہ خلد اللہ ملکہ و حکمہ

ہز ہائینس کی ولادت باسعادت ۱۸۶۶ء کی ہے اور آپ اس عظیم الشان سلطنت کے چھٹے تاجدار ہیں جسکا مجموعی رقبہ قریب ایک لاکھ مربع میل کے اور آمدنی خالصہ علاوہ از جاگیرات اندازاً ۳ کروڑ سالانہ کہی جاتی ہے۔ ہز ہائینس کی عمر صرف تین سال کی تھی جبکہ آپکے نامور والد کا انتقال ہوگیا۔ اور آپ سلطنت آصفیہ کے واحد مالک تسلیم کئے گئے۔

آپکی تعلیم و تربیت جس شائستہ اہتمام کیساتھ چاہئے تھی اسمیں کبھی کوتاہی نہیں ہوئی جسکا نتیجہ یہ ہے کہ اسوقت بفضل خدا اعلیحضرت علوم متعارفہ عربی و فارسی و انگریزی میں کافی مہارت رکھنے کے علاوہ صنائع نظم کے بھی پورے پورے ماہر ہیں جو ایک مشکل فن ہے۔ اسکے علاوہ سواری شکار و کرکٹ وغیرہ مردانہ کھیلوں میں بھی آپکو بخوبی مشاق کیا جا چکا ہے پہلے پہل ۱۱ برس کی عمر میں آپ دربار قیصری کی شمولیت کیلئے ۱۸۷۷ء میں دہلی تشریف لیگئے۔ جب آپنے سولہویں سال میں قدم رکھا تو سالار جنگ مرحوم نے آپکو سلطنتی کاروبار سے واقف کرانا

۱؎ اس وقت سر سالار جنگ اول کی مدار المہامی کا زمانہ تھا جو بوجہ ہز ہائینس کی نابالغی کے بشراکت نواب شمس الامرا امیر کبیر بہادر ریجنٹ بھی مقرر کئے گئے تھے۔ اور بعد میں ۱۸۷۷ء میں نواب امیر کبیر شمس الامرا کے بعد وہی مستقل طور پر ریجنٹ ہو گئے تھے۔ ۱۲

۲؎ نواب سر سالار جنگ بہادر نے آپ کی تعلیم کے لئے اعلےٰ سے اعلےٰ قابلیت اور اوصاف کے اتالیق منتخب کئے تھے۔ جن میں مولوی محمد مسیح الزماں خان صاحب جو ناموری فضل اجل عربی و فارسی کے ادیب تھے اور کپتان جان کلارک صاحب کے اتالیق۔ ۱۲

شروع کر دیا پہلے پہل صرفخاص کے معاملات اور پھر بالعموم سلطنتی مسائل آپ کے حضور میں پیش ہونے لگے اور پھر آپ نے تمام ریاست کا دورہ بھی نہایت تحقیق و محنت کے ساتھ کرایا گیا چنانچہ اس دورہ میں سر سالار جنگ خود بھی ہمرکاب سعادت انتساب کے تھے کیونکہ اس فرزانہ وزیر کی دلی خواہش یہ تھی کہ اُسکا آقا نہ صرف سلطنت دکن کا ہی فرمانروا ہونیوالا ہے بلکہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کا مایہ ناز داعیہ گاہ ہو۔ ہر طرح کے علم و عمل اور تمام اعلےٰ قابلیتوں سے آراستہ و پیراستہ ہوکر حکمرانی کرے۔ چنانچہ انکی یہ خواہش تو بخوبی پوری ہوگئی مگر اُن کو اپنے نہایت آقا کے ایام حکمرانی تک زندہ رہنا نصیب نہ ہوا۔ اور ۲۸ فروری ۱۸۸۳ء کو دورہ ریاست سے واپس ہوتے ہی اُس ہندوستان کے مشہور مدبر نے نہایت سفر آخرت کر دیا جنکی انتقال پر گورنمنٹ کے منشاء سے مرحوم کے فرزند ارجمند میر لائق علیخان سالار جنگ ثانی اور راجہ نرندر پرشاد بہادر متفقہ منتظم مقرر کئے گئے۔ اور انتظام سلطنت ایک ایسی کونسل کے ہاتھ میں دیا گیا جسکے صدر خود اعلیحضرت۔ سکرٹری میر لائق علیخاں بہادر اور ممبران۔ راجہ نرندر پرشاد و نواب شمس الامراء بہادر تھے۔

دسمبر ۱۸۸۳ء میں اعلیحضرت نے کلکتہ تشریف لیجاکر نواب وائسرائے سے ملاقات فرمائی۔ اور نیز اُس نمائش کا ملاحظہ کیا جو اُن دنوں وہاں نہایت اہتمام سے منعقد کی گئی تھی۔ اور اسمیں سے تین لاکھ کا سامان بھی حضور نے پسند کرکے خرید فرمایا۔ انہیں ایام میں گورنمنٹ کیطرف سے آپ کو اطلاع دی گئی کہ ۵ فروری ۱۸۸۴ء کو گورنمنٹ آپکو باضابطہ خود مختار کرنے کی رسم ادا کریگی۔ چنانچہ اس مبارک رسم کی ادائیگی کے لئے ہز ہائینس کی خواہش کے مطابق خود لارڈ رپن بہادر وائسرائے ہند نے حیدرآباد پہونچنا منظور کیا اور جب حسب قرارداد ۱۵ فروری ۱۸۸۴ء کو ہز ایکسلنسی لارڈ رپن بہادر رونق افروز حیدرآباد ہوئے۔ تو چونکہ آپ پہلے وائسرائے تھے جو سرزمین حیدرآباد میں تشریف لے گئے تھے اسلئے حضور نظام معہ اپنے معزز اور [illegible] کے بنفس نفیس آپکے استقبال کو سٹیشن پر موجود تھے۔ اور چونکہ صاحب موصوف

ہندوستان کی تاریخ میں ایک مشہور مسلّمہ ہر دلعزیز اور نامور وائسرای ہونے کے علاوہ حضور
کی تخت نشینی کی مُبارک رسم کی ادائگی کو تشریف لے گئے تھے اسلئے ریاست اور رعایا نے بھی
انکی رونق افروزی بمید خلوص و مسرت کا اظہار کیا۔ حیدرآباد جو ہندوستان کے مشہور قابل
دید مقامات میں سے ایک نہایت ہی دلکش مقام ہے اُن دنوں خاصکر ایسا قابل دید ہوگیا تھا کہ جسکی
تعریف سے اخبارات اور تاریخیں پُر ہیں تمام بڑے بڑے اعیان و اکابرین گورنمنٹ مثلاً کمانڈر انچیف
ہند کمانڈر انچیف مدراس اور گورنر مدراس وغیرہ وغیرہ سب ہاں موجود تھے اور مسرت و شادمانی کا
دریا بہہ رہا تھا مسند نشینی کے روز سعید کی شان و شوکت کا کیا کہنا ہے کہ جشن شہر اور بارہ محل کی
آرائیش و زیبائش کے سوا اہل رعایا کے فرحان و شاداں چہرے خود بخود اُنکے دلی خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔
القصہ ۵ فروری ۱۸۸۴ء کو ہز ایکسیلینسی لارڈ رپن بہادر بالقابہ نے موسٹاف ایوان شاہی
میں تشریف لیجا کر اعلیحضرت کو نہایت خلوص و محبت اور الفاظ مسرت و شادمانی کیساتھ تخت
نشین فرمایا اور حضور نے بھی تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوکر ایک نہایت عمدہ تقریر سے حاضرین
کو مسرور کیا اور پھر تمام اعلے افسران انگریزی اور معززین ریاست نے مبارکبادیں عرض کیں جسپر بہت لطف

۱؎ لارڈ رپن بہادر نے جو تقریر اس موقع پر کی تھی اُسکا پورا ترجمہ تو طوالت کی باعث درج نہیں ہوسکتا مگر خلاصہ یہ کہ آپنے
فرمایا "مجھے اس تقریب جلیل کی شرکت سے جو خوشی ہوئی ہے وہ میری حد بیان سے باہر ہے آپکے ایام طفولیت میں جو مشہور
مدبر (سر سالار جنگ اول) کاروبار ریاست کا کفیل رہا ہے اسکی بائستہ و شائستہ خدمات غالباً ابھی مخفی نہیں ہوسکتیں
اگر وہ اسوقت زندہ و موجود ہوتا تو آپکے اُسکی بیش بہا امدادیں ملتیں مگر افسوس کہ قدرت کو یہ منظور نہ تھا اب
میں آپکو دوستانہ اور مخلصانہ چند نصائح کرتا ہوں اور وہ یہ کہ جو امیدیں آپ کی عمدہ قابلیتوں کو دیکھتے ہوئے
آپکی رعایا اور گورنمنٹ انگلشیہ کر رہے ہیں انہیں نہایت عمدگی کیساتھ پورا کرنے پر توجہ فرمائیے۔ بیشک آپ
نوجوان ہیں اور حکومت و دولت بھی ملی لیکن سب کچھ ہی ہے مگر آپ ایک تجربہ کار حکمران کیطرح جانفشانی
کرنے اور امور ریاست کیطرف متوجہ ہوکر نام نیک پیدا کیجیے۔ مالگذاری کا بہترین انتظام مناسب اور منصفانہ ٹیکس کا اجرا
اور اسکی بیجا اخراجات کا مسئلہ کفایت شعاری سے حل کرنا۔ آئین و عدالت کی کماحقہ نگرانی رکھنا اور ارکان ریاست میں
ایسے اشخاص کا انتخاب کرنا جو واقعی ایسی ذمہ داری کے عہدوں کے لائق ہوں اگر [illegible] اور رعایا کو وفادار بنانا ہو اور
مجھے کامل امید ہے کہ ان جواہر زواہر درخشاں کو حصول میں آپ ہمیشہ کامیاب ہونگے اور یہ آپ کو ایک نامور باپ [illegible]
برابر اقبالمند اور نامور کریگی۔ میں آپکو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے امور میں گورنمنٹ انگلشیہ آپ چاہیں گے تو [illegible]
[illegible] میں خلوص دل سے دعا کرتا ہوں۔ کہ خدا آپکو یہ لمحہ گھڑی مبارک کرے [illegible]
ہو۔ آپکی حکومت کو [illegible] کرے کہ آپکی خدا رعایا اور ملک کی خوشحالی [illegible]
[illegible]
[illegible] میں آپکو یقین دلاتا ہوں [illegible]
[illegible] بلحاظ [illegible] سے کام [illegible]

اور مسرت انگیز دربار برخاست ہوا شام کو تمام شہر میں نہایت ہی اعلےٰ اہتمام کیساتھ روشنی کیگئی اور حضور وائسرائے کو حضور کیطرف سے ایک ایسی شاندار دعوت دی گئی کہ غالباً تاریخ میں خاص امتیاز رکھتی ہے جسکا خود لارڈ ممدوح نے بھی کھلے لفظوں میں اعتراف فرمایا ہے۔

بہرحال زمام حکومت کو اپنے دستِ مبارک میں لینے کے بعد اعلیحضرت نے اپنی مسند نشینی اور خیالات کا اظہار تمام کارکنوں اور اہل رعایا پر ایک اعلان کے ذریعہ نہایت وضاحت سے فرما دیا۔ اور کاروبار ریاست نہایت توجہ اور قابلیت سے انجام دینے لگ گئے۔ ۵ فروری ۱۸۸۴ء کو ملکہ معظمہ کیطرف سے بتوسط وائسرائے و وساطت پریذیڈنٹ بہادر آپکو گرانڈ کمانڈر آف دی اسٹار آف انڈیا کا خطاب دیا گیا۔

آپکا عہد دولت ملک کے لئے واقعی طور پر ابر رحمت ثابت ہوا ہے۔ روئی اور پارچہ کی کلیں۔ ریشم سوت اور شال کی کارخانے نیل اور آٹے کی چکیاں اکثر آپ ہی کے عہد دولت میں جاری ہوئیں۔ حیدرآباد و رنگل ریلوے اور کئی ایک دوسری عالی قدر اور قیمتی چیزیں آپ ہی کے وقت میں جاری ہوئیں آبپاشی کے ذریعہ کو بھی آپکے مبارک زمانہ میں بخوبی وسعت دی گئی۔ تعلیم کی اشاعت سے بھی جس عالی ہمتی کیساتھ آپکے عہد میں ہوئی ہے۔ اُس کا نظیر ملنا مشکل ہے۔ وجہ یہ کہ ہر ایک مفید عام کام میں اعلیحضرت بذات خاص فیاضی سے حصہ لینے کے عادی ہیں۔ ۱۸۹۳ء میں آپنے ایک قانونچہ جاری فرمایا جسکے رو سے دو اعلےٰ کونسلیں مقرر کی گئیں ایک کیبنٹ کونسل اور دوسری لیجسلیٹو کونسل جسکے پریزیڈنٹ مدارالمہام اور ممبران میں دو اوّل درجہ کے جاگیردار دو اوّل درجہ کے وکلا اور دو اعلےٰ پوزیشن کے تاجر ہوتے ہیں۔ اسی قانونچہ مبارک کے ذریعہ ہر ایک صیغہ کو علیحدہ علیحدہ سکریٹری کی تفویض کیگئی غرضکہ کاروبار سلطنت ایک نہایت شائستہ ضابطہ میں منضبط کر دئے گئے۔

گورنمنٹ انگلشیہ کی دوستی اور وفاداری میں بھی جو نمایاں کام آپنے کئے ہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہیں پہلے پہل ۱۸۸۲ء میں جنگ مصر میں سرکاری خدمت کیلئے جانے کی آپنے درخواست فرمائی اور اسیطرح افغانستان و برہما وغیرہ کیلئے بھی وہ دلی رغبت سے درخواست امداد کرتے رہے بلکہ برہما میں آپکی رجمنٹیں اچھا کام بھی دیتی رہیں۔ شمال و مغربی سرحد کے استحکام کے لئے جن دنوں روسی حملہ کا اندیشہ

لگ رہا تھا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے ساٹھ لاکھ روپیہ نقد گورنمنٹ کو پیش کرنے اور بوقت ضرورت بذات خود جنگ میں شریک ہونیکی درخواست کی جسسے آپکی وفاداری کی نہ صرف ہندوستان بلکہ یوروپ میں بھی دھوم مچگئی۔ اور انہیں سے متاثر ہوکے دوسرے والیان ریاست ہند نے بھی گورنمنٹ کو بقدر طاقت خود معقول امدادیں دیں۔ جن سب کے لئے حضور ہی کی ذات گورنمنٹ کو خاص شکریہ کی مستحق ہوسکتی ہے۔ ملکہ متوفیہ کی الماسی جوبلی کی تقریب میں جس خلوص کیساتھ آپنے اپنی سلطنت میں اظہار مسرت کے احکام نافذ فرمائے۔ اور ملکہ کے حضور میں بھی اپنی طرف سے نواب سر آسمان جاہ بہادر و نواب ظفر جنگ شمس الملک بہادر کو بطور نائب بھیجکر اظہار وفاداری کیا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔

اعلیحضرت کی تخت نشینی کے زمانہ سے قریباً تمام وائسرائے یعنے لارڈ رپن۔ لارڈ ڈفرن۔ لارڈ لینس ڈاون۔ لارڈ ایلگن۔ اور حتی کہ ہز اکسیلنسی لارڈ کرزن سب حیدرآباد جاتے رہے ہیں۔ انکے علاوہ ڈیوک اور ڈچس اوف کناٹ پرنس البرٹ وکٹر آنجہانی۔ موجودہ زار روس۔ آسٹریا کے پرنس۔ ڈنمارک کے ولیعہد۔ ولیعہد یونان۔ شہزادہ سیام وغیرہ سب آپکی مہمانداری کے لطف اٹھا چکے ہیں دربار دہلی میں جس شخص کی موجودگی تمام مہمانوں کی عزت افزائی اور فخر کا باعث تھی وہ بھی آپ ہی کی ذات تھی۔

آپ کے عہد دولت میں پہلے میر لائق علیخان مدار المہام ریاست تھے۔ پھر آپنے نواب سر آسمانجاہ بہادر کو مدار المہام مقرر فرمایا۔ اور ان کے بعد نواب وقار الامراء مدار المہام ہوئے جو آخر میں رخصت پر بھیجے گئے تو انکی جگہ مہاراجہ کشن پرشاد بہادر پیشکار وزیر افواج بطور قائمقام کام کرتے رہے اور پھر سر وقار الامرا بہادر کے انتقال پر سال گذشتہ میں یہی صاحب مستقل مدار المہام فرمائے گئے ہز اکسیلنسی اعلیٰ درجہ کے مدبر۔ عالی دماغ۔ مستقل مزاج۔ نرم دل۔ فیاض۔ خلیق اور خوش مزاج فرمانروا ہیں اور نہایت لیاقت سے مہمات ریاست کو انجام دیتے ہیں۔

صرف خاص کی آمدنی جسکی تعداد اندازاً ایک کروڑ روپیہ سالانہ ہے وہ آپکے پرائیوٹ

اخراجات سٹاف پر خرچ ہوتی ہی جسکی شان و شوکت یورپ کے بڑے بڑے تاجداروں سے بھی کسیطرح کم نہیں۔ آپکے اصطبل میں اعلےٰ سے اعلےٰ قیمتی گھوڑے موجود ہیں اور چونکہ شکاری کتوں سے بھی کام لینے کا شوق ہی اسلیئے نہایت قیمتی اور منتخب کتے بھی آپکے ہاں پائے جاتے ہیں۔

بقول گلمز اوف نظام فوج اٹھائیس ہزار اور اُسکا سالانہ خرچ ستر لاکھ روپیہ ہے پولیس میں ایک کوتوال دو معاون ۲۴ - آفیسر ۲۵۰۳ کنسٹبل ۴۹ سوار ۸۱۲ عرب کام کرتے ہیں۔ کل مردم شماری اگرچہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ سینتیس ہزار چالیس نفر کی ہے مگر جاگیرات اور اراضی خاص کو خارج کرکے ۵۰۸۰۳ مربع میل کی وسعت میں ۴۰۸۶ شہر و قصبات ہیں جنکی آبادی ۸۲۱۷۱۲۷ ہی جن میں سے مرد و عورت قریباً نصف نصف ہیں۔ ہر سال انکی تعلیم کے لئے نظام گورنمنٹ چھ لاکھ روپیہ صرف کرتی ہی۔ مدارس کی تعداد ۱۷۵۳ اور طلباء کی تعداد ۵۲۹۰۱ ہے۔ علاوہ ازیں تربیت یافتہ خاندانوں کی طلباء سرکاری خرچ پر ولایت بھی بھیجے جاتے ہیں۔

خاص شہر حیدرآباد کا دور چھ میل ہی جو سطح سمندر سے ۱۷۰۰ فیٹ بلند ہی۔ یہ شہر مدراس سے ۳۸۹ میل بمبئی سے ۴۴۹ اور کلکتہ سے ۹۶۲ کے فاصلہ پر ہے ہندوستان کی گذشتہ شان و شوکت کی یادگار اگر کوئی شہر کہا جا سکتا ہی تو غالباً اسوقت حیدرآباد ہی ہی۔ آپکے علاوہ دوسرے میڈیکل پریکٹیشنروں کے سنہ ۱۹۰۳ء میں سرکاری دس شفاخانے تھے جن میں ۵۶۵۰۱۱ خارجی ۲۲۰۰۷۷ داخلی مریض تھے اور جراحی کے ۳۴۵۵ بڑے کام اور ۳۰۲۱ چھوٹے کام عمل میں آئے تھے باقی اضلاع میں ۶۸ بڑے شفاخانے ہیں جنسے بیشمار مریضوں کو امداد ملتی ہے۔

عورتوں کی طبی تعلیم اور دائیوں کی تربیت میں بھی آپکے عہد میں بڑی توجہ ہوئی اور ریاست کے اکثر مشہور مقامات میں ایسے دواخانے اور زنانخانے نظام گورنمنٹ کی فیاضانہ عطیات سے اچھی کامیابی کیساتھ جاری ہو چکے ہیں۔

اعلےٰ حضرت کو سیر و شکار کا بھی شوق ہی جسکے لئے پایۂ تخت کے قریب بہت سے ایسے مقامات محفوظ ہیں جہاں ہرن اور دوسرے شکاری پرند کثرت سے موجود رہتے ہیں۔

ہز ہائینس اکثر شیر کا شکار فرماتے ہیں اور موسم گرما کا کچھ حصہ تپھال جنگل میں بسر کرتے ہیں۔

دربار دہلی پر حضور کو جی سی بی کا معزز شاہی برطانوی اعزاز دیا گیا ہی جو سوائی آپکے برٹش انڈیا میں کسی دیسی رئیس کو حاصل نہیں اور اسی دربار میں مدار المہام سلطنت کو کے سی آئی ای اور مسٹر فرید ونجی پرائیوٹ سکرٹری مدار المہام سرکار عالی کو سی آئی ای کے خطابات عطا ہوئے ہیں۔

اعلیحضرت کا درجہ سب رئیسان ہند میں اول نمبر پر ہی۔ گورنمنٹ کا گو ایک رزیڈنٹ حیدرآباد میں تقرر ہی مگر سلطنت خودمختار تسلیم کیگئی ہی۔ اکیس توپ کی سلامی مقرر ہی اور گو تمام ہندوستان میں آپکا نام نہایت عزت و تعظیم سے لیا جاتا ہی مگر رعایائے دکن میں آپ بوجہ اپنی عدل و انصاف کے اسقدر ہر دلعزیز ہیں کہ اسکی محبت عشق کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہی جسکا اظہار وہ آپ کی سالگرہ مبارک کی تقریبات اور مراجعت و معاودت کی مواقعات پر بغیر کسی تحریک کے خود بخود کرتی رہتی ہے چنانچہ ابھی جب آپ بخیر و عافیت دربار دہلی سی مراجعت فرمائے دکن ہوئے تو وفادار رعایا نے نہایت ہی خلوص تپاک سے آپکا استقبال کیا حتّی کہ حضور کی گاڑی کی گھوڑے کھولکر اپنے کندھوں سے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اور اسی وجہ سے آپنے مثل بعض دوسری رؤسا کے سفر یورپ اختیار نہیں فرمایا کہ وفادار رعایا آپ کی مفارقت کو گوارا نہیں کرتی۔

ہز ہائینس کا دربار اگرچہ ہر کس و ناکس کے لئے کشادہ نہیں ہی مگر پھر بھی افراد رعایا اور دیگر ایسے لوگوں سے جنکی حضوری ضروری ہو آپ نہایت کشادہ دلی سے ملتے ہیں۔

بہرحال اعلیحضرت نے عدل و انصاف اور رحم و بخشش کیساتھ حکومت کرنے کا جو وعدہ مسند نشینی کیوقت فرمایا تھا۔ اسکو نہایت فیاضی سے پورا فرمایا ہے جسکے لئے ہر وقت لوگ ان کو حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اللھم متع المسلمین بطول بقائہ۔

(ب)

عالیجناب صاحبزادہ میر عثمان علی خاں بہادر بالقابہٗ ولیعہد دولت آصفیہ دام اقبالہم

عالیجناب صاحبزادہ بہادر حضور نظام کے بڑے فرزند دلبند اور ولیعہد سلطنت ہیں اور اس سفر میں بھی آپ کے رکاب سعادت انتساب کے ساتھ شریک تھے۔ آپ کا سن مبارک گو ابھی بلوغت کو نہیں پہونچا۔ مگر علوم مروجہ میں آپ کو بہت اچھی دستگاہ حاصل ہے اور ابھی تک سلسلۂ تعلیم بھی پوری احتیاط کے ساتھ جاری ہے۔ دربار تاجپوشی اور افتتاح نمائش وغیرہ کی تقریبات میں آپ بھی برابر حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ان کے دیدار فرحت آثار سے لوگوں کو کمال مسرت حاصل ہوتی تھی۔ سعدی رحمۃ اللہ کا یہ شعر کہ

بالائے سرش ز ہوشمندی
می‌تافت ستارۂ بلندی

آپ کے بالکل حسب حال ہے کیونکہ آثارِ اقبال آپ کے چہرۂ مبارک سے صاف صاف روشن ہیں۔ اس سفر میں چونکہ آپ حضور کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ اس لئے اُمید ہے کہ مختلف اقطاع کی سیر اور اقوام کے طریق تمدن و معاشرت کے مطالعہ سے آپ ایک ایسا اچھا ذخیرہ معلومات اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ جس کی ایک ہونے والے حکمران کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بہر حال دُعا ہے کہ حق سبحانہ تعالےٰ شانہ صاحبزادہ بہادر کو اپنے والد محترم کے سایۂ ہما پایہ میں مدت دراز تک علمی و عملی روحانی و جسمانی ترقیات نصیب فرمائے۔ ع

این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

آنریبل کرنل ہز ایکسیلنسی نواب مرزا محمد علی بیگ خان بہادر افسر جنگ افسر الدولہ سی آئی ای

آپ حضور نظام کی تمام افواج باقاعدہ جنہیں باڈی گارڈ اور حیدرآباد امپیریل سروس بھی
شامل ہے آپ کمانڈر اور اعلیٰحضرت کے ایڈی کانگ ہیں۔ ۱۸۵۲ء میں آپ بمقام اورنگ آباد پیدا ہوئے
اور پندرہ برس کی عمر میں اپنے نیکنام والد مرزا ولایت علی بیگ سالدار تیسری کیولری حیدرآباد کنٹنجنٹ
کی رجمنٹ میں داخل ہو کر بہت جلد اپنی مستعدی اور قابلیت کی وجہ سے تھوڑے عرصہ میں خود بھی سالدار ہو گئے
اور ۱۸۷۷ء کو دربار قیصری دہلی میں حیدرآباد کنٹنجنٹ کی افسری پر بھیجے گئے جس کے بعد سر سالار جنگ مرحوم
نے آپکو اپنی ہمراہی سو سواروں کا افسر بنایا اور پھر آپکی کارگذاری پر خیال کر کے آپکو اعلیٰحضرت کے اسٹاف میں
داخل فرما دیا۔ اسی اثنا میں آپ جنگ افغانستان میں بھیجے گئے۔ اور پھر اعلیٰحضرت نے تخت نشین ہو کر
بلحاظ آپکی مستعدی اور اولوالعزمی کے آپکو نواب افسر جنگ بہادر کا خطاب خاص ایڈی کانگ کا عہدہ عطا
فرمایا بلکہ گولکنڈہ لانسرز آپکی زیر حکم کئے گئے اور انہیں ایام میں ایک فوج جب جنرل مارشل مشیر حضور پر نور بنائے
گئے تو آپکو ان کا قائم مقام مقرر کیا گیا۔ ۱۸۸۸ء میں سر مارٹیمر ڈیورنڈ کی سفارت کے ساتھ آپ افغانستان
روانہ ہوئے۔ مگر بوجہ التوائے کمیشن پشاور سے سملہ پہنچکر گورنمنٹ کی منظوری سے کالے پہاڑ کی مہم میں شریک
ہوئے۔ جہاں انہیں جنرل مکویسن صاحب کا آرڈرلی آفیسر مقرر کیا گیا تھا اور جہاں ان کی حسن خدمات نے نہ صرف
تمغہ ہی دلوایا۔ بلکہ گورنمنٹ کو ان کا بہت کچھ شکر گذار بھی کیا۔ ۱۸۸۹ء میں ڈیوک آف کناٹ بہادر
کو حیدرآباد تشریف لانے پر آپکو ان کے پرسنل اسٹاف میں داخل ہونے کا اعزاز دیا گیا۔ اور ۱۸۹۳ء میں
آپ حیدرآباد امپیریل سروس ٹروپس کے افسر مقرر کئے گئے جس کے بعد ۱۸۹۷ء میں آپکو افسر الدولہ کا خطاب مع
خصوصیت بیعہدہ ہا کے رسالہ حبش کی افسری عطا ہوئی۔ ۱۸۹۷ء میں گورنمنٹ ہند نے ولایت بھیجنے کے لئے بطور امپیریل سروس
ٹروپس کی وکالت کیلئے انہیں منتخب کیا جسے وہ اپنے فرائض کے باعث جا نہ سکے مگر انہوں نے اس جوبلی کی تقریب سے حیدرآباد
کی نظام افواج کی ایسی نظیر پیش کی تھی کہ قبل ازیں کبھی نہ ہوئی تھی جس پر انہیں سی آئی ای کا خطاب برٹش گورنمنٹ سے مرحمت ہوا
اسکے بعد اعلیٰحضرت نے کرنل نیول کی جگہ انہیں باقاعدہ افواج کا کمانڈر مقرر فرمایا۔ فی الحال آپنے افواج نظام کے
تیرافگنی کی خیسکی بہار کی ترتیب شروع کر رکھی ہے جس میں امید ہے کہ آپ بخوبی کامیاب ہونگے۔

(ی)

جناب مسٹر فریدون جی جمشید جی سی آئی ای پرائیویٹ سکرٹری مدار المہام سرکار عالی دولت آصفیہ

صاحب موصوف سلطنت آصفیہ کے ایک ایسے لائق اہلکار اعلےٰ ہیں۔ کہ جن کو بڑے بڑے معاملات کا حل وعقد سپرد ہے اور جن سے اہل رعایا اور حکام انگریزی دونوں کو تعلق پڑتا رہتا ہے۔ آپ کے حسن تدبّر کی اس سے بہتر شہادت کیا ہوگی۔ کہ ان کے زمانہ پرائیویٹ سکرٹری شپ میں کئی وزارتیں بدلیں مگر بسبب آپ کی دیانت داری۔ معاملہ فہمی اور کار کنی کے ہر زمانہ میں آپ کی قدر ومنزلت برابر مترقی رہی۔ صاحب موصوف گو پارسی ہیں۔ لیکن اخلاق ومروّت اور بے تعصبی میں ہر مذہب وملت کے ساتھ یکساں پیش آتے ہیں۔ پولیٹکل معاملات اور انتظامی مسائل میں آپ کی رائے پرلے درجہ کی باوقعت اور صائب ثابت ہوتی رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ سر سالار جنگ اول کا زمانہ دیکھے ہوئے ہیں۔ دربار دہلی پر آپ کو سی آئی ای کا خطاب گورنمنٹ انگریزی کی طرف سے عطا ہوا ہے اور نیز ایکٹ اسلحہ سے بھی آپ آزاد کئے گئے ہیں آپ کی ذات جن اعلےٰ اعزازوں کی مستحق ہے۔ اس اعزاز کو ان کا آغاز سمجھنا چاہئے۔ علمی مذاق بھی آپ کو اعلےٰ درجہ کا حاصل ہے اور مشرقی ومغربی خیالات کا آپ کی ذات ایک بہترین مجموعہ ہے۔

آپ کے کارناموں کی تفصیل طوالت طلب ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضور نظام خلد اللہ ملکہ سے لیکر اہل رعایا تک آپ کے کاموں سے ہمیشہ خوشنود رہے ہیں اور گورنمنٹ انگریزی بھی اُن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے۔



مسٹر فریدون جی جمشید جی - سی - آی
اِی - پرائویٹ سکرٹری مدارالمہام
سرکار عالی دولت آصفیہ
حیدرآباد دکن



مہاراج آصف نواز ونت راجہ مرلی منوہر بہادر
جاگیردار و کمپٹرولر جنرل سلطنت آصفیہ۔
حیدآباد دکن

راجۂ راجہان راجہ مُرلی منوہر بہادر آصف جاہی مہاراج آصف نواز ونت بہادر کمپٹرولر جنرل سلطنت آصفیہ حیدرآباد دکن

راجہ بہادر سری باستم کایستھ ہیں آپکے خاندان کے مورث اعلےٰ راجہ رگھوناتھ بہادر عہد حضرت شاہجہان منصرم صوبہ احمد وزیر اعظم بھی ہو چکے ہیں جنکے خلف الرشید راجہ ساگرمل آصفجاہ اوّل بہادر بانیِ سلطنت آصفیہ کے دفتر خاص کے صدر معظم تھے اور جو انکے ساتھ ہی دکن میں تشریف لائے اور بیش قرار جاگیر اور دفتر مال کی صدارت سے ممتاز فرمائے گئے جنکو انکے لائق جانشینوں نے اسوقت تک اسلوبی سے نباہا۔ کہ برابر اعزاز و مراحم شاہانہ سے سر بلند ہوتے گئے۔ راجہ مرلی منوہر بہادر ۱۸۶۰ء کی پیدایش ہیں اور علوم انگریزی و فارسی و سنسکرت میں اعلےٰ لیاقت رکھتے ہیں اور کیوں نہو جبکہ نواب سر سالار جنگ اوّل جیسے انتخاب روزگار آپکے تعلیمی نگران اور نواب صوف کے فرزندان آپکے ہمدرس رہے ہوں۔ آپکی تعلیمی دلچسپی اسی سے ظاہر ہے کہ آپنے کئی سکول اپنے صرف سے جاری کر رکھے ہیں جنمیں سے ایک موسومہ ہرم ونت اینگلو ورنیکل سکول ہے جسمیں مڈل تک کی تعلیم ہوتی ہے اور ایک ہرم پر چارک منوہر پاٹ شالا ہے جسمیں وید و پران اور جوتش کی تعلیم ہے نیز ایک مدرسہ خاص آپکے تعلقہ میں بھی موجود ہے اور آپ کئی کتابوں کے مؤلف و مصنف بھی ہیں مفید عام اور قومی امور سے اسقدر آپکو تعلق ہے کہ دکن میں کایستھ سبھا کے آپ ہی بانی ہیں علاوہ اسکے آپنے قوم کھتری کی بھی ایک سبھا قائم فرما رکھی ہے جسکا مقصود اصلاح قومی ہے۔

بارہ برس کی عمر میں آپکی شادی ہوئی جس سے اسوقت تک تین اولاد نرینہ ہو چکی ہیں پہلے راجہ انند کرن بہادر جو ایف اے پاس کر چکے ہیں اور تمام بڑے بڑے عہدوں کا کام بھی بخوبی سیکھ چکے ہیں دوسرے راجہ دھرم کرن بہادر جو دس سال کے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں تیسرے راجہ مجوب کرن بہادر جو ابھی شیر خوار ہیں۔ مہاراجہ منشا رائے بہادر کی جاگیر ۵ لاکھ روپیہ کی ہے آپ بابت کمپٹرولر جنرل ہونیکے لیجسلیٹو کونسل سلطنت آصفیہ کے بھی ممبر ہیں لیکن اسکے علاوہ کئی خاص کام اور اہم خدمات بھی آپ ہی کے تفویض ہوتے رہتے ہیں کمیشن اصلاح معابد ہنود ہیں آپکے حسن سعی سے ایک گرانقدر و بیش قیمت پیشکش پادشاہ حضور کا دربار مسند نشینی دیکھنے کے ہیں جو آپکی خدمات کی قابل فخر یادگار ہے

راجہ لچھمن راؤ راے رایان بہادر امانت ونت آصفجاہی

آپ جس خاندان کے چشم و چراغ ہیں اسکے بانی کرشنا جی پنڈت ۱۱۶۵ھ ہجری میں بعہد حضرت شاہجہان منصب وغیرہ لوازم امارت سے سرافراز ہوئے تھے جن کے جانشین یکے بعد دیگرے برابر آصفجاہ اوّل سے لیکر تا ایندم بڑی بڑی عالی خدمات پر مقرر اور بڑے بڑے مدارج اعلےٰ پر سرفراز ہوتے رہے اور خطابات شاہی علم و نقارہ و جواہرات وغیرہ پاتے رہے ۔

راجہ لچھمن راؤ راے رایان بہادر ۸ ذی الحجہ ۱۲۹۰ھ ہجری کو پیدا ہوئے یکم نومبر ۱۸۸۶ء کو آپکے والد راجہ شنکر راؤ راے رایان امانت ونت نے انتقال فرمایا ۔ تو حسب الحکم بندگانعالی آپکے ایام نابالغی تک انتظام علاقہ و جاگیر اد کیلئے کمیٹی انتظامی مقرر فرمائی گئی ۔ ۲۶ ۔ اپریل کو آپ مدرسۂ عالیہ سرکار نظام میں داخل کئے گئے اور ۲۲ فروری ۱۸۸۹ء کو زیر نگرانی مسٹر ایچ پی ہاڈسن صاحب ایم ۔ اے پرنسپل نظام کالج بورڈنگ میں داخل ہوئے اور اعلیحضرت کے دست خاص سے انعامات تعلیمی پاتے رہے ۔ ۱۲ جنوری ۱۸۹۳ء کو آپکے امتحان مڈل میں تعریف کے ساتھ پاس ہونیکا اعلان ہوا جسمیں ریاضی میں آپ اول نمبر رہے تھے ۔ زاں بعد آپ میاٹرک میں شریک ہوئے ۔ ۲ مئی ۱۸۹۲ء کو آپ کی شادی خانہ آبادی کی تقریب سعید تھی ۔ جس میں اعلیحضرت نے بدست خاص آپکو سہرہ بندھوایا تھا ۔ ۱۸۹۴ء میں بورڈنگ سے آپ بحکم سرکار عالی اپنی ڈیوڑھی میں تشریف لائے اور ۲۸ مارچ ۱۸۹۵ء کو خلعت جواہرات سے معزز فرمائے گئے جسکے بعد بوجہ حسن لیاقت علاقہ زیر نگرانی سرکار بھی واگذار ہوا ۔ جشن جوبلی پر اہل ہنود کی دعوتی کمیٹی میں بحکم سرکار عالی آپکو ہی منتظم مقرر کیا گیا اور ۱۳۱۵ھ میں جو کمیٹی انتظام قرضہ کیلئے ہوتی تھی اسمیں منجانب اعلیحضرت بغرض سوال و جواب ... اسوقت آپکے تین صاحبزادے ہیں جنمیں شام راج بہادر خلف اکبر ۲۹ ذیقعدہ ۱۳۰۶ھ ترمبک راج خلف دوم ۱۳۱۷ھ ڈھونڈیراج خلف سوم ۱۳۱۹ھ کی پیدائش ہیں ۔ آپکو لائق معتمد منشی اور علی برزیر نظم کن نام ایک ہونہار ... آپکی سرپرستی کرتا ...



راجہ لچھمن راؤ رائے رایان بہادر امانت انت
حیدرآباد دکن

آنریبل مولوی سید حسین بلگرامی نواب عماد الملک بہادر ڈائرکٹر سررشتہ تعلیمات عامہ

نواب بہادر ۱۸۴۲ء میں بمقام قصبہ گیا پیدا ہوئے اور چودہ پندرہ سال تک پرائیوٹ تعلیم پانے کے بعد بھاگلپور، پٹنہ اور کلکتہ کے کالجوں سے اعلیٰ کامیابی کیساتھ گریجوایٹ ہوئے فارغ التحصیل ہونے پر اگرچہ آپکے پاس آگزکٹو لائن میں جانے کے بہت سے ذرائع موجود تھے مگر تعلیم و تعلم اور تالیف و تصنیف کے شوق سے آپنے لکھنؤ کالج کی پروفیسری سے ملازمت شروع کی۔ وہیں ۱۸۷۳ء میں سر سالار جنگ مرحوم تشریف لے گئے۔ تو جنرل باروٹنے آپکی ملاقات کرائی اور انہوں نے آپکو حیدرآباد کے لئے پسند کیا جہاں پہلے آپ ان کے پرسنل اسسٹنٹ پھر پرائیوٹ سکرٹری اور پھر سکرٹری متفرقات مقرر ہوئے۔ جس میں تعلیم وغیرہ کی شاخیں بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد اعلیحضرت نے تخت نشین ہوکر انہیں اپنا پرائیوٹ سکرٹری کرکے علی یار خاں موتمن جنگ کا خطاب عطا فرمایا اور پھر وہ ڈائرکٹری سررشتہ تعلیمات پر مترقی ہوکر عماد الدولہ اور عماد الملک کے معزز خطابات سے مخاطب کئے گئے۔ جس کے وہ اصلی معنوں میں موزوں ہیں آپ مسلمانوں میں ایک بے نظیر عالم ہیں۔ چنانچہ محمڈن [illegible] کے پریزیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں اور ایک وقت وائسرائے ہند کی کونسل واضع آئین قوانین کے بھی ممبر ہیں۔

نواب بہادر ایک بڑے نامور خاندان کے ممبر ہیں۔ جسکے اراکین ہمیشہ بڑی بڑی خدمت پر مقرر ہوتے رہے ہیں۔ آپکے والد اور چچا جو بعد میں ڈپٹی مجسٹریٹ۔ کلکٹر اور اسسٹنٹ آفیسر اور دوسری بیش بہا پولیٹیکل خدمات بجا لاتے رہے ہیں۔ [illegible] مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے انگریزی تعلیم کی ضرورت کو محسوس کر لیا تھا۔ کیونکہ دونوں صاحب کالج اور فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے تعلیم یافتہ تھے۔ اور [illegible] کونسل کے ممبر بھی ہو گئے تھے۔

عالیجناب نواب میر اعلیخان بہادر نظام یار جنگ نظام الدولہ حسام الملک خانخانان بہادر

آپ سید رضوی ہیں آپ کا خاندان سلاطین مغلیہ کے عہد میں ہمیشہ اعلےٰ مراتب پر ممتاز رہا۔ اور آصف جاہ اوّل کے ساتھ دہلی سے دکن میں تشریف لاکر یہاں بھی اعلےٰ عہدوں پر ممتاز ہوتے رہے۔

آپکے جد امجد میر عباس علی خان خانان بہادر تھے جن کے خطابات سے آپ ممتاز ہوئے ہیں۔ یہاں کے اہم اندرونی اور پولیٹیکل معاملات کو انہوں نے بوجہ احسن انجام دیا۔

آپکی ولادت باسعادت ۱۳۱۱ ہجری کی ہے۔ آپ کی تعلیم عربی فارسی اور انگریزی کی حیدرآباد میں اعلےٰ درجہ پر ہوئی ہے۔ اسکے علاوہ فنون سپہگری میں آپکو ایک خاص ملکہ ہے۔ جسکے علاوہ خوشنویسی میں بھی حد کمال کو پہنچ گئے ہیں۔ سر سالار جنگ اوّل کے ساتھ یوروپ کی سیر بھی کی ہے اور ایک زمانہ تک معین المہامی متفرقات کے عہدہ کو بھی نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے۔

آپ کے دو صاحبزادے ہیں۔ صاحبزادہ اکبر نواب میر شجاعت حسین خان شاہنواز خان فتح یار جنگ سہام الدولہ شجاع الملک بہادر ایک سالہ نوجوان ہیں۔ جن کی تعلیم مدرسہ اعزہ حیدرآباد میں عمدہ طور سے ہوئی ہے علاوہ ازیں خانگی طور پر بھی دینیات و عربی کی دوسری کتابیں آپکو پڑھائی گئی ہیں۔ آپ ایک نہایت لائق اور ہونہار نوجوان ہیں۔ دوسرے صاحبزادہ نواب میر کمال الدین حسین خان بہادر ابھی زیر تعلیم ہیں جن کی عمر ابھی صرف نو سال کی ہے۔ اور انگریزی و فارسی کی تعلیم اچھی ہو رہی ہے علاوہ ازیں یہ دوسرے صاحبزادے فنون سپہگری کی بھی تعلیم پا رہے ہیں۔

درباریان سلطنت آصفیہ

ہز ہائنیس حضور نظام دکن خلد اللہ ملکہٗ کے ہمرکاب اگرچہ بہت سے اصحاب شامل دربار ہوئے تھے لیکن جن درباریوں کو باعتبار اِن کی قدامت اور اعلیحضرت کی شرفِ ملازمت کے درباری ٹکٹ گورنمنٹ کیطرف سے بھیجے گئے تھے۔ اُن کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

۱۔ یمین السلطنت عالیجناب مہاراجہ کشن پرشاد بہادر مدار المہام سرکار عالی کے سی۔ آئی۔ ای۔
۲۔ نواب فخر الملک بہادر ممبر کونسل
۳۔ نواب میجر افسر الدولہ بہادر سی آئی۔ ای۔ اے ڈی کانگ حضور پُرنور۔
۴۔ نواب خان خانان بہادر۔
۵۔ نواب آصف یار الملک بہادر
۶۔ نواب خورشید الملک بہادر۔
۷۔ نواب غالب الملک بہادر۔
۸۔ راجہ مرلی منوہر آصف نواز ونت بہادر۔
۹۔ راجہ رائے رایان بہادر۔
۱۰۔ راجہ بہادر سمستان۔
۱۱۔ مسٹر بی ایجرٹن صاحب بہادر اتالیق عالیجناب شہزادہ ولیعہد بہادر۔
۱۲۔ مسٹر کے برنٹ صاحب اسسٹنٹ اتالیق عالیجناب شہزادہ ولیعہد بہادر
۱۳۔ مسٹر جی کاسن واکر صاحب بہادر معہ لیڈی صاحبہ فنانشل سکرٹری۔
۱۴۔ مسٹر اے۔ جی۔ ڈنلوپ صاحب بہادر سی۔ آئی۔ ای ریونیو کمشنر معہ لیڈی صاحبہ۔
۱۵۔ نواب عماد الملک بہادر سید حسین بلگرامی ڈائرکٹر سررشتہ تعلیمات۔
۱۶۔ مسٹر فریدون جی آفیشیل پرائیویٹ سکرٹری مدار المہام سرکار عالی سی۔ آئی۔ ای۔
۱۷۔ نواب وقار الملک بہادر

۱۸ - مسٹر ڈبلیو - ہنڈلیاری صاحب ایجنٹ ہز ہائینس نظام سٹیٹ ریلوی معہ لیڈی وس صاحبات -
۱۹ - نواب لقمان الدولہ -
۲۰ - نواب فصیح الملک بہادر داغ
۲۱ - نواب اقبال یار جنگ بہادر مرحوم
۲۲ - جناب احمد اللہ خاں -
۲۳ - نواب اسد یار الدولہ بہادر
۲۴ - نواب ناصر نواز الدولہ بہادر
۲۵ - نواب صادق جنگ بہادر
۲۶ - نواب افضل نواز جنگ بہادر -
۲۷ - نواب عثمان یار جنگ بہادر
۲۸ - جناب عبدالرزاق صاحب
۲۹ - نواب وزیر جنگ بہادر -
۳۰ - سردار پریم سنگھ -
۳۱ - میر لیاقت علی -
۳۲ - مولوی احمد حسین ایم - اے

سلطنت آصفیہ کے متعلق جتنی تصویریں دی گئی ہیں وہ راجہ دینديال مصور جنگ سٹیٹ فوٹوگرافر کی بنی ہوئی ہیں جو ہندوستان بھر میں اپنے اعلےٰ کام کے لئے خاص مشہوری رکھتے ہیں - اور دربار میں بھی شریک تھے

برار کیمپ

۱ - بھگونت راؤ شنکر راؤ - سپیشل آنریری مجسٹریٹ دریاپور ضلع ایلچپور
۲ - ہر نام جی ریڈو جی کمار شتری ڈپٹی کمشنر اکولہ -
۳ - مسٹر جی - ایس کھپردی - ممبر میونسپلٹی امراوتی -
۴ - خان بہادر عبدالباقی خان ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ بلدانہ -
۵ - خان بہادر محمد سلام اللہ خاں -
۶ - مسٹر ایل ایم کرسپا آئی سی ایس آفیسر انچارج ورز ڈنٹ کیمپ صاحب ریذیڈنٹ بہادر



سپر سلطنت انگلشیہ اندرہ ہندر بہادر ہزہائنس
مہاراجہ پرتاب سنگھ صاحب بہادر جی - سی -
ایس - آی والئے ریاست جموں وکشمیر
و لدّاخ و گلگت و اسکردد

فصل سوم

فرمانروائے امرائے کشمیر

ہز ہائنیس میجر جنرل مہاراجہ سر پرتاب سنگھ صاحب بہادر جی سی ایس آئی اندر مہندر بہادر سپر سلطنت والی ریاست جموں و کشمیر و لداخ و گلگت و اسکردو

ریاست جموں و کشمیر کا مجموعی رقبہ اسی ہزار نو سو مربع میل ہے اور اسکی سرحدات چین اور روس وغیرہ سے ملتی ہیں۔ غالباً اتنا بڑا رقبہ (ریاستہائے دکن) نہ صرف کہ ہندوستان کی کسی بھی دوسری دیسی ریاست کا نہیں پایا جاتا۔ بلکہ یوروپ کی ان سلطنتوں کو بھی میسر نہیں جو انگلستان سے مساویانہ برتاؤ رکھتی ہیں ریاست کی آبادی تازہ مردم شماری کے روسے انتیس لاکھ پانچ ہزار پانسو اٹھتر افراد کی ہے۔ جس میں ہر قوم و مذہب کے لوگ موجود ہیں۔ سالانہ آمدنی نوے لاکھ روپیہ سکہ انگریزی ہے۔ فوج کی تعداد معہ پولیس و رسالہ و توپخانہ وغیرہ دس ہزار ہے۔

پیداوار میں ہر قسم کا غلہ بالخصوص چاول زیادہ ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ زعفران، بیڈ کٹھ، کوٹ، بنفشہ کا ہزان۔ انار دانہ اور طرح طرح کے میوہ جات مثلاً سیب، ناشپاتی انگور بادام وغیرہ اسی ملک سے مخصوص ہیں۔ اور ہر قسم کی لکڑی خصوصاً دیار چیل بکثرت ہوتی ہیں۔ معدنیات کے لئے بھی یہ ملک خصوصیت کیساتھ مشہور ہے لداخ کے دریاؤں سے سونا نکلتا ہے۔ ریاست میں ایک نیلم کی کان بھی ہے اور نیز لعل

ایک کوئلہ کی کان بھی دریافت ہوئی ہے۔ لوہا۔ سلیٹ۔ زہرمہرہ۔ سوہاگا۔ پھولی۔ نمک۔ زنگ بیچور۔ گندھک۔ ہڑتال۔ شورہ قلمی۔ تانبہ۔ سکہ۔ جڑی۔ رنگ یشب عقیق۔ بلور۔ سرمہ۔ وغیرہ سب کے لئے کشمیر ہی مشہور ہے۔

صنعت و حرفت میں پشمینہ۔ پیپرماشی۔ چاندی کے برتنوں پر نقاشی۔ قطبی کشمیری کاغذ۔ پٹو۔ قالین۔ اُون کا ہر قسم کا کام۔ پلاسٹر اوف پیرس وغیرہ وغیرہ کا کام نہایت اعلٰے ہوتا اور دُور دراز ملکوں میں جاتا ہے۔

انتظامِ ریاست کے لئے ایک کونسل مقرر ہے۔ جسکی پریزیڈنٹی ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر بذات خاص فرماتے ہیں اور تین بڑے بڑے صیغوں کے افسرانِ اعلےٰ بطور ممبر کے کام کرتے ہیں۔

ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر راجہ پرتاب سنگھ جیوال بہادر والی ہیں اور ۱۹ ماگھ سمت ۱۹۰۷ بکرمی کی پیدائش ہیں اور بیساکھ سمت ۱۹۴۲ بکرمی میں مسند نشین ہوئے ہیں۔ انیس توپ باعتبار ریاست کے اور دو اعزازی یعنے اکیس توپ کی سلامی مقرر ہے۔

مہاراجہ صاحب علوم انگریزی سنسکرت اُردو گورمکھی میں پوری پوری لیاقت رکھتے ہیں۔ اور امورِ جہانبانی کا بھی آپ کو اعلےٰ درجہ کا تجربہ ہے۔ مزاج رحیمانہ اور انداز مستحلانہ ہے۔ عجب غرور آپ کو چھوُ تک نہیں گیا فیاض بھی اعلےٰ درجہ کے ہیں۔ آپکے ذاتی اخراجات کے لئے ساٹھ ہزار روپیہ ماہوار ریاست سے مقرر ہے۔ جس میں سے بہت کچھ امورِ خیر میں صرف ہوتا ہے۔ اپنے دھرم کرم کا مہاراجہ صاحب کو بہت بڑا خیال ہے۔ لیکن وہ ہر مذہب ملت کے اشخاص سے نہایت بے تعصبی سے ملتے رہتے ہیں اور پورے انصاف و عدالت سے کام کرتے اور ہر ایک معاملہ کو بے تعصبی سے انجام دینے کے خواہشمند رہتے ہیں۔ آپکی ریاست نے انگریزی ہوا خواہی اور گورنمنٹ کی رضاجوئی کو ہمیشہ مدنظر رکھا

ہے۔ اور ایسی خدمات گورنمنٹ کی انجام دی ہیں۔ جو کبھی فراموش نہیں ہو سکتیں علاوہ جنگی امدادوں کے کوہالہ سے گلمرگ تک کی دو سو میل کی ایسی سڑک جس پر یکہ اور تانگہ جا سکے۔ صرف صاحبانِ انگریز کے آرام کے لیے تقریباً ایک کروڑ روپیہ کی لاگت سے ریاست نے بنوائی ہے۔ اور گلگت و لداخ وغیرہ کی سڑکوں پر بھی لکھوکھہا روپیہ صرف گورنمنٹ کی ضروریات کے لئے خرچ کر دیا جاتا ہے۔ سنہ ۱۸۵۷ء میں بھی اس ریاست نے بڑی بھاری امداد گورنمنٹ کو دی۔ اور پھر چترال و یاسین کے سرداروں کو بھی براہِ راست گورنمنٹ کے مطیع کر دینے کا ایک نمایاں کام انجام دیا جو پہلے صرف ریاست کشمیر کے ہی ماتحت تھے۔ غرضکہ آپ کی خدمات اور اس کے ریاست کی پولیٹیکل تاریخ بڑی طول و طویل ہے۔ سنہ ۱۸۸۶ء میں مہاراجہ رنبیر سنگھ صاحب متوفی کے انتقال پر گورنمنٹ نے کشمیر میں اپنی ایک مستقل رزیڈنسی مقرر فرمائی۔ جسکو معاملات ریاست میں اسوقت بہت بڑا دخل ہے۔ پھر سنہ ۱۸۸۸ء سے ممبران کونسل دربار کشمیر کے انتخاب اور گورنمنٹ انگریزی کی منظوری سے مقرر ہونے لگے ہیں اور گو مہاراجہ صاحب بہادر بطور ایک ہیڈ کے کارفرما ہیں لیکن اس بات کی تمام دیسی پبلک کو خواہش ہے کہ مہاراجہ صاحب بہادر کو بدستور سابق کلی اختیارات عطا ہونے چاہئیں آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ شہنشاہِ معظم اور ہز ایکسلنسی لارڈ کرزن بہادر اپنے اپنے سفر میں ریاست کے مہمان ہوتے رہے ہیں اور حضور وائسرائے کے پرائیویٹ سکرٹری صاحب ایک عرصہ تک ریاست کے مہتمم بندوبست رہ چکے ہیں۔ غرضیکہ کوئی معزز عہدہ دار یورپین شائد ہی ایسا ہوگا جس نے کشمیر کو نہ دیکھا ہو یا مہاراجہ صاحب سے ملاقات نہ کی ہو۔

عالیجناب جنرل سر راجہ امر سنگھ صاحب بہادر کے سی ایس آئی سی بی کمینڈر انچیف۔ فارن منسٹر و وائس پریزیڈنٹ کونسل جموں و کشمیر

ڈوگرہ خاندان شاہی میں جو اعلےٰ درجہ کا حسنِ صورت اور حسنِ تدبر راجہ صاحب بہادر میں پایا جاتا ہے۔ غالباً بہت کم دیسی رئیسوں میں موجود ہوگا۔ صاحب موصوف علوم انگریزی و گورکھی میں اعلےٰ لیاقت اور اردو میں معمولی مہارت رکھنے کے علاوہ ایسی بے عدیل قابلیت حکمرانی کی رکھتے ہیں کہ اس وقت ریاست کے سب سے بڑے ذمہ داری کے عہدے آپ ہی کی ذات سے وابستہ ہیں۔ یعنے وائس پریزیڈنٹی کونسل کے سوا فوج۔ پولیس۔ توپخانہ وغیرہ اور سب سے نازک کام صیغۂ خارجیہ کی وزارت کا آپ ہی سے متعلق ہے۔ اور ان کاموں کو آپ ایسی لیاقت اور صفائی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ کہ دیکھنے والا بے ساختہ عش عش کر اٹھتا ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ انگریزی نے بھی ہمیشہ اپنی خوشنودی کا اظہار کیا ہے۔ جس کے شاہد ناطق آپ کے اعزاز ہائے سرکاری ہیں۔ ریاست سے ایک معقول جاگیر بھی آپ کے لئے مقرر ہے۔ جو آپ کے ذاتی اخراجات کے لئے ہے آپ صاحب اولاد بھی ہیں۔ چنانچہ میاں هری سنگھ صاحب آپ ہی کے خلف الرشید حضور وائسرائے کے پیج مقرر کئے گئے تھے۔ امور رفاہ عام اور تعمیرات وغیرہ سے آپ کو خاص لگاؤ رہتا ہے۔ چنانچہ جموں و کشمیر میں نہایت شاندار عمارتیں آپ نے بنوائی ہیں۔ کشمیر پالٹکس کی تاریخ سے جسقدر گہرا تعلق آپ کو ہے غالباً کسی شخص کو نہیں ہو سکتا۔

عالیجناب سری راجہ بلدیو سنگھ صاحب بہادر والی ریاست پونچھ

عالیجناب راجہ صاحب بہادر پونچھ ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر کشمیر کے چچیرے بھائی ہیں آپ کی ریاست بھی کشمیر کا ہی ایک حصہ ہے جسکو راجہ صاحب بہادر کے والد آنجہانی راجہ موتی سنگھ صاحب نے اپنے وزراء کی حسن تدبیر سے مقاشد غیرہ تاکر صاف کیا تھا اس ریاست کی آمدنی تقریباً سات لاکھ روپیہ سالانہ ہے۔ پیداوار ہر قسم کی بالخصوص چاول اور مکی بہت عمدہ ہوتی ہے راجہ صاحب علوم انگریزی و گورمکھی میں پوری لیاقت رکھتے ہیں اور اردو میں بھی خاصی مہارت ہے کاروبار ریاست بنفس نفیس انجام دیتے اور رعایا کی فلاح و صلاح کا تہ دل سے خیال رکھتے ہیں گورنمنٹ کی خدمات بھی وقتاً فوقتاً نہایت وفاداری سے کرتے رہتے ہیں۔ مردانہ شکار کا بھی آپ کو از حد شوق ہے۔ چنانچہ سینکڑوں شیر چیتے (لیوذ) اور ریچھ اور ہزاروں سور آپنے نہایت بہادری کے ساتھ شکار کئے ہیں جن سے ایک عالیشان خیمہ بھی طیار کیا گیا تھا جسکے فرش پر ریچھ کی۔ قناتوں پر چیتے کی اور خیمہ کے بالائی حصہ پر شیر کی کھالیں لگائیں ریاست کے بڑے بڑے اہلکار صاحبان یہ ہیں:-

۱- بابو ہیر پرشاد صاحب قائمقام مدار المہام ۲- دیوان محکم چند صاحب گورنر ۳- پنڈت پیارے لال صاحب چیف جج ۴- وزیر سندر سنگھ صاحب مشیر خاص ۵- میاں محمد فیروز الدین صاحب فرزند میاں نظام الدین صاحب مرحوم وزیر پونچھ ۶- پنڈت مادھو لال صاحب میر منشی۔ ۷- پنڈت گنیش داس صاحب مشیر خاص و افسر دفتر پرائیویٹ ۸- کنور صاحب پرائیویٹ سکرٹری-

راجہ صاحب اصلاحات رفاہ عام کے بڑے حامی ہیں۔ چنانچہ آپنے پونچھ میں انگریزی ڈاکخانہ اور تارگھر بھی کھلوا دیا ہے اور اپنے صرف خاص سے شفاخانہ و مدارس کا بھی علاقہ ریاست میں انتظام کر رکھا ہے اور کثیر اخراجات سے سڑکیں بھی بنا دی ہیں


خانصاحب خان بہادر غلام احمد خانصاحب جنرل و ریونیو ممبر سٹیٹ کونسل کشمیر

صاحب موصوف پنجاب کی جوڈیشل لائین کے ایک درخشندہ گوہر ہیں جن کی خدمات سنہ ۱۹۱۰ء میں ریاست کشمیر کو منتقل کیگئی تھیں۔ کیونکہ ریاست کشمیر کے مالی انتظام پر سوائے کسی اعلےٰ درجہ کے لائق اور تجربہ کار افسر کے معمولی لیاقت کے اشخاص پوری طرح کامیاب نہ ہوسکتے تھے اور صاحب موصوف کو اس صیغہ میں ایسا اعلےٰ تجربہ بلکہ تبحر حاصل ہے کہ خاص اس سلسلہ کے کام کرنے والوں میں بھی بہت کم لوگوں کو ہوا ہوگا چنانچہ آپنے صیغہ مال کے قوانین پر متعدد مفصل تشریحات بھی ایسی لکھی ہیں کہ بباعث اپنی معقولیت کے اب تک علاقہ انگریزی میں مستند اور مقبول ہیں۔

ریاست کشمیر کے مالی انتظام میں آپنے جو جو کارگذاریاں دکھائی ہیں وہ بلاشک و شبہ آپ ہی کا حصہ ہیں۔ آپنے اس عرصہ میں قریباً تمام علاقہ ریاست کا دورہ کر کے بچشم خود تمام تحصیلات بلکہ دیہات تک کا معائنہ فرمایا اور تمام ضروری اصلاحات کو نہایت لیاقت کے ساتھ جاری کر کے مثل انگریزی علاقہ کے ریاست کے محکمہ مال کو آئینہ کی طرح صاف کر دیا ہے۔ پٹواریوں کے لئے سکول اور تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کے لئے امتحان کا سلسلہ آپ ہی کی یادگاریں ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ آپ نے اپنے خلف الرشید منشی فخرالدین خان صاحب بی۔ اے کو بندوبست پٹیالہ میں ملازم کرایا ہے۔ حالانکہ کشمیر کا سب سے بڑا محکمہ مال آپ ہی کے حیطۂ اقتدار و حلقۂ اختیار میں ہے۔ آپ کی بے تعصبی کا یہ عالم ہے کہ بہ نسبت مسلمانوں کے دوسری اقوام کے صاحبان آپکے زیادہ ثناخوان ہیں۔



خان بہادر منشی غلام احمد خانصاحب مشیرمال
وروینیو ممبرسٹیٹ کونسل کشمیر



رای صاحب بہگت نارائن داس صاحب

جوڈیشل ممبر سٹیٹ کونسل

کشمیر

جناب رائے بھگت نرائن داس صاحب جوڈیشل ممبر سٹیٹ کونسل کشمیر

رائے صاحب موصوف پنجاب کے صیغہ جوڈیشل کے ایک ممتاز معتدین اور متقدن ممبر ہیں۔ پنجاب میں جہاں کہیں آپ کی تعیناتی رہی۔ وہاں کے حکام اور وکلاء و عوام آپ کے منصفانہ اور قابلانہ فیصلوں کے تہ دل سے ثنا خواں رہے۔ اواخر ۱۹۰۸ء میں آپ کی خدمات ریاست کشمیر کے متعلق ہوئیں۔ جن کو آپ نے اس قابلیت سے انجام دیا ہے کہ آج ریاست کا جوڈیشل صیغہ انگریزی علاقہ کے ہم پلہ ہے۔ آپ نے وکلائے ریاست کے لئے امتحان کا قاعدہ جاری کیا اور تمام عدالت ہائے ماتحت کی نگرانی اس عمدگی سے کی ہے کہ جو ایک ایسی رفیع الشان سلطنت کے لائق ہے۔ انصاف و عدالت کے لئے آپ کا محکمہ گویا ہائیکورٹ اور سٹیٹ کونسل بمنزلہ پریوی کونسل ہے۔ یہ کونسل عالیہ جسمیں تمام انتظامی معاملات پیش ہوتے ہیں۔ اور تمام اہم مقدمات کا آخری فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ کی آرائے بہت بڑی وقیع ہوتی ہیں۔ امور رفاہ عام میں بھی آپ کو ابتدا سے دلچسپی رہی ہے۔ اور اب بھی نہایت سرگرمی سے ان میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ جوڈیشل صیغہ کے علاوہ تعلیم کا وسیع صیغہ بھی مع چھاپہ اور گزٹ وغیرہ کے آپ ہی کے ماتحت ہے اور چونکہ آپ کو علمی اشتغال سے پرلے درجہ کی دلبستگی ہے۔ اسلئے آپ نے اس میں حیرت انگیز اصلاحات فرمائی ہیں اور بالکل انگریزی ڈھنگ پر اسکا انتظام کردیا ہے جس کی بدولت دن بدن طلباء کی تعداد اور باشندگان ریاست کی لیاقت میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔

رائے صاحب دیوان پنڈت دیاکشن صاحب کول بی اے
پرائیویٹ سکرٹری ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر کشمیر

صاحب موصوف راجہ پنڈت سورجکول صاحب آنجہانی سی ایس آئی ممبر لیجسلیٹو کونسل ہند کے خلف الرشید ہیں جو بوجہ اپنی عالی خدمات اور ہر دلعزیزی کے کسی زیادہ معرفی کے محتاج نہیں۔

رائے صاحب اکتوبر ۱۸۷۳ء کی پیدائش ہیں اور بی۔ اے تک نہایت عمدہ اہتمام سے تعلیم پا چکے ہیں۔ فارغ التحصیل ہو کر سب سے پہلے تو آپ نے اپنی اراضیات واقعہ نہر چناب کی آبادی میں خود وہاں آباد ہو کر نئے نئے آلات و اوزار اور کلات متعلقہ زمینداری کی ترویج سے زمینداروں میں ترقی کا شوق پیدا کر دیا۔ اور ساتھ ہی اپنی خاندانی علم دوستی کے اقتضاء سے سورج نگر اور سانگلہ میں مدارس کے اجراء سے وہاں کے زمینداروں کی تعلیمی ترقی کی بھی بنیاد رکھدی۔ جسکے بعد آپ اپنے نامور والد کے حین حیات ہی ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر جموں و کشمیر کے پرائیویٹ سکرٹری مقرر ہو گئے اور چونکہ آپ سے پہلے اس عہدہ پر کبھی کوئی اعلٰے تعلیم یافتہ اور عالیخاندان تجربہ کار شخص مقرر نہ ہوا تھا۔ اسلئے یہ صیغہ بہت ہی بڑا اصلاح طلب تھا۔ مگر آپ نے نہایت قابلیت کیساتھ اصلاحیں کیں اور اس صیغہ کو بالکل باقاعدہ اور منتظم کر کے دکھا دیا جس سے نہ صرف مہاراجہ صاحب ہی خوش ہوئے بلکہ گورنمنٹ بھی آپسے نہایت خوشنود ہوئی چنانچہ ریاست کیطرف سے دیوان صاحب اور گورنمنٹ کیطرف سے بموقع تاجپوشی شہنشاہ معظم رائے صاحب کے خطابات آپکو دئے گئے۔ اسوقت ساٹھ ہزار روپیہ ماہوار ہز ہائینس کے مقررہ اخراجات کا انتظام آپ ہی کی رائے سے انجام پاتا ہے۔ اور ہز ہائینس کے آپ پورے پورے معتمد ہیں۔ آپ کی اراضیات کشمیر پنجاب اور سورج نگر میں کافی موجود ہیں جنکی سالانہ آمدنی پچیس ہزار روپیہ ہے۔



عالیجناب میر سرفراز حسین خان بہادر صفدر جنگ
مشیرالدولہ نواب فخرالملک بہادر معین المہام
حیدرآباد دکن



رایصاحب دیوان پنڈت دیاکشن صاحب کول

پرائیویت سکرتری ہزہائینس مہاراجہ صاحب کشمیر

علاوہ صاحبان متذکرہ صدر کے مندرجہ ذیل درباری اہلکاران و جاگیرداران و فوجی افسران کشمیر کیمپ سے شریک دربار ہوئے تھے۔ جن صاحبوں کو وزیٹر ٹکٹ دیا گیا تھا۔ اُنکا نام درج نہیں ہؤا۔

۱- راجہ کدار چند صاحب جاگیردار چینینی۔	۱۱- خان بہادر میجر جنرل فرمان علیخان صاحب ایجوٹنٹ جنرل فوج کشمیر
۲- راجہ علی داد خان صاحب گورنر گلگت۔	۱۲- دیوان امرناتھ صاحب گورنر جموں
۳- خان بہادر ہمایون بیگ صاحب وزیر ہنزہ	۱۳- دیوان من موہن ناتھ صاحب کول گورنر کشمیر
۴- راجہ میرباز خان صاحب پنیال۔	۱۴- بابو رشی بر صاحب مکرجی چیف جج کشمیر
۵- میر محمد ناظم خان صاحب ہنزہ۔	۱۵- رائے بہادر ڈاکٹر متھرا صاحب چیف میڈیکل افسر کشمیر
۶- راجہ شاہ سلطان صاحب استور۔	۱۶- دیوان لشن داس صاحب سکرٹری کمانڈرانچیف
۷- راجہ سکندر خان صاحب میر ہنزہ۔	۱۷- سردار کرتار سنگھ صاحب میر منشی ریاست
۸- میجر جنرل کھڑک بہادر سنگھ صاحب افسر کشمیر گریزن۔	۱۸- بابو ہیم چندر صاحب بسواس منتظم کیمپ
۹- میجر جنرل پنجاب سنگھ صاحب افسر جموں گریزان۔	۱۹- دیوان جانکی ناتھ صاحب افسر دھرمارتھ و توشہ خانہ ریاست جموں و کشمیر
۱۰- سردار بہادر میجر جنرل سوہنو صاحب رہبر اوّل امپیریل سروس ٹروپس)۔	

گورنمنٹ کی طرف سے مندرجہ ذیل صاحبان کشمیر کیمپ کے انچارج قرار دیئے گئے تھے۔

۱- کیپٹن جی۔ ایچ۔ بریتھرٹن صاحب ڈی۔ ایس۔ او۔ آئی۔ ایس۔ ای۔

۲- میجر اے۔ ایف بروس صاحب فرسٹ اسسٹنٹ۔

۳- مسٹر ایچ۔ سر د ولڈ بلڈ صاحب سٹیٹ انجنیئر۔

فصلِ چہارم

رؤسا و اُمرائے صوبہ اودھ و آگرہ

(۲ الف)

ہز ہائینس میجر نواب حامد علی خاں صاحب بہادر فرزندِ دلبند دولتِ انگلشیہ فرمانروائے ریاست رامپور دام اقبالہ

ریاست رامپور جو آپکے جدِ امجد کی فیاضی و علم دوستی کے باعث دُنیا بھر میں ایک خاص شہرت رکھتی ہے۔ اِس کا رقبہ نوسو مربع میل آبادی پانچ لاکھ سے اوپر اور آمدنی بتیس ۳۲ لاکھ روپیہ سالانہ ہے۔ فوج مع پولیس پانچہزار کے قریب ہے سلامی ۱۳ اتواپ کی مقرر ہے۔ پیداوار میں ہر قسم کی اجناس عُمدہ ہوتی ہیں۔ مگر بالخصوص چانول اور نیشکر نہائیت اعلیٰ ہوتا ہے۔ عُہدہ دارانِ اعلیٰ یہ ہیں۔ ۱۔ مولوی شیخ عبد الغفور صاحب مدار المہام ۔۲۔ صاحبزادہ عبد الصمد خاں صاحب بہادر چیف سکرٹری ۔۳۔ صاحبزادہ مُصطفےٰ علیخاں صاحب ہوم سکرٹری ۔۴۔ صاحبزادہ حسن رضا خاں صاحب کپتان دولہ ایڈیکانگ ۔۵۔ حکیم محمد اجمل خاں صاحب طبیب خاص و مُہتمم کُتب خانہ ریاست ۔ ۶۔ مسٹر رائٹ صاحب چیف انجنیر ۔۷۔ مسٹر جارج فلپ صاحب پرائیویٹ سکرٹری۔

ہز ہائینس علوی النسب ہیں اور مذہب امامیہ رکھتے ہیں عمر ۲۸ سال کی ہے ولیعہد صاحب کا نام نامی شہزادہ سعادت علیخاں صاحب ہے۔ آپ بذاتِ خاص کاروبار ریاست کو انجام دیتے ہیں۔ علوم عربی۔ فارسی و انگریزی میں پوری پوری لیاقت رکھتے ہیں۔ اور دُنیا کا سفر بڑے غور و تعمق سے فرماکے اسکے حالات بصورتِ کتاب شایع کر چکے ہیں۔ فیاضی و مروّت میں خاص طور پر مشہور ہیں

رامپور کا کُتب خانہ ہندوستان بھر میں فرد ہے۔ خاکسار کی ایک تالیف یادگارِ سعدی بھی جسے قریباً ہندوستان کے ہر ایک صوبہ کے سر رشتۂ تعلیم نے تقسیم انعامات اور سکولوں کی لائبریریوں کیلئے منظور کر رکھا ہے۔ آپ ہی کے نامِ نامی اور اسمِ گرامی پر معنون ہو چکی ہے۔ ریاست ہذا میں خاص طور پر کوئی رزیڈنٹ مقرر نہیں مگر کمشنر صاحب بریلی ایجنٹ کی حیثیت سے نگرانِ ریاست ہیں۔



فرزند دلبند دولت آگانشیہ میجر نواب حامد علی
خانصاحب بہادر والئی ریاست رامپور

(و)
ہز ہائینس مہاراجہ پربھو نارائین سنگھ صاحب بہادر کے سی۔ ایس آئی والیِ بنارس

ہز ہائینس کی ریاست کا رقبہ قریب ایکہزار مربع میل۔ آبادی پانچ لاکھ۔ آمدنی تقریباً دس لاکھ سالانہ اور اتواپ سلامی ۱۳ ہیں۔ آپ بہت پرانے رئیس ہیں اور بخوبی تعلیم یافتہ ہیں۔ مندرجۂ ذیل اہلکاران اعلیٰ آپکے ساتھ تھے۔

۱۔ مہاراج کنوار لال رنجور سنگھ صاحب۔ ۲۔ بابو ہرگوبرشاد نرائین صاحب۔ ۳۔ بابو اندر نارائین سنگھ صاحب۔ ۴۔ منشی دیا شنکر صاحب دیوان۔ ۵۔ ہزاری ہرشنکر پرشاد صاحب ایڈیکانگ۔ ۶۔ چودھری بیجناتھ پرشاد سنگھ صاحب ایڈیکانگ۔ ۷۔ کپتان وندشواری پرشاد سنگھ صاحب ایڈیکانگ۔

(ز)
ہز ہائینس راجہ کرتی شاہ صاحب بہادر کے سی۔ ایس آئی والیِ ٹیہری گڑھوال

آپ سورج بنسی چھتری ہیں۔ آپکی ریاست کا رقبہ ۴۱۸۰ میل مربع۔ آبادی تقریباً دولاکھ اور آمدنی ۸۰۰۰۰ ہے۔ اتواپ سلامی ۱۱ مقرر ہیں۔ ہز ہائینس انگریزی و شاستری بخوبی جانتے ہیں۔ اور انتظام ریاست خود کرتے ہیں۔ آپکے ہمراہیان حسب ذیل تھے۔

۱۔ میاں ہری سنگھ صاحب وزیر ریاست۔ ۲۔ ٹھاکر جیت سنگھ صاحب۔ ۳۔ ٹھاکر ہری سنگھ صاحب۔ ۴۔ پنڈت کشوانند صاحب۔ ۵۔ کپتان کشور سنگھ صاحب۔ ۶۔ ٹھاکر فتح سنگھ صاحب۔

ممتاز الدولہ سعید الملک آنریبل راجہ امیر حسن خانصاحب بہادر کے سی آئی ای۔ والیِ ریاست محمود آباد

راجہ صاحب ممدوح تعلقدارانِ اودھ میں باعتبار اپنی اعلیٰ لیاقت اور سادہ وضعی و منکسر المزاجی اور بالخصوص فیاضی و علم دوستی کے خاص طور پر امتیاز رکھتے ہیں شریعت اسلام کے سچے پابند ہیں۔ اور اولاد بھی خدا نے ویسی ہی سعید دی ہے۔ راجہ علی محمد خانصاحب بہادر ولیعہد ریاست بھی اوصاف صفاتِ حسنہ میں اپنے والد کی ہی نظیر ہیں۔ راجہ صاحب بہادر ممبر کونسل بھی ہیں۔ اور مختلف مواقعات پر گورنمنٹ کی اعلیٰ خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اِس موقع پر صاحب ممدوح خود تو شریک دربار تھے۔ اور ولیعہد صاحب ریاست میں اِس جشن ہمایوں پر اظہارِ مسرت و وفاداری کے جلسے منعقد فرما رہے تھے۔ شیخ عنایت اللہ صاحب مدار المہام ریاست ہیں جو نہایت لیاقت و صلاحیت سے کاروبار ریاست کو انجام دیتے ہیں۔

آنریبل مہاراجہ سر پرتاب نرائن سنگھ صاحب بہادر کے سی آئی ای۔ والیِ اجودھیا

مہاراجہ صاحب ۱۳ جولائی ۱۸۵۵ء کی پیدائش ہیں اور انگریزی اردو بخوبی جانتے ہیں لیکن سنسکرت میں تو رتبہ اعلیٰ رکھتے ہیں چنانچہ کئی ایک تصانیف آپکی سنسکرت میں موجود ہیں۔ اور ناگری کی حمایت میں بھی آپنے ہی سب سے زیادہ کوششیں کی تھیں انتظام ریاست نہایت لیاقت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور فیاض ہیں آپکا نام عام طور پر مشہور ہے ہر ایک سرکاری اور پبلک چندہ میں آپ دل کھول کر شریک ہوتے ہیں۔

آپکا خاندانی لقب راجہ ہے اور سب سے پہلے آپکے نانا راجہ مان سنگھ کو بصلۂ خدمات غدر گورنمنٹ کیطرف سے ہمیر پور کے علاقہ و خلعت کے ساتھ مہاراجہ بہادر کا خطاب دیا گیا تھا ۱۸۷۰ء میں انتقال ہوا۔ تو طویل مقدمہ بازی کے بعد مہاراجہ حال کامیاب ہوئے۔ اور ۱۸۸۷ء میں انکو بھی انکی لیاقت و خیرخواہی کے صلہ میں مہاراجہ کا خطاب دیا گیا اور ۱۸۹۵ء میں کے سی آئی ای بھی بنائے گئے صوبہ کی لیجسلیٹو کونسل میں سب سے پہلے آپ ہی پانچ چار سال متواتر تک بڑی نیکنامی سے ممبری کی ہے۔



اونریبل ممتازالدولہ سعیدالملک راجہ سر امیر حسن
خانصاحب بہادر کے - سی - آی - اِی والئے محمود آباد
اودہ



مہاراجہ بھگوتی پرشاد سنگھ صاحب بہادر

والئے بلرام پور

(۴) عالیجناب مہاراجہ بھگوتی پرشاد سنگھ صاحب بہادر والی بلرامپور ضلع گونڈہ

مہاراجہ صاحب بہادر ایک روشن خیال تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جو مشرقی و مغربی علوم میں دستگاہ کافی رکھتے ہیں۔ مہاراجہ دگبجی سنگھ صاحب جنہوں نے سرکار انگلشیہ کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں اور جنکے صلہ میں سرکار سے اعزاز و علاقہ مزید بھی حاصل کیا تھا۔ اُنہوں نے آپکو متبنیٰ کر کے اپنا جانشین بنایا تھا۔ گو باعتبار قدامت و ریاست کے بھی تعلقداران اودہ میں آپکا درجہ اوّل شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن باعتبار اپنی روشن دماغی کے بھی آپ اسی درجہ کے مستحق ہیں۔ بوقت انتقال مہاراجہ دگبجی سنگھ صاحب چونکہ مہاراجہ بھگوتی پرشاد سنگھ صاحب نابالغ تھے۔ لہٰذا ریاست کورٹ آف وارڈس کے زیر عمل ہو گئی تھی۔ مگر ۱۹۰۰ء میں آپکی بلوغت پر اختیارات ریاست آپکو حسب ضابطہ عطا کئے گئے۔ جنکے بعد آپ اپنی سیر چشمی انصاف پسندی اور رفاہ جوئی کے باعث دن بدن گورنمنٹ اور رعایا میں ہر دلعزیز ہوتے جاتے ہیں۔ آپکی ریاست کی آمدنی ۴۴ لاکھ روپیہ سالانہ آبادی ۷ لاکھ بتیس ہزار۔ رقبہ ۱۳ سو میل مربع ہے۔ اور منشی برکت اللہ صاحب مدار المہام ریاست ہیں۔

(۵) راجہ پرتاب سنگھ صاحب بہادر والی قلعہ پرتاب گڑھ اودھ

آپ تعلقداران اودہ کیجانب سے بطور قایم مقام دربار ولایت پر بھی تشریف لیگئے تھے۔ انگریزی۔ اُردو۔ اور سنسکرت میں پوری پوری لیاقت رکھتے ہیں اور انتظام ریاست نہایت قابلیت سے خود کرتے ہیں۔ سفر ولائیت میں رانی صاحبہ بھی شریک تھیں جنکو خاص طور پر ملکہ معظمہ کی حضوری حاصل ہوئی۔ اور شاہی درباروں میں بڑے اعزاز کے ساتھ رسیوکی گئیں۔ مہاراجہ صاحب کو دربار دہلی میں سلامی اتوا کا اعزاز دیا گیا ہے۔ اور رفاہ عام میں آپ نہایت دلچسپی رکھنے کے علاوہ ضروریات زمانہ سے بخوبی واقف ہیں۔ گورنمنٹ کی خیر اندیشی و ہوا خواہی میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں اور انہیں وجوہات سے حکام بالادست اور رعایائے ماتحت آپکی ذات سے خوشنود پائی جاتی ہے۔

ٹھاکر ہری ہربخش سنگھ صاحب تعلقہ دار سروڑہ ضلع سیتاپور

صاحب موصوف راجہ بکرماجیت کے خاندان سے چھتری بنوار ہیں۔ آپکے بزرگ بحکم شاہ دہلی اس ملک کی اصلاح و سرکوبی کے لئے یہاں آئے تھے جنکو بجلدوئے خدمات خطاب اور تعلقہ بیشتر اعطا ہوا۔ چنانچہ راجہ اندر بکرم سنگھ صاحب ضلع لکھنؤ میں اسی خاندان کے رکن رکین ہیں۔ تعلقدار صاحب کے دادا ٹھاکر بلونت سنگھ صاحب نے معرکہ ۱۸۵۷ء میں سرکاری خدمات انجام دی ہیں جن سے گورنمنٹ عالیہ بہت خوشنود ہوئی۔ ٹھاکر ہری ہربخش سنگھ صاحب تین سال کے تھے کہ انکے والد ٹھاکر گنگا بخش سنگھ صاحب نے انتقال کیا تو انتظام ریاست آپکے نانا ٹھاکر دال سنگھ صاحب تعلقہ دار کچھونہ ضلع ہردوئی کے سپرد ہوا۔ اور آپ کے لئے خاص طور پر ریاست کے خرچ سے ایک سکول بصوابدید سرجارج کوپر صاحب چیف کمشنر اودھ آپکی ریاست میں بنوایا گیا جسمیں حسب قاعدہ آپنے علوم انگریزی و فارسی و سنسکرت میں تعلیم حاصل فرمائی۔ جسکے بعد ۱۸۸۳ء میں خود مختار کئے گئے۔ رعایا اور متعلقین کی سرسبزی اور گورنمنٹ کی وفاداری آپ کے ہر وقت نصب العین رہتی ہے۔ اور گورنمنٹ بھی آپکی بخوبی قدر و منزلت فرماتی ہے چنانچہ انجمن تعلقداران کے آپ ممبر بھی ہیں۔ اور جشن جیوبلی جو ڈیپوٹیشن بحضور نواب وائسرائے چیدہ تعلقہ داران اودھ کا پیش ہوا تھا۔ اسکے بھی آپ ممبر تھے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ اور میونسپل بورڈ کے بھی آپ ممبر ہوتے ہیں۔

آپکی ریاست کی آمدنی علاوہ سوائی کے قریباً اکتالیس ہزار روپیہ سالانہ ہے۔



جناب ٹھاکر ہری ہربخش سنگھ صاحب
والئے سرورہ



اونربل سیٹھہ رگھوبر دیال صاحب
تعلقہ دار معزالدین پور
ضلع سیتاپور اودہ

آنریبل سیٹھ رگھبر دیال صاحب رئیس بہادر تعلقہ دار معز الدین پور و کنگڑہ وغیرہ ضلع سیتاپور اودھ

صاحب موصوف اس خاندان کی یادگار ہیں جسکے مورث اعلیٰ سیٹھ چیٹ مل صاحب سرہند سے دہلی آئے تھے اور جنکے بیٹے سیٹھ رام چند کو اعلیٰ عہدہ فوج عطا کیا گیا تھا جسکے بعد انکے بیٹے سیٹھ جیونداس صاحب نواب سعادت خانصاحب کے ساتھ اودھ میں آئے اور انکو پرگنہ اسلام گنج و ریواں وغیرہ عطا ہوا - ان کے بیٹے فیض سیٹھ دیبی داس دیوان نواب صاحبان چالیس سال تک بعہدہ چکلہ داری و نظامت بادی ہے جنکے زیر حکومت بائیس سو مواضعات تھے سیٹھ دیبی پرشاد کے بیٹے سیٹھ خوشحال چند وغیرہ ہوئے - جنکے بعد سیٹھ جواہر مل اور انکے بیٹے سیٹھ منوہر لال اور انکے بیٹے سیٹھ مرلی منوہر وغیرہ ہوئے - جنہوں نے غدر میں سرکار انگریزی کی نمایاں خدمات کیں اور تعلقہ کنکڑہ دوری نگرا دیہوا کولا بنسا وغیرہ جاگیر میں پایا - انہیں کے خلف الصدق آنریبل سیٹھ رگھبر دیال صاحب ہیں جو سنہ ۱۸۶۶ء سے اپنے والد آنجہانی کی جگہ گدی نشین ہوئے آپکو امور رفاہ عام اور خیر اندیشی سرکار میں خاص دلچسپی رہی ہے - چنانچہ آپنے کیننگ کالج لکھنؤ میں جوبلی سکالرشپ اور سیکنڈ انل سکالرشپ کے نام سے وظائف بھی مقرر فرمائے - امداد غربا کیطرف آپکو ہمیشہ دلچسپی سے توجہ رہی چنانچہ قحط سالی میں بہت بڑی امدادیں آپنے دی ہیں سنہ ۱۸۹۱ء میں آپنے بشراکت اپنے بھائی سیٹھ جیدیال صاحب کے بنظر رفاہ عام ایک اگریکلچرل بنک قائم کیا جسمیں نہایت کم سود پر کاشتکاروں کو روپیہ دیا جاتا ہے اور پھر یادگار جشن جوبلی ایک سکول جدید بھی بنام ڈائمنڈ جوبلی سنسکرت پاٹھ شالا قایم کیا جسکے ساتھ ایک معقول جائداد بھی وقف فرمائی - آپکے قصبہ بسوان کو (جہاں آپکا قیام رہتا ہے) آنریری منصف آنریری مجسٹریٹ بھی ہیں اور سنہ ۱۸۹۶ء میں لوکل بورڈ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر ہوکر بڑی عمدگی سے کام کرتے رہے ہیں آپنے اپنے علاقہ کو سڑکوں تالابوں اور چاہات کی تعمیر سے بالکل انگریزی نمونہ کا بنا رکھا ہے - آپکے خلف الرشید سیٹھ سومی دیال صاحب اگریکلچرل بنک کے مینیجر ہیں جو علوم انگریزی و فارسی میں خاصی لیاقت رکھتے ہیں چنانچہ انہوں نے گلدستہ ریاست کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے جسمیں اولاد تعلقہ داران کے لئے تمام قسم کے کاغذات کے نمونے اور طریقے مندرج کئے ہیں -

عالیجناب راجہ محمد کاظم حسین خاں (بی) صاحب بہادر والی بلہرہ

راجہ صاحب بہادر قاضی نصراللہ کے خاندان سے ہیں جن کا سلسلۂ نسب حضرت ابوبکر صدیق رض سے ملتا ہے یہ صاحب خلیفۂ بغداد کیجانب سے سلطان شہاب الدین غوری کیلئے خلعت لائے تھے جنہیں پہلے تو امروہہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا گیا اور پھر بلحاظ انکے ذاتی جوہروں کے بلہرہ کا علاقہ معہ خطاب راجگی کے بھی سلطان شہاب الدین کیطرف سے عطا فرمایا گیا۔ کیونکہ حکم سلطانی سے آپنے ہی اسوقت کے حکمران بلہرہ پر معہ اسکی قوم کے فتح پائی تھی۔ اسکے بعد بھی آپکے خاندان کو اعزازہائے جلیلہ حاصل ہوتے رہے۔ اکبر کے وقت میں اس خاندان کی چوتھی پشت تھی۔ جس کے سرکردہ داود خان کو خطاب خان بہادری و نوابی کے علاوہ سپہ سالاری کا بھی اعزاز دیا گیا تھا جس سے آپکا خاندانی اختیار و اقتدار اور بھی بڑھ گیا۔ چنانچہ تعلقہ ہائے بلہرہ دبنیتی پور محمود آباد و بھیڑا مئو وغیرہ اسی خاندان میں آگئے۔ مگر داود خان کی جانشین خلف اکبر باز یدخان نے (جنکو غضنفر الدولہ امیر الملک نواب باز یدخان خاں بہادر مظفر جنگ کا خطاب تھا) تمام ریاست کو اپنے تین بیٹوں پر تقسیم کر دیا۔ عنایت خاں ن بلہرہ پر فتح خان صدر ایج اور ہدایت خاں محمود آباد پر قابض ہوئے چنانچہ محمود آباد اور بلہرہ کے موجودہ حکمران بھی برادر عم زاد ہیں۔

راجہ محمد کاظم حسین خاں صاحب کے والد بزرگوار راجہ عباد علیخاں نے ۱۸۷۰ء میں وفات پائی تو راجہ صاحب قابض ریاست ہوئے۔ آپنے اپنے وقت میں ریاست کو نہ صرف قرض کے بار سے سبکدوش کیا ہے بلکہ کئی ایک دیہات نئے خرید کر بھی شامل کئے ہیں۔

۴ - دسمبر ۱۸۷۷ء آپکو گورنمنٹ کیطرف سے باضابطہ موروثی خطاب راجگی و خان بہادری عطا ہوا اور ۱۸۹۸ء میں آنریری مجسٹریٹی دیگئی۔ علوم متعارفہ میں آپکو پوری دستگاہ حاصل ہے حالات و ضروریات زمانہ کو بخوبی جانتے ہیں چنانچہ اس کتاب میں اندراج کے لئے سب سے پہلے آپ ہی نے اپنی تصویر عنایت فرمائی تھی جو آپکی روشن خیالی کی ایک افصح دلیل ہے۔



عالیجناب راجه صاحب بہادر والی ریاست مانده
ضلع باره بنکی اوده

تعلقہ داران و درباریان صوبہ اودھ و آگرہ

۱- خان بہادر مولوی عبدالحمید خاں صاحب ڈپٹی کلکٹر۔
۲- منشی عبدالکریم صاحب سی آئی ای سی وی او رئیس آگرہ۔
۳- خان بہادر شیخ عبدالکریم صاحب سی آئی ای رئیس میرٹھ۔
۴- خان بہادر احمد اللہ خاں صاحب عرف منگل خاں رئیس پیلی بھیت۔
۵- نواب احمد شاہ صاحب رئیس سرہنہ۔
۶- خان بہادر نواب اسد اللہ خاں صاحب وائس چیرمین میونسپل بورڈ میرٹھ۔
۷- رائے بہادر لالہ بیجناتھ صاحب جج سمال کاز کورٹ آگرہ۔
۸- پنڈت رنجیت نارائن صاحب سب ڈیوٹیٹ جج آگرہ۔
۹- راجہ بلونت سنگھ صاحب سی آئی ای والی آوا۔
۱۰- مہاراجہ بھگوتی پرشاد سنگھ صاحب والی بلرامپور۔
۱۱- کنور پہرت سنگھ صاحب ڈسٹرکٹ جج۔
۱۲- راجہ بھوپندرا بہادر سنگھ صاحب والی کانیٹت۔
۱۳- راجہ بھوپندر بکرم سنگھ صاحب سی آئی ای والی پیاگپور۔
۱۴- پنڈت بشمبھرناتھ صاحب رئیس الہ آباد۔
۱۵- لالہ بشیشر پرشاد صاحب رئیس منرانواں۔ ضلع اناؤ۔
۱۶- رائے بہادر بپن بہاری چکرورتی صاحب اگزیکٹو انجینئر۔
۱۷- بابو گیانندرناتھ صاحب چکرورتی۔ ایم۔ اے ایل ایل بی قائمقام انسپکٹر مدارس
۱۸- راجہ دت پرشاد صاحب والی مرساں۔
۱۹- لالہ درگا پرشاد صاحب رئیس سردان بارہ گاؤں ضلع ہردوئی۔
۲۰- رائے بہادر دوارکا سنگھ صاحب انسپکٹر پولیس۔

۲۱ - پنڈت گرج کشور صاحب ڈپٹی منصف آگرہ۔

۲۲ - راجہ فتح سنگھ صاحب والی پوایاں۔

۲۳ - بابو گنگا بخش صاحب والی ٹکاری ضلع رائے بریلی۔

۲۴ - ٹھاکر ہری ہر بخش سنگھ صاحب والی سرورہ ضلع سیتاپور۔

۲۵ - سید حسن شاہ صاحب آنریری مجسٹریٹ بلند شہر۔

۲۶ - پنڈت ہیت رام صاحب سی آئی ای رئیس بریلی۔

۲۷ - شیخ عنایت اللہ صاحب والی سیدنپور ضلع بارہ بنکی۔

۲۸ - کنور اعتماد علیخاں صاحب والی سعد آباد ضلع متھرا۔

۲۹ - راجہ جگموہن سنگھ صاحب سی آئی ای والی عطرا چندرا پور۔

۳۰ - جناب بجے کرشن داس صاحب سی ایس آئی تعلقہ دار راج بہادر

۳۱ - جناب راجہ خوشحال کشور پرشاد مل بہادر والی باجھلی۔

۳۲ - راجہ محمد کاظم حسین خان صاحب والی نیتی پور ضلع سیتاپور

۳۳ - راجہ کرشن کمار صاحب والی سہسپور بلاری۔

۳۴ - رائے بہادر کرشنا شاہ صاحب آنریری مجسٹریٹ ممبر میونسپل بورڈ نینی تال

۳۵ - لال راگھو راج سنگھ صاحب والی منگا پور ضلع گونڈا

۳۶ - آنریبل پنڈت مدن موہن صاحب مالویہ۔ رئیس الہ آباد۔

۳۷ - منشی مادھو لال صاحب رئیس بنارس۔

۳۸ - رائے بہادر ٹھاکر مہا بیر پرشاد نارائن سنگھ صاحب رئیس الہ آباد۔

۳۹ - رائے بہادر پنڈت مہاراج نارائن صاحب شیوا پوری ڈپٹی کلکٹر

۴۰ - بابو منوہر لال صاحب چیئرمین میونسپل بورڈ فیض آباد

۴۱ - مولوی مہدی علیخاں صاحب آنریری سکرٹری ایم او کالج علیگڈھ۔

۴۲- مرزا محمد عباس بہادر صاحب رئیس لکھنؤ۔
۴۳- خان بہادر امیر الدولہ سعید الملک ممتاز جنگ سر راجہ محمد امیر حسن خاں صاحب کے سی آئی ای والی محمود آباد۔
۴۴- ممتاز الدولہ نواب محمد فیاض علیخاں صاحب والی پہاسو۔
۴۵- محمد نعیم خاں صاحب آنریری مجسٹریٹ کیلاشپور ضلع سہارنپور۔
۴۶- مسٹر محمد رفیق صاحب بیرسٹرایٹ لا جج سمال کازکورٹ اودھ۔
۴۷- مولوی محمد سمیع اللہ خاں صاحب سی۔ ایم۔ جی۔ رئیس علیگڈھ
۴۸- منشی محمد سراج الدین صاحب بیرسٹرایٹ لا سبارڈینیٹ جج صوبہ آگرہ
۴۹- سردار نراین سنگھ صاحب آنریری مجسٹریٹ رائے بریلی۔
۵۰- راجہ نرپتی سنگھ صاحب والی اسوتھر۔
۵۱- خان بہادر چودھری نصرت علیصاحب آنریری مجسٹریٹ سکرٹری انجمن تعلقہ داران اودھ لکھنؤ
۵۲- راجہ نوشاد علیخاں صاحب والی میلارگنج ضلع بارہ بنکی۔
۵۳- خان بہادر نواب مہدی حسن خاں صاحب عرف اچھو صاحب رئیس لکھنؤ
۵۴- آنریبل رائے بہادر نہال چند صاحب مظفر نگر۔
۵۵- راجہ پرتاب بہادر سنگھ صاحب والی قلعہ پرتاب گڈھ۔
۵۶- سر مہاراجہ پرتاب نراین سنگھ صاحب کے سی آئی ای والی اجودھیا۔
۵۷- راجہ رامپال سنگھ صاحب والی کالاکنکر۔
۵۸- راجہ رامپال سنگھ صاحب والی کوریسدھولی۔
۵۹- بابو رام پرشاد صاحب منصف اودھ۔
۶۰- راجہ رام پرتاب سنگھ صاحب والی ریاست مانڈہ۔
۶۱- راجہ رام پرتاب سنگھ صاحب والی مین پوری۔
۶۲- راجہ رام سنگھ صاحب والی بانسی۔

۶۳ - راجہ رام سنگھ صاحب والی راجپورہ۔

۶۴ - پنڈت رام شنکر صاحب معز مجسٹریٹ و کلکٹر۔

۶۵ - راجہ زبیر سنگھ صاحب والی ڈیرہ دون۔

۶۶ - راجہ بہادر سردار سنگھ صاحب رئیس کٹھرہ۔

۶۷ - آنریبل سیٹھ رگھو بردیال صاحب تعلقدار معزالدین پور ضلع سیتاپور۔

۶۸ - رانا شیوراج سنگھ صاحب والی بھکھرا ے (کھورگاؤں)

۶۹ - آنریبل راجہ شام سنگھ صاحب والی تاجپور۔

۷۰ - راجہ محمد صدیق خاں صاحب والی نانپارہ ضلع بہرائچ۔

۷۱ - آنریبل رائے بہادر لالہ سری رام صاحب رئیس لکھنؤ۔

۷۲ - رائے بہادر لالہ سری رام صاحب اسسٹنٹ انجنیئر۔

۷۳ - مہامہو پادہیائے سدھاکر دوبے صاحب رئیس بنارس۔

۷۴ - آنریبل راجہ تصدق رسول خان صاحب والی جہانگیرآباد۔

۷۵ - راجہ اودے راج سنگھ صاحب والی کاشی پور۔

۷۶ - نواب یوسف علی خاں صاحب والی چھتاری۔

افسران کیمپ احاطہ ممالک متحدہ

۱ - مسٹر بی بیلی صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس۔ افسر انچارج کیمپ۔
۲ - میجر جے چیز وائٹ آئی ایم ایس کمشنر حفظان صحت۔
۳ - مسٹر جے ایس سی ڈیوس ایجنٹ ٹیری گڑھوال۔
۴ - مسٹر ایل فریزر صاحب اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس۔
۵ - میجر ای جے بارڈن صاحب کلکٹر اٹاوہ۔
۶ - مسٹر ای آر پرسنز صاحب ڈپٹی انسپکٹر ریلوے پولیس۔
۷ - مسٹر ایل سی پورٹر صاحب ڈپٹی کمشنر ضلع گونڈا اودھ۔
۸ - مسٹر اے ایم ڈبلیو شیکسپیر صاحب ایجنٹ بنارس۔
۹ - مسٹر آر سی سٹرپچی صاحب پرسنل اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل پولیس۔
۱۰ - مسٹر پی ایف ریٹن ٹول بن صاحب اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل پولیس سپیشل برانچ۔

فصل پنجم

روسائے امرائے آسام

۱ ہزہائنس راجہ صاحب بہادر منی پور۔
۲ مسٹر عبدالمجید صاحب بی۔ اے بی ایل اسسٹنٹ کمشنر
۳ مولوی محمد احمد اچینے صاحب زمیندار سلہٹ
۴ مولوی علی امجد خاں صاحب زمیندار سلہٹ۔
۵ رائے بہادر بنگالی مدہوب چندر صاحب
ایم ایل ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر گوہاٹی۔
۶ رائے بہادر برواجگن ناتھ صاحب بی
آنریری مجسٹریٹ جرہات۔
۷ بابو سری جت ملیہوگ آنریری مجسٹریٹ
و کاشتکار چائے لکھیم پور۔
۸ بروا سری جت مانک چندر اگوہٹی۔
۹ بارو سری جت نندی ناتھ نوگانگ
۱۰ بر ولراجہ پربہت چندر اگوری پو
۱۱ بڑا اگو ہائیں سری جت لکھور جرہاٹ
سب اگر۔
۱۲ سری جت کالی پرشاد چالیا وکیل و وائس
چیرمین سب اگر لوکل بورڈ۔
۱۳ بابو کمینی کمار چندر ایم اے بی ایل
وکیل و وائس چیرمین سلہٹ میونسپلٹی۔
۱۴ سری جت چندر نارائن سنگھ موضع اکو
بلٹولہ کامروپ۔
۱۵ رائے صاحب بہادر بابو مدہن وائس چیرمین گوہاٹی میونسپلٹی
۱۶ رائے بہادر لال چند دیب بی ای سرکاری وکیل سلہٹ
۱۷ مولوی مجید بخت مجمع دار زمیندار سلہٹ
۱۸ منشی رحمت علی صاحب آنریری مجسٹریٹ کاشتکار چائے
۱۹ رائے راجہ گریش چندر زمیندار و کاشتکار چائے سلہٹ
۲۰ بابو بیکنٹھ ناتھ مترا زمیندار سلہٹ۔
۲۱ سری جت بھوانی چرن شرما آنریری مجسٹریٹ تیزپور
۲۲ رائے بہادر ہرچرن سیلا کنڈی کچہار
۲۳ بابو درگا چرن سین بی اے ایل ایل بی سب جج
۲۴ رائے بہادر چمنی لال سرادگی نکروسوداگر لکھیم پور
۲۵ سری جت چندر نارائن سنگھ جہات
۲۶ آکن سنگھ اوف نونگ کھلا خاصی جینتیا

افسران متعینہ آسام کیمپ

کپتان جی آر نیوبل شویٹر ہز ہائنس راجہ صاحب منی پور
میجر امی ٹی پولیٹیکل ایجنٹ منی پور انچارج کیمپ

فصل ششم

امرائے و روسائے بلوچستان

(الف) ہز ہائینس جناب میر علیخان صاحب بہادر کے سی آئی ای جام آف لس بیلہ

آپ کی ریاست بلوچستان کی سرحد پر واقع ہے اور گو قریباً بالکل انگریزی انتظام کی تقلید ہو رہی ہے مگر ابھی تک اِن کے رقبہ وغیرہ کا حال معلوم نہیں ہوا۔ ہمراہیان حسب ذیل تھے

۱۔ خان بہادر احمد یار خاں صاحب وزیر ۲ داد محمد صاحب ۳ سید جمن شاہ صاحب ۴ شیخ جمن صاحب ۵ چوگر خاں صاحب جموت۔

(ب) ہز ہائینس خاں صاحب بہادر والئی قلات جی سی آئی ای

آپ کی ریاست سرحدی ہونے کے اعتبار سے کسی وقت بڑی اعلیٰ درجہ کی شمار ہوتی تھی۔ لیکن اب وُہ حالت نہیں ہے۔ ہز ہائینس بالکل انگریزی اثر میں آگئے ہیں آپ اُس خاندان سے ہیں جو سکندر کے ساتھ جنگ آزما ہوا تھا۔ آپ کی ریاست کے رقبہ وغیرہ کا حال معلوم نہیں اتوا سلامی ۹ مقرر ہیں۔ ہمراہیانِ دربار حسب ذیل تھے

۱۔ میر بہرام خاں صاحب برادر خانصاحب
۲۔ نور محمد خاں صاحب کمانڈنٹ۔
۳۔ منشی غلام حسین صاحب۔
۴۔ منشی نصر اللہ صاحب۔
۵۔ سید شاہ صاحب وکیل۔
۶۔ غلام حیدر صاحب۔
۷۔ فتح محمد خاں صاحب۔
۸۔ عبداللہ خاں صاحب۔
۹۔ منشی عطاء اللہ صاحب۔
۱۰۔ محمد گل بیگ صاحب۔
۱۱۔ منشی جمعہ خاں صاحب۔
۱۲۔ منشی محمد خاں صاحب۔
۱۳۔ محمد حیات خاں صاحب۔
۱۴۔ محمد اطہر خاں صاحب۔
۱۵۔ محمد رضا صاحب۔

درباریان و امرائے بلوچستان

۱ میر عبداللہ خاں صاحب گچکی۔
۲ سردار عبدالرشید صاحب شہوانی۔
۳ عبدالوحید خاں صاحب درانی۔
۴ ملک اختر خاں صاحب بانڈو خیل۔
۵ میر عالم خاں صاحب بدینی رخشانی
۶ میر ملک عالم خاں صاحب مہترزئی۔
۷ علی محمد صاحب ہرونی۔
۸ آلو خاں صاحب موسیٰ خیل۔
۹ خان بہادر ارباب خداداد خانصاحب کاسی
۱۰ عطا خاں صاحب شیرانی۔
۱۱ ملک اعظم خانصاحب کدیزئی۔
۱۲ سید بہار شاہ صاحب۔
۱۳ خانصاحب ملک بہاؤالدین صاحب بیضائی۔
۱۴ سردار بختیار خاں صاحب رستم زئی۔
۱۵ بلوچ خاں صاحب بانڈزئی۔
۱۶ سردار بہادر جنگل خاں جوگی زئی۔
۱۷ انگل خاں صاحب ترین۔
۱۸ رائے صاحب سیٹھ بھیک چند میونسپل کمشنر کوئٹہ
۱۹ احمدن خاں صاحب۔
۲۰ سید چراغ شاہ صاحب۔

۲۱ دادا خاں صاحب زرکن۔
۲۲ ملک دیوا خاں صاحب حمزہ زئی۔
۲۳ دلبر ملا خاں صاحب فقیر زئی
۲۴ سردار دوست محمد صاحب لہری۔
۲۵ میر فقیر محمد صاحب بزنجو۔
۲۶ سردار غوث بخش صاحب رئیسانی۔
۲۷ غلام علیخان صاحب ڈویرہ بلیدی
۲۸ خان بہادر غلام حیدر خاں صاحب اچک زئی۔
۲۹ خاں صاحب ملک حاجی ہارون صاحب۔
۳۰ حلیم خاں صاحب سارنگ زئی۔
۳۱ حسین خاں صاحب دمڑ۔
۳۲ میر عیسیٰ خاں صاحب نوشیروانی۔
۳۳ خاں صاحب عیسیٰ خاں صاحب تارین
۳۴ خاں صاحب جمال خاں صاحب موسیٰ خیل
۳۵ میر جان بیگ جمالدینی صاحب رخشانی
۳۶ قیصر خاں صاحب ڈیرہ مکاسی۔
۳۷ خان بہادر میر خیر بخش خاں سردار آف ماڑی
۳۸ ملک خوئیداد خاں صاحب رزائی۔
۳۹ ملا خداداد خاں صاحب۔
۴۰ میر سہراب خاں صاحب گچکی۔

۴۱ میر مہراب خاں صاحب کہتران۔
۴۲ سردار مہراب خاں صاحب دومکی۔
۴۳ سید مہر شاہ صاحب خارسن
۴۴ خان صاحب میاں خاں کنبزئی
۴۵ میر مرہم خاں صاحب گرگ ناری
۴۶ سردار بہادر محمد اکبر خاں صاحب جوگی زئی
۴۷ میر محمد علیخاں صاحب داگر منگل۔
۴۸ سردار محمد اعظم خاں صاحب محمد شاہی
۴۹ میر محمد بقا خاں صاحب۔
۵۰ سید محمد حسین شاہ صاحب خشگہاری۔
۵۱ سردار محمد خاں صاحب باروزئی۔
۵۲ خان بہادر نواب خاں صاحب برنی۔
۵۳ نواب خاں صاحب بنیچی۔
۵۴ نور محمد وڈیرہ صاحب بنگلزئی۔
۵۵ سردار باہر خاں صاحب ساسولی۔
۵۶ سردار سپند خاں صاحب بریک زئی
۵۷ بابو خاں صاحب قدمر۔
۵۸ میر رحیم خاں صاحب گرو۔

۵۹ خان بہادر سکندر خاں صاحب لہری
۶۰ میر سربلند خاں صاحب باروزئی
۶۱ سردار خاں وڈیرہ صاحب رند
۶۲ نواب سر شہباز خاں صاحب بگٹی سی۔آئی۔ای بگٹی۔
۶۳ سردار شاکر خاں صاحب منگل
۶۴ سردار شیخ عمر خاں صاحب ججگی
۶۵ ملک شیر محمد خاں صاحب عبداللہ زئی۔
۶۶ میر شیر محمد خاں صاحب عمرانی۔
۶۷ خان بہادر محبت خاں صاحب گولہ۔
۶۸ ملک سلطان محمد خاں صاحب رکاری
۶۹ دہاب خاں صاحب پیزئی۔
۷۰ میر قہاری خاں صاحب مرغزالی۔
۷۱ سردار یار محمد صاحب گرو۔
۷۲ زاغی خاں صاحب جوگی زئی۔
۷۳ سردار زہری خاں صاحب سیانی
۷۴ خان بہادر یوسف خاں صاحب کرد

افسران متعینہ بلوچستان کیمپ

۱ کپتان ایس جی کنوکس آفیسر انچارج کیمپ ۲ میجر ایچ ایل شوورد پولیٹیکل ایجنٹ قلات ۳ سی بی کپتان وسٹر پولیٹیکل ایجنٹ بلوچستان۔ ۴ دیوان گنپت رائے صاحب سی آئی ای اسسٹنٹ افسر انچارج کیمپ



هزهائینس مہاراج سرسیاجی راو شمشیر بہادر
جی - سی - ایس - آی والئے ریاست بروده

فصل ہفتم

روساء و امرائے علاقہ بمبئی

(الف)
ہز ہائینس مہاراجہ سیاجی راؤ صاحب بہادر شمشیر بہادر جی سی ایس آئی والی ریاست بڑودہ

ہز ہائینس کی ریاست زبردست خاندان مرہٹہ کی ایک اعلےٰ ترین یادگار ہے جسکے بانی سیواجی راؤ گذرے ہیں جن سے اورنگ زیب کے بہت بڑے معرکے ہوتے رہے ہیں آپکی ریاست کا رقبہ ۸۰۲۹۹ مربع میل اور زر مالیہ تقریباً سوا کروڑ ہے آبادی بیس لاکھ اور توپ سلامی ۲۱ ہے ہز ہائینس ملک معظم کے جشن تاجپوشی انگلستان میں بھی شریک ہوچکے ہیں اور ایک روشن خیال رئیس گنے جاتے ہیں - ایام دربار میں آپ ایڈیٹروں کے کیمپ میں بھی تشریف لائے تھے - تکلفات وغیرہ سے بالکل نفور اور صاف گوئی و خودداری میں خاص طور پر مشہور ہیں - فہرست ہمراہیان یہ ہے:-

۱ - انند راؤ گیکواڑ برادر ہز ہائینس ۲ - آپا صاحب ہیڈ انچارج آف ہز ہائینس کیمپ ۳ و ۴ - ادجت راؤ گیکواڑ و دادا صاحب گیکواڑ عموزاد برادران ہز ہائینس - ۵ - کرساسپ جی رستم جی دادا چندجی چیف جسٹس ۶ - میر معین الدین حسین خاں سردار ۷ - مہتہ منو بھائی نند شنکر کا مدار حضور - ۸ - رامچند نارائن جدہیو میڈیکل انچارج ادف کیمپ ۹ - رامچندر وٹھوبا ڈہمنا شنکر دیوان ۱۰ شنکر راؤ گنگا دہر شاستری درکدار ۱۱ - یشونت راؤ راجی پاندھر سردار - ۱۲ - مسٹر ٹی - ایچ فرنچ اتالیق عنایت ہز ہائینس صاحب مع لیڈی صاحبہ ۱۳ و ۱۴ مس ایم ایچ میٹھ و مس ایم ایچ ریکارڈ و مصاحبات بیگم صاحبہ - ۱۵ - میجر ای ایف میرنٹ - آئی سی ایس انچارج ادف کیمپ - ۱۶ - مسٹر ڈبلیو ڈبلیو روڈنگ صاحب سکرٹری ہز ہائینس - آپکا کیمپ علیحدہ نصب تھا اسلئے یہاں بھی سب سے پہلے رکھا گیا

ہز ہائینس سر آغا سلطان محمد شاہ خاں صاحب جی سی ایس آئی رئیس اعظم بمبئی

ہز ہائینس اگرچہ کسی ریاست کے باختیار حکمران اور کسی رعایا کے باقاعدہ فرمانروا نہیں ہیں مگر باعتبار مذہبی پیشوا ہونے کے وہ اسقدر اپنے پیرو رکھتے ہیں کہ جو تعداد میں کسی ریاست کی رعایا سے بہت زیادہ ہیں اور صرف انکے اشارے پر جان و مال تک فدا کر دینا اپنا فخر سمجھتے ہیں آپ قوم خوجہ کے لیڈر ہیں جو مذہباً اہل تشیع کی ہمرنگ ہے مریدوں کی تعداد سے آپکو قریباً پندرہ لاکھ روپیہ سالانہ کی آمدنی ہے لیکن آمد و خرچ کے رجسٹر آپنے باقاعدہ کھول رکھے ہیں جنہیں ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ آپ اس روپیہ کے ایک بہت بڑے حصہ کو قوم خوجہ کی یتامے اور بیواؤں کی پرورش پر صرف فرما دیتے ہیں

ہز ہائینس علوم انگریزی و عربی و فارسی میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں اور گورنمنٹ انگریزی کے بہت بڑے خیرخواہ ہیں۔ لباس بھی عموماً انگریزی ہی ہوتا ہے عمر ستائیس سال کی ہے اور رنگ بھی گورا ہے۔ اسلئے عوام نہیں انگریزی لباس میں انگریز ہی سمجھتے ہونگے

ہز ہائینس پہلی دفعہ ملکہ وکٹوریہ کے وقت میں اور پھر شہنشاہ معظم کی تاجپوشی کی تقریب سے یوروپ جا چکے ہیں جہاں انکی خاطر و مدارات نہایت تپاک سے کیجاتی رہی۔ اسکے علاوہ جرمن۔ ٹرکی اور ایران کے فرمانرواؤں سے بھی آپ مل چکے ہیں۔ اور وہ بھی آپسے نہایت اعزاز کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں۔ بلکہ شہنشاہ جرمن نے تو آپ کو ایک معزز خطاب بھی دیا ہے۔ آپ تہذیب و ترقی کے بہت بڑے دلدادہ ہیں۔ قومی معاملات سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ بھی ہوئے تھے۔ اور ایک ایسی تقریر اسمیں آپنے کی تھی۔ جس پر مدتوں اخبارات میں جرح قدح ہوتی رہی۔ آپ کا خاندان ایران کے خاندان شاہی سے ہے جو اختلاف مذہبی کی وجہ سے ہندوستان آیا۔ اور یہاں آکر وہ اقتدار حاصل کیا کہ آج کسی پیشوائے مذہبی کو حاصل نہوگا۔ گورنمنٹ انگلشیہ کی قابل قدر خدمات مختلف مواقعات پر آپ نہایت تندہی سے انجام دیتے رہے ہیں۔

(ج)

ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر والیٔ بانسدہ

آپ کی ریاست کا رقبہ ۲۴۴ میل مربع آبادی تقریباً چالیس ہزار اور آمدنی تقریباً دو لاکھ سالانہ ہے اور ۹۔ اتواپ سلامی مقرر ہیں آپ دربار میں بہمراہیان ذیل شامل ہوئے۔

۱۔ مہاراول شری اندر سنگھ جی پرتاپ سنگھ جی ولیعہد ۲۔ ٹھاکر شری چھتر سنگھ جی عجب سنگھ جی رشتہ دار ۳۔ خان بہادر ہرمز جی ادرجی پٹیل دیوان ۴۔ پران شنکر دیا شنکر نائب دیوان ۵۔ مسٹر پی جی سنگھ چیف میڈیکل آفیسر ۶۔ مسٹر بھیکا بھائی ترنبک رام پرائیویٹ سکرٹری ۷۔ مسٹر بھیم راو اگمان راو ایڈیکانگ ۸۔ گنپت رام مادھو رام بخشی ۹۔ داس راؤ شیو رام۔ سررشتہ دار حضور۔

(د)

جناب ٹھاکر صاحب والیٔ پالیتانہ

آپ کی ریاست کی آبادی پچاس ہزار اور آمدنی قریباً چار لاکھ ہے اور اتواپ سلامی ۹ مقرر ہیں۔ آپ کے ہمراہ مندرجہ ذیل صاحبان تھے۔

۱۔ راؤ بہادر گنپت راؤ نراین لوڈ چیف کارو باری ۲۔ جمعدار محمد حنیف صاحب ایڈیکانگ ۳۔ اعظم لالجی ہرید اس صاحب پرائیویٹ سکرٹری ۴۔ گوہل کلو بہا سردار سنگھ صاحب بھیات ۵۔ اعظم دوار کا داس مع نندا و ن داس صاحب چیف وکیل۔

(ہ)

ہز ہائینس ٹھاکر صاحب بہادر والیٔ بھاؤنگر

آپ کی ریاست میں ۲۴۵ گاؤں ہیں جنکی سالانہ آمدنی تخمیناً تیس لاکھ اور آبادی قریباً پانچ لاکھ اتواپ سلامی ۱۱ ہیں۔ آپ بہمراہیان ذیل شریک دربار تھے۔

۱۔ کمار شری منگل سنگھ جی برادر ہز ہائینس ۲۔ دلپت رام اعظم پربھا شنکر دیوان ۳۔ ڈاکٹر پیر جو جی برام جی چیف میڈیکل افسر ۴۔ اعظم سری لال سلائی لال نائب دیوان ۵۔ ای ڈبلیو پراکٹر سمس ایم اسکوائر انجینیر ۶۔ راؤل ہمان سنگھ جی بھیات اینڈ سکا نڈنٹ امپیریل لانسرز ۷۔ رانا کلو بہا کلیان سنگھ جی ایڈیکانگ ۸۔ اعظم مورا جی چیف وکیل ایجنٹ گورنر ۹۔ مسٹر جہانگیر سی کالے ایجنٹ بمبئی ۱۰۔ مسٹر پرسل مع لیڈی صاحبہ ۱۱۔ کمار شری گوی جو سنگھ جی آف راج پیلہ ۱۲۔ مسٹر منچر جی ام بھاؤنگری ایم بی سی آئی ای

جناب پنت سیکو صاحب والی بھور

آپ کی ریاست کا رقبہ معلوم نہیں ہوا ہمراہیان دربار حسب ذیل ہیں۔
ا شری منت رگھناتھ راؤ عرف بابا صاحب سیکو ولیعہد ۲ مسٹر سری ہری راجی ہتبا کاربارحی
۳ مہربان شودیو راؤ رگھناتھ عرف بھاؤ صاحب دیکو رکر ۴ مہربان رام راؤ کرشنا۔

ہز ہائینس راناصاحب بہادر والی پوربندر

آپ کی ریاست کی آبادی قریباً اسی ہزار ہے اور آمدنی ۱۴ لاکھ۔ سلامی توپ
۱۱ مقرر ہیں ہمراہیان ذیل شریک دربار ہوئے۔
ا راؤ بہادر منی لال اجیت رائے صاحب دیوان ۲ راوت اناشو سنگھ جی کرن سنگھ جی صاحب ایڈیکانگ
۳ مسٹر پرپٹ لال اکیا لسی صاحب چیف میڈیکل آفیسر ۴ مسٹر پھول چند بابا بھائی صاحب اسٹیٹ انجینئر
۵ مسٹر ربھون داس کیشو لال صاحب اسٹیٹ ٹرزری ہرجن مسٹر کالی داس کرم چند صاحب سپرنٹنڈنٹ
جنگلات ۷ مسٹر جایا لال دواگرجی صاحب کاروباری خانگی ۸ مسٹر لکھشمی شنکر پربھوداس
صاحب وکیل ریاست۔

ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر والی ڈریہ

آپ کی ریاست کا رقبہ ۱۳۰ میل مربع آبادی قریباً ساٹھ ہزار اور آمدنی تخمیناً
دو لاکھ سالانہ ہے نو توپ سلامی ہیں درباری ہمراہیان حسب ذیل تھے۔
ا کمار شری رنجیت سنگھ جی ولیعہد ۲ کمار شری نا ہر سنگھ جی فرزند دوم ہز ہائینس ۳ راؤ بہادر ہری
لال منسکھ رام دیوان ۴ مسٹر رام کرشنا منسکھ رام پرائیویٹ سکرٹری ۵ مسٹر جیت سنگھ جی
موہن سنگھ جی بھیات ۶ مسٹر جنا بہائی نارن بھائی مصاحب ۷ مسٹر جگن ناتھ جدیو رائے ڈاکٹر
۸ مسٹر برج بھوکھان جینی لال کلرک انگریزی پرائیویٹ ۹ مسٹر ہیرا لال کا مدار پرائیویٹ ۱۰ مسٹر
محمد بن سنگور جمعدار ۱۱ مسٹر آصف علی محمد علی ایجنٹ ۱۲ مسٹر دولت سکھ ہیرا لال کمار شری کلرک ۱۳
مسٹر موہن لال جیون جی جاپانی کلرک ۱۴ مسٹر میرجی پرسوتم تھانیدار۔

ہز ہائینس نواب صاحب بہادر کے سی ایس آئی والی ریاست جوناگڈھ

آپکی ریاست کا رقبہ ۳۴۰۰ میل مربع آبادی تقریباً ۴ لاکھ آمدنی بیس لاکھ اور توپ سلامی ۱۱ ہیں انتظام ریاست شیخ محمد بہاؤالدین صاحب مدارالمہام ریاست کرتے ہیں آپ ہمراہیان ذیل تشریف لائے ۱ نوابزادہ شیر زمان خان صاحب ولیعہد ۲ شیخ محمد بہاؤالدین صاحب سی آئی ای مدارالمہام ۳ چونی لال سارا بھائی صاحب دیوان اعظم ۴ پرشوتم رائے سندرجی صاحب نائب دیوان ۵ منسکھ رام تریبارام صاحب ممبر کونسل ۶ محمد خان فرزند علی صاحب افسر توشیخانہ ۷ امرجی انندجی افسر کاروبار خانگی ۸ ڈاکٹر ترسہوان داس موتی چند شاہ صاحب چیف میڈیکل افسر ۹ چھوٹے لال متھرا داس صاحب سکرٹری حضور ۱۰ بھوپت رائے تریکم جی وکیل متعینہ گورنری بمبئی ۱۱ امیرزادہ بڑے میاں صاحب امیر ۱۲ میاں عثمان خان صاحب امیر ۱۳ شجاعت شجاع جمعدار محمد بھائی میر بھائی صاحب امیر ۱۴ سیٹھ قاسم اسمٰعیل صاحب امیر ۱۵ جمعدار عباس عالم صاحب ۱۶ چشتی مقبل میاں فیض حسین صاحب امیر ۱۷ مجو میاں صاحب قادری امیر ۱۸ جمعدار عباس عالم بن مبارک امیر ۱۹ اجو میاں کمو میاں صاحب کمانڈنگ افسر امپیریل سروس کیولری۔

نواب سیدی احمد خان صاحب بہادر کے سی آئی ای والی جنجیرا

آپ قوم کے شیدی (حبشی) ہیں۔ عربی۔ فارسی۔ انگریزی بخوبی جانتے ہیں آپ کی ریاست کا رقبہ ۳۲۴ مربع میل آمدنی تقریباً پانچ لاکھ آبادی ایک لاکھ اور توپ سلامی ۹ ہیں آپ بہمراہیان ذیل آئے تھے۔

۱ مسٹر علی اصغر حسین علی لطف علی فیضی بیرسٹر دیگم نواب صاحب ۲ مسٹر ایم ایف گیر صاحب گورنمنٹ پنشنر چیف میڈیکل افسر ۳ راؤ گنیش ونن صاحب کاربوری ریاست ۴ شیدی محمد شیدی سکہانی صاحب سرتیدی ۵ شیدی اسمٰعیل شیدی عبدالکریم صاحب شیدی بھائی بند ۶ حسین شیدی صاحب ہمراہ شیدی بھائی بند ۷ آر ڈی گپتا صاحب ایڈوکیٹ سکرٹری ۸ راجہ رام رام چندر صاحب گپتا چٹ نویس حضور۔

جناب میر صاحب بہادر والی ٹھالی

آپ کی ریاست کا رقبہ اور آمدنی معلوم نہیں۔

ہز ہائینس نواب صاحب بہادر والئی ریاست کیمبے

آپکی ریاست کا رقبہ ۳۵۰ میل مربع آبادی دو لاکھ آمدنی تخمیناً چار لاکھ اور توپ سلامی ۱۱ ہیں۔ آپکے ہمراہی یہ تھے۔

۱ راؤ بہادر سیو رام ہری نارائن صاحب دیوان ۲ مرزا بادشاہ علی حسین علی صاحب برادر بیگم صاحبہ ۳ مرزا علی محمد خان صاحب برادر بیگم صاحبہ ۴ مسٹر موتی شنکر لال شنکر صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس ۵ ڈاکٹر دہنجی موتی بھائی چیف میڈیکل افسر ۶ مرزا نجف علی صاحب پرائیویٹ سکرٹری ۷ سید عبد اللطیف خان صاحب رشتہ دار ہز ہائینس ۸ حکیم ڈاکٹر حسین خان صاحب طبیب خاص ۹ آغا محمد حسین خان صاحب رشتہ دار ہز ہائینس ۱۰ آغا حسین علی امداد علی صاحب رشتہ دار ہز ہائینس ۱۱ آغا محمد علی آغا جعفر صاحب رشتہ دار ہز ہائینس ۱۲ مسٹر ظہیر الدین رحیم الدین صاحب پرسنل سکرٹری

ہز ہائینس مہاراؤ صاحب بہادر جی سی آئی ای والئی ریاست کچھ

آپ کی ریاست کا رقبہ باستثنائے جھیل ۶۵۰۰ میل مربع آبادی قریباً چھ لاکھ اور آمدنی ۲۳۰۰۰۰۰ روپیہ سالانہ ہے توپ سلامی ۱۷ ہیں آپکے ہمراہیان حسب ذیل تھے۔

۱ کمار سری وجیراجی صاحب ولیعہد ۲ کمار سری گودجی صاحب فرزند دوم ۳ کمار سری کرن سنگھ جی صاحب سی آئی ای برادر ہز ہائینس ۴ رانا ظالم سنگھ جی صاحب سردار ۵ جی دیپ سنگھ جی صاحب جاگیردار کٹھارا ۶ جی نوگھن جی صاحب جاگیردار گجہ ۷ جی بدیپ سنگھ جی صاحب سندھان ۸ جی ہمیر جی جاگیردار راؤ ۹ مسٹر رنچھوڑ بھائی اودے رام صاحب دیوان ۱۰ مسٹر چھوٹے لال صاحب سیوک رام صاحب سکرٹری حضور ۱۱ مسٹر جی کیمپ بل کرابی صاحب سپرنٹنڈنگ انجینئر ریلوے ۱۲ مسٹر جی مینوٹ سمتھ اتالیق ولیعہد صاحب ۱۳ راؤ بہادر چھوٹی لال جی لالو بھائی صاحب نائب دیوان ۱۴ مسٹر موتی بھائی مانی بھائی اسسٹنٹ حضور ۱۵ ڈاکٹر بھیکا جی جیوا جی نانہ چیف میڈیکل افسر ۱۶ خان بہادر پشوتنجی سہراب جی چیف پولیٹکل افسر ۱۷ مسٹر جیونی لال امرت رام اسسٹنٹ منیجر ۱۸ خان بہادر پشوتنجی سہراب جی افسر خاص ۱۹ مسٹر اوما شنکر سیوک رام بخشی فوج ۲۰ مسٹر امرت لال پنجا افسر کارخانہ باغات ۲۱ مسٹر لکھشمی شنکر جگجیون صاحب اسسٹنٹ فوجدیوان۔

ہز ہائینس چھتر پتی مہاراج صاحب بہادر جی سی ایس آئی والی ریاست کولا پور (ن)

آپ کی ریاست کا رقبہ ۳۱۸۴ میل مربع آبادی قریباً دس لاکھ آمدنی تخمیناً ۴۸ لاکھ روپیہ سالانہ اور القاب سلامی ۱۹ ہیں۔ آپ بہمراہیان ذیل شریک دربار ہوئے تھے۔

۱ مہربان باجی راؤ کرشنا پنتھ صاحب رئیس وشالگڈھ جاگیردار ۲ مہربان ہیو راؤ مولشیور پنتھ رئیس باوڈا جاگیردار ۳ مہربان سرجی راؤ گھیشنگ سرجی راؤ وزارت مآب رئیس کاگل ۴ مہربان جو سنگہ راؤ صاحب رئیس کپشی جاگیردار ۵ مہربان نارائن راؤ گھور پڑے رئیس اچلکرنجی جاگیردار ۶ مہربان تاجی راؤ گھیشنگ رئیس کاگل جاگیردار ۷ مہربان مورار راؤ شنبہ جی راؤ جی جاگیردار لوگل ۸ مہربان اودے جی راؤ جاگیردار ۹ مہربان ہنمنت راؤ گوپال راؤ جاگیردار ۱۰ ناگو جی راؤ باباصاحب رشتہ دار ہز ہائینس ۱۱ مہربان کدار راؤ رشتہ دار ہز ہائینس جمعدار محاصل ۱۲ باپو جی گیکواڑ صاحب سردار ۱۳ آپا صاحب چالیکر سردار ۱۴ آپا صاحب سرو رشتہ دار ۱۵ نارائن راؤ ترود کر رشتہ دار ۱۶ راؤ بہادر آر دی سبنس صاحب دیوان ریاست ۱۷ راؤ صاحب بی ڈی جدیو ہسسٹنٹ دیوان ۱۸ راؤ صاحب جی اے گیکواڑ افسر ضلع و سردار ۱۹ راؤ صاحب این بی بھیڈ پرائیویٹ سکرٹری ۲۰ راؤ صاحب ننگرے افسر رسالدار ۲۱ راؤ صاحب دتاجی راؤ سکرٹری رئیس کاگل ۲۲ راؤ صاحب ڈی بی وچارے اگزکٹو انجنیئر ۲۳ بابا صاحب کونڈلکر برادر مہارانی صاحبہ و ایڈیکانگ ہز ہائینس ۲۴ دتاجی راؤ انگل ایڈیکانگ ۲۵ بہاؤ صاحب نمبالکر ایڈیکانگ ۲۶ مسٹر پیر صاحب مع لیڈی صاحبہ ۲۷ ڈاکٹر شاکر صاحب مع لیڈی صاحبہ ۲۸ لفٹنٹ ڈبلیو ایف فرس صاحب۔ ۲۹ بالا صاحب تواد کر۔

ہز ہائینس ٹھاکر صاحب بہادر جی سی آئی ای معہ مہارانی صاحبہ و دختر خود والی گونڈل

آپ ایڈنبرا یونیورسٹی کے ڈگری یافتہ بالکل انگریزی تعلیم کے رئیس ہیں۔ آپ دربار میں بہمراہیان ذیل شامل ہوئے تھے

۱ اعظم ڈاکٹر سنجی صاحب دیوان ۲ بے سری بال سنگہ جی صاحب بہیات ۳ اعظم ہری کرشن لال شنکر جی صاحب پرائیویٹ سکرٹری حضور ۴ اعظم فیروز شاہ مانک جی صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس ۵ اعظم بالا بھائی گلاب چند صاحب سٹیٹ انجنیئر ۶ اعظم ہری بھیکا جی صاحب چیف میڈیکل آفیسر ۷ اعظم لکھشمی شنکر صاحب ڈپٹی ریاست ۸ اعظم مگن لال لکشمی شنکر صاحب سر رشتہ دار حضور۔

عالیجناب سلطان صاحب بہادر (ع) کے سی ایس آئی والی لاہج

آپکے ہمراہیوں کے نام اور رقبہ وغیرہ معلوم نہیں ہوا۔

جناب ٹھاکر صاحب بہادر (ف) کے سی آئی ای والی لمبڑی

آپکی ریاست کی آمدنی تقریباً تین لاکھ اور آبادی اندازاً ساٹھ ہزار ہے اتواپ سلامی ۹ مقرر ہیں ہمراہیان دربار یہ تھے۔

۱ راؤ صاحب جھوبہائی ناتھو بھائی صاحب امین کاروباری ۲ رانا کیسری سنگھ باجی بھائی صاحب ذیر ریاست ۳ رانا سکھ بہائی رتن سنگھ صاحب کاروباری ال ۴ مسٹر کھیم چند لکھمی چند صاحب پرائیوٹ سکرٹری ۵ مسٹر ایف ڈی نادر شاہ صاحب میڈیکل آفیسر ۶ عظم بسی بابا بھائی صاحب ہیڈ وکیل ۷ رانا صاحب سنگھ واجی بھائی صاحب ایڈیکانگ ۸ کسیبھائی رسا بھائی صاحب انجینئر ریاست۔

جناب رئیس صاحب (ص) والی میراج (کلاں)

آپکی ریاست کے رقبہ وغیرہ کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا۔

ہز ہائینس ٹھاکر صاحب بہادر (ق) جی سی آئی ای والی ریاست موروی

آپکی ریاست کی آمدنی ۷ لاکھ اور آبادی ایک لاکھ ہے اور اتواپ سلامی ۱۱ مقرر ہیں ہمراہیان یہ تھے ۱ کمار سری لگدیراج صاحب ولیعہد ۲ مسٹر راجی مانگل جی ایریل اسسٹنٹ قصور ۳ مسٹر دادا بھائی پی باناجی صاحب چیف میڈیکل افسر ۴ مسٹر گوکل داس جیال صاحب اسسٹنٹ انجینئر ۵ مسٹر گردن جی واچھا صاحب پولیس سپرنٹنڈنٹ ۶ جیجو نانی بھائی صاحب ۷ مسٹر سنفورڈ صاحب ٹیوٹر ۸ لیڈی حستہ ڈاکٹر اخبش صاحب ۹ کمار سری مدو سنگھ جی ۱۰ مسٹر ساجن بیلہ ۱۱ جیجو خنجی بھائی صاحب

ہز ہائینس سلطان صاحب بہادر (ر) والی شحر و مکلہ

آپکی ریاست برٹش انڈیا میں نہیں ہے اسلئے رقبہ وغیرہ کا حال معلوم نہیں ہوا آپکے ہمراہی یہ تھے ۱ سلطان عمر صاحب فرزند سلطان صاحب ۲ سلطان صالح صاحب بن غالب ۳ سلطان محمد صاحب فرزند سلطان غالب صاحب ۴ قائمقام صاحب بن عبدالقادر سکرٹری ۵ حسین صاحب بن حمید ۶ حبیب محمد صاحب بن عبداللہ محافظ ۷ نصیر صاحب بن احمد الکثیلی ایڈیکانگ ۸ عبداللہ صاحب بن محسن الکثیلی ایڈیکانگ۔

ہز ہائینس میر فیض محمد خان صاحب بہادر جی سی آئی ای والی خیرپور سندھ

آپ کی ریاست کے رقبہ اور آمدنی و آبادی وغیرہ کا حال معلوم نہیں ہوا اسلامی ۱۷۔ اتواب کی ہی سندھ کے سب سے بڑے حکمران ہیں۔ انتظام ریاست خان بہادر قادر داد خان صاحب سی آئی ای وزیر ریاست کرتے ہیں۔ دربار میں یہ صاحبان آپکے ہمراہ تھے ۱۔ میر امام بخش خان صاحب خلف میر صاحب ۲ میر احمد علی خان صاحب خلف میر صاحب ۳ میر محمد مراد خان صاحب ۴ میر الہ داد خان صاحب ۵ خان بہادر قادر داد خان صاحب سی آئی ای مدار المہام ۶ ڈاکٹر فرزند علی صاحب نائب وزیر ۷ غلام محمد صاحب اسسٹنٹ وزیر ۸ عمر خان صاحب کمانڈر افواج ریاست ۹ ہز ہائینس میر علی مراد خان صاحب جاگیر دار۔ ۱۰ میر علی بخش خان صاحب ۱۱ شہزادہ میر محمد خان صاحب جاگیر دار دختر زادہ ہمشیرہ زادہ میر صاحب برادر خورد

رئیس زادگان احاطہ بمبئی

دجو راجکمار کالج میں تعلیم پاتے ہیں جنکا کیمپ سی ڈبلیو واڈنگٹن اسکوائر کے چارج میں تھا

۱۔ ہز ہائینس جسونت سنگھ جی صاحب جام نانگر۔
۲ ہز ہائینس محمد شیر خان صاحب نواب پالن پور
۳۔ مہاراول سری فتح سنگھ جی صاحب راجہ چھوٹا اودے پور۔
۴۔ ٹھاکر صاحب لکھاجی راج رئیس راجکوٹ
۵۔ نواب شیدی ابراہیم خان صاحب رئیس سچین
۶۔ مہادیو راؤ ڈاجی صاحب پوار دھان رئیس جامکھنڈی۔
۷۔ ملوجی راؤ صاحب راج گھورپڑے رئیس مدھول
۸۔ رام راؤ امرت راؤ صاحب رئیس جاٹھ۔
۹۔ خان رفیع الدین خان صاحب رئیس مناوادر
۱۰۔ ملک زین خان صاحب رئیس سادہ
۱۱۔ کمار جلال الدین خان صاحب رئیس رادھن پور۔
۱۲۔ کمار سری رنجیت سنگھ جی صاحب رئیس لوناواڑا
۱۳۔ کمار سری رگھناتھ سنگھ جی صاحب رئیس لوناواڑا۔
۱۴۔ کمار سری کرن سنگھ جی صاحب رئیس راجکوٹ۔
۱۵۔ کمار سری گمان سنگھ جی صاحب رئیس پالیہ۔

۱۶- کماری سور آور سنگھ جی صاحب رئیس چوڑہ۔
۱۷- کماری کنول ٹھٹھہ والا صاحب رئیس ملکیا
۱۸- شیخ غلام جیلانی صاحب رئیس جمعدار رئیس روائی
۱۹- کماری مہروجی صاحب رئیس سیلہ۔

۲۰- کماری واجو سنگھ صاحب رئیس سیلہ
۲۱- مسٹر سکھرام صاحب بی پٹیل
اسسٹنٹ ماسٹر ایکونٹنٹ راجکمار کالج۔
۲۲- دیوان صاحب لوناواڈا۔

درباریان (ش) علاقہ بمبئی

۱- اوزیبل رائے بہادر چھوٹو بھائی کر دیسائی صاحب ممبر کونسل
۲- آدم جی پیر بھائی صاحب۔
۳- اوزیبل مسٹر الہٰ بخش خاں صاحب
۴- انند راؤ کھانڈے راؤ صاحب
المعروف بالا صاحب راستے مہربان۔
۵- سردار بہادر بچارو داس بہاری
داس صاحب سائی رئیس ندیا کھٹیار۔
۶- اوزیبل سر بھال چندر کرشنا بھٹاودیکر
نائیٹ ممبر لیجسلیٹو کونسل بمبئی۔
۷- مسٹر بومن جی ڈنشا صاحب پٹیٹ
۸- اوزیبل مسٹر جسٹس بدرالدین طیب جی
صاحب جج ہائیکورٹ بمبئی۔
۹- اوزیبل رائے بہادر چھنی لال
دینی لال صاحب سی آئی ای ممبر کونسل
بمبئی و پریزیڈنٹ میونسپل بروچ۔
۱۰- خان صاحب دادا میاں انور زماں
صاحب رئیس خاندیس۔
۱۱- اوزیبل مسٹر اجی اباجی صاحب کھیر
بی اے ایل ایل بی ممبر کونسل بمبئی
۱۲- سر ڈنشا مانک جی پٹیٹ رئیس بمبئی
۱۳- ایڈل جی ڈنشا صاحب کراچی۔
۱۴- فریدون جی کنوار جی تارہ پور
والا سی آئی ای اگزیکٹو انجنیئر احمد آباد
۱۵- فضل بھائی صاحب وشرام سی آئی ای رئیس بمبئی
۱۶- گنگا دہر لکھشمی صاحب سوامی ضلع ستارہ
۱۷- اوزیبل مسٹر جی۔ کے گھوکھلے صاحب
بی۔ اے ممبر کونسل وائسرائے و
پریزیڈنٹ میونسپلٹی پونا۔
۱۸- اوزیبل مسٹر گوکل داس کاہن
داس صاحب پریکھ بی۔ اے ایل ایل
ممبر کونسل بمبئی۔
۱۹- گردہن داس کہن جی بمبئی۔

۲۰ گوردہن داس گوکل داس صاحب تیجپال بمبئی
۲۱ - آنریبل مسٹر ہری سیتارام ڈکسٹ بی اے ایل ایل بی ممبر کونسل بمبئی۔
۲۲ - ہرکشن داس نرتم داس صاحب رئیس بمبئی
۲۳ - راؤ بہادر ہمت لال ہیرالال راجہ رام صاحب پریزیڈنٹ میونسپلٹی احمدآباد۔
۲۴ - آنریبل مسٹر ابراہیم رحمت اللہ صاحب ممبر کونسل بمبئی۔
۲۵ - جام ممبو خاں صاحب رئیس بیندا سکھر علاقہ سندھ۔
۲۶ - جمسیٹھ جی نصروانجی ٹاٹا صاحب رئیس بمبئی
۲۷ - سر جمسیٹھ جی جیجی بہائی صاحب بیرنٹ بمبئی
۲۸ - لاکھم گنڈا بساپا پربھو بی ایل جہرہان سر دسائی وانٹ موری ضلع بلگام۔
۲۹ - لنگھا پاجاپا المعروف آپا صاحب جہرہان سردسائی سرسانگی ضلع بلگام۔
۳۰ - راؤ بہادر گمندرے انی راے صاحب رئیس صورت
۳۱ - خان بہادر سردار محمد یعقوب شیخ اسمعیل صاحب سی آئی ای ڈپٹی کلکٹر حیدرآباد سندھ
۳۲ - مولجی بہولا ناتھ بہایا صاحب پریزیڈنٹ میونسپلٹی بمبئی۔

۳۳ - میر منظر حسین خاں صاحب رئیس صورت
۳۴ - ناگوجی راؤ رامچندر راؤ پٹنکر رئیس کولاپور
۳۵ - آنریبل مسٹر جسٹس نراین گنیش چندورکر جج ہائیکورٹ بمبئی۔
۳۶ خان بہادر نورجی بیسٹنجی سی آئی ای وکیل احمدآباد۔
۳۷ - آنریبل مسٹر فیروزشاہ مہروان جی صاحب مہتہ سی آئی ای ممبر لیجسلیٹو کونسل۔
۳۸ - شمس العلماء پیر کیان شاہ مردان شاہ صاحب پیر روڑہی ضلع سکھر سندھ۔
۳۹ راؤ بہادر رام چندر ترمبک اچاریہ گورنمنٹ پلیڈر مقام تھانہ۔
۴۰ - رام چندر راؤ وشواس راؤ عرف بالا صاحب سونت بہوسلے جاگیردار ہیر ضلع بلگام
۴۱ - رام کرشنا گوپال بھنڈارکر ایم اے سی آئی ای صاحب رئیس پونا۔
۴۲ - ٹہلارام کھیم چند صاحب سی آئی ای پریزیڈنٹ میونسپلٹی کراچی۔
۴۳ - ڈاکٹر تیمالجی بھیکاجی نریان صاحب بمبئی
۴۴ - ٹھاکر صاحب اوڈلیلی ضلع احمدآباد
۴۵ دناٹک دہنجی راج بیوالکر صاحب رئیس بمبئی

۴۶۔ دیوان چیت سنگھ صاحب سی آئی ای پریذیڈنٹ ایسوسی ایشن مغربی ہند۔

۴۷۔ وٹھل داس ٹھاکرسی رئیس بمبئی

۴۸۔ وڈیرہ الٰہی بخش خان صاحب زمیندار ضلع سکھر

۴۹۔ وڈیرہ علی مراد صاحب زمیندار بالائی سندھ ضلع سرحد۔

آفیسران کیمپ حلقہ بمبئی

۱۔ لفٹننٹ کرنل ای ڈی ایںڈرسن صاحب میڈیکل افسر۔

۲۔ مسٹر ایم ای بینگ صاحب مترجم علوم مشرقی۔

۳۔ مسٹر ایچ ڈبلیو جی بگنل پولیٹیکل افسر خیرپور۔

۴۔ مسٹر جی کار میکائل صاحب پولیٹیکل افسر ریوا

۵۔ کپتان جے آر بی جی کارٹر صاحب پولیٹیکل افسر رؤسائے کاٹھیاواڑ مہتمم کیمپ۔

۶۔ لفٹننٹ کرنل ڈبلیو بی فیرس صاحب پولیٹیکل افسر کولاپور معہ لیڈی صاحبہ۔

۷۔ کپتان ایف ڈی بی ہینکاک صاحب پولیٹیکل افسر رؤسائے کاٹھیاواڑ معہ لیڈی صاحبہ

۸۔ مسٹر ایم ہیسکتھ صاحب ایم اے اتالیق ولیعہد صاحب جوناگڈھ۔

۹۔ مسٹر ایف بی پی لاری صاحب ایم اے اتالیق سرداران جنوبی مرہٹہ۔

۱۰۔ مسٹر ایس سی مچل صاحب پولیس آفیسر بمبئی کیمپ۔

۱۱۔ لفٹننٹ کرنل جی پی اوڈوائل صاحب پولیٹیکل افسر اڈر معہ لیڈی صاحبہ

۱۲۔ میجر سی ایچ یو پرائس ڈی ایس او پولیٹیکل افسر خیرپور سندھ۔

۱۳۔ مسٹر ایچ او کوئن صاحب ایجنٹ

۱۴۔ مسٹر جے سیلڈن صاحب آئی سی ایس پولیٹیکل افسر بانسدہ معہ لیڈی صاحبہ

۱۵۔ لفٹننٹ کرنل ایف ڈبلیو سنل صاحب پولیٹیکل افسر کچھ معہ لیڈی و مس صاحبات

۱۶۔ مسٹر سی ڈبلیو وڈنگٹن صاحب پرنسپل راجکمار کالج راجکوٹ۔

۱۷۔ کپتان جی والرن فورڈ صاحب اسسٹنٹ پولیٹیکل ریذیڈنٹ عدن۔

۱۸۔ مسٹر سی سی واٹسن صاحب آئی۔ سی۔ ایس۔ پولیٹیکل افسر روسائے کاٹھیاواڑ۔

۱۹۔ کپتان ڈبلیو ایم پی وڈ صاحب کمانڈنگ آفیسر کولاپور انفنٹری۔



ہزہائنس مہاراج ادھیراج بجی چند مہتاب بہادر والی
ریاست بردوان بنگال

فصل ہشتم

روسا و امرائے صوبہ بنگال

(الف)

ہز ہائینس مہاراج ادہیراج بجے چند مہتاب بہادر والئ ریاست بردوان بنگال

ہز ہائینس مہاراجہ متبنےٰ راجہ بن بہاری صاحب کپور سی ایس آئی کے فرزند دلبند ہیں آپ کی تاریخ ولادت ۱۹- اکتوبر ۱۸۸۱ء ہے جسکے مطابق اب آپ بیسویں سال میں ہیں- مہاراج ادہیراج آفتاب چند مہتاب بہادر متوفی مہاراجہ بردوان نے آپ کو متبنےٰ بنایا تھا- جن کی ریاست پر ۱۰ فروری ۱۹۰۲ء کو آپ منجانب گورنمنٹ متمکن کئے گئے-

ہز ہائینس علوم مروجہ انگریزی و سنسکرت میں کافی مہارت رکھتے ہیں- اور گورنمنٹ کے پورے پورے خیراندیش و ہواخواہ ہیں- آپ کی ریاست کا رقبہ چار ہزار ایک سو چورانوے میل مربع ہے- جو ۱۹- اضلاع پر منقسم ہے- آمدنی سینتالیس لاکھ روپیہ سالانہ اور ۹- اتواپ سلامی مقرر ہے-

(ب)

راجہ بن بہاری صاحب کپور سی ایس آئی زمیندار و رئیس بردوان

آپ موجودہ مہاراجہ بردوان کے والد حقیقی ہیں انکی ذاتی ریاست کی آمدنی پچاس ہزار روپیہ سالانہ ہے آپ ۱۱ نومبر ۱۸۵۳ء کی پیدائش ہیں اور بنگال گورنمنٹ کی کونسل کے ممتاز ممبر رہ چکے ہیں-

ہز ہائینس آنریبل مہاراجہ رامیشور سنگھ صاحب بہادر کے سی آئی ای والئی ریاست دربھنگہ

ہز ہائینس کے خاندان کے مورث اعلیٰ ٹھاکر مہیش سنگھ صاحب گذرے ہیں جنہیں سولہویں صدی عیسوی کے آغاز میں شہنشاہ اکبر نے دربھنگہ کا علاقہ مع خطاب راجگی کے عطا فرمایا تھا جسکے بعد نواب مہابت جنگ صوبیدار بہار کے ذریعہ اس خاندان کی حسن خدمات کے عوض سرکار ترہٹ کا کل علاقہ بھی دربھنگہ میں شامل کیا گیا جسکی مالگذاری ۱۷۶۵ء میں قریب آٹھ لاکھ روپیہ کے تھی لیکن حسن انتظام کی وجہ سے اب ۴۰ لاکھ سالانہ سے بھی اوپر ہے۔

ہز ہائینس مہاراجہ رامیشور سنگھ صاحب بہادر بالقابہ انگریزی سنسکرت میں اعلیٰ درجہ کی دستگاہ رکھتے ہیں اور نہ صرف کاروبار ریاست کو ہی بحسن و خوبی چلاتے ہیں۔ بلکہ ممبری کونسل وائسرائے بھی اس قابلیت سے کرتے ہیں کہ غالباً اس سے بہتر قائم مقام ہندوستانیوں کو نہیں مل سکتے نیز ملکی اصلاح کے لئے جسقدر کمیشنیں وقتاً فوقتاً مقرر ہوتی ہیں انہیں بھی آپ ممبر مقرر کئے جاتے ہیں۔ رفاہ عام میں ہمیشہ اس خاندان کو نہایت فراخدلی کے ساتھ دلچسپی رہی ہے۔

مہاراجہ صاحب حال نے لاکھوں روپے قحط سالی وغیرہ کے مواقعات پر بیدریغ عطا کئے ہیں اور جو کوئی سرکاری یا پبلک چندہ ہو۔ اسمیں بھی آپکا نام سب سے پہلے نظر آئیگا ۱۸۹۸ء میں آپ بجائے اپنے برادر متوفی کے دربھنگہ کے مہاراجہ تسلیم کئے گئے۔ آپ قوم کے برہمن اور تہلا کے برہمنوں کے سردار ہیں اور اسلئے قوم ہنود میں ایک خاص امتیاز اور تقدیس رکھتے ہیں۔ مذہبی امور میں خاص طور پر مشغول رہتے ہیں۔ دہلی کے بھارت مہامنڈل میں آپ ہی پریزیڈنٹ تھے جسمیں ایک لاکھ آدمی آپکے پیچھے چلتا تھا۔ گنگا کے اشنان کو بھی آپ اپریل ۱۹۰۳ء میں نہایت خلوص و شوق سے شامل ہوئے تھے۔ غرضکہ آپ پکے سناتن دھرمی مہاراجہ ہیں انتظام ریاست کیلئے منیجر کا طریق مدتوں سے چلا آتا ہے۔ لیکن آپ خود بھی پہلے درجہ کی بیدار مغزی سے نگرانی کرتے ہیں۔ آپ کے پرائیویٹ سکرٹری بابو گنیش نرائن صاحب بھی بڑے لائق اور خیر مجسم شخص ہیں۔



اونریبل هزهائنس مهاراجه رامیشور سنگه صاحب
بهادر کے - سی - آی - ای - والئے دربنگه

لفٹنٹ کرنل ہز ہائینس مہاراجہ سری سر نیپندرنارائن بھوپ بہادر جی سی ایس آئی والی کوچ بہار ایڈیکانگ پرنس آف ویلز بہادر

ہز ہائینس والیٔ ریاست راج بنگشی عرف کوچ ہیں ان کے خاندان میں نارائن پہ نام رکھنا ضروری ہے ریاست کا رقبہ ۱۳۰۷ میل مربع اور آبادی تقریباً چھ لاکھ ہے آمدنی گذشتہ رپورٹ میں ۱۱ لاکھ سالانہ اور سلامی ۱۳ - اتواپ کی مقرر ہے - آپ ولایت میں بھی گئے تھے اور دربار دہلی میں آپ کے ہمراہی مندرجہ ذیل شریک تھے -

۱ مہاراج کمار راجندرنارائن ۲ راج کمار دکٹر نرپتی اندر نارائن ۳ میجر جی آر سی کالون سپرنٹنڈنٹ ۴ بابو پریانانتھ صاحب ت سول دشن جج ۵ مسٹر سی ڈبلیو سی بلوچن پرائیویٹ سکرٹری ۶ مسٹر نانک چند سین ایڈیکانگ ۷ مسٹر پلوپ صاحب ۸ و ۹ و ۱۰ مسٹر جوانسادای ازراڈوی ازرا ۱۱ - لیڈی رانکریف - مس سونٹیس و مس مور صاحبات ۱۲ ارلی کلیکاو من صاحب ت بہادر سی آئی ای دیوان ریاست -

راجہ صاحب بہادر والی ریاست مونج بھج

آپ کے ہمراہیوں اور رقبہ وغیرہ کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا -

مہاراج کمار صدکیونک نمگ صاحب ولیعہد ریاست سکم

مہاراجہ صاحب سکم خود توبوجہ علالت شریک نہیں ہو سکے لہذا انکی جگہ ولیعہد ریاست بہمراہیان ذیل شامل دربار ہوئے تھے - مہاراجہ صاحب سکم کی سلامی ۱۵ - اتواپ کی ہے -

۱ مسٹر جے سی وائیٹ معہ لیڈی و مس صاحبات پولیٹکل افسر ۲ کرپاڈیکو ڈیشن چکالنگ دیوان ریاست یا ۳ و ۴ کھمانگی قیشو یانگ نہانگ و جلجند تمگیال ریاستی ممبران کونسل ۵ لفٹنٹ کرنل بیٹکن معیشتی صاحب ۶ مسٹر سی آر بیلی ۷ مسٹر سی ڈبلیو واڈونگٹن -

(ز)

ہز ہائینس راجہ صاحب ٹیہرہ

آپ کی سلامی ۱۳ - اتواپ کی ہے - رقبہ و آمدنی معلوم نہیں - آپ بہمراہیان ذیل شریک ہوئے تھے ۱ جبراج برندر اکشو ویپ سنگھ صاحب ولیعہد ۲ مسٹر سی بلیو میکن صلحب مینیجر ریاست ۳ رائے اتما کنت صاحب بہادر سی آئی ای وزیر ریاست ۴ مسٹر ای ایف سینڈ یزمعہ لیڈی صاحبہ پرائیویٹ سکرٹری ۵ مسٹر ایم سی صاحب ایڈیکانگ ۶ مسٹر ای تھارنٹن ۷ مسٹر ای سی بیرن ۸ مسٹر ڈی ای ہیرل معہ لیڈی صاحبہ -

(م)

نواب سیّد محمد مہدی حسن خان صاحب رضوی عرف سیّد بادشاہ نواب پٹنہ

صاحب موصوف ۱۸ ذالحجہ ۱۲۷۴ھ مطابق ۳۰ جولائی ۱۸۵۸ء کی پیدائش ہیں پٹنہ وبھاگلپور کے اضلاع میں آپکے املاک کافی موجود ہیں جن کی آمدنی سوا لاکھ سے بھی زائد ہے لہٰذا عام طور پر پٹنہ کے نواب مشہور ہیں۔

آپکے جد اعلےٰ سیّد رضی صاحب مرحوم نادر شاہ کی فوج کے سپہ سالار ہو کر ہندوستان آئے تھے۔ اور نیز بادشاہ دہلی کی خواہش پر اپنے خلف الرشید سیّد مرتضےٰ صاحب کو ان کے پاس چھوڑ گئے تھے ان کے بیٹے سیّد عبداللہ صاحب کو شاہِ دہلی کی طرف سے خطاب خان بہادر عطا ہوا اور ان کے خلف الصدق سیّد لطف علیخاں صاحب کو گورنمنٹ کی طرف سے بوجہ خدماتِ اعلےٰ خطاب ہائے سی آئی ای اور نوّاب عطا ہوئے۔

آپ اُنہیں کے لختِ جگر ہیں۔ گورنمنٹ کی وفاداری اور خیر اندیشی ہر وقت آپ کے مدِ نظر رہتی ہے۔ امور رفاہ عام میں بھی ہمیشہ دریا دلی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ لیڈی ڈفرن فنڈ۔ وکٹوریا میموریل فنڈ۔ فیمن فنڈ۔ باقی پور ہسپتال فنڈ۔ وکٹوریہ ہسپتال فنڈ۔ وغیرہ وغیرہ سب میں آپنے پوری فیاضی سے گرانقدر عطیات دیئے ہیں۔ پٹنہ کے آنریری مجسٹریٹ اور میونسپل کمشنر بھی رہ چکے ہیں۔ دربار دہلی میں مہمان سرکاری تھے اور امید ہے کہ آئندہ بھی روز افزوں ترقی پائیں گے



جناب سید محمد مہدی حسن صاحب

عرف بادشاہ نواب

پٹنہ

درباریان و امرائے بنگال و بہار

۱ خان بہادر مسٹر عبدالرحمن خاں صاحب
اے ایف ایم جج سمال کاز کورٹ کلکتہ
۲ مہاراجہ اچاریہ ترپاکنٹھ مکتاگاچا رئیس
اعظم میمن سنگھ۔
۳ نواب بہادر سید امیر حسن خاں صاحب سی
آئی ای رئیس اعظم کلکتہ۔
۴ راجہ بہادر شکھار موڑ رائے صاحب
شاش رئیس طاہر پور راجشاہی۔
۵ سید اصغر حسین خان صاحب معروف
نواب رشید بہادر رئیس اعظم پٹنہ۔
۶ رائے بہادر بدری داس صاحب رئیس کلکتہ
۷ خان بہادر بدرالدین حیدر صاحب رئیس اعظم کلکتہ
۸ صاحبزادہ محمد بختیار شاہ صاحب سی
آئی ای رئیس اعظم کلکتہ۔
۹ رائے بہادر کرشنا چندر بندھوپادھیا
اگزکٹو انجینئر کلکتہ۔
۱۰ مہاراج کنوار بجے چند مہتاب صاحب
والی ریاست بردوان۔
۱۱ رائے بہادر ڈاکٹر کیلاش چندر بوس
سی آئی ای میونسپل کمشنر کلکتہ۔

۱۲ بابو بجیندر و کمار بوس صاحب اسسٹنٹ سشن جج کلکتہ
۱۳ بابو داسو در داس صاحب من کلکتہ۔
۱۴ بابو گوبردھن داس صاحب چٹرجی اکسٹرا اسسٹنٹ
کمشنر جنگلات۔
۱۵ نواب سید عبدالسبحان صاحب
چودھری بوگرا۔ کلکتہ۔
۱۶ راجہ چودھری چولا پہرو بو منگ چیگانگ
۱۷ رائے بہادر راد ہو سمن بی ایس ی
۱۸ راجہ بہادر رام رنجن چکرورتی رئیس تیہم
پور ربیر بھوم کلکتہ۔
۱۹ راجہ بنایکرشن دیب صاحب رئیس کلکتہ
۲۰ گوبندر کرشن کار دیب صاحب ڈسٹرکٹ جج
۲۱ راجہ بہادر بیکنٹھ ناتھ صاحب دے
والی بالاسور۔
۲۲ بابو رام ناتھ صاحب گھوش رئیس کلکتہ
۲۳ آنریبل مسٹر ڈبی کمار گھوش
ممبر کونسل وائسرائے کلکتہ۔
۲۴ رائے بہادر ہری رام صاحب
گوئنکا میونسپل کمشنر کلکتہ۔
۲۵ مسٹر سید نورالہدیٰ صاحب ڈسٹرکٹ سشن جج

۲۶ مولوی محمد ابراہیم صاحب انسپکٹر سکول۔

۲۷ خان بہادر جنت حسین خاں صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس۔

۲۸ مرزا پرنس قمر قدر فرزند دلبند مرحوم شاہ اودہ۔

۲۹ راجہ بن بہاری صاحب کپور رئیس بردوان۔

۳۰ آنریبل خان بہادر سید محمد صاحب ممبر لیجسلیٹو کونسل بنگال۔

۳۱ سید محمد مہدی حسن خان صاحب عرف نواب بادشاہ رئیس اعظم پٹنہ

۳۲ راجہ پیارے موہن صاحب مکرجی سی ایس آئی رئیس اعظم عطرپارہ ہوگلی

۳۳ بابو پیارے ناتھ صاحب مکرجی ڈپٹی مجسٹریٹ۔

۳۴ آنریبل ڈاکٹر آشوتوش صاحب پادہیایا ممبر لیجسلیٹو کونسل بنگال۔

۳۵ بابو نارائن چندر ناتک صاحب ڈپٹی مجسٹریٹ۔

۳۶ آنریبل بندرا چند صاحب انیمی ممبر بنگال لیجسلیٹو کونسل۔

۳۷ رائے صاحب ڈاکٹر پرسنا کمار پرنسپل پریزیڈنسی کالج۔

۳۸ راجہ آشوتوش ناتھ رائے صاحب قاسم بازار مرشدآباد۔

۳۹ مہاراجہ گریجا ناتھ رائے صاحب دیناج پور۔

۴۰ مہاراجہ جوگیندر ناتھ رائے صاحب ناسور راجشاہی۔

۴۱ راجہ پرامہ ناتھ رائے صاحب ڈہینکا پاٹھیا راج شاہی۔

۴۲ بابو ستیا ناتھ رائے صاحب کلکتہ۔

۴۳ چوہدری رنیدر نارائن صاحب کمار جودب پور ڈھاکہ۔

۴۴ مسٹر ایچ۔ ایم رستم جی صاحب شریف کلکتہ۔

۴۵ آنریبل بابو چیتن سہائے صاحب ممبر بنگال لیجسلیٹو کونسل۔

۴۶ نواب خواجہ سلیم اللہ صاحب ڈھاکہ۔

۴۷ بابو اتوڈہ پرشاد صاحب سرکار ایگزکٹو انجنیئر۔

۴۸ بابو للت موہن صاحب اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹو جنگلات۔

۴۹ آنریبل خان بہادر مولوی سراج الحسن صاحب ممبر بنگال لیجسلیٹو کونسل۔

۵۰ مہاراجہ بہادر ہربلبھ نراین سنگھ صاحب سی آئی ای آف کنیارہ ضلع بھاگلپور۔

۵۱ راجہ بہادر سنگھ پریانند صاحب بنیلی پورنیا

۵۲ رام نراین سنگھ صاحب والی خیرہ ضلع مونگیر۔

۵۳ آنریبل سر مہاراجہ بہادر رامیشور سنگھ صاحب کے سی آئی ای دربھنگہ۔

۵۴ آنریبل سر مہاراجہ بہادر راونشور سنگھ پرشاد صاحب کے سی آئی ای ممبر لیجسلیٹو کونسل۔

۵۵ بابو سورت چند سنگھ صاحب بیکارا

۵۶ بھگوت دیال سنگھ صاحب ٹھاکرائی چندہ پور پلامو۔

۵۷ راجہ بہادر رنجیت سنگھ صاحب ناشی پور مرشد آباد۔

۵۸ بابو ناہن بہاری صاحب سی آئی ای کلکتہ۔

۵۹ مہاراجہ سر جوتیندرو موہن صاحب بہادر ٹیگور کے سی ایس آئی کلکتہ۔

۶۰ راجہ سر سوریندر موہن صاحب ٹیگور سی آئی ای کلکتہ۔

۶۱ آنریبل رائے بہادر تربینی پرشاد ممبر بنگال لیجسلیٹو کونسل۔

۶۲ مولوی سید واجد حسین صاحب ڈپٹی مجسٹریٹ۔

۶۳ آنریبل سید مرزا آصف قدر واصف علی صاحب ممبر بنگال لیجسلیٹو کونسل۔

افسران متعینہ بنگال کیمپ

۱ مسٹر ای سی ریلینڈ انچارج کیمپ۔

۲ کپتان ڈبلیو کلیمنٹا صاحب افسر محافظ صحت۔

۳ مسٹر ایس۔ آر ہگنل صاحب

۴ مسٹر آر گرین شیلڈی صاحب

۵ مسٹر ایچ ایل سٹیفنسن انڈر سکریٹری

فصل نہم

روسائے وامرائے برہما

۱ ہکون ہتی کے ایس ایم۔ سابوا مانگ فانگ
۲ ہکون کیٹی کے ایس ایم۔ سابوا مانگ نائی
۳ مانگ پو اے ٹی ایم میوزا ہسا مانگ ہکم
۴ ساد کان کیان۔ انٹے لینگ کے ایس ایم۔ سابوا یانگ آہی۔
۵ سالادی ٹی ڈی ایم میوزا گنٹا راودی
۶ سانا مانگ کے ایس ایم سابوا جنوبی ہسینوی
۷ پرپوہان کے ایس ایم ممبر کونسل برہما
۸ مانگ۔ انگ زان کے ایس ایم۔ اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر۔
۹ مانگ بالاوائی ڈی ایم معوک۔
۱۰ مانگ ہکن ہون کے ایس ایم معوک۔ پاست ہسپائے
۱۱ مسٹر سی ای برادن صاحب افیسر انچارج کیمپ
۱۲ مانگ کٹ کے ایس ایم اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر
۱۳ مسٹر ڈی ایس کیری صاحب سی ٹی ای افیسر انچارج کیمپ
۱۴ ایونگ چائے کے ای ایچ سوداگر۔
۱۵ مانگ نے اے ٹی ایم اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ
۱۶ مانگ یو نے اے ٹی ایم انسپکٹر پولیس۔
۱۷ مانگ پولی اے ٹی ایم معوک۔
۱۸ مانگ سان پی ڈی ایم اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر
۱۹ مانگ تسوی تیھ اے ٹی ایم اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ
۲۰ مانگ بے ڈو وا ای ٹی ایم سابق اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر
۲۱ مانگ آن گینگ سی آئی ای ٹی ایم سیول کمشنر رنگون
۲۲ مانگ کھونا یو ٹی ڈی ایم اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ
۲۳ مانگ ٹن گیا ٹی ڈی ایم اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر
۲۴ مانگ ٹن کے ایس ایم معوک۔
۲۵ مانگ ٹن گیا اے ٹی ایم معوک۔
۲۶ مانگ ٹن ہلے ٹی ڈی ایم انسپکٹر پولیس
۲۷ مانگ ٹن ہین ٹی ڈی ایم اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ
۲۸ یو راگیا دھو کے ایس ایم سوداگر۔

نوٹ۔ اے ٹی ایم۔ اور کے ایس ایم اور ٹی ڈی ایم وغیرہ برہمی معززین کے خطابات کے ابتدائی تخفیف شدہ حروف ہیں۔ ان خطابوں کے نشانات میں سنہری تمغہ۔ سنہری زنجیر اور نقرئی تلوار بالترتیب خطاب یافتوں کو عطا ہوتے ہیں۔ معوک سے وہ سابق ٹی نیٹو افسر مراد ہیں جن کو جوڈیشل اور اگزیکٹو اختیارات حاصل ہیں۔



هز ھائینس رکن الدولہ نصرت جنگ مخلص الدولہ

حافظ الملک نواب محمد بہاول خانصاحب بہادر

عباسی والئی ریاست بہاولپور

فصل دہم

(الف) والیان ریاست پنجاب

(الف) ہز ہائینس رکن الدولہ نصرت جنگ مخلص الدولہ حافظ الملک نواب محمد بہاول خان صاحب بہادر خامس عباسی والی ریاست بہاولپور

ہز ہائینس کا سن ولادت ۱۸۸۳ء ہے۔ ایچیسن کالج کے تعلیم یافتہ ہیں اور آپ ہی پہلے حکمران ہیں جنھوں نے عام امتحان میں شریک ہوکر امتحان انٹرنس پاس کیا تھا۔ ۱۸۹۹ء میں آپ اپنے والد مرحوم کے انتقال پر مسند نشین ہوئے اور ۱۹۰۱ء میں کالج چھوڑ کر امورات ریاست کی نگرانی شروع فرمائی۔ اور اب یکم اپریل ۱۹۰۳ء سے محکمہ وزارت جو ریاست میں ہمیشہ سب سے بڑا کارکن اور اعلیٰ محکمہ تھا توڑ کر اس کا نام محکمہ دربار رکھا گیا ہے۔ جس میں ہز ہائینس کے مندرجہ ذیل سکرٹری صاحبان اپنی اپنی مفوضہ محکمجات کی کاغذات پیش کرکے آپ سے حکم حاصل کرتے ہیں۔

۱- مولوی محمد الدین صاحب بی-اے ہوم و فارن سکرٹری۔

۲- منشی سراج الدین صاحب ریونیو و جوڈیشل سکرٹری۔

۳ قاضی مہر الدین صاحب پرائیویٹ سکرٹری۔

اس کے سوا ریاست میں ایک انتظامی کونسل بہی مدت سے قایم ہے۔ جس کے ممبران ہر ایک محکمہ کے مشیر صاحب ہوتے ہیں۔

ریاست کا رقبہ پندرہ ہزار نو سو اٹھارہ میل مربع۔ آبادی سات لاکھ بیس ہزار نفر۔ آمدنی پچیس لاکھ سالانہ۔ فوج مع پولیس انیس سو ساٹھ جوان اور سلامی توپ سترہ ہیں۔ پیداوار میں ہر قسم کی اجناس ہوتی ہیں۔ کانسی کے ہلکے برتن اور ریشمی لنگیاں بہاولپور کا خاص تحفہ ہیں۔ ہز ہائینس اعلیٰ درجہ کے ذکی و فہیم فیاض حکمران ہیں اور دربار دہلی میں مندرجہ ذیل اہلکاران اعلیٰ آپکے ہمرکاب تھے۔

۱- کرنل گری صاحب سابق سپرنٹنڈنٹ ریاست ۲- مرزا جندوڈے خاں صاحب سابق مدار المہام ۳- سردار محمود خاں صاحب مشیر فوج ۴- جمعدار نگل محمد خاں صاحب سابق مشیر فوج۔ ۵- سید محمد نواز شاہ صاحب چیف جج - ۶- لالہ آسانند صاحب مشیر متوفی - ۷- لالہ بہاری لال صاحب مشیر تعمیرات وانہار- ۸- مولوی محمد الدین صاحب بی-اے فارن سکرٹری- ۹- سردار سیا سنگہ صاحب مہتمم تفتیش- ۱۰- مولوی عبد الرحمٰن صاحب مشیر تصریفات- ۱۱- قاضی مہر دین صاحب پرائیویٹ سکرٹری ۱۲- مرزا محمد اشرف صاحب بی-اے میر منشی ۱۳- مولوی بہادر علی صاحب سپرنٹنڈنٹ یتیم خانہ

(ب)

منصور الزمان فرزند دلبند دولت انگلشیہ اندر مہند ہز ہائینس مہاراجہ بھوپندر سنگھ صاحب بہادر والی ریاست پٹیالہ

ہز ہائینس کی تاریخ ولادت ۱۲۔ اکتوبر ۱۸۹۱ء ہے۔ ریاست کی آبادی پندرہ لاکھ تراسی ہزار آٹھ سو آٹھ نفر۔ محاصل بہتر لاکھ چھیالیس ہزار تین سو چونتیس روپیہ سالانہ۔ فوج مع پولیس آٹھ ہزار سات سو نوے جوان ہے۔ اور ۱۷ اتواپ سلامی مقرر ہیں۔ پیداوار میں ہر قسم کا غلہ بالخصوص نیشکر عمدہ ہوتا ہے۔ ریاست میں تانبہ اور سنگ سلیٹ کی کان بھی ہے۔ انتظام ریاست کونسل آف ریجنسی کرتی ہے۔ اور پولیٹیکل ایجنٹ مسٹر ڈنلوپ سمتھ صاحب کل کاروبار کے نگران ہیں۔ ہمراہیانِ دربار مندرجہ ذیل صاحبان تھے۔

۱۔ کنور رنبیر سنگھ صاحب کے سی۔ ایس آئی۔ عم ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر۔
۲۔ سردار بہادر گورمکھ سنگھ صاحب پریزیڈنٹ کونسل
۳۔ آنریبل خان بہادر خلیفہ سید محمد حسین صاحب ممبر کونسل۔
۴۔ لالہ بھگوانداس صاحب ممبر کونسل
۵۔ رائے بہادر لالہ نانک بخش صاحب اتالیق مہاراجہ صاحب بہادر۔
۶۔ میر تفضل حسین صاحب جج چیف کورٹ ریاست۔
۷۔ سردار بھگوان سنگھ صاحب جج چیف کورٹ ریاست۔
۸۔ سردار سمپورن سنگھ صاحب دیوان ریاست
۹۔ کرنل محمد عبدالمجید خان صاحب فارن منسٹر۔
۱۰۔ بخشی پریتم سنگھ صاحب۔
۱۱۔ لالہ بشن چند صاحب جوڈیشل کمشنر۔
۱۲۔ سردار حضورا سنگھ صاحب کمینڈر انچیف۔
۱۳۔ سردار کشن سنگھ صاحب متعمد گورنمنٹ پنجاب۔



فرزند دلبند راسخ‌الاعتقاد دولت انگلشیه راجهٔ
راجگان راجه رنبیر سنگه صاحب
بهادر والئے ریاست جیند

(ج)

فرزند دلبند راسخ الاعتقاد دولتِ انگلشیہ راجۂ راجگان
راجہ رنبیر سنگھ صاحب بہادر والیٔ ریاست جیند

ہز ہائینس مذہباً سکھ اور گوت سے سدھو ہیں۔ آپ کے بزرگوں میں سے ۱۷۶۳ء میں راجہ گجپت سنگھ صاحب نے یہ ریاست قائم کی تھی۔ اور آپکی تاریخ ولادت ۱۱۔ اکتوبر ۱۸۷۹ء اور تاریخ مسند نشینی فروری ۱۸۸۷ء ہے۔ آپ کی ریاست کا رقبہ ۱۲۵۹ میل مربع۔ آبادی ۲۸۲۰۰۳ نفر۔ فوج مع پولیس ۲۲۵۹۔ آمدنی ۲۶۱۹۹۱۴ روپیہ سالانہ۔ اور توپ سلامی ۱۱ ہیں۔ انتظامِ ریاست کے لئے دو کمیٹیاں ہیں۔ جنکے ہز ہائینس خود نگران ہیں۔

اگزکٹو کمیٹی کے ارکان یہ ہیں۔ مرزا امراؤ بیگ صاحب پریزیڈنٹ سردار پریم سنگھ صاحب ممبر۔

اور جوڈیشل کمیٹی کے پریزیڈنٹ سردار شمشیر سنگھ صاحب چیف جسٹس اور ممبران سردار مہان سنگھ و میر نجف علی صاحبان جج ہیں۔

علاقۂ ریاست کے کوہِ کلیانہ میں دو تین کانیں سلوں کی ہیں۔ اور نیز سنگ لرزاں بھی نکلتا ہے۔ جو اکثر نمائشوں میں بھیجا جاتا ہے۔

علاوہ صاحبانِ متذکرہ بالا کے سردار شمشیر سنگھ صاحب رشتہ دار ہز ہائینس۔ اور لالہ نر سنگھ داس صاحب میر منشیٔ ریاست بھی شاملِ دربار رہے۔

(۶)
ہز ہائینس سر راجہ ہیرا سنگھ صاحب بہادر جی سی آئی ای والی ریاست نابہ

راجہ صاحب پنجاب کے راجاؤں میں بڑے معمر رئیس ہیں یعنے آپ آپکی عمر ۶۹ سال کی ہے۔ اور گو صرف گورمکھی لکھنا جانتے ہیں مگر کاروبار ریاست خود کرتے ہیں ایک انتظامی کونسل بھی ہے۔ آبادی ۲۸۲۷۵۶۔ انتواپ سلامی ۱۲ ہیں۔ محاصل ۱۴۳۳۲۱ روپیہ۔ فوج مع پولیس ۱۵۸۱۔

دربارِ دہلی میں درباری اہلکارانِ ذیل آپ کے ساتھ تھے۔

۱۔ ٹیکہ ردپ مامن سنگھ صاحب	۵۔ خان بہادر سردار ولی محمد خاں صاحب جوڈیشل منسٹر
۲۔ لالہ ٹھولال صاحب اہلکار اعلیٰ اجلاس خاص	۶۔ لالہ جیون سنگھ صاحب کمیندر انچیف
۳۔ لالہ تلسی رام صاحب فنانشل منسٹر	۷۔ لالہ سالگرام صاحب معتمد لفٹنٹی۔
۴۔ سید وزیر علی صاحب فارن منسٹر (مرحوم)	

(۷)
ممتاز الدولہ نواب محمد ممتاز علیخاں صاحب بہادر مستقل جنگ والی ریاست دوجانہ

نواب صاحب بہادر خاندان سے افغان ہیں اور عربی و فارسی میں بخوبی لیاقت رکھتے ہیں۔ یہ آپکی عمر کا انتیسواں سال ہے۔ انتظامِ ریاست خود کرتے ہیں۔ ریاست کی آبادی تیئس ہزار اور آمدنی ایک لاکھ روپیہ سالانہ ہے۔ فوج مع پولیس دوسو گیارہ جوان ہیں۔ پیداوار میں ہر قسم کی اجناس شامل ہیں اور رقبہ ایک سو میل مربع ہے۔ دہلی میں اکثر اوقات بوجہ قربت آپکا قیام رہتا ہے۔ جہاں عالیشان محل آپکا موجود ہے۔

دربار کے موقع پر مندرجۂ ذیل صاحبان آپکے ساتھ شریک تھے۔ اور پنجاب چیفس کیمپ میں آپکا بھی علیحدہ کیمپ موجود تھا۔

۱۔ صاحبزادہ خورشید علی خاں صاحب۔	۳۔ مرزا اشرف علی خاں صاحب۔
۲۔ صاحبزادہ فیض علی خاں صاحب رشتہ دار نواب صاحب	۴۔ مرزا اعجاز علیخاں صاحب عم نواب صاحب بہادر۔



جلال الدولہ نواب محمد ممتاز علی خان صاحب
بہادر مستقل جنگ والئے ریاست
دوجانہ



فرزند دلبند راسخ‌الاعتقاد دولت انگلشیه راجۂ
راجگان راجه سرجگت جیت سنگه صاحب
بهادر کے ۔ سی ایس ۔ آی ۔
والئی ریاست کپور تهله

(۹) ہز ہائینس راجہ راجگان راجہ سر جگت جیت سنگھ صاحب بہادر جی سی ایس آئی فرزند دلبند راسخ الاعتقاد دولت انگلشیہ والی ریاست کپورتھلہ

ہز ہائینس کا سال ولادت ۱۸۷۲ء ہے اور ۱۸۹۰ء میں آپکو اختیارات ریاست عطا ہوئے ہیں جس سے پہلے سپرنٹنڈنٹی انگریزی تھی۔ آپ چندربنسی راجپوت آہلووالیہ ہیں اور انگریزی وارد و میں بخوبی لیاقت رکھتے ہیں ریاست کا رقبہ ۶۹۲ میل مربع۔ آمدنی تخمیناً بیس لاکھ روپیہ آبادی تین لاکھ چودہ ہزار تین سو اکاون نفر کی اور فوج مع پولیس چودہ سو ۹ جوان کی ہے۔ انواب سلامی گیارہ مقرر ہیں۔ ٹیکا پرم جیت سنگھ صاحب بہادر ولیعہد ریاست ہیں۔ پیداوار ہر قسم کی ہوتی ہے۔ معززہ اہلکاران ریاست کی ایک کونسل بڑے بڑے انتظامی معاملات طے کرتی ہے جسکے ممبر صاحبان یہ ہیں۔

۱۔ سردار گلاب سنگھ صاحب چیف سکرٹری۔ ۲۔ میاں عزیز بخش صاحب دیوان ریاست
۳۔ دیوان بھگوان داس صاحب چیف جج۔ ۴۔ دیوان ہری چند صاحب۔

ہز ہائینس متعدد بار یورپ کا سفر کر چکے ہیں اور اقامت ہندوستان میں بھی سیر و سیاحت میں رہتے ہیں۔ دربار دہلی پر آپکے ساتھ علاوہ اہلکاران مندرجہ بالا کے صاحبان ذیل بھی شریک تھے۔

۱۔ مسٹر اے۔ آرڈ و مینیجر اودھ سٹیٹ مملوکہ ہز ہائینس۔ ۲۔ مسٹر جے۔ اے۔ ایس المور صاحب پرائیویٹ سکرٹری۔ ۳۔ مسٹر آر۔ ایس راڈن صاحب اتالیق ولیعہد صاحب بہادر۔ ۴۔ کرنل جے اینڈرسن صاحب آئی ایم۔ ایس مع لیڈی صاحبہ ۵۔ کپتان بیلی صاحب افسر پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ۔ ۶۔ مسٹر آگینو پوپ صاحب بہادر

(۱۰) راجہ بلبیر سین صاحب والی کیونٹھل

آپ قوم سے راجپوت ہیں اور ہندی و سنسکرت جانتے ہیں۔ ۱۸۹۸ء میں انتظام ریاست کے لئے ایک مینیجر مقرر کیا گیا۔ آبادی چالیس ہزار۔ آمدنی ستر ہزار۔ فوج مع پولیس ستر جوان ہے۔ دربار میں مندرجہ ذیل صاحبان آپکے ساتھ تھے۔

۱۔ رائے صاحب تارا م صاحب وزیر ریاست۔ ۲۔ کنور موہن سنگھ صاحب عم راجہ صاحب ۳۔ کنور بہیر سنگھ صاحب

سردار رنجیت سنگھ صاحب (ح) بہادر والیٔ ریاست کلسیہ

سردار گوربخش سنگھ صاحب آپکے اجداد سے اِس ریاست کے بانی ہوئے ہیں۔ جس کا دارالریاست چھچھرولی ہے۔ رقبہ ۱۶۸ میل مکسر۔ آبادی ۶۰ ہزار۔ آمدنی سالانہ ڈھائی لاکھ روپیہ۔ فوج مع پولیس ۱۷۵ جوان ہے۔ پیداوار میں علاوہ ہر قسم کے غلّہ و اجناس کے بہنگ بھی ہوتی ہے۔ اور برنجی برتن اچھے بنتے ہیں۔ سردار صاحب سندھو جاٹ ہیں۔ ۲۰۔ اکتوبر ۱۸۸۶ء آپکی تاریخ ولادت۔ اور ۲۶ مئی ۱۸۸۹ء تاریخ مسند نشینی ہے۔ آپ انگریزی اور اردو بخوبی جانتے ہیں۔ اور انتظام ریاست خود کرتے ہیں لیکن ایک کونسل بھی مقرر ہے جسکے ممبر صاحبان خان بہادر شیخ عنایت اللہ صاحب اور بخشی پرتاب سنگھ صاحب مقرر ہیں۔ موقع دربار پر علاوہ صاحبانِ بالا کے سردار سر مکھ سنگھ صاحب آپکے ماموں اور ماسٹر بھگوانداس صاحب بھی آپکے ہمرکاب تھے۔ اور آپ کا کیمپ بھی پنجاب کے والیانِ ریاست کی ہی ذیل میں تھا۔

سردار کا قدیمی خطاب اِس ریاست کے فرمانرواؤں کو حاصل ہے۔ ورنہ کئی چھوٹے چھوٹے رئیس جو آپکے زیر تحت ہیں راجہ کہلاتے ہیں۔

راجہ رام پال صاحب (ط) والیٔ کوٹلہر ضلع کانگڑہ

آپ قوم سے راجپوت ہیں ۱۸۴۹ء آپ کا سالِ ولادت اور ۱۸۷۵ء سالِ مسند نشینی ہے۔ رقبۂ ریاست ۳۰۰ میل مربع۔ آبادی ۳۰ ہزار۔ آمدنی بارہ ہزار سالانہ ہے اور کنور راجندر پال صاحب آپکے ولیعہد ہیں۔

راجہ نریندر چند صاحب (ی) والیٔ نادون ضلع کانگڑہ

آپ قوم سے راجپوت ہیں ۱۸۶۱ء آپکا سالِ ولادت۔ اور ۷ مارچ ۱۸۹۰ء تاریخ مسند نشینی ہے۔ رقبہ ۴۰۰ میل مربع۔ آبادی چالیس ہزار۔ اور آمدنی بھی چالیس ہزار سالانہ ہے۔ ٹیکہ مہندر چند صاحب آپکے ولیعہد ہیں۔



عالیجناب سردار رنجیت سنگه صاحب بهادر سرکارکلسیه



راجه نریندرچند صاحب والئی نادون ضلع کانگڑه



فخرالدولہ دلاورالملک رستم جنگ آونیربل نواب
سر امیرالدین احمد خانصاحب بہادر کے - سی-
آی - ای والئی ریاست لوہارو

اونریبل ہز ہائینس نواب سر امیر الدین احمد خاں صاحب بہادر کے سی
ایس آئی۔ فخر الدولہ دلاور الملک رستم جنگ والی ریاست لوہارو
۱۸۸۴ء میں نواب فخر الدولہ دلاور الملک مرزا احمد بخش خاں صاحب بہادر
نے بوجہ اپنی ذاتی لیاقت اور دلاوری کے اس ریاست کی سند لارڈ لیک صاحب
بہادر سے مع خطاب سابقہ حاصل کی تھی جس پر اب نواب صاحب حال حکمراں ہیں۔
آپکا خاندان مغل بخارائی ہے۔ ہز ہائینس پکے حنفی المذہب اور سنت و الجماعت
ہیں۔ آپکا سال ولادت ۱۸۶۰ء اور مسند نشینی کا ۱۸۸۴ء ہے۔ عربی۔ فارسی
انگریزی میں اعلیٰ درجہ کی لیاقت رکھتے ہیں۔ اتواپ سلامی اسی دربار تاجپوشی
سے بوجہ آپکی ذاتی لیاقتوں کے مستقل طور پر ۹ توپ مقرر ہوئی ہیں۔ ریاست کا رقبہ
۲۰۰ میل مربع۔ آبادی تیس ہزار اور آمدنی ایک لاکھ سے زائد ہے۔ فوج مع پولیس
ڈہائی سو جوان۔ صاحبزادہ مرزا اعز الدین احمد خاں اعظم مرزا بہادر ولیعہد ریاست ہیں
ریاست کی نظامت اور مدار المہامی نواب صاحب بہادر کے حقیقی بھائی صاحبزادہ مرزا
عزیز الدین احمد خاں بہادر کرتے ہیں۔ پیداوار میں ہر قسم کا غلہ اور اجناس عمدہ ہوتی ہیں۔
مدرسہ اسلامیہ شفاخانہ انگریزی دیونانی مع دوائی خانہ۔ پوسٹ آفس تار گھر دہرمسالہ
اور پکے تالاب و مکانات اور پختہ سڑکیں نواب صاحب کی عمدہ یادگاریں ریاست میں موجود ہیں۔
ہز ہائینس نواب صاحب بہادر بوجہ اپنی ذاتی قابلیتوں کے حضور وائسرائے کی
لیجسلیٹو کونسل اور پنجاب کونسل کی ممبری کے لئے نامزد ہوتے رہے ہیں۔ اور
ماسوائے اسکے ریاست مالیر کوٹلہ کی سپرنٹنڈنٹی بھی آپ ہی فرماتے رہے ہیں۔
موقع دربار پر آپکے ہمراہ مندرجہ ذیل صاحبان شریک تھے۔

۱۔ صاحبزادہ اعظم مرزا بہادر ولیعہد۔ ۲۔ صاحبزادہ مرزا عزیز الدین احمد خاں بہادر
ناظم۔ ۳۔ محمد اصغر علیخاں صاحب تحصیلدار۔ ۴۔ مرزا علیم بیگ صاحب معتمد۔

(ل)

ہز ہائینس نواب احمد علی خاں صاحب بہادر والیٔ ریاست مالیر کوٹلہ

ہز ہائینس قوم سے افغان ہیں۔ اور ایچیسن چیفز کالج لاہور کے تعلیم یافتہ ہیں۔ انگریزی۔ فارسی میں بخوبی لیاقت رکھتے ہیں۔ جنوری ۱۹۰۳ء سے آپ بااختیار کئے گئے ہیں۔ اس سے پہلے آنریبل نواب سر امیر الدین احمد خاں صاحب بہادر والیٔ ریاست لوہارو انتظام ریاست فرماتے تھے۔

مالیر کوٹلہ کا رقبہ ۱۶۷ میل مربع۔ آبادی ایک لاکھ۔ آمدنی سالانہ پانچ لاکھ روپیہ ہے۔ پیداوار میں ہر قسم کی اجناس ہوتی ہیں۔ فوج مع پولیس چار سو جوان ہے۔ الواب سلامی گیارہ مقرر ہیں۔

خدمات گورنمنٹ میں ہمیشہ یہ ریاست نامور رہی ہے۔ امپیریل سروس میں بھی ریاستی فوج شامل ہے۔ بلکہ کرنل اوصاف علی خاں صاحب ریاست کیطرف سے موقع جوبلی پر ولائیت بھی جا چکے ہیں۔

دربار دہلی میں مندرجہ ذیل اہلکاران اعلیٰ ہز ہائینس کے ہمرکاب تھے۔

۱۔ سید محمد یامین صاحب ناظم۔

۲۔ مشیر الدولہ بہادر کرنل اوصاف علی خاں صاحب سی۔ آئی۔ ای کمانڈنگ امپیریل سروس۔

۳۔ سردار مہر محمد خاں صاحب ریونیو افسر۔

۴۔ منشی احمد حسن صاحب میر منشی۔

ہز ہائینس کے والد ماجد نواب محمد ابراہیم علی خاں صاحب حیات ہیں۔ مگر بوجہ علالت طبع کاروبار ریاست سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔



هزهائینس نواب احمد علیخانصاحب بہادر والی ریاست

مالیر کوٹلہ

(۳۲)

راجہ صاحب بہادر والیٔ ہنڈور نالہ گڑھ

آپ قوم سے راجپوت ہیں اور کونسل کے ذریعہ انتظام ریاست کرتے ہیں۔ آپکی ریاست کی آبادی ۶۰ ہزار آمدنی ڈیڑھ لاکھ۔ فوج مع پولیس ۲۷۹ جوان۔

ہمراہیان دربار یہ تھے۔

۱۔ کنور جگندر سنگھ صاحب۔ ۲۔ میاں بھگوان چند صاحب ۳۔ بھائی سُند سنگھ صاحب پریزیڈنٹ کونسل ۴۔ دیوان اندر سنگھ صاحب ممبر کونسل۔

(۳۳)

آنریبل راجہ سریندر بکرم پرکاش صاحب بہادر والیٔ ریاست ناہن سرمور

ہز ہائینس قوم سے راجپوت ہیں۔ ۲۷۔ اکتوبر ۱۸۹۸ء سے بجائے اپنے والد متوفی کے حکمران ہوئے ہیں۔ انگریزی فارسی سے بخوبی ماہر ہیں۔ عمر ۳۳ سال کی ہے۔ کونسل وائسرائے کے ممبر ہوچکے ہیں۔ انتظام ریاست خود کرتے ہیں۔ ریاست کا رقبہ ۱۰۲۴ میل مربع۔ آمدنی تقریباً چھ لاکھ روپیہ سالانہ۔ آبادی اندازاً ڈیڑھ لاکھ۔ فوج مع پولیس ۶۱۲ جوان۔ اور سلامی اتواپ ۱۱ ضرب مقرر ہے۔ آپکی ریاست میں لوہے کی کان اور اسکے متعلق کارخانہ بھی ہے۔ سرمور کے جنگلوں میں ہاتھی بھی پائے جاتے ہیں۔ موقع دربار پر مندرجۂ ذیل اہلکاران آپکے ساتھ تھے۔

۱۔ پرنس امر سنگھ صاحب۔ ۲۔ میجر سر بکرم سنگھ صاحب۔ ۳۔ کنور رن بجے سنگھ صاحب۔ ۴۔ کنور رنجور سنگھ صاحب۔ ۵۔ مسٹر ایف۔ آر۔ جونس سپرنٹنڈنگ انجنیر۔ ۶۔ ڈاکٹر ایم۔ اے۔ نکلسن صاحب میڈیکل آفیسر۔ ۷۔ سردار نرائن سنگھ صاحب چیف سکرٹری

(۳۴)

ہز ہائینس راجہ بلبیر سنگھ صاحب والیٔ ریاست فرید کوٹ

آپ سدھو جاٹ عرف برار ہیں عمر اسوقت چوبیس سال ہے۔ انگریزی اور گورمکھی جانتے ہیں ۱۸۹۸ء میں مسند نشین ہوئے آبادی ایک لاکھ پندرہ ہزار چالیس آمدنی ۲۶۰،۲۸ روپیہ فوج مع پولیس ۷۰۵ نفر۔ اتواپ سلامی نو ہیں۔ مندرجۂ ذیل اہلکاران آپکے ہمرکاب تھے۔

۱۔ رائے بہادر بردوہ کنٹ لاہری صاحب مدارالمہام ۲۔ سردار محمد عبدالغفور صاحب ممبر کونسل ریاست ۳۔ سردار نرائن سنگھ صاحب ممبر سٹیٹ کونسل ۴۔ سردار رنجیت سنگھ صاحب ایڈیکانگ ۵۔ رائے بہادر ڈاکٹر مرادہا کشن صاحب میڈیکل افسر۔ ۶۔ کرنل سردار بچتر سنگھ صاحب ایڈیکانگ۔ ۷۔ سردار جواہر سنگھ صاحب ایڈیکانگ۔

(ب) رؤسائے پنجاب

(۱ الف)

خان بہادر محمد برکت علی خان صاحب پنشنر اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر و جنرل سکریٹری انجمن اسلامیہ پنجاب لاہور

خان بہادر شاہجہانپور کے رئیس ہیں۔ آپکے اجداد نسل خلیل سے پٹھان ہیں جو بعہدِ شاہجہان افغانستان سے ہندوستان آکر افسری فوج کی خدمات پر مامور ہوئے تھے۔ خان بہادر کے والد محمد عارف خان صاحب بھی فوجِ انگریزی کے رسالدار اور پنشنخوار تھے۔ خان بہادر کی تعلیم و تربیت دیسی طرز پر ہوئی ہے۔ اور اگست ۱۸۴۶ء آپکی سرکاری ملازمت کی ابتدائی تاریخ ہے۔ جسمیں پہلے آپ پولیس میں مقرر ہوئے۔ اور اچھا نام پایا۔ سنہ ۱۸۴۸ء میں بوقت فساد ضلع ہوشیارپور آپ ادائے فرائضِ سرکاری میں زخمی ہوگئے چنانچہ مسٹر لارنس آپکی شجاعت کے بڑے بھاری معترف ہیں۔ اس کے بعد آپ تحصیلدار اور پھر اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ہوئے۔ آپکی ملٹری و دیگر خدمات حکام اور گورنمنٹ ہمیشہ سراہتے رہے ہیں۔ بخارا و خیوہ و کاشغر و ترکی و ایران و افغانستان کے سفیر وغیرہ جب کبھی پنجاب آتے رہے گورنمنٹ کیطرف سے آپ ہی انکی مہمانداری کرتے رہے۔ سنہ ۱۸۶۴ء میں سر جان لارنس کے وقت آپکو خان بہادری کا خطاب ملا۔ قومی امور میں بھی آپ مشہور کام کرنیوالے ہیں۔ انجمن پنجاب لاہور جو بعہد ڈاکٹر لائیٹنر آنجہانی قائم ہوئی تھی۔ سنہ ۱۸۶۵ء سے سنہ ۱۸۷۰ء تک آپ اس کے سکریٹری رہے۔ انجمن اسلامیہ کے بانی ہیں اور ابتک اس کے جنرل سکریٹری ہیں۔ مدرسۃ العلوم علیگڑھ کے ٹرسٹی اور پنجاب ایسوسی ایشن تعلیم نسوان کے رکن ہیں۔ دس سال تک لاہور میونسپل کمیٹی کے وائس پریذیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ دربارِ دہلی کی شرکت کے علاوہ میونسپلٹی کی دہ سالہ خدمات کے صلہ میں آپکو لفٹننٹ گورنر صاحب کے ذریعہ ملکِ معظم کیجانب سے سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے۔ جس کا نمونہ درج بھی ہوچکا ہے۔



لاله رام سرنداس صاحب مالك ميلارام

كاٹن ملز رئيس لاهور



جناب سردار پرتاب سنگھ صاحب
اہلوالیہ جاگیردار و رئیس
اعظم جالندھر

(ب)

سردار پرتاب سنگھ صاحب اہلووالیہ جاگیردار و آنریری مجسٹریٹ درجہ اوّل و رئیس اعظم جالندھر و کپورتھلہ

آپ موجودہ مہاراجہ کپورتھلہ کے فرسٹ کزن ہیں۔ اور مہاراجہ نہال سنگھ صاحب متوفی والیٔ کپورتھلہ کے پوتے ہیں۔ آپکے والد کنور بکرما سنگھ صاحب سی ایس آئی نے ایام غدر میں اپنے برادر اکبر راجہ رنبیر سنگھ صاحب والیٔ کپورتھلہ کے ساتھ مع اپنی ذاتی جمعیت کے دہلی و لکھنؤ کے محاصروں میں بھاری امدادیں گورنمنٹ کو دی تھیں جنکے صلہ میں ایک تعلقہ گورنمنٹ سے عطا ہوا۔ جو بکرم سٹیٹ اودھ کے نام سے موسوم ہے۔ ماسوائے اُس کے ریاست کیطرف سے بھی معقول پنشن مقرر ہے جن سب کے آپ سردار صاحب بہادر کارفرما ہیں۔ آپنے اپنی سلامت روی اور لیاقت سے بہت نام پایا ہے۔ سرکاری خیرخواہی اور پبلک ہمدردی میں آپ ہمیشہ فیاض اور سرگرم رہے ہیں۔ گیارہ ہزار روپیہ ملکہ متوفیہ کی یادگار میں آپنے ایک نیا شفاخانہ بنانے کو عطا فرمایا۔ اور دس ہزار روپیہ تاجپوشی حال کی خوشی میں رعایا کو معاف فرمادیا۔ نیز ایک لیڈی ڈاکٹر کے مصارف آپ اپنی جیب خاص سے دیتے ہیں جس کی خدمات پبلک فایدہ کے لئے سول سرجن جالندھر کے ماتحت کی گئی ہیں۔ اِسکے علاوہ ہر ایک رفاہِ عام کام میں بھی آپ بہت خوشی سے شریک ہوتے ہیں۔

آپکے چھوٹے بھائی کنور دلجیت سنگھ صاحب آپکے ساتھ شامل رہکر امور رفاہِ عام میں برابر شریک رہتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کا حکّام گورنمنٹ میں پورا پورا اعزاز ہوتا ہے۔ اور دونوں صاحب والیٔ صاحب کے درباری بھی ہیں۔

آنریبل بابو پرتول چندر صاحب (جج) چٹرجی ایم۔ اے۔ رائے بہادر سی۔ آئی۔ ای۔ جج چیف کورٹ پنجاب لاہور

آنریبل ممدوح نے اپنی نیک دلی اور عام ہمدردی کے سبب جو ہر دلعزیزی ہندو و مسلمانان لاہور میں پیدا کی ہے وہ خاص انہیں کا حصّہ ہے۔ لاہور میں مُلکی و قومی انجمنوں کے جو مفید جلسے ہوتے رہتے ہیں اُنمیں سے اکثر کی کُرسیٔ صدارت کو آپ ہی زینت بخشتے ہیں۔ چونکہ دربارِ دہلی میں آپ سی۔ آئی۔ ای کے معزز خطاب سے ممتاز کئے گئے ہیں اسلئے آپکے مختصر خاندانی حالات درج ذیل ہیں۔

آپ برہمنونکی اعلیٰ ذات کولن سے ہیں جو دولتمندی میں خاص طور پر مشہور ہے۔ پہلے تو آپکا خاندان جگ پور (کلکتہ) میں بسبب گاؤں کی حصّہ داری ہونیکے آباد تھا۔ لیکن ابتدائے حکومت سرکار انگریزی میں آپکے بزرگ خاص کلکتہ میں آکر آباد ہوئے۔ جہاں اِس خاندان نے بہت سی جایداد پیدا کی۔ اور پھر دیوان گوکل چند صاحب گھوشل دیوان لارڈ کارنواس گورنر جنرل آف انڈیا کے خاندان میں شادی ہو جانے سے اِنکی دولتمندی اَور بھی بڑھ گئی۔ (جنکی پوتی اِنکی دادی تھی) آپکے والد ماجد نے ڈپٹی کلکٹری کی حیثیت میں خدماتِ سرکار کیں جنکا اِنتقال سنہ ۱۸۵۵ء میں ہو گیا۔ آپکی پیدائش سنہ ۱۸۴۸ء کی ہے صرف سات برس کی عمر میں ہی سایہ پدری اُٹھ جانیکے باعث اپنی والدہ کے سایۂ عاطفت میں پرورش و تعلیم پائی۔ چنانچہ سنہ ۱۸۶۹ء میں کلکتہ یونیورسٹی سے ایم۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔ اور پھر سنہ ۱۸۷۰ء میں قانونی امتحان پاس کرکے ہائی کورٹ میں وکالت اختیار کی اور پھر اسی سال لاہور میں تشریف فرما ہو گئے۔ جہاں پہلے تو نہایت کامیابی سے وکالت کی اور سنہ ۱۸۸۹ء میں بعدہ تین ماہ کیلئے قائم مقام جج چیف کورٹ پنجاب ہوئے جسپر ہندو و مسلمانوں کیطرف سے اظہار مسرت کے جلسے ہوئے سنہ ۱۸۹۲ء میں پنجاب یونیورسٹی کی خدمات کے سبب رائے بہادری کا خطاب عطا ہوا۔ اور سنہ ۱۸۹۴ء میں قائم مقام جج چیف کورٹ پنجاب ہوئے۔ جسپر اپریل سنہ ۱۸۹۸ء میں مستقل ہو کر ابتک چیف کورٹ پنجاب کی ججی کے فرائض کو عمدگی سے ادا کر رہے ہیں اور بتقریب دربار دہلی یکم جنوری سنہ ۱۹۰۳ء کو سی۔ آئی۔ ای کے معزز خطاب سے ممتاز کئے گئے۔



اونریبل بابو پرتول چندر صاحب رای بہادر
سی- آی - ای جج چیفکورٹ پنجاب لاہور



پنڈت چنار دھن صاحب رئیس لاہور

(د)

رائے پنڈت جناردھن صاحب رئیس لاہور

رائے صاحب لاہور کے ایک مشہور فیاض اور ہر دلعزیز رئیس ہیں۔ اور ایک آئرن ورکس فیکٹری کے مالک ہیں۔ جسمیں لوہے کے ہر قسم کے اعلیٰ و عمدہ اوزار اور دیگر ضروریات ڈھالے جاتے ہیں۔ اور جو سینکڑوں ملازم اسمیں کام کرتے ہیں۔ وہ بالخصوص انکی فیاضی و مُروت کے خاص طور پر معترف ہیں۔ پبلک چندوں اور خیرات کے کاموں میں آپکو پورے درجہ کا انہماک ہے۔ نیا شالامار باغ انارکلی کے پرے موضع نواکوٹ کے قریب آپکی یادگار میں ایک اعلیٰ یادگار سمجھنی چاہیئے۔ جو چار لاکھ روپے کی لاگت سے طیار ہوا ہے اور جسمیں نہ صرف باغ کے لوازمات قدرتی نزہت ولطافت اور عمارت کی خوبی ہی قابلِ دید ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ انگریزی اعلیٰ سے اعلیٰ باجے کی سُریلی آوازیں بھی ہر وقت آئندو روند کی تفریح کے لئے دِل لُبھانے کو طیار رہتی ہیں۔ اور رنگارنگ کی پتلیاں اپنا تماشہ دکھاتی رہتی ہیں۔ اکثر شوقین بالعموم اِس نوطرز اور نوایجاد شالامار باغ میں جاکر سیر کرتے اور رائے صاحب کی فیاضی کا دم بھرتے رہتے ہیں۔ پنڈت جیون مل و گھنیالال کول صاحبان آپکے معتمد ہیں۔ اور اکثر والیانِ ریاست نہ صرف سوشیل اعتبار پر بلکہ مارل کیریکٹر کے لحاظ سے بھی آپ کی اعلیٰ درجہ کی عزت وتوقیر کرتے ہیں۔

(۲۸)

لالہ رام سرنداس صاحب رئیس لاہور مالک کارخانہ میلا رام کاٹن ملز لاہور

آپ لاہور کے مشہور ٹھیکہ دار رائے بہادر میلا رام صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں انکے والد لاکھوں روپے کی جائداد چھوڑ گئے تھے۔ جس سے انہوں نے نہایت قابلیت کے ساتھ میلا رام کاٹن ملز کے نام سے ایک بڑا کارخانہ لاہور میں جاری کیا۔ جسمیں سینکڑوں آدمی روزانہ کام کرتے ہیں۔ اور ملک کی صنعت کو بیشمار فوائد پہنچتے ہیں۔ آپکی عمر ابھی صرف ۲۷ سال کی ہے۔ طبعیت میں ہوشیاری کے ساتھ ملنساری اور انکساری بھی بخوبی جاری وساری ہے۔ اور قومی و ملکی رفاہِ عام کے کاموں میں بھی آپکو خاص دلچسپی ہے۔ چنانچہ صرف چار سال کے عرصہ میں قریب چھبیس ہزار روپے کے مختلف چندے عطا کر چکے ہیں جسکی فہرست ذیل میں درج ہے۔ جو انکی بے مثل فیاضی کی دلیل ہے۔ رؤساء کے علاوہ خود ہز آنر لفٹنٹ گورنر بہادر پنجاب تک انکے اس اعلیٰ کارخانہ کو دیکھکر اپنی خوشنودی مزاج کا اظہار کر چکے ہیں۔ آپ اپنی انہیں خوبیوں کے سبب دربار دہلی میں گورنمنٹ کے مہمان گئے گئے تھے۔

فہرست چندہ

برائے آبیاری چاہات رفاہِ عام [illegible]
چندہ تھیوسوفیکل سوسائٹی بنارس برائے کالج بلڈنگ [illegible]
چندہ ڈائمنڈ جوبلی ہندو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ لاہور [illegible]
چندہ مرمت ڈیرہ گوردوارا جن سنگھ صاحب [illegible]
چندہ کوئین وکٹوریہ میموریل فنڈ [illegible]
برائے مرمت شرک بھدرکالی [illegible]
لاہور آریہ سماج برائے کمرہ کالج بورڈنگ ہوس [illegible]

چندہ لاہور سلیبریشن کمیٹی لاہور [illegible]
برائے بنوانے ایک مندر بمقام ساگلہ ہلز [illegible]
چندہ برائے یتیمان بموقع قحط [illegible]
گنڈ ہر لمت مہادول [illegible]
سناتن دھرم سبھا لاہور [illegible]
دھرم ارتھ اور چھوٹی چھوٹی رقومات چندہ [illegible]

نواب غلام محبوب سبحانی صاحب مرحوم جاگیردار و رئیس لاہور (۹)

نواب صاحب مرحوم گورنمنٹ کی دربار ہی مہمان تھے۔ مگر افسوس ہے کہ واقع ۹ جنوری ۱۹۰۳ء کو بمقام دہلی آپکا انتقال ہوگیا۔ اِنّا لِلّٰہِ وَاِنّا اِلَیہِ رَاجِعُون۔ نواب صاحب مرحوم چونکہ شہر کے ایک نامور خاندان کے خاتم ہوئے ہیں اسلئے بطور یادگار انکا مختصر سا خاندانی حال لکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

نواب صاحب مرحوم کے دادا شیخ غلام محی الدین صاحب مرحوم بعہد مہاراجہ رنجیت سنگھ صاحب والئی پنجاب کشمیر اور دوآبہ جالندھر و ہوشیارپور وغیرہ کے ناظم و صوبہ دار رہ چکے ہیں جنکو سکھ سرکار سے **نظام الملک اعتماد الدولہ** کا خطاب بھی حاصل تھا۔ اور کابل ایک دفعہ سفیر ہوکر بھی گئے تھے۔ بعد ازاں انکے خلف الرشید نواب شیخ امام الدین خاں صاحب بھی سرکار سکھاں میں انہیں علاقجات کے صوبہ دار و گورنر رہے۔ اور کوہستان منڈی و ڈیرہ اسمعیلخاں کے بھی ناظم کئے گئے۔ اور جنگی فوج کے بھی افسر مقرر ہوئے۔ جس کے ساتھ **امین الملک جنگ بہادر** کا خطاب بھی ملا۔ ۱۸۴۷ء میں گورنمنٹ انگریزی کیطرف سے دیوان مولراج صوبہ دار ملتان کے ساتھ جنگ کرنیکی نمایاں خدمات کے صلہ میں **نواب بہادر** بنائے جانیکے بعد پنشن حاصل کی۔ بعد ازاں غدر ۱۸۵۷ء میں دو دستے جنگی فوج کے اپنی گرہ سے مہیا کرکے گورنمنٹ کو پیش کئے۔ ۱۸۵۹ء میں نواب صاحب کا انتقال ہوا۔ جسپر انکے خلف الصدق نواب غلام محبوب سبحانی صاحب جو ۱۸۵۸ء کی پیدائش ہیں ۱۲ برس کی عمر میں جائیداد متروکہ کی جسکی آمدنی قریباً تیس ہزار روپیہ سالانہ کی تھی جائیز وارث قرار پائے۔ آپنے علم فارسی و عربی میں اعلیٰ درجہ کی قابلیت پیدا کرکے خاص شہرت حاصل کی۔ شعر و سخن کے ساتھ آپکو بہت بڑی دلچسپی تھی۔ چنانچہ فارسی میں اپنا ایک عمدہ دیوان اعلیٰ اہتمام کیساتھ چھپوا کر احباب میں مفت تقسیم کیا۔ آپ انجمن مشاعرہ لاہور کی صدر انجمن ہونیکے علاوہ کچھ عرصہ آنریری مجسٹریٹی کی عہدہ پر بھی ممتاز رہے۔ اور کوئی لوکل انجمن ایسی نہ تھی جس نے آپکی فیاضی سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ آپنے ہر ایک موقع پر گورنمنٹ کی وفاداری و امداد کو اپنا فرض سمجھا۔ جوبلی۔ ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر اظہارِ مسرت کی جلسوں میں ہزاروں روپے خرچ کئے۔ حضور ملکہ معظمہ کے انتقال پر اظہارِ افسوس کا خاص جلسہ کیا۔ شہنشاہ معظم کی علالت پر صحت کی دعائیں کرائیں۔ اور خاص جلسہ تاجپوشی لنڈن کے موقع پر رؤسا و حکام کو ایک عالیشان گارڈن پارٹی دی تھی آپکے عمزاد بھائی شیخ فضل الٰہی صاحب ڈسٹرکٹ [illegible] جو علمی قابلیت اور خوش اخلاقی میں ایک خاص شہرت رکھتے ہیں وارث خاندان قرار پائے۔

خواجہ محمد غلام صادق صاحب (رئیس) بی اے۔ ایل ایل بی بیرسٹرایٹ لا۔ آنریری مجسٹریٹ و سول جج درجہ اول امرتسر

خواجہ صاحب کے مورث اعلیٰ خواجہ خیرالدین صاحب بخارا سے ۱۶۹۵ء میں کشمیر تشریف لائے تھے۔ جنہیں اورنگ زیب عالمگیر کے حضور سے خیرالزمان خاں کا خطاب عطا ہوا۔ انکے صاحبزادے خواجہ اعظم شاہ صاحب مشہور تاجر اور مستند مورّخ ہوئے ہیں جنکی تصانیف ابتک موجود ہیں۔ بعد و انقلاب سلطنت چغتائی پر خواجہ محمد مرزا شاہ صاحب کشمیر سے امرتسر آئے۔ جنکے صاحبزادے حاجی خان محمد شاہ صاحب تھے نہ صرف تجارت کو اعلیٰ درجہ کا فروغ دیا۔ بلکہ سرکار انگلشیہ میں بھی اعلیٰ اعزاز و رفعت حاصل فرمائی۔ کیونکہ ہر ایک رفاہ عام کام میں آپ بدل و جان شریک تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کے سرگرم بانیوں میں سے تھے۔ تعلیم نسواں کے موئد اور اس کے متعلقہ مدرسہ کے بانی تھے۔ روم و روس کی جنگ کے موقع پر روم کے لئے چندہ کھولنے میں پیش رو تھے۔ اور امرتسر کی انجمن اسلامیہ کے بانی تھے۔ اعزاز ہائے سرکاری اسی سے ظاہر ہیں۔ کہ میونسپلٹی کے چیرمین تھے۔ امیر شیر علیخان صاحب کی تشریف آوری امرتسر پر وہی سرکاری میزبان تھے۔ سر چارلس ایچیسن صاحب لفٹنٹ گورنر پنجاب نے انکے مکان پر جاکر دعوت قبول فرمائی تھی۔ دربار قیصری ۱۸۷۷ء میں مہمان سرکار تھے۔ اور دربار راولپنڈی میں بباعث ضعف پیری خود نہ جاسکے تو انکے فرزند رشید حاجی غلام حسن صاحب جو آنریری اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر بھی تھے۔ مدعو کئے گئے۔ حاجی صاحب اعلیٰ درجہ کے فاضل اور لائق تھے۔ یورپ کا سفر کر چکے تھے۔ اور بوجہ علمی دلچسپی کے پنجاب یونیورسٹی کے فیلو بھی تھے۔ قحط کشمیر کے موقع پر اور معرکہ کابل ۱۸۷۹ء میں انہوں نے باربرداری میں سرکار کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ گورنمنٹ سے مختلف معزز کمیٹیوں اور مجلسوں کے ممبر نامزد ہوئے۔ مگر موت نے مہلت نہ دی۔ اور جولائی ۱۸۸۳ء میں انہوں نے انتقال کیا جس کے بعد اسی صدمہ روحانی سے خان محمد شاہ صاحب نے بھی مارچ ۱۸۸۹ء میں رحلت فرمائی۔ اس وقت خواجہ محمد غلام صادق صاحب کی عمر ساڑھے سترہ سال کی تھی چنانچہ حسب قاعدہ ۲۱ سالہ عمر ہونے تک کورٹ آف وارڈس کے زیر اہتمام رہے۔ اور ۱۸۹۳ء میں انگلستان جاکر چار سال کے قیام میں ماسوائے بیرسٹری کے بی اے۔ ایل ایل بی کی ڈگریاں پورے اعزاز کے ساتھ کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کیں۔ جہاں سے واپس آنے پر دو ہی سال تک قانونی پریکٹس کرتے رہے۔ اور پھر آنریری مجسٹریٹ و سول جج درجہ اول مقرر کئے گئے۔ اس کے علاوہ آپ میونسپل کمیٹی کے سرکاری ممبر اور انجمن اسلامیہ کے جنرل سکرٹری بھی ہیں۔

خواجہ صاحب کا چال چلن ہمیشہ عمدہ رہا ہے۔ جس نے ان کی خاص وقعت اہل شہر کے دلوں پر جمادی ہے۔ اس کے علاوہ انکی علمی قابلیتیں اور خاندانی خدمتیں بھی ایسی ہی قابل قدر ہیں جن پر امید ہے کہ گورنمنٹ بھی توجہ فرمائے گی۔ آپ دربار میں مہمان سرکار رہے۔



نواب شیخ غلام محبوب سبحانی صاحب
مرحوم رئیس و جاگیردار
لاہور



خواجہ محمد غلام صادق صاحب - بی اے
بیرسٹرایٹ لا - ایل - ایل - بی رئیس
و آونریری سول جج امرت سر



خواجہ غلام محی الدین صاحب رئیس

و آنویری مجسٹریٹ

لدھیانہ

خواجہ غلام محی الدین صاحب رئیس اعظم و میونسپل کمشنر و آنریری مجسٹریٹ لدھیانہ

خواجہ صاحب علوم انگریزی عربی و فارسی میں بخوبی لائق ہیں۔ ۲۰ جون ۱۸۵۵ء آپکی تاریخ ولادت ہے۔ ۱۹ سال کی عمر سے آپنے سرشتۂ جنگی میں ملازمت اختیار کی۔ ۱۰ سال تک ملٹری سکول کے انچارج رہے۔ اور آئین و قواعد فوج کی متعدد کتابوں کا ترجمہ شایع کر دیسی افسروں اور سپاہیوں کے لئے آسانیاں پیدا کیں۔ آخر کار ۱۸۹۲ء میں اپنے باصرار مستعفی ہوکر اپنے آبائی کاروبار تجارت کو سنبھالا۔ اور فوجی وردیوں کا کارخانہ اس اعلیٰ پیمانہ پر قائم کیا کہ ہندوستان بھر میں فرد ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سول و ملٹری نیوز کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار بھی جاری کیا۔ ۱۸۹۳ء میں آپ میونسپل کمشنر منتخب ہوئے۔ ۱۸۹۷ء میں بصلہ خدمات قحط گورنمنٹ سے سرٹیفکیٹ پایا۔ اسی سال ڈائمنڈ جوبلی کے دربار میں پریس ڈیپوٹیشن کے ممبر ہوکر شملہ گئے۔ ۱۸۹۹ء میں لوکل قحط کمیٹی کے سکرٹری مقرر ہوئے۔ اور بصلہ خدمات کرسی نشینی کے اعزاز سے معزز کئے گئے۔ ۱۹۰۲ء میں منجانب سرکار میونسپل ممبر نامزد ہوئے۔ اور اسی سال آنریری مجسٹریٹ درجہ دوم مقرر کئے گئے۔ یکم جنوری ۱۹۰۳ء کے لوکل دربار تاجپوشی میں آپکو سرٹیفکٹ دیا گیا۔ اور دربار دہلی میں بحیثیت مہمان شریک کئے گئے۔

اس وقت آپ علاوہ تاجرانہ حیثیت کے کئی ایک باغات و اراضیات و کوٹھیات کے مالک ہیں اور بقدر بارہ ہزار روپیہ سالانہ کی آمدنی رکھتے ہیں۔ آپکے بزرگوں کا اصل وطن جھنی تاتار یار قند ہے۔ آپکے اجداد کشمیر میں فوجی ملازمت پر مامور رہے تھے جسکے بعد لدھیانہ میں اقامت اختیار کی اور بہت سی جائیداد پیدا کی۔ الحاج خواجہ صاحب کے برادر عزیز ابو غلام رسول صاحب اوینگ ایگزامنر زمیں کلر کیہیں۔ اور فرزند کلاں خواجہ عبد الرحمن صاحب بی۔ اے تک تعلیم پاکر میڈیکل کالج میں تحصیل علم کر رہے ہیں۔ جو آئندہ ستمبر میں بغرض شمولیت انڈین میڈیکل سروس انگلستان جانے والے ہیں۔

(ط)

آنریبل حاجی نواب فتح علیخاں صاحب بہادر قزلباش سی آئی ای

رئیس اعظم لاہور

آنریبل نواب صاحب بہادر پنجاب و اودھ میں بیش قرار ریاست کے مالک ہیں۔ اور جو اعلیٰ درجہ کی ہردلعزیزی پبلک اور گورنمنٹ میں رکھتے ہیں۔ اس میں بہت کم لوگ اُنکے برابر ہوں گے۔ اُنکے خاندان کا شجرہ نسب مع کسیقدر مجمل تذکرہ کے درج کیا جاتا ہے:۔

سردار نور وز علی خاں صاحب

سردار علی خاں صاحب

سردار ہدایت علی خاں صاحب

نواب علی رضا خاں صاحب

- نواب نثار علیخاں صاحب
  - آنریبل حاجی نواب فتح علیخاں سی آئی ای
  - محمد نثار علی خاں صاحب
- نواب ناصر علیخاں صاحب
  - نواب برکت علیخاں صاحب
    - علی محمد خاں صاحب
    - جعفر حسین خاں صاحب
- آنریبل نواب نوازش علیخاں صاحب کے سی آئی ای
  - نواب ہدایت علیخاں صاحب
    - محمد نوازش علیخاں صاحب
    - محمد حسین خاں صاحب

نواب محمد علی خاں صاحب

علی رضا خاں صاحب — علیخاں صاحب — منصور علیخاں صاحب — سعادت حسین خاں صاحب — محمد حسن خاں صاحب

آپکے خاندان کا وطن کابل ہے۔ جہاں وہ ایک عرصہ سے اعزاز کے ساتھ اعلیٰ خدمات انجام دیا کرتا تھا۔ شاہ شجاع کی مقابل ۱۸۳۹ء میں جب گورنمنٹ نے فوج کشی کی تو نواب علی رضا خاں صاحب نے گورنمنٹ انگریزی کو وہ عالیشان امدادیں دیں کہ جن سے صفحات تاریخ پر ہیں یعنی اُنہوں نے سپاہ انگریزی کے لئے خوراک و پوشاک بہم پہنچانے پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ یوروپین صاحبان کو بحالت قید امن سے رکھنے اور انکی رہائی کے لئے ایسی کوششیں کیں کہ کبھی بھول نہیں سکتیں۔ علیٰ ہذا ایک سو ہندوستانیوں کو بھی قید و غلامی سے چھڑا کر اپنے گھر رکھا۔ اور بالآخر مزید کمک نے پیرافون انگلشیہ میں بھیجدیا۔ غرضکہ محمد اکبر خاں جیسے جا



اونربیل نواب فتح علی‌خان صاحب بہا در
قزلباش سی - آئی - اِی - رئیس اعظم لاہور

اور زبردست امیر کی تمام کارروائیاں جو گورنمنٹ کے برخلاف عمل میں لائی جاتی تھیں۔ انکی حکمت اور خاص اپنے پاس سے گرانقدر روپیہ خرچنے کے باعث خود اُسی کی تباہی کا باعث ہوئیں۔ اور اُس کو شکست ہوئی۔ لیکن گورنمنٹ کی واپسی پر چونکہ فرقہ بارک زئی اور اکبر خان وغیرہ انکے سخت مخالف تھے۔ اسلئے انکی جائیداد ضبط ہوئی۔ اور انکے مکانات مسمار و منہدم کئے گئے۔ جسکے بعد انکو وہاں سے ترک وطن کرکے پنجاب میں سکونت اختیار کرنی پڑی۔ جہاں آپنے ہمیشہ پہلے سے بھی زیادہ مستعدی و خیر خواہی کا اظہار کیا۔ چنانچہ آتے ہی مع اپنی قوم کے ساٹھ سواروں کے جنگ مدکی و فیروزپور و سبھراوں وغیرہ میں گورنمنٹ کی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اور ایسا ہی ۱۸۵۷ء کے غدر میں بھی محاصرۂ دہلی کے موقع پر اپنے خرچ سے ایک رسالہ بھرتی کرکے گورنمنٹ کی امداد کی۔ اور ایک کوڑی تک تنخواہ نہیں لی۔ علیٰ ہذا کئی ایک اور بھی نازک پولیٹیکل خدمات اس خاندان سے ادا ہوتی رہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ اور گورنمنٹ بھی انکا اعتراف کرتی رہتی ہے۔ اور اس خاندان کے جو صاحبان جانشین ہوتے رہے انکے اعزاز و وقار کو بخوبی ملحوظ رکھتی ہے۔ چنانچہ موجودہ بزرگ خاندان **حاجی نواب فتح علیخان صاحب سی۔ آئی۔ ای** کا خطاب رکھتے ہیں۔ پنجاب کونسل کے ممبر ہیں۔ ۱۸۹۲ء سے وائسرائے صاحب کی پرائیویٹ انٹری میں بھی داخل ہوچکے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے فیلو ہیں۔ تاجپوشی لندن کے موقع پر پنجاب کیطرف سے آپ ہی ولائت بھیجے گئے۔ اور شہنشاہ نے اپنے ہاتھ سے آپکو تمغہ پہنایا۔ پبلک میں آپکو جو اعزاز و وقار حاصل ہے۔ اُس کا مختصر اندازہ اس سے ہوسکتا ہے۔ کہ ہندو مسلمانوں کی مصالحت آپ ہی کی مساعی جمیلہ سے ہوئی۔ آپ امامیہ کانفرنس اور انجمن اسلامیہ لاہور کے لائف پریزیڈنٹ اور علیگڑھ کالج کے سینیئر ٹرسٹی ہیں۔ تعلیم کے ساتھ بالخصوص مغربی تعلیم کے ساتھ اس قدر دلچسپی ہے کہ اپنی ریاستہائے پنجاب و اودھ وغیرہ میں کئی ایک مدارس بھی آپنے جاری کر رکھے ہیں۔ اور ایسا ہی ہر ایک مفید کام میں آپ گرانقدر فیاضیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ نے آپ کے ہمراہیوں کی پرورش کے لئے تین ہزار ایکڑ اراضی مزید بھی عنایت کی ہے۔ اور امید ہے کہ دن بدن آپ کی قابلیتوں کے لحاظ سے ترقی مناصب و مراتب ہوتی رہے گی۔ فی الحقیقت نواب صاحب موصوف کا دم نہایت ہی مغتنمات سے ہے۔

دیوان نرندر ناتھ صاحب ایم اے (بی) ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ رئیس اعظم لاہور

دیوان صاحب کشمیری پنڈتوں کے اس نامور خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ جو اپنی لیاقت و رسائی سے بڑے بڑے مناصب پاتا رہا ہے۔ آپکے مورث اعلیٰ پنڈت کشن داس صاحب کشمیر سے بنارس تشریف لائے تھے۔ جہاں انکو خدا نے گنگا رام ایک ہونہار لڑکا عطا کیا جسنے بڑے ہوکر ذاتی لیاقت و دانائی سے مہاراجہ گوالیار کی ملازمت حاصل کی اور کرنل لوئی برکن کے ساتھ جنرل پیرن کی ماتحتی میں وہ وہ کارہائے نمایاں کئے کہ معاصرین پر امتیاز حاصل ہوگیا۔ اٹھارھویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب مرہٹوں نے تمام ہندوستان پر تسلط کر رکھا تھا۔ اسوقت جنرل لوئی برکن کے ساتھ پنڈت صاحب وصولی خراج اور تقرر شرائط عہدنامجات کی نازک خدمات انجام دیتے تھے۔ جس کے بعد ۱۸۰۹ء سے ۱۸۱۳ء تک بعہد فتح دہلی انہوں نے جنرل اکٹرلونی کے ماتحت نہایت قابلیت سے کام کیا۔ جہاں سے مہاراجہ رنجیت سنگھ والی پنجاب نے انکو باعزاز تمام طلب کرکے خطاب دیوانی اور مہر خاص تفویض فرمائی اور پھر ۱۸۲۱ء میں حکومت گجرات بھی آپ ہی کو دی گئی۔ اُنکے خلف الرشید دیوان اجودھیا ناتھ صاحب نے اور بھی عروج پایا۔ جنکے مفصل حالات تاریخوں میں بھرے پڑے ہیں جنکے اعتبار و وقعت کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ جب وقت پنجاب گورنمنٹ انگریزی نے لیا ہے اُس وقت پنڈت صاحب کے ماتحت اس قدر عظیم الشان فوج تھی کہ کسی سکھ سردار کے ماتحت بھی یہ تعداد موجود نہ تھی (دیکھو افواج سنگھان مندرجہ ضمیمہ تاریخ کننگہم صاحب) اس کے بعد گورنمنٹ انگلشیہ میں بھی دیوان صاحب کو بہت بڑا اعزاز حاصل تھا۔ چنانچہ ۲۶ نومبر ۱۸۴۷ء کو آپ ممتاز الدولہ کے خطاب سے مخاطب کئے گئے۔ اور پھر بعد چندے آپکے فرزند ارجمند دیوان بیجناتھ صاحب اکسٹرا کمشنر مقرر فرمائے گئے۔ جس کام کو انہوں نے اعلیٰ درجہ کی دیانت و لیاقت سے ادا فرمایا۔ اور پھر اپنی مرضی سے اپنے والد کے حین حیات ہی استعفیٰ بھی داخل کردیا۔ لیکن پھر گورنمنٹ پنجاب نے بذریعہ نوٹیفکیشن نمبر ۳۱۹ مورخہ ۲ جنوری ۱۸۷۳ء دیوان بیجناتھ صاحب کو آنریری اسسٹنٹ کمشنر نامزد فرمایا۔ اور دیوان صاحب عزاز و وقار کیساتھ مشہور و مقبول خلائق ہوتے رہے۔ آخرش ۱۸۷۰ء میں دیوان اجودھیا ناتھ صاحب کا انتقال ہوا۔ اور ۱۸۸۶ء میں دیوان بیجناتھ صاحب نے بھی اپنے فرزند دلبند دیوان نرندر ناتھ صاحب کو دس سالہ چھوڑ کر رحلت فرمائی۔

دیوان نرندر ناتھ صاحب نے جس محنت و عالی ہمتی سے تحصیل علوم کی اور جسطرح اپنی چال چلن کو قابل تقلید و لائق تعریف ثابت کیا اُسے لاہور کا مایہ ناز کہنا چاہیئے۔ جس کا معمولی ثبوت یہ ہے کہ آپنے نہ صرف ایم اے کی ہی اعلیٰ ڈگری حاصل کی بلکہ امتحان سول سروس میں کامیاب ہوکر ڈپٹی کمشنر تک ترقی ہوئی۔ اور اپنی لیاقت سے کام کیا کہ ملک اور گورنمنٹ میں ہر دلعزیز ہوگئے۔ دیوان صاحب انگریزی اور فارسی کے پورے پورے ماہر ہیں اور اردو تو انکی گھر کی زبان ٹھہری۔ مذاق عالمانہ اور تبحر فاضلانہ رکھتے ہیں سیلون۔ فرانس۔ سپین انگلستان۔ آئرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ۔ جرمنی۔ آسٹریا۔ اٹلی۔ بیلجیم و مصر وغیرہ کے اسفار بھی پوری تحقیق سے کر چکے ہیں۔ اور ملک کے لئے باعث افتخار ہیں۔ دیوان صاحب کی ملکیت میں ۲۰ ہزار ایکڑ اراضی اور دیہات جاگیر کے علاوہ اس کے کچھ پولیٹیکل پنشن بھی ہے۔ اور خاندانی قدامت کے لحاظ سے بھی آپ ہمیشہ دربار میں بھی ہوتے ہیں علاوہ ازیں فیاضی میں مثل اپنے آبائے کرام کے بہت نامور ہیں۔ اُمید کہ انکے وجود سے ملک اور گورنمنٹ کو عمدہ فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔



ہزہائینس سری راجہ بلدیو سنگھ صاحب
بہادر والئی ریاست پونچھ -



جناب دیوان نراندر ناتھہ صاحب ایم - ای -
ڈپٹی کمشنر رئیس اعظم
لاهور



گورو نونہال سنگھ صاحب
جاگیردار کرتار پور
ضلع جالندھر

(ک)
گورو نونہال سنگھ صاحب رئیس کرتارپور

صاحب موصوف گورو نانک دیو کی اولاد میں سے ہیں۔ انہیں کے خاندان کے مورثِ اعلیٰ گورو ارجن سنگھ صاحب نے کرتارپور آباد کیا تھا۔ جسکو اب ساڑھے تین سو سال گذرتا ہے۔ غرضکہ آپ مذہبی طور پر ایک اعلیٰ امتیاز رکھتے ہیں۔ کرتارپور آپ ہی کے تعلقہ یا جاگیر میں واقع ہے۔ جس کی سالانہ آمدنی ۵۵ ہزار روپیہ ہے۔ ۱۰ نومبر ۱۸۵۵ء آپکی تاریخ ولادت ہے انگریزی گورمکھی وغیرہ میں خصوصیت سے لیاقت رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کے ہمیشہ خیر اندیش رہے ہیں۔ چنانچہ یادگارِ ملکہ وکٹوریہ متوفیہ میں دس ہزار روپیہ آپنے اسپتال جالندھر کو بغرض طیاری شفاخانہ مستورات عطا فرمایا تھا۔

آپکے کرسی نامہ کا خلاصہ یہ ہے۔ گورو نونہال سنگھ ولد گورو جواہر سنگھ (المتوفی ۱۸۴۳ء) ولد گورو سادھو سنگھ (المتوفی ۱۸۵۹ء) ولد گورو گلاب سنگھ (المتوفی ۱۸۶۰ء) ولد نونت رائے ولد بوبا جی ولد گورو بہار سنگھ (المتوفی ۱۶۹۲ء) ولد گورو دھیرمل (المتوفی ۱۶۷۷ء) ولد بابا گورو دتا (المتوفی ۱۶۳۸ء) ولد گورو ہرگوبند (المتوفی ۱۶۴۴ء) ولد گورو ارجن سنگھ (المتوفی ۱۶۰۶ء) ولد گورو رام داس سوڈھی کھتری داماد گورو امرداس (المتوفی ۱۵۸۱ء) ولد گورو امرداس بھلا کھتری (المتوفی ۱۵۷۴ء) ولد گورو انگد تھل کھتری (المتوفی ۱۵۵۲ء) ولد گورو نانک بیدی کھتری (المتوفی ۱۵۳۹ء)


آپکے خاندان میں گورو نانک صاحب کی سیلی ٹوپی اور گورو ہرگوبند صاحب کا تیغا و نشان اور آدگرنتھ صاحب قدیمی مذہبی یادگاریں چلی آتی ہیں۔ اور قصبہ کرتارپور کے علاوہ نو دیگر دیہات ضلع جالندھر میں اور قصبہ سری ہرگوبندپور ضلع گورداسپور میں اسی خاندان کی واحد ملکیت میں ہیں۔ صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ پہلے اس خاندان میں نو لاکھ کا علاقہ تھا۔ جو بعہد گورو گلاب سنگھ دو لاکھ اور بعہد گورو سادھو سنگھ (جد گورو صاحب حال) سوا لاکھ کا رہگیا۔ اور اب پچپن ۵۵ ہزار کا ہے۔ آپکو دیوانی اختیارات حاصل ہیں۔

مرزا محمد علی صاحب (رک) مالک مغل حویلی رئیس لاہور

مرزا صاحب خاندانِ مُغلیہ سے ہیں۔ جنکے آبا و اجداد تین پُشت ہوئے مشہد مقدس سے تشریف لاکر وارد لاہور ہوئے تھے۔ اور پھر یہاں سے آپکے والد تحصیل علم کے لئے لکھنؤ گئے۔ اور وہیں بوجہ اپنی ذاتی قابلیت کے اودہ کے دربارِ شاہی میں مختلف معزز عہدوں پر مقرر ہوئے۔ مرزا صاحب کی پیدائش بھی لکھنو کی ہی ہے اور وہیں کے محلاتِ شاہی میں آپنے پرورش پائی ہے۔ والد کی وفات پر آپ پھر لاہور تشریف لائے اور باقی اعزا کو بھی کلکتہ وغیرہ سے یہیں طلب فرما لیا۔ جہاں آپ اعلیٰ پیمانہ پر تجارتِ اسپان کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور بوجہ اپنی تجربہ کاری اور ملنساری و فیاضی کے خاص و عام میں پوری ہردلعزیزی اور وقار رکھتے ہیں۔ قدرت سے جیسی صورت پاکیزہ پائی ہے ویسے ہی عادات بھی مدبرانہ اور پولیسی بھی صلح کل رکھتے ہیں۔ ۱۴ سال سے آپنے ایک عالیشان مکان مغل حویلی کے نام سے تعمیر فرمایا ہے۔ جس میں بارہ سال سے آپ ایامِ محرم میں تعزیہ داری کی مجالس نہایت اہتمام اور پورے تکلف و فیاضی کے ساتھ منعقد کرتے ہیں۔ چند سال ہوئے آپنے اپنے لختِ جگروں کی شادی بھی دھوم دھام کے ساتھ انجام دی تھی۔ قطع نظر اس بات کے کہ سامان اور اہتمام نہایت ہی اعلیٰ تھا۔ ہر درجہ کے ساکنین شہر کی دعوتیں آپنے اس دریادلی سے فرمائی تھیں۔ کہ جو خاص طور پر لاہور کو یاد رہینگی۔

گورنمنٹ کے بھی آپ سچے بہی خواہ و وفادار ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر آپنے اپنی خاتون کیطرف سے خاتونانِ لاہور کو مدعو فرما کر جلسۂ اظہارِ تعزیت منعقد فرمایا تھا۔ جو ایک نئی بات تھی۔ اور جسمیں مسٹر سی ایچ ایٹکنس صاحب ڈپٹی کمشنر لاہور کی میم صاحبہ بھی شامل تھیں۔ جس کے بعد مسٹر ہیری صاحب سشن جج لاہور کی میم صاحبہ اور کئی دوسری دیسی و انگریزی معززہ خواتین کے آپ کے ہاں آنے سے تعلقات باہمی قائم ہوئے جن کا نتیجہ قوم کے لئے بڑا مفید ہوا کرتا ہے۔

دربارِ تاجپوشی کی یادگار میں بھی آپنے ایک عالیشان سرائے دومنزلہ تعمیر کرائی ہے جو تیار کر رکھی ہے جسمیں ایک سو تیس کمرے اور دس بنگلے مع ایک عالیشان مسجد کے رکھے گئے ہیں نیز اس کے روبرو ایک پُرفضا باغ اور کنواں لگایا گیا ہے۔ اور ایک خوبصورت امام باڑہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ اسکا افتتاحی جلسہ جس شان و شوکت اور فیاضی سے آپنے منعقد کیا تھا۔ وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے یعنے جلسہ میں تمام معززین و شرفاء و حکام کے علاوہ مساکین و سفید پوش لوگوں کی بھی ایک خاص جمعیت موجود تھی۔ معززین کی تو شربت و عطر و پان وغیرہ سے تواضع ہوتی تھی اور مساکین و مستحقین کو پارچات و نقدی تقسیم ہوتے تھے۔ اُمید کہ گورنمنٹ مرزا صاحب کے دلی خلوص کی ضرور قدردانی فرمائے گی۔



مرزا محمدعلی صاحب مالک مغل حویلی رئیس لاہور

(ل)

مولوی محمد فضل الدین صاحب پلیڈر چیف کورٹ پنجاب و وائیس پریزیڈنٹ میونسپلٹی لاہور

مولوی صاحب موصوف پنجاب کے اُن مشہور و ممتاز وکلاء سے ہیں۔ جو باعتبار اپنے تدبّر اور کارکنی کے پبلک اور گورنمنٹ دونوں میں عزّت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو قومی و ملکی معاملات سے اس قدر دلچسپی ہے کہ جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہر ایک مفید ملک و قوم انجمن یا جلسہ میں انکی پُر مغز تقریریں اور گرانقدر عطیات اسکے شاہد ناطق ہیں۔ ہر ایک ایسا جلسہ جو گورنمنٹ کے اغراض و مقاصد اور احکام کی تفہیم و تسہیل کے لئے قائم کیا جاتا ہے اسمیں مولوی صاحب کی تقریر دلپذیر بھی ضرور سُنی جائیگی۔ اور اسکے علاوہ مفید ملک و گورنمنٹ کاروبار میں انکی مصروفیت اس درجہ بڑھی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہ گویا اُن کا کام ہی یہی ہے۔ تقریباً پندرہ سال سے وہ لاہور میونسپلٹی میں داخل ہیں۔ مگر انکی عالیقدر خدمات یقیناً اتنی مقبول و مرغوب ہوئی ہیں کہ ہر درجہ کے لوگ ان کے معترف اور ثناخوان نظر آتے ہیں چنانچہ کئی دفعہ وہ کثیر التعداد ووٹوں سے کامیاب ہوتے رہے۔ اور دو بار تو بلا انتخاب بھی وہ بدستور کام کرتے رہے۔ اسکے سوا مولوی صاحب پنجاب یونیورسٹی کے فیلو۔ پنجاب گورنمنٹ اور ویسرائے صاحب کے درباری بھی ہیں۔ اور موقع دربار پر انکو دونوں حیثیتوں سے ٹکٹ بھی بھیجا گیا تھا گو چونکہ لاہور کے جلسہ کارونیشن کا بہت کچھ اہتمام انہیں سے وابستہ تھا۔ اسلئے اُنہوں نے اعزاز و تفریح کے عوض ادائے خدمات کو زیادہ ترجیح دی۔ مولوی صاحب کی اعلیٰ خدمات سے اُمید ہے کہ وہ بہت جلد اعزازہائے مزید سے معزز کئے جائیں گے۔

(۵)

مینیجر کتاب ہذا منشی دین محمد صاحب مالک اخبار صدائے ہند پریس لاہور

سنہ ۱۸۷۵ء کی پیدائش ہیں۔ جو حسب معمولِ خاندانی پرائیویٹ استادوں سے علوم مروجہ کی تعلیم پاتے رہے۔ اور حصولِ استعداد کے بعد سنہ ۱۸۹۳ء سے اپنے والد ماجد مولوی فتح الدین صاحب بسمل کے جاری کردہ اخبار و مطبع کا اہتمام اپنے ہاتھ میں لیکر چلانے لگے۔ انہوں نے اخبار کا نام "پنجاب پنچ" سے بدلکر ملکی اہل الرائے کے اتفاق سے "صدائے ہند" رکھا۔ جو تاحال پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ چونکہ طبیعت میں جدت ودیعت ہوئی ہے اسلئے پنجاب میں سب سے پہلے عید کارڈ انہیں کی ایجاد سے ہیں۔ تصنیف و تالیف کا شوق بھی کچھ کچھ ظہور دکھاتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ سنہ ۱۸۹۴ء کے وائسرائیگل دربار لاہور کی تاریخ اور دوستی نام ایک مختصر ناول انہیں کی تصنیفات سے ہیں۔ مطبع و اخبار کو انہوں نے اپنے وقت میں جس قدر ترقی دی ہے اس سے اکثر صاحبان بخوبی واقف ہیں۔ ملکی و قومی کاموں سے بھی خاص دلچسپی ہے۔ چنانچہ پرنٹرس ایسوسی ایشن لاہور کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور انجمن حمایت اسلام و علیگڈھ کالج کے پورے پورے ہواخواہ۔ سنہ ۱۹۰۲ء میں انکی شادی مولوی محمد فضل الدین صاحب مالک اخبار وفادار لاہور کی دختر نیک اختر سے ہوئی جسمیں اکثر دور دست مقامات کے دوست اور رؤساء تشریف لاکر شریک ہوئے تھے۔ جو انکی ملنساری کی دلیل ہے۔ کلکتہ و بمبئی و کشمیر تک کے مشہور مقامات کی انہوں نے سیر کی ہے۔ اور ہر مقام کو نظرِ غائر سے دیکھا ہے۔ اکثر ریاستوں کی بھی بسبیل تجارت و سیاحت سیر کی ہے۔ اور والیانِ ملک و سردارانِ ریاست سے نہایت عزت کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ آپ دربار دہلی میں بھی شامل تھے۔



منشی دین محمد پرو پرائٹر مطبع و اخبار
صداے هند لاهور و منیجر
کتاب هذا

(ن)

درباریانِ پنجاب

۱۔ سردار بسیل سنگھ صاحب رسالدار رئیس لودہران ضلع لدھیانہ۔

۲۔ راجہ علی بہادر خاں صاحب گجرات۔

۳۔ میاں اندودہ سنگھ صاحب رئیس رانگڑھ ضلع انبالہ۔

۴۔ سردار بہادر ارجن سنگھ صاحب رئیس چھبال ضلع امرتسر۔

۵۔ بھائی ارجن سنگھ صاحب رئیس باگڑیاں

۶۔ سردار اروڑ سنگھ صاحب رئیس نوشہرہ ننگل ضلع امرتسر۔

۷۔ نواب عاشق محمد خاں صاحب رئیس ملتان۔

۸۔ نواب بہادر عظمت علیخاں صاحب رئیس مانڈل ضلع کرنال۔

۹۔ سردار بدن سنگھ صاحب رئیس ملودہ ضلع لدھیانہ۔

۱۰۔ سردار بہادر خاں صاحب کھوسہ رئیس ڈیرہ غازیخاں۔

۱۱۔ سردار بہرام خاں صاحب خلف اونریبل نواب سر امام بخش خاں صاحب کے سی آئی ای رئیس ڈیرہ غازیخاں

۱۲۔ سردار بلونت سنگھ صاحب رئیس بوتالہ ضلع گوجرانوالہ

۱۳۔ سردار بلونت سنگھ صاحب رئیس لدھیانہ۔

۱۴۔ سردار جگجیت سنگھ صاحب اہلووالیہ رئیس جالندھر۔

۱۵۔ سردار دیوان سنگھ صاحب رئیس گھنولی ضلع انبالہ۔

۱۶۔ سردار دوست محمد خاں صاحب رئیس قوم مزاری۔

۱۷۔ سردار دریا خاں صاحب رئیس ضلع ڈیرہ غازیخاں۔

۱۸۔ اونریبل نواب فتح علیخاں صاحب قزلباش رئیس اعظم لاہور۔

۱۹۔ سردار فضل علی خاں صاحب کسرانی رئیس کوٹ کسرانی ضلع ڈیرہ غازیخاں

۲۰۔ خان بہادر میاں غلام فرید خاں صاحب رئیس کوٹ حکیم ضلع گورداسپور۔

۲۱۔ ملک غلام محمد خاں صاحب جودھرا تحصیل پنڈی گھیب ضلع راولپنڈی۔

۲۲۔ میاں گوردہن سنگھ صاحب رئیس رامگڑھ ضلع انبالہ۔
۲۳۔ بھائی گوربخش سنگھ صاحب رئیس امرتسر۔
۲۴۔ بھائی گوردت سنگھ صاحب رئیس لاہور۔
۲۵۔ سردار گوردت سنگھ صاحب رئیس شام گڑھ ضلع کرنال۔
۲۶۔ خان بہادر ملک حاکم خاں صاحب رئیس شاہپور۔
۲۷۔ سردار ہری سنگھ صاحب سالدار رئیس لودہراں ضلع لدھیانہ۔
۲۸۔ آنریبل سر کنور ہرنام سنگھ صاحب کے سی آئی ای رئیس کپورتھلہ ضلع جالندھر
۲۹۔ سردار بہادر ہرنام سنگھ صاحب رئیس کھرڑ ضلع انبالہ۔
۳۰۔ مخدوم حسن بخش صاحب رئیس اعظم ملتان
۳۱۔ دیوان بہادر رائے بہادر سوڈھی حکم سنگھ صاحب رئیس لاہور۔
۳۲۔ نواب ابراہیم علی خاں صاحب رئیس کنجپورہ ضلع کرنال۔
۳۳۔ آنریبل سر امام بخش خاں صاحب کے سی آئی ای رئیس ڈیرہ غازیخاں۔
۳۴۔ میر جعفر علیخاں صاحب رئیس کتھوعہ ضلع انبالہ
۳۵۔ راجہ جی سنگھ صاحب رئیس سیبہ ضلع کانگڑہ
۳۶۔ سردار جلب خاں صاحب گورگانی رئیس ہرنہ ضلع ڈیرہ غازیخاں۔
۳۷۔ سردار جسمیر سنگھ صاحب رئیس نتول تہانگر ضلع کرنال۔
۳۸۔ سردار جیون سنگھ صاحب سی ایس آئی والی شہزادپور ضلع انبالہ
۳۹۔ سردار بہادر جوالا سنگھ صاحب رئیس چھرولی ضلع کرنال۔
۴۰۔ راجہ کرم داد خاں صاحب گکھڑ رئیس پڑوال ضلع راولپنڈی۔
۴۱۔ ملک خان محمد خاں صاحب ٹوانہ رئیس ضلع شاہپور
۴۲۔ آنریبل سر بابا کھیم سنگھ صاحب بیدی کے سی آئی ای۔ رئیس اعظم راولپنڈی
۴۳۔ ملک خدا بخش صاحب ٹوانہ اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر رئیس اعظم خواجہ آباد ضلع شاہپور
۴۴۔ سردار کشن سنگھ صاحب رئیس نتول تہانگر ضلع کرنال۔
۴۵۔ رانا ایمنا سنگھ صاحب رئیس منساوال ضلع شاہپور
۴۶۔ لطیف حسن خاں صاحب عرف بیٹا شاہ نواز خاں صاحب رئیس ڈیرہ غازیخاں۔

۴۷۔ رائے بہادر آنریبل مسٹر مدن گوپال صاحب بیرسٹرایٹ لا ممبر پنجاب کونسل لاہور۔

۴۸۔ ٹھاکر جہان چند صاحب رئیس گورداسپور۔

۴۹۔ سردار سوخان صاحب چیف اوف پٹی لنڈ ضلع ڈیرہ غازیخاں۔

۵۰۔ مولاداد خان صاحب رئیس جھنگ

۵۱۔ ملک مبارز خان صاحب ٹوانہ رئیس جہان آباد ضلع شاہپور

۵۲۔ خان بہادر محمد عبداللہ خان صاحب سی آئی ای رئیس عیسیٰ خیل ضلع میانوالی

۵۳۔ خان صاحب محمد عالم خان صاحب رئیس کوٹلہ نہنگ ضلع انبالہ۔

۵۴۔ ملک محمد امین خان صاحب رئیس شمس آباد ضلع راولپنڈی۔

۵۵۔ محمد حیات خان صاحب رئیس احمد آباد ضلع جہلم

۵۶۔ محمد حیات خان صاحب رئیس شاہپور۔

۵۷۔ سردار محمد حسین خان صاحب رئیس بازدار چیف ضلع ڈیرہ غازیخاں۔

۵۸۔ شہزادہ محمد طاہر صاحب رئیس ضلع لدھیانہ

۵۹۔ سردار نرائن سنگھ صاحب رئیس مانک ماجرا ضلع انبالہ۔

۶۰۔ سردار بہادر نرپندر سنگھ صاحب رئیس اعظم لاہور

۶۱۔ دیوان نرانندر ناتھ صاحب ایم۔اے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ۔ رئیس اعظم لاہور۔

۶۲۔ گورو نونہال سنگھ صاحب رئیس کرتارپور ضلع جالندھر۔

۶۳۔ سردار نورنگ خان صاحب رئیس سوری لنڈ ضلع ڈیرہ غازیخاں۔

۶۴۔ سردار پرتاب سنگھ صاحب رئیس کھعی ضلع انبالہ

۶۵۔ سردار بہادر سردار پرتاب سنگھ صاحب رئیس میانپور ضلع انبالہ

۶۶۔ سردار پرتاب سنگھ صاحب اہلوالیہ رئیس جالندھر

۶۷۔ سوڈھی رام نرائن سنگھ صاحب رئیس انندپور ضلع ہوشیارپور۔

۶۸۔ راجہ رام پال صاحب والی کٹلہر ضلع کانگڑہ

۶۹۔ راجہ گناتھ صاحب والی جسوان ضلع ہوشیارپور

۷۰۔ رستم علی خان صاحب مانڈل۔

۷۱۔ خان بہادر سیف اللہ خان صاحب رئیس خانگڑھ ضلع مظفرگڑھ۔

۷۲۔ سردار سروپ سنگھ صاحب ملوی رئیس لاہور۔

۷۳۔ بیدی سوجان سنگھ صاحب رئیس اونہ ضلع ہوشیارپور۔

۷۴۔ میاں سکھدرشن سنگھ رئیس رگنہولی ضلع انبالہ۔

۷۵۔ سردار سندر سنگھ صاحب رئیس ملند۔

۷۶۔ سردار تغیہ خاں صاحب لگاری والی چوٹی ڈیرہ غازیخاں۔

۷۷۔ سردار ٹیک سنگھ صاحب چھاچھی رئیس راولپنڈی۔

۷۸۔ عمر دراز علی خاں صاحب مانڈل۔

۷۹۔ ملک عمر حیات خاں صاحب ٹوانہ رئیس شاہپور۔

۸۰۔ سردار امراؤ سنگھ صاحب مجیٹھیہ رئیس امرتسر

۸۱۔ شیخ غلام صادق صاحب رئیس آنریری مجسٹریٹ امرتسر

۸۲۔ ملک یار محمد خاں صاحب رئیس کالا باغ ضلع میانوالی۔

۸۳۔ محمد برکت علی خاں صاحب پنشنر اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر و رئیس لاہور۔

۸۴۔ نواب غلام محبوب سبحانی صاحب جاگیردار و رئیس لاہور۔

۸۵۔ لالہ رام سرنداس صاحب مالک کارخانہ سبلا رام رئیس لاہور۔

۸۶۔ خان بہادر خواجہ یوسف شاہ صاحب رئیس امرتسر

افسران متعینہ کیمپ

۱و۲۔ مسٹر سی۔ یو۔ ایچیسن صاحب مع صاحبہ

۳۔ لیڈی آرتھر رسل صاحبہ۔

۴۔ مسٹر بڈلف صاحب مع لیڈی صاحبہ

۵۔ میجر بنگلے صاحب مع لیڈی صاحبہ

۶۔ مسٹر آر سی ہالسٹر صاحب آئی سی ایس

۷۔ کپتان سی ایچ بک صاحب۔

۸۔ مسٹر ای کیمبل صاحب آئی سی ایس۔

۹۔ کپتان کولڈ سٹریم صاحب۔

۱۰۔ مسٹر جی۔ ایف۔ ڈی مانٹ مورنسی صاحب سی۔ ایس۔

۱۱۔ مسٹر اے۔ ڈف صاحب۔

۱۲۔ میجر جے ہارڈ لوپ سمتھ صاحب سی آئی ای ایجنٹ ریاست ہائے پھلکیاں

۱۳۔ مسٹر جی۔ ڈی۔ فٹزپیٹرک صاحب۔

۱۴۔ مسٹر ڈبلیو۔ ایم ہیلی صاحب۔

۱۵۔ مسٹر آر ہمفریز صاحب۔

۱۶۔ مسٹر مچل صاحب مع لیڈی صاحبہ

۱۷۔ مسٹر اے۔ ایچ۔ پارکر صاحب۔

۱۸۔ کپتان اے۔ بی۔ جی رسل صاحب۔

۱۹۔ مس سی۔ ڈی۔ آر۔ رسل صاحبہ۔

۲۰۔ مس ایف۔ ایم۔ جے۔ رسل صاحبہ

۲۱۔ مس ایم۔ ایم۔ سمتھ صاحبہ۔

۲۲۔ مسٹر ایچ۔ ڈی۔ والٹن صاحب۔

فصل یازدہم

اُمراء و رؤسائے سرحدی

(الف) درباریانِ سرحدی

۱- مہتر صاحب چترال۔
۲- نواب صاحب دیر۔
۳- خان صاحب نواگی۔
۴- خان بہادر عبدالغفور خان صاحب خٹک خان آف ٹیری۔
۵- حافظ نواب عبداللہ خان صاحب علی زئی
۶- نواب الہٰداد خان صاحب سدوزئی
۷- امین اللہ خان صاحب اورکزئی۔
۸- سلطان برکت خان صاحب رئیس مہابے
۹- خان بہادر دوست محمد خان صاحب ارباب جیل
۱۰- غلام احمد مرتضیٰ صاحب سی-آئی-ای
۱۱- نواب غلام قاسم خان صاحب رئیس ٹانک۔
۱۲- خان بہادر حق نواز خان صاحب سی آئی-ای
۱۳- خان بہادر ابراہیم خان صاحب والیٔ ط
۱۴- خان بہادر راجہ جہانداد خان صاحب چیف آف گ
۱۵- خان عبدالغفور خان صاحب خان آف زیدہ۔
۱۶- خوشدل خان صاحب بنگش۔
۱۷- خان بہادر خواجہ محمد خان صاحب رئیس ہوتی
۱۸- خان بہادر محبت خان صاحب رئیس تورو۔
۱۹- خان بہادر نواب محمد افضل خان صاحب رئیس گنڈاپور
۲۰- وزیرزادہ کرنل نواب سردار بہادر محمد اسمٰعیل خان صاحب سی-آئی-ای-ایڈی سی
۲۱- خان بہادر محمد اعظم خان صاحب ارباب مہمند
۲۲- خان بہادر محمد حسین خان صاحب ارباب مہمند
۲۳- راجہ شیر احمد خان صاحب رئیس گکھڑ
۲۴- سردار سلطان خان صاحب سی-آئی-ای

(ب) افسرانِ کیمپ سرحدی

۱- کپتان بی-سی واٹرفیلڈ صاحب انچارج کیمپ و ریزیڈنٹ۔
۲- مسٹر اے-ڈبلیو-جے ٹالبٹ صاحب آئی-سی-ایس اسسٹنٹ کمشنر سرحد۔
۳- میجر ایس ایم گارڈ فری صاحب پولیٹیکل ایجنٹ دیر سوات و چترال
۴- منشی عبدالکریم خان صاحب اسسٹنٹ کیمپ
۵- لالہ رام داس صاحب [illegible]

فصل دوازدہم

رؤساء و اُمرائے مدراس

(الف) ہزہائینس راجہ صاحب پدوکوٹہ

انکا رقبہ اور آمدنی وغیرہ معلوم نہیں ہوئی۔
آپ کے ہمراہیان حسب ذیل تھے۔
۱ - ایس ونکٹ راؤ داس صاحب نیادو - دیوان -
۲ - ویجیا رگناتھ درائے صاحب راجہ اورنگل - کونسلر -
۳ - مسٹر ایف - ایف کراسلی صاحب - پرائیویٹ سکریٹری -

(ب) ہزہائینس راجہ صاحب کوچین - جی سی - آئی - ای -

آپکی ریاست کا رقبہ ۱۳۶۱ میل مربع - آبادی تقریباً سات لاکھ - آمدنی تخمیناً ۱۵ لاکھ اور الفواب سلامی ۱۷ ہیں - ہزہائینس انگریزی میں اعلیٰ لیاقت رکھتے ہیں -
ہمراہیان - ۱ - راما درما اورنگل صاحب ممبر خاندان راجہ صاحب - ۲ - پتا بہرا مار و اورنگل صاحب دیوان کوچین - ۳ - کے نرپانا اے یار صاحب جج چیف کورٹ - ۴ - ار - فی صوبہ راؤ اورنگل سپرنٹنڈنٹ پولیس - ۵ - دی اوپچیتی اورنگل صاحب کنسرویٹر جنگلات - ۶ - مسٹر ایس لوک صاحب چیف جج کوچین - ۷ - مسٹر ایف - ایس ڈیویز صاحب پرنسپل کوچین کالج - ۸ - میجر ایل - جے - انڈریوز صاحب آئی ایس ۱۹ - انفنٹری مدراس -

(ج) ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والی ٹراونکور

آپکی ریاست کا رقبہ ۶۶۵۳ میل مربع - آبادی قریباً ۲۵ لاکھ - آمدنی ساڑھے لاکھ روپیہ سالانہ اور الفواب سلامی ۲۱ ہیں - جنمیں سے دو ذاتی ہیں - ہزہائینس انگریزی تعلیم یافتہ ہیں - اور انتظام ریاست خود کرتے ہیں -
ہمراہیان - ۱ - دیوان بہادر کے کرشنا سوامی راؤ صاحب سی - آئی - ای دیوان ریاست
۲ - مسٹر اے - جے - وائیرا صاحب چیف سکریٹری مدار المہام صاحب - ۳ - سی - ایم مادن کیلاسے صاحب دیوان پیشکر - ۳ - آنریبل مسٹر جی - ٹی میکنزی صاحب آئی - سی - ایس مع مس صاحبہ - ۴ - ای - سی - مس سٹوارٹ صاحب - ۵ - مسٹر او - ایچ - بینسلی صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس - اڈنکو مع لیڈی صاحبہ - ۶ - میجر ایف ڈبلیو اسن صاحب آئی ایس سی کمانڈر افواج ریاست مع لیڈی صاحبہ ۷ - میجر ایچ تہامسن صاحب آئی ایم ایس معتمد دربار -



ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والئی ریاست
ٹراونکور



ہزہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والئے ریاست میسور

ہزہائینس مہاراجہ کرشن راج اُڈیار بہادر والیِ ریاست میسور

ریاست میسور جس کا رقبہ پچیس ہزار مربع میل۔ آبادی قریباً پچاس لاکھ۔ اور آمدنی بھی مختلف صیغوں کے ذریعہ بہت بڑھی ہے۔ باعتبار اپنی خوش انتظامی کے ہندوستان بھر میں مشہور ہے۔ ہزہائینس کو اپنے والد متوفی کی جگہ مسندنشین خود مختار کرنے کے لئے حضور وائسرائے خود میسور تشریف لیگئے تھے۔ چنانچہ ۲۶ جون ۱۹۰۲ء کو آپ بااختیار کئے گئے۔ انکو اکیس سلامی کیں ہیں۔ اور فوج میں ۱۷۴۳ سوار اور ۲۵۴۳ پیدل اور دس توپیں ہیں۔ آپکے ہمراہیان دہلی میں مندرجہ ذیل صاحبان تھے۔

۱۔ رانہ بنے سنگھ جی صاحب برادر نسبتی ہزہائینس
۲۔ مسٹر اے۔ بساپا جی اُرس ملٹری بخشی۔
۳۔ لفٹنٹ کرنل جے دیسراج اُرس چیف کمانڈنٹ میسور ٹروپس۔
۴۔ مسٹر ڈی دیوراج اُرس ڈپٹی کمشنر
۵۔ مسٹر گوپالا راجی اُرس ممبر خاندان ہزہائینس
۶۔ مسٹر گوپالا کرشنا اُرس ممبر خاندان شاہی۔
۷۔ مسٹر ایم کنتا راجا اُرس برادر مہارانی صاحبہ
۸۔ مسٹر پی این کرشنا مورتی سی آئی ای۔ دیوان میسور۔
۹۔ مسٹر لکشمی کنتا راجہ اُرس۔ برادر مہارانی صاحبہ۔
۱۰۔ مسٹر ایچ لنگاراج اُرس۔ دربار بخشی۔
۱۱۔ دی پی۔ مہادیو راؤ صاحب۔ سی آئی۔ ای۔ فسٹ کونسلر ریاست۔
۱۲۔ مہاراج کمار سبرا راجہ صاحب ڈائرکٹر اوس راج۔
۱۳۔ مسٹر وی۔ این نرسمہا آئنگر کمپٹرولر۔
۱۴۔ مسٹر ایچ۔ دی نجندیا سکرٹری گورنمنٹ
۱۵۔ مسٹر پی۔ این پورنیہ کمشنر مردم شماری
۱۶۔ مسٹر مسٹی سرنیواس آئینگر کونسلر دوم ریاست میسور۔
۱۷۔ مسٹر ٹی۔ آر۔ اے۔ تھمبو چیٹی۔ پنشنر قایم مقام دیوان۔
۱۸۔ مسٹر بی۔ کے ونکٹا دارادائین گر ڈپٹی کمشنر
۱۹۔ مس اینڈرسن۔
۲۰۔ مسٹر بنسن آئی۔ ایم۔ ایس۔ کرنل مع لیڈی صاحبہ برقی انجینیر۔
۲۱۔ کرنل گرانٹ مع لیڈی صاحبہ سپرنٹنڈنٹ آف رینیو لرو۔
۲۲۔ میجر بنکاک کولار گولڈ فیلڈ۔
۲۳۔ لفٹنٹ کرنل آر۔ جی۔ جونس۔ ملٹری اسسٹنٹ گورنمنٹ میسور۔
۲۴۔ مسٹر ایوان۔ میکونوچی۔ آئی سی ایس۔ پرائیویٹ سکرٹری مع لیڈی صاحبہ۔
۲۵۔ مس میگن صاحبہ سرجن میسور دربار۔
۲۶۔ مسٹر ڈبلیو میچن صاحب چیف انجینیر۔
۲۷۔ مسٹر پلنگٹن مع لیڈی مس صاحبہ انسپکٹر عام تعلیم
۲۸۔ ڈاکٹر ڈبلیو ایف سمتھ ایم اے چیف انسپکٹر مع لیڈی صاحبہ
۲۹۔ لفٹنٹ کرنل جے سمائیتھ صاحب آئی۔ ایم ایس۔ وکٹوریا ہسپتال میسور۔
۳۰۔ مس ووڈیالی۔
۳۱۔ مسٹر ٹلی مع لیڈی صاحبہ سپرنٹنڈنٹ تعمیر

(۸) درباریانِ مدراس

۱- آنریبل رائے بہادر پنڈت انندا چارلو صاحب سی- آئی- ای ممبر کونسل وائسرائے۔

۲- اے- انشوامی ٹیوار اورگل صاحب رئیس ضلع بجنور۔

۳- مہاراجہ رنگاراؤ صاحب بہادر کے- سی- آئی- ای- عینی زمیندار وزیگاپٹم

۴- زمیندار صاحب ڈبا موکوٹہ ضلع گنجام

۵- زمیندار صاحب ایتاپیراج ضلع تنی ویلی

۶- رائے بہادر سی جام بلنگم مدلیار صاحب سی- آئی- ای جج سول کورٹ

۷- راجہ جےپور مہاراج دکرامادیو صاحب زمیندار علاقہ وزیگاپٹن۔

۸- زمیندار صاحب منڈاسہ ضلع گنجام

۹- خان بہادر سر محمد منور علیخاں صاحب کے سی- آئی- ای پرنس اوف ارکاٹ رئیس اعظم مدراس- مرحوم

۱۰- پرلاکی میڈی زمیندار ضلع گنجام-

۱۱- آنریبل کے پیراجو پنتولو صاحب ممبر کونسل مدراس

۱۲- دیوان بہادر پنڈت ساج رتنند مدلیار صاحب سی- آئی- ای- ممبر بخشی۔

۱۳- دیوان بہادر رام چندر رائے صاحب وکیل ہائی کورٹ۔

۱۴- راجہ سر ایس راماسوامی مدلیار صاحب کے- ٹی سی- آئی- ای- رئیس اعظم مدراس

۱۵- آنریبل پی رتنا سبھا پتی پیلاے صاحب ممبر کونسل مدراس۔

۱۶- آنریبل نواب صاحب بہادر سید محمد صاحب ممبر کونسل مدراس۔

۱۷- سی شنکارن نیار اورگل صاحب وکیل سرکار

۱۸- آنریبل اکروی دیوان بہادر سری نواس ایار صاحب۔

۱۹- دیوان بہادر ایس سری نواس گھوایانگر صاحب سی- آئی- ای ممبر پولیس کمیشن۔

۲۰- آنریبل جی سری نواس راؤ صاحب ممبر کونسل

۲۱- مسٹر این سبرانیام صاحب بیرسٹرایٹ لا-

۲۲- راجہ صاحب ونکٹ گری کی سی آئی ای زمیندار ضلع نلور

(۹) افسرانِ کیمپ

۱- مسٹر ای اگزینیا صاحب آئی سی- ایس-

۲- میجر ٹی- آر- ایف- آر- جیسے صاحب- آئی- ایس- سی

فصل سیزدہم

رؤساء و اُمرائے مُمالکِ متوسط

(الف)

ہز ہائینس مہاراجہ ہلکر صاحب بہادر والی اندور جی سی ایس آئی

آپ مسٹر ہلکر کی یادگار ہیں۔ دربارِ دہلی کے بعد کاروبار ریاست سے آپنے استعفا دیدیا ہے۔ لیکن دربار میں بحیثیت حکمران شریک تھے۔ اَب ولیعہد صاحب باضابطہ حکمران ہیں اور انتظام ریاست کونسل کرتی ہے۔ یعنے موجودہ حکمران

ہمراہیانِ دربار یہ ہیں۔ ۱۔ سرینت ٹیکاجی راؤ بالا صاحب۔ ولیعہد۔ ۲۔ یادوراؤ بسیا صاحب ہلکر۔ ۳۔ رائے بہادر نانک چند صاحب سی آئی ای چیف کاردباری

(ب)

ہز ہائینس مہاراجہ مہندر پرتاب سنگھ صاحب والی اورچھا۔ جی سی۔ آئی ای

آپکی ریاست کا رقبہ ۲۰۱۶ میل مربع۔ آبادی تقریباً دو لاکھ۔ آمدنی تخمیناً دس لاکھ اور سلامی التواپ ۱۷۔ دو آپکی ذات خاص کے لئے ہیں۔ انتظام ریاست خود کرتے ہیں۔ اور ایک کونسل بھی مقرر ہے۔ خان بہادر محمد زمان خاں صاحب مدار المہام ہیں۔ ہمراہیان دربار یہ ہیں ۱۔ راجہ بہادر شیونت سنگھ صاحب ۲ خان محمد زمان خاں صاحب وزیر ریاست ۳ ٹھاکر مادھو سنگھ صاحب۔

(ج)

ٹھاکر صاحب پیلودہ

آپ کے حالات معلوم نہیں ہوئے۔

ہمراہیان ارگناتھ سنگھ صاحب ۲ بجاسنگھ صاحب ۳ منشی سجن لال صاحب۔

(د)

رانا صاحب بڑوانی

آپکی ریاست کا رقبہ ۲۰۰۰ میل مربع۔ آبادی ۹۰ ہزار۔ آمدنی تقریباً چھ لاکھ سالانہ اور توپ التواپ سلامی ۹ ہیں۔

ہمراہیان دربار ۱۔ دوا کٹر آئی ذہن گمبر صاحب ۲۔ دسترت سنگھ صاحب ۳۔ مسٹر کے۔ ایم فینشک سنگھ صاحب ۴۔ لالہ دیوناتھ سہائے صاحب۔

(۸)

ہر ہائینس نواب سُلطان جہان بیگم صاحبہ والیٔ بھوپال

عالیجناب بیگم صاحبہ ۱۹۰۱ء میں بجائے اپنی والدہ مرحومہ کے مسند نشین ریاست ہوئی ہیں۔ مگر پہلے ہی سال میں نواب سُلطان دولہ انکے لائق اور قابل شوہر کا انتقال ہوگیا۔ جس سے کاروبارِ ریاست کا تمام بوجھ انپر آپڑا اور جسکو ابتک آپنے پرلے درجہ کی مُستعدی سے نباہا ہے۔ آپکی ریاست کا رقبہ ۶۹۰۰ میل مربع۔ آمدنی کُل تقریباً چالیس لاکھ۔ اور اتواپ سلامی اُنیس ۱۹ ہیں۔

ہمراہیان دربار۔ ۱۔ نواب محمد نصراللہ خاں صاحب ولیعہد۔

۲۔ صاحبزادہ حافظ محمد عبداللہ خاں صاحب فرزند دوم۔

۳۔ صاحبزادہ حمیداللہ خاں صاحب فرزند سوم۔

۴۔ مُنشی محمد ممتاز علیخاں صاحب۔

۵۔ حافظ محمد حسن خاں صاحب سی۔ آئی۔ ای۔

۶۔ مسٹر کوک صاحب چیف انجنیر مع لیڈی صاحبہ و مس صاحبہ۔

۷۔ مُنشی محمد اسرار حسن خاں صاحب معین المہام ریاست۔

۸۔ رائے بہادر چیتر سنگھ صاحب۔

(۹)

ہز ہائینس مہاراجہ صاحب دتیا کے سی۔ ایس آئی

آپکی ریاست کا رقبہ ۹۱۲ میل مربع۔ آبادی دو لاکھ۔ آمدنی دس لاکھ اور اتواپ سلامی پندرہ ۱۵ مُقرر ہیں۔

ہمراہیان۔ ۱۔ رأو بہادر مُنشی گوبند پرشاد صاحب پرائیویٹ سکرٹری۔
۲۔ رائے بہادر لالہ جانکی پرشاد صاحب دیوان۔

(ز)

ہز ہائینس راجہ صاحب دھار

آپکی ریاست ہنگامہ ۱۸۵۷ء میں ایک دفعہ ضبط ہوگئی تھی۔ مگر پھر واگذار کردی گئی۔ رقبہ ڈھائی ہزار میل مربع۔ آبادی دو لاکھ۔ آمدنی آٹھ لاکھ اور انواپ سلامی پندرہ ہیں۔

ہمراہیانِ دربار ذیل میں مندرج ہیں۔

۱ - ہز ہائینس مہارانی دواگر صاحب۔
۲ - سیتا صاحب۔
۳ - سیتا رام جی صاحب۔
۴ - ٹھاکر لچھمن سنگھ صاحب جاگیردار گسوی
۵ - ملہار راؤ پوار احمد آباد کر۔
۶ - ٹھاکر ظالم سنگھ صاحب رئیس کچی بردوہ۔
۷ - ٹھاکر جسونت سنگھ صاحب رئیس بردوہ
۸ - پنڈت آر۔ سی۔ ڈکی صاحب۔
۹ - مسٹر این۔ سی اوگارسن صاحب۔

(ح)

ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر دیواس (کلاں)

اس ریاست کا رقبہ ۲۵۷ میل مربع۔ آبادی ایک لاکھ کے قریب۔ آمدنی تقریباً سات لاکھ۔ اور سلامی انواپ ۱۵ مقرر ہیں۔

(ط)

ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر دیواس (خورد)

اُنکا کچھ حال معلوم نہیں ہوا۔

(ی)

فخر الدولہ نواب محمد افتخار علی خاں صاحب بہادر صولت جنگ والی جاورہ

ہز ہائینس سوانی و درانی افغان اور مذہباً سُنت والجماعت مُسلمان ہیں۔ ۱۷۔ جنوری ۱۸۸۳ء آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ اور ۵ مارچ ۱۸۹۵ء سن مسند نشینی۔ رقبہ ریاست چھ سو چھ میل مربع۔ آبادی ۸۴۲۱۲۔ آمدنی ۹۴۳۲۲۰ روپیہ کلدار۔ فوج مع پولیس سات سو جوان کی۔ اور اتوا پ سلامی کی ۱۳ ضرب مقرر ہیں۔ انتظامِ ریاست صاحبزادہ خان بہادر یار محمد خاں صاحب سی۔ ایس۔ آئی مدار المہام ریاست کرتے ہیں۔ جو بڑے تجربہ کار ہیں اور یوروپ کی بھی سیر کر چکے ہیں۔ پیداوار ریاست میں علاوہ دیگر اجناس کے افیون اوّل درجہ کی پیدا ہوتی ہے۔ ہز ہائینس۔ انگریزی۔ فارسی۔ عربی میں بخوبی مہارت رکھتے ہیں۔ انڈین کیڈٹ کور میں بھی داخل ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی ذکر آچکا ہے۔ آپ کے درباریان حسب ذیل صاحبان تھے

۱۔ خان بہادر یار محمد خاں صاحب سی۔ ایس۔ آئی۔
۲۔ صاحبزادہ محمد شیر علی خاں صاحب۔
۳۔ صاحبزادہ سُلطان محمد خاں صاحب۔
۴۔ ہدایت محمد خاں صاحب
۵۔ شجاعت محمد خاں صاحب۔
۶۔ سردار محمد خاں صاحب۔
۷۔ سیّد غُلام عبّاس خاں صاحب۔
۸۔ ٹھاکر سدول سنگھ صاحب۔
۹۔ پنڈت تربھون ناتھ صاحب۔
۱۰۔ مولوی عبد الجلیل صاحب۔



فخرالدوله صولت جنگ نواب محمد افتخار علیخان

بهادر والئے ریاست

جاوره



مہاراج دھراج سپہدارالملک ہز ہائینس سر ملکھان
سنگھ صاحب بہادر کے - سی - ایس - آئی
والئے ریاست چرکیاری

(ک)

مہاراج دہراج سپہدار الملک ہز ہائینس سر ملکھان سنگھ جودیو صاحب بہادر کے سی آئی ای

والیٔ ریاست چرکھاری

آپ بندیلہ راجپوت کاشپ گوتر وشنوی ہیں۔ آپکا سال پیدائش ۱۸۷۰ء اور سن مسند نشینی ۱۸۸۰ء ہے۔ رقبہ ۸۰۰ میل مربع۔ آبادی ۱۲۵۲۵۷۔ آمدنی چھ لاکھ۔ اور فوج مع پولیس دو ہزار۔ اتواپ سلامی گیارہ مقرر ہیں۔ سری راجہ بہادر سری کرشن سنگھ جودیو آپکے ولیعہد اور راؤ بہادر دیوان جوجھار سنگھ جودیو بہادر سی۔ آئی۔ ای مدار المہام نائب کا مدار دیوان بہادر گنگا سنگھ جودیو ہیں۔ مہاراجہ صاحب انتظام ریاست خود کرتے ہیں۔ اور علاقۂ ریاست میں ہیرا بھی نکلتا ہے۔

(ل)

ہز ہائینس مہاراجہ صاحب والیٔ چھترپور

آپکی ریاست کا رقبہ ۱۱۲۰ میل مربع۔ آبادی قریباً دو لاکھ۔ اور آمدنی تین لاکھ ہے۔ اتواپ سلامی گیارہ مقرر ہیں۔ مہاراجہ صاحب انگریزی بخوبی جانتے ہیں۔ اور انتظام ریاست خود کرتے ہیں۔

(۴)

ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والیِ گوالیار

جی-سی-ایس-آئی-جی-سی-وی-او-اے ڈی سی-

آپکی ریاست جو تاریخی شہرت رکھتی ہے۔ اُس کے اعادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ رقبہ ۳۲۳۱۱۹ مربع میل۔ آبادی تینتیس لاکھ۔ آمدنی کل اندازاً ڈیڑھ کروڑ۔ اور سلامی ۲۱-اتواپ کی ہے۔ آپ دربار تاجپوشی لنڈن میں بھی موجود تھے۔ آپ اعلیٰ درجہ کے انگریزی تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ کے ہمراہیان دربار یہ تھے۔

۱-سردار آپاجی راؤ صاحب سیتولے۔
۲-سردار رام چندر راؤ صاحب پٹنکر۔
۳-بلونت راؤ بھیا صاحب سندھیا۔
۴-سردار یادو راو باپو صاحب گھور پڑی۔
۵-سردار رام راؤ صاحب پھالکی۔
۶-جنرل کاشی راؤ صاحب سروی سی ایس آئی۔
۷-لفٹنٹ کرنل سر مچل فلس۔
۸-راؤ راجہ رگھوناتھ راؤ صاحب ڈنکر۔
۹-ایجوٹنٹ جنرل ہیرا سنگھ صاحب۔
۱۰-سردار نگاجی راؤ صاحب پھالکی۔
۱۱-کرنل جی-ڈی پچر-ای ایس سی ایم صاحب۔
۱۲-لفٹننٹ کرنل اے-ایم کرافٹس سی آئی ای-آئی ایم ایس۔
۱۳-مسٹر جے-ڈبلیو-ڈی جانسٹن صاحب۔
۱۴-مسٹر بیلسنڈ صاحب۔

(ت)

ہز ہائینس راجہ صاحب بہادر نرسنگڑھ

آپ کی ریاست کا رقبہ ۷۲۰ میل مربع۔ آمدنی چار لاکھ۔ آبادی ڈیڑھ لاکھ ہے۔ اور اتواپ سلامی گیارہ مقرر ہیں۔ اور پولیٹیکل ایجنٹ سیہور کے متعلق آپکی نگرانی ہے۔

ہمراہی کوئی معلوم نہیں ہوا۔



ہزہائینس مہارج دھراج کرنل سر مادھو راو
صاحب بہادر سیندھیا جی - سی -
ایس - آی والئے ریاست گوالیار



ہز ہائینس راجہ راوت بنے سنگھ صاحب بہادر
والئے ریاست راجگدڑھ

(۳۴)

ہز ہائینس راجہ راوت بنے سنگہ صاحب بہادر والیٔ ریاست راجگڑھ

ہز ہائینس سنہ ۱۸۶۶ء کی پیدائش ہیں۔ اور سنہ ۱۹۰۲ء میں مسند نشین ہوئے ہیں۔ مسند نشینی سے پہلے آپ مسلمان تھے۔ مگر مسند نشینی کے بعد پھر ہندو ہوگئے ہیں۔ گیارہ توپ سلامی کی مقرر ہیں۔ رقبۂ ریاست ۹۶۲ میل مربع۔ آبادی ۸۸۳۷۶۔ اور آمدنی چھ لاکھ ہے۔ فوج مع پولیس ۵۳۱ جوان ہے۔ مہاراج کنور اربھیراندر سنگہ صاحب ولیعہد ریاست ہیں۔ اور لالہ بشیشر ناتھ صاحب مدار المہام اور یہی دونوں صاحب دربار میں آپ کے ساتھ تھے۔

(ع)

ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والیٔ ریواں جی سی ایس آئی

آپکی ریاست کا رقبہ ۱۳۰۰۰ مربع میل - آبادی ۱۳۰۰۰۰۰ - آمدنی پچیس لاکھ - اور اتواپ سلامی ۱۷ ہیں - ہز ہائینس انگریزی تعلیم یافتہ ہیں - اور انتظام ریاست خود کرتے ہیں -

ہمراہیان دربار - ۱ - لال - راجہ پرشاد سنگھ صاحب سی - آئی - ای ۲ - رائے بہادر لال پرتاپ سنگھ صاحب - کرنل لال جنار دہن سنگھ صاحب -

(ف)

ہز ہائینس مہاراجہ صاحب بہادر والیٔ ستھر

آپکی ریاست کا رقبہ ۵۰۷ میل مربع - آبادی قریباً ایک لاکھ چالیس ہزار - آمدنی چار لاکھ - اور اتواپ سلامی گیارہ مقرر ہیں - وزیر الدولہ گیا پرشاد صاحب مدار المہام ہیں -

(ص)

سری سوامی راؤ بہادر سی ایس آئی جاگیردار علی پورہ

آپ ہندو چھتری راجپوت ہیں سال ولادت ۱۸۵۳ء اور سنہ مسند نشینی ۱۸۷۱ء ہے - پچاس میل مربع رقبہ ہے - آبادی قریباً ۱۵ ہزار - آمدنی پچاس ہزار روپیہ سالانہ فوج مع پولیس تین سو جوان - کنور ہرپال سنگھ صاحب ولیعہد ہیں - انتظام ریاست کونسل کے ذریعہ ہوتا ہے - جسکے ممبران کنور گجندر سنگھ - بابو گوبردہن داس - لالہ پران سنگھ اور میر عبدالصمد علی صاحبان ہیں - راجہ صاحب انگریزی و سنسکرت وغیرہ بخوبی جانتے ہیں - ہمراہیان - کنور ہرپال سنگھ صاحب سردار سنگھ صاحب -

سنٹرل انڈیا اونس کیمپ (والیانِ ریاست)

(ق) راجہ صاحب کھیرا گڑھ	(ش) راجہ صاحب رائیراکھول -
(ر) راجہ صاحب رائے گڑھ	(ت) راجہ صاحب سونپور -

مولوی سیّد محمد ظہور الاسلام (صاحب) تعلقہ دار مانگڑھ ضلع دموہ سنٹرل انڈیا

آپکا نام تاریخی ہے۔ جس سے ۱۲۷۲ھ برآمد ہوتا ہے۔ تعلقہ کی سالانہ آمدنی چالیس ہزار روپیہ ہے۔ آپکے پردادا مُفتی محمد شرف الدین صاحب نور اللہ مرقدہ ایک عالم بےنظیر اور فاضل بےعدیل تھے جو ریاست رامپور میں بعہد نواب احمد علیخاں صاحب مرحوم عدالت شرعیہ کے مُفتی تھے۔ چنانچہ ریاست سے جو جاگیر مقرر تھی وہ ابتک موجود ہے۔ اُنکے فرزند دلبند مولوی محمد مظہر جمیل خان صاحب سرکار انگلشیہ کی ملازمت اختیار کی اور کسٹرا اسسٹنٹ کمشنر درجہ اوّل ہے۔ اور پھر ان کے خلف الصدق سید محمد فضل القادر خان صاحب بعہدۂ تحصیلداری مامور ہوئے۔ دونوں باپ بیٹا نے علاوہ اپنے فرائض منصبی کو بدیانت و امانت انجام دینے کے ایام غدر میں اسقدر بیش بہا خدمات انجام دیں کہ گورنمنٹ سے یہ تعلقہ نسلاً بعد نسلاً جاگیر میں مرحمت ہوا۔ اور نیز خان بہادر کا خطاب بھی مع شمشیر مرصع و جیبی گھڑی و خلعت فاخرہ کے عطا ہوا۔

مولوی سید ظہور الاسلام صاحب بھی گورنمنٹ کی رضا جوئی و خیرخواہی اور رعایا کی بہبودی میں سرسبزی رکھنے میں ہمیشہ نامور رہے ہیں۔ چنانچہ ۱۸۹۷ء میں بوقت قحط آپنے دس ہزار روپیہ واجب الوصول رعایائے علاقہ کو بالکل معاف فرما دیا جس پر حکام بھی کمال خوش ہوئے۔ آپکے علاقہ میں شیر بکثرت ہیں اور آپکو بھی شکار کا بہت شوق ہے لیکن شکاری ایسے ہیں کہ پیدل ہوکر تلوار سے شکار کرتے ہیں۔ آپکے واقعات شکار میں ۱۸۹۳ء کا واقعہ خاص قابل ذکر ہے۔ جبکہ شیر نے آپکا بازو پکڑ لیا اور پیچھے کی تھرپیلی زمین سے پاؤں بھی ہٹ گیا۔ مگر اسی حالت میں آپنے پستول کا ایک فیر ایسا کیا کہ شیر کی کنپٹی سے پار ہوتا ہوا نکل گیا۔ جسمیں اُس نے آپکا بازو چھوڑ دیا۔ اور ایک عرصہ کے علاج کے بعد صحت ہوئی۔

مولوی صاحب نے تصویر کوئی نہیں اُترائی +

(خ) اُمرائے مُمالکِ متوسط

۱- راجہ تیج سنگھ صاحب رئیس سلایا جبلپور۔
۲- راجہ اعظم شاہ صاحب رئیس ناگپور۔
۳- راؤ صاحب بلونت راؤ بھکوت
آنریری اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر سہاگپور۔
۴- راؤ بہادر بہاری لال صاحب
بینکر آنریری مجسٹریٹ جبلپور۔
۵- راجہ بجے بہادر صاحب رئیس نرسنگڑھ۔
۶- برج راج سنگھ دیو صاحب زمیندار
کھریار ضلع رائے پور۔
۷- رائے بہادر چندی پرشاد صاحب
ڈسٹرکٹ آنریری مجسٹریٹ چندہ۔
۸- گنگا دھر رائے مادھو صاحب چٹنویس
سی۔ آئی۔ ای آنریری مجسٹریٹ ناگپور۔
۹- رائے بہادر گنگ شاپو صاحب
زمیندار پالس گڑھ۔ چندہ۔
۱۰- غلام مصطفےٰ صاحب آنریری مجسٹریٹ وردھ
۱۱- راجہ گوکل داس صاحب سیٹھ بینکر جبلپور۔
۱۲- راجہ کامران شاہ صاحب رئیس ہوشنگ آباد
۱۳- رائے بہادر کاشی ناتھ کیشو ٹھاکر صاحب
ڈویژنل جج رائے پور۔

۱۴- رائے بہادر کستور چند صاحب
ڈاگا بینکر آنریری مجسٹریٹ کمپٹی۔
۱۵- رائے بہادر لال نرپراج سنگھ صاحب
دیو۔ زمیندار بیپالی۔ سیبل پور۔
۱۶- رائے بہادر لٹاریا بیاد صاحب
زمیندار کمپتھہ ہنڈارہ۔
۱۷- مہدی حسن صاحب ایم۔ اے بیرسٹر ایٹ لا
اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ہوشنگ آباد۔
۱۸- مادھو راؤ بہاؤ صاحب زمیندار
ایم گاؤں بھنڈارہ۔
۱۹- سادھو کرسا ے صاحب زمیندار
راج پور سنبھل پور۔
۲۰- رائے بہادر ٹھاکر مہاراج سنگھ صاحب
آنریری مجسٹریٹ ساگور۔
۲۱- ٹھاکر مردان شاہ صاحب جاگیردار
ہرائے چندوارہ۔
۲۲- مسٹر آر۔ مترا صاحب اگزکٹو انجنیر
ناگپور۔
۲۳- خان صاحب محمد فضل رحیم خان صاحب
تحصیلدار مرداره جبلپور۔

۲۴-دیوان محمد علیخاں صاحب رئیس سیونا ے۔
۲۵-رائے صاحب بہے سنگہ مندلائی صاحب اونریری مجسٹریٹ شاہپور ضلع ہوشنگ آباد
۲۶-برنجی سری ہرگینش صاحب بی-اے افسر جنگلات بہنڈارہ
۲۷-رائے بہادر رگھو با دہادک صاحب اونریری مجسٹریٹ رجیم ضلع رائے پور۔
۲۸-راجہ بہادر رگھوجی راؤ صاحب راجہ دیار علاقہ ناگپور۔
۲۹-رگناتھ ابا صاحب رئیس جبلپور۔
۳۰-ٹھاکر رگراج سنگہ صاحب زمیندار پنڈاریا علاقہ بلاسپور۔
۳۱-رائے صاحب نگ راؤ ہری صاحب پریزیڈنٹ کونسل بہنڈارہ۔
۳۲-راو صاحب ونکٹ راو صاحب اونریری مجسٹریٹ سیگور۔
۳۳-راجہ شوانا تھہ سنگہ صاحب رئیس الہائی جبلپور۔
۳۴ مولوی ظہور الاسلام صاحب انریری مجسٹریٹ مئو
۳۵-مسٹر ای-ایس ڈوک افسر انچارج کیمپ۔

(ذ) افسرانِ کیمپ

۱-کپتان ای-بارنس آئی-ایس-سی پولیٹیکل ایجنٹ بھوپال مع لیڈی و مس صاحبات۔
۲-کپتان ایف-جی بیولی-آئی ایس سی پولیٹیکل ایجنٹ بندیل کھنڈ مع لیڈی و مس صاحبات
۳-مسٹر ای-سی-چلمنڈلی-اندور مع لیڈی صاحبہ۔
۴-کپتان ایل-آے فارلس صاحب آئی ایس سی متعلقہ اندور مع مس صاحبہ۔
۵-مسٹر سی-ایچ جبریل صاحب متعلقہ بھوپاور ایجنسی۔
۶-مسٹر ای-ڈی-جبریل صاحب آئی سی ایس انچارج فارن آفس انچارج کیمپ۔
۷-پادری پی-ایس کیو صاحب متعلقہ مالوہ
۸-لفٹنٹ کرنل سی ہربرٹ آئی ایس سی ریزیڈنٹ گوالیار۔
۹-میجر ایل ایمپے آئی ایس سی پولیٹیکل ایجنٹ بھوپال۔
۱۰-مسٹر جے جیکب متعلقہ بھوپال مع لیڈی صاحبہ
۱۱-مسٹر این بی بٹلر صاحب متعلقہ مالوہ۔
۱۲-کپتان ایچ سٹوارٹ صاحب متعلقہ بھوپاور
۱۳-میجر ایم آئی جی صاحب آئی ایس سی متعلقہ مالوہ
۱۴-ایف-ای ینگ ہسبنڈ سی آئی ای مع لیڈی صاحبہ ریزیڈنٹ اندور۔

فصل چہاردہم

رؤساء و امرائے راجپوتانہ

ہز ہائینس مہاراج دہراج مہارانا فتح سنگھ جی صاحب بہادر جی سی ایس آئی - والیٔ ریاست اودے پور میواڑ

ہز ہائینس راجپوتانہ کی اِس قدیم ریاست کے فرمانروا ہیں - جو تاریخی عظمت کے باعث ہندوستان بھر میں مشہور ہے - آپکی ریاست کا رقبہ ۱۲۶۷۰ میل مربع آبادی تقریباً پندرہ لاکھ - آمدنی اندازاً ۴۰ لاکھ سالانہ - اور اکیس ضرب التواپ کی سلامی مقرر ہے - آپ سورج بنسی خاندان سیسودیہ گوت گہلوت کے مسند نشین ہیں - اور کئی بڑے بڑے جاگیردار آپکے ماتحت ہیں ینتظام ریاست خود کرتے ہیں - کوٹھاری بلونت سنگھ صاحب مدارالمہام ریاست ہیں اور ایک کونسل بھی ریاستی اہلکاروں کی قایم ہے - علم دوستی اس ریاست کی اسی سے ظاہر ہے کہ ہز ہائینس نے جو لائبریری اودیپور میں قائم فرمار کھی ہے - اُس میں قدیم و جدید کتابوں کو جہانتک بھی دستیاب ہوسکی ہیں نہایت تلاش سے جمع کیا گیا ہے - فیاضی و سیر چشمی میں بھی خاص طور پر نامور ہیں - اور بڑے باخبر رئیس ہیں - امور رفاہِ عام اور خیر اندیشیٔ گورنمنٹ میں یہ ریاست ہمیشہ ممتاز و نامور رہی ہے - چنانچہ دربار دہلی سے پہلے لارڈ کرزن بہادر مہمانِ ریاست ہوکر ہز ہائینس کے انتظام و خیالات کی پُر زور لفظوں میں تعریف بھی فرماچکے ہیں - دہلی میں آپکا خیمہ و خرگاہ سب پہنچا ہوا تھا - مگر بباعثِ بیماریٔ ولیعہد صاحب بہادر آپ جلوس میں شریک نہو سکے اور پھر ۳۱ - دسمبر کو دہلی تشریف لانے پر بھی بوجہ اپنی علالت طبع آپ شریکِ دربار نہوسکے۔



ہزہائینس مہاراج دھراج مہارانا فتح سنگھ صاحب
بہادر جی ۔ سی ۔ ایس ۔ آئی ۔ والئے
اودے پور میواڑ

ہز ہائینس مہاراجہ سوائی بہادر جے سنگھ جی صاحب والیٔ الور

آپ کی ریاست کا رقبہ ۳۰۲۴ میل مربع - آبادی آٹھ لاکھ - آمدنی بتیس لاکھ سالانہ اور سلامی ۱۵ اتواپ کی ہے۔ انتظام کونسل اوف ریجنسی کرتی ہے دربارِ دہلی پر مندرجۂ ذیل صاحبان آپ کے ہمراہ تھے۔

۱- کپتان ایف - اے سمتھ صاحب ایجنسی سرجن مع لیڈی صاحبہ۔	۴- کنور تارائین سنگھ صاحب نائب محافظ مہاراجہ صاحب
۲- مسٹر گارٹ صاحب سٹیٹ انجنیئر مع میم صاحبہ۔	۵- راؤ راجہ لہر سنگھ صاحب محافظ ہز ہائینس-
۳- راؤ بہادر ٹھاکر مادہو سنگھ صاحب ممبر کونسل-	۶- دیوان بہادر منشی بالمکند اس صاحب ممبر کونسل - سی - آئی - ای-
	۷- راؤ بہادر ٹھاکر ارجن سنگھ صاحب ممبر کونسل

ہز ہائینس مہاراجہ برج اندر سوائی صاحب والیٔ بھرتپور

آپکی ریاست کا رقبہ ۱۹۷۴ میل مربع - آبادی سات لاکھ - اور آمدنی ۴۰ لاکھ سالانہ ہے - آپ خوردسال ہیں - انتظام ریاست کونسل کے ذریعہ ہوتا ہے اتواپ سلامی ۱۵ مقرر ہیں - دربارِ دہلی پر مندرجۂ ذیل صاحبان آپکے ہمراہ تھے

۱- ماجی صاحبہ گورجکور مہارانی صاحبہ والدۂ ہز ہائینس-	۵- راؤ بخش رگھوبر سنگھ صاحب ممبر کونسل و محافظ مہاراجہ صاحب-
۲- راؤ راجہ رگناتھ سنگھ صاحب عم ہز ہائینس	۶- سردار دیبی سنگھ صاحب صوبہ دار ممبر کونسل-
۳- کنور مادہو سنگھ صاحب محافظ زاد راجہ رگناتھ سنگھ صاحب-	۷- سردار زور آور سنگھ صاحب داد-
۴- راؤ راجہ جگل سرن سنگھ صاحب رشتہ دار مہاراجہ صاحب-	۸- راؤ بہادر منشی سوہن لال صاحب سکرٹری کونسل-
	۹- سردار چھتر سنگھ صاحب محافظ مہاراجہ صاحب-

ہزہائینس مہاراجہ گنگا سنگھ صاحب (ج) بہادر کے سی ایس آئی ڈی و آئی ای بیکانیر

آپ انگریزی تعلیم یافتہ اور یورپ کے سیر کردہ رئیس ہیں۔ قوم سے راٹھور راجپوت ہیں سمت ۱۹۴۴ سے مسند نشین ہوئے ہیں۔ آپکی ریاست کا رقبہ ۲۳۳۲۴ مربع میل آبادی قریباً دس لاکھ۔ آمدنی اندازاً پچیس لاکھ۔ اور التواپ سلامی ۱۷ ہیں۔ کاروبار خود بھی کرتے ہیں اور کونسل بھی مقرر ہے۔ دربار دہلی میں مندرجہ ذیل صاحبان آپکے ہمرکاب تھے

۱۔ میجر سی الف منچن صاحب ڈی ایس او آئی ایس سی پولیٹیکل ایجنٹ۔

۲۔ میجر ڈبلیو ایچ بی روبنسن صاحب مع لیڈی صاحبہ سول سرجن۔

۳۔ اجرٹن سروپ صاحب۔

۴۔ میجر ایچ جے سی مورلینڈ صاحب مع لیڈی صاحبہ۔

۵۔ کرنل اے ڈبلیو تھارنی کرافٹ صاحب سی بی

۶۔ مسٹر جے ڈبلیو اینڈرسن صاحب۔

۷۔ کپتان ای جے لگارڈ۔ ڈی ایس او مع لیڈی صاحبہ۔ ۲۲ گورکھا۔

۸۔ مہاراجہ بھیرن سنگھ صاحب۔

۹۔ مہاراجہ بائیر سنگھ صاحب۔

۱۰۔ ٹھاکر ہری سنگھ صاحب جاگیردار مہاجان۔

۱۱۔ ٹھاکر جلیم سنگھ صاحب جاگیردار راوت سر

۱۲۔ ٹھاکر کاہن سنگھ صاحب جاگیردار بھکا کا۔

۱۳۔ مسٹر رستم جی ڈی کوپر پرائیویٹ سکرٹری۔

ہزہائینس مہاراؤ راجہ گھمبیر سنگھ جی صاحب بہادر (۱۷) جی سی آئی ای۔ کے سی ایس آئی و آئی ای ریاست بوندی

ہزہائینس سمت ۱۹۳۶ سے حکمران ریاست ہیں۔ ریاست کا رقبہ ۲۳۴۰ میل مربع۔ آبادی ۲۴ لاکھ آمدنی ۹ لاکھ روپیہ سالانہ۔ اور سلامی ۱۷ التواپ کی ہے۔ بوہرہ میگھا ہن جی صاحب ایک پرانے تجربہ کار اہلکار ممبر کونسل اور مدارالمہام ریاست ہیں۔ شیر کلیان سنگھ صاحب ایک نامدار ممبر کونسل ہیں۔ ریاست میں ایک انتظامی کونسل موجود ہے جسکے ممبر صاحبان ہر ایک محکمے کے افسر اعلی صاحبان ہیں۔ دربار دہلی میں مندرجہ ذیل صاحبان آپکے ہمرکاب تھے

۱۔ مہاراجہ رگھن سنگھ صاحب برادر ہزہائینس۔ ۲۔ سنگوت مہاراجہ مہونت سنگھ جی صاحب جاگیردار سنگلانہ۔ ۳۔ مہاسنگوت مہاراجہ ہیرا نند سنگھ جی صاحب جاگیردار جیت گڑھ۔ ۴۔ بلنوٹ جاور سنگھ جی صاحب جاگیردار ۵۔ بوہرہ میگھا ہن سنگھ جی صاحب ممبر کونسل و مدارالمہام۔ ۶۔ موکھان سنگوت کلیان سنگھ جی صاحب ممبر کونسل

ہز ہائینس مہاراج رانا موتی سنگھ صاحب (و) والیٔ ریاست جھالاوار

مہاراج رانا ظالم سنگھ صاحب کے معزول ہونیکے بعد اس ریاست کا بہت سا حصہ تو ریاست کوٹہ کو دیدیا گیا ہے۔ جس قدر اب باقی ہے اس کی آمدنی چھ سات لاکھ روپیہ سالانہ ہے۔ اتواپ سلامی ۱۵ ہیں۔ دربارِ دہلی میں مندرجہ ذیل صاحبان آپکے ہمراہ تھے۔

۱- راؤ سوائی سنگھ صاحب جاگیردار کھنڈلا۔
۲- کاکا ارجن سنگھ صاحب جاگیردار کلمنڈہ
۳- مہاراج بلبھدر سنگھ صاحب جاگیردار کنواڑہ۔
۴- ٹھاکر اودے سنگھ صاحب جاگیردار کیچ۔
۵- پنڈت پرمانند صاحب چترویدی دیوان۔
۶- کاکا چترسال صاحب والد ہز ہائینس جاگیردار ...

مہاراجہ ادھیراج راج راجندر سری مہاراج مادھو سنگھ جی صاحب (ث) بہادر جی سی- ایس آئی- جی سی آئی- ای والیٔ ریاست جیپور

آپکی ریاست کا رقبہ قریباً ۱۶ ہزار مربع میل- آبادی تقریباً ۳۰ لاکھ- آمدنی کل سالانہ ۷۵ لاکھ روپیہ اور سلامی ۱۹- اتواپ کی ہے۔ جسمیں سے دو ذاتی ہیں۔ آپ راجپوت کچھواہہ خاندان سے ہیں اور سمت ۱۹۳۶ سے مسند نشین ہوئے ہیں۔ انتظامِ ریاست خود ہی کرتے ہیں۔ اور ایک کونسل بھی مقرر ہے۔ آپکے پابند مذہب ہندو ہیں۔ آپکے سفر یوروپ کے کسیقدر حالات گذشتہ ابواب میں ناظرین دیکھ چکے ہونگے۔ آپکے کارناموں میں بڑی بات یہ ہے کہ قحط فنڈ کے قیام کا آپ ہی باعث ہوئے ہیں جسمیں آپنے ۱۰ لاکھ روپیہ عطا کیا تھا۔ دربارِ دہلی میں آپکے ہمرکاب صاحبان ذیل تھے۔

۱- لفٹنٹ کرنل بی ڈی پینک صاحب مع لیڈی صاحبہ ریزیڈنسی سرجن جیپور۔
۲- مسٹر سی- ای سٹو چرڈ صاحب قایم مقام سپرنٹنڈنگ انجنیئر
۳- ریورنڈ ڈاکٹر میکالسٹر صاحب ایم- اے- بی ڈی-
۴- ٹھاکر امراؤ سنگھ صاحب جاگیردار کوٹلہ و ممبر کونسل
۵- ٹھاکر دیبی سنگھ صاحب جاگیردار چومو ممبر کونسل
۶- راؤ راجہ مادھو سنگھ صاحب والیٔ سیکر۔
۷- بابو سنسار چندر سین صاحب ممبر کونسل
۸- سردار بہادر راؤ بہادر دھنپت رائے صاحب سی آئی ای سپرنٹنڈنٹ امپیریل سروس ٹرانسپورٹ کور۔
۹- راؤ مکند سنگھ صاحب راؤ اوف پاٹن۔
۱۰- راؤ گمان سنگھ صاحب راؤ اوف ابوبارہ۔
۱۱- ٹھاکر ہری سنگھ صاحب فوج بخشی جیپور۔

(ح) ہز ہائینس مہاراول سالباہن جی صاحب بہادر والی جیسلمیر

ہز ہائینس کی ریاست کی آبادی دو لاکھ اور آمدنی بھی تقریباً اُسی قدر ہے سلامی ۱۵ - انتواپ - دیوان بہادر جاگ جیون سنگھ صاحب انتظام ریاست کرتے ہیں - دربار دہلی میں مندرجۂ ذیل صاحبان آپکے ساتھ شریک دربار تھے۔

۱- ٹھاکر وان سنگھ صاحب جاگیردار لاٹھی ۲- رأو بہادر مہتہ جاگ جیون سنگھ صاحب دیوان ریاست۔

(ط) ہز ہائینس سر سری راجا اودے بہان سنگھ جی صاحب سیالا جنگ دھولپور

آپکی ریاست کا رقبہ ۱۲۰۰ میل مربع - آبادی بقدر تین لاکھ اور آمدنی قریباً ۱۲ لاکھ اور انتواپ سلامی ۱۵ ہیں - انتظام بذریعہ ریاستی کونسل کے ہوتا ہے۔

دربار دہلی میں مندرجۂ ذیل صاحبان آپ کے ہمرکاب تھے۔

۱- مسٹر جے لیرٹ صاحب۔
۲- مسٹر تھار سیٹیٹ انجنیر مع لیڈی صاحبہ
۳- کنور روپ سنگھ صاحب سردار۔
۴- کنور رتن سنگھ جی صاحب سردار۔
۵- کنور چمن جی صاحب سردار۔
۶- کنور بھیم سنگھ صاحب سردار۔
۷- سردار امراؤ سنگھ صاحب ریونیو افسر۔
۸- نواب خواجہ محمد خان صاحب سردار۔
۹- سردار فتح سنگھ صاحب۔
۱۰- سردار انند رنبیر سنگھ صاحب۔
۱۱- طالب حسین صاحب کمانڈنٹ فوج ریاست
۱۲- سردار بہادر بیگیٹ سنگھ صاحب افسر عدالت

(ی) ہز ہائینس مہاراول اودے سنگھ جی صاحب والی ڈونگر پور

آپ کی ریاست کا رقبہ ایکہزار میل مربع - آبادی دو لاکھ - آمدنی تیس لاکھ - اور انتواپ سلامی ۱۵ ہیں - دربار دہلی میں مندرجۂ ذیل صاحبان آپکے کیمپ میں تھے

۱- کپتان سی - ڈی - ڈکٹ صاحب اسسٹنٹ ریزیڈنٹ میواڑ مع لیڈی صاحبہ۔
۲- کپتان آر - ڈکٹ صاحب آئی - ایس - سی -
۳- مسٹر ہیولسٹ صاحب۔
۴- ٹھاکر دلپت سنگھ صاحب جاگیردار نکورہ۔
۵- خان بہادر غلام قادر خاں صاحب سپرنٹنڈنٹ۔



ہزہائینس مہاراو سرکیسری سنگھ

صاحب بہادر - جی - سی - آئی - ای

کے - سی - ایس - آئی - والئے

ریاست سروہی راجپوتانہ

ہز ہائینس مہاراجہ اُمید سنگھ جی صاحب بہادر کے سی ایس آئی والیٔ کوٹہ

ہز ہائینس انگریزی تعلیم یافتہ ہیں۔ انتظام ریاست بامداد چوبے رگناتھ داس صاحب مدار المہام خود کرتے ہیں۔ آپکی ریاست کا رقبہ پانچہزار مربع میل۔ آمدنی قریباً پچاس لاکھ۔ آبادی چھ لاکھ۔ اور اتواپ سلامی ۱۷ ہیں۔ دربارِ دہلی پر مندرجۂ ذیل اہلکاران آپ کے ہمرکاب تھے۔

۱۔ میجر بی جے لمسڈن صاحب ایجنسی سرجن مع لیڈی صاحبہ و دُختر خود۔
۲۔ میجر جی کیمبل ڈیون صاحب سٹیٹ انجنیئر مع لیڈی صاحبہ۔
۳۔ راؤ بہادر رام سنگھ صاحب آپاجی جاگیردار ہالیٹہ۔
۴۔ پنڈت گنپت راؤ صاحب جاگیردار سرویہ
۵۔ مولوی مصباح الدین صاحب۔
۶۔ مہاراج جے سنگھ صاحب جاگیردار پھولیہ
۷۔ خان بہادر میر مدار علی صاحب سپرنٹنڈنٹ باغات
۸۔ راج بجائے سنگھ صاحب جاگیردار کناری
۹۔ رائے بہادر چوبے رگناتھ داس صاحب زیر ریاست
۱۰۔ مہاراجہ بہادر سنگھ صاحب جاگیردار گینتہ۔
۱۱۔ کنور انکار سنگھ صاحب جنرل سپرنٹنڈنٹ پولیس
۱۲۔ مہاراجہ چکن سنگھ صاحب گورنر کوٹڑا۔
۱۳۔ شیو پرتاب سنگھ صاحب پرائیویٹ سکرٹری

ہز ہائینس مہاراؤ سر کیسری سنگھ جی صاحب بہادر جی سی ایس آئی والیٔ سروہی (ل)

ہز ہائینس قوم سے راجپوت دیورہ چوہان ہندو وشنو ہیں۔ آپکا سالِ ولادت سمت ۱۹۱۴ اور سالِ مسند نشینی سمت ۱۹۳۲ ہے۔ پندرہ ضرب اتواپ کی سلامی ہے۔ رقبہ ریاست تین ہزار بیس میل مربع۔ آبادی ۱۵۴۴۵۴۔ آمدنی چار لاکھ روپیہ سالانہ۔ فوج مع پولیس آٹھ سو جوان ہے۔ مہاراج کنور سروپ سنگھ جی صاحب ولیعہد ریاست ہیں۔ ہز ہائینس نہایت ہردلعزیز اور لائق رئیس ہیں۔ انتظام ریاست خود فرماتے ہیں۔ اور مدار المہام صاحب قابل شخص ہیں۔

موقع دربار پر مندرجۂ ذیل اہلکاران اعلیٰ آپ کے ساتھ شریک تھے۔

۱۔ ٹھاکر پرتھی راج جی صاحب کالندری
۲۔ ٹھاکر ڈونگر سنگھ جی صاحب پانڈواڑہ۔
۳۔ رائے بہادر دیوان سنگی جواہر چند جی صاحب مدار المہام
۴۔ سنگی سمرتھ مل جی صاحب ریونیو کمشنر۔
۵۔ سنگی پونم چند جی صاحب وکیل ریذیڈنسی
۶۔ بابو سرت چند جی صاحب اسسٹنٹ سکرٹری۔
۷۔ مہتہ گمنی لال جی صاحب اسسٹنٹ دیوان

(م) ہز ہائینس مہاراجہ بھنور پال دیوجی صاحب جی سی آئی ای والی ریاست قرولی

اس ریاست کا رقبہ ۱۲۰۸ میل مربع - آبادی دو لاکھ - آمدنی چھ لاکھ روپیہ - اور اتواپ سلامی ۱۷ مقرر ہیں - دربار میں مندرجہ ذیل صاحبان آپکے ہمرکاب تھے -

۱- راؤ بھوم پال صاحب جاگیردار بنڈولی برادر عم زاد ولیعہد -
۲- بھنور چمن سنگھ صاحب ممبر کونسل و کامدار ریاست -
۳- ٹھاکر انگار پال صاحب -
۴- ٹھاکر دیبی پال صاحب سردار -
۵- ٹھاکر سوتی پال صاحب جاگیردار سیردام پور
۶- ٹھاکر سجن پال صاحب ممبر کونسل -
۷- رسالدار لشپال سنگھ صاحب ممبر کونسل -
۸- بابو بھولا ناتھ چٹرجی صاحب -

(ن) ٹھاکر منگل سنگھ جی صاحب والی لاوہ

آپ کچھواہہ خاندان سے ہیں - آمدنی و رقبہ وغیرہ کا حال معلوم نہیں ہوا البتہ اِن کا کیمپ لگا ہوا تھا - اور شریک دربار بھی تھے -

(س) راجہ دہرلج ناہر سنگھ جی صاحب کے سی آئی ای والی شاہپورہ

آپ کی ریاست اودیپور میواڑ کے متعلق رہی ہے - مگر اب براہِ راست گورنمنٹ انگریزی کے زیر حفاظت ہے - جس کی آمدنی تقریباً تین لاکھ روپیہ سالانہ ہے - اور آبادی تقریباً ایک لاکھ -

دربار دہلی میں مندرجہ ذیل اہلکار آپ کے ساتھ شریک دربار تھے -

۱- راجکمار امیر سنگھ جی صاحب ولیعہد ریاست -
۲- راجکمار سردار سنگھ صاحب فرزند دوم -
۳- ٹھاکر ناہر سنگھ صاحب جاگیردار سیر وصول -
۴- ٹھاکر زور آور سنگھ صاحب جاگیردار کھامور -
۵- بہادر سنگھ صاحب برادر رشتہ ہز ہائینس -
۶- منشی لوتی داس صاحب وزیر -

ہزہائینس امین الدولہ وزیر الملک نواب محمد ابراہیم علیخاں صاحب بہادر جی-سی-آئی-ای والیٔ ریاست ٹونک

آپ کی ریاست کا رقبہ ۲۵۰۹ میل مربع - آمدنی چودہ لاکھ - آبادی سوا تین لاکھ - اور توپ سلامی ۱۷ ہیں - آپ قوم سے بونیر افغان ہیں - آپکے جد امجد نواب امیر خاں صاحب مرحوم اس ریاست کے بانی ہوئے ہیں - انتظام ریاست صاحبزادہ حافظ محمد عبد الوہاب خاں صاحب بہادر نائب الریاست بذریعہ ایک کونسل انتظامی کے فرماتے ہیں - اور ہزہائینس خود بھی کام کرتے ہیں -

دربار دہلی میں مندرجہ ذیل اہلکاران اعلیٰ آپکے ساتھ تھے -

۱- مسٹر جی - ای سی وکمفیلڈ صاحب ریونیو آفیسر مع لیڈی صاحبہ -
۲- صاحبزادہ حافظ محمد عبد الوہاب خاں صاحب برادر ہزہائینس نائب الریاست
۳- صاحبزادہ محمد اسحٰق خاں صاحب ناظم ٹونک
۴- صاحبزادہ عبد الرحیم خاں صاحب برادر ہزہائینس و جنرل افواج ریاست -
۵- صاحبزادہ عبد العلیم خاں صاحب برادر ہزہائینس -
۶- صاحبزادہ محمد الیاس خاں صاحب برادر ہزہائینس -
۷- صاحبزادہ محمد خاں صاحب عم ہزہائینس
۸- صاحبزادہ عبد الحافظ خاں صاحب ولیعہد -
۹- صاحبزادہ سعادت علیخاں صاحب فرزند دوم ہزہائینس -
۱۰- صاحبزادہ عبد الرشید خاں صاحب فرزند سوم ہزہائینس -
۱۱- صاحبزادہ فرخ علیخاں صاحب فرزند چہارم ہزہائینس
۱۲- صاحبزادہ عبد الوحید خاں صاحب فرزند پنجم ہزہائینس -
۱۳- صاحبزادہ محمد خاں صاحب عم زاد برادر ہزہائینس -
۱۴- صاحبزادہ محمد حنیف خاں صاحب برادر زادہ ہزہائینس
۱۵- صاحبزادہ محمد صدیق خاں صاحب برادر ہزہائینس ناظم سرونج -
۱۶- خان صاحب مرزا محمد علیخاں صاحب ممبر کونسل -

(ف)

درباریان راجپوتانہ اجمیر میرواڑہ

۱- رائے بہادر سیٹھ چمپالال صاحب اونریری مجسٹریٹ بہادر وخزانچی اجمیر۔

۲- سیٹھ نیمے چند صاحب اونریری مجسٹریٹ اجمیر۔

۳- راؤ بہادر سنگھ صاحب سی-آئی-ای- استمراردار مسعودہ ضلع اجمیر

۴- رائے بہادر سیٹھ اُمید مل صاحب اونریری مجسٹریٹ اجمیر۔

(ص)

افسران متعلقہ کیمپ راجپوتانہ

۱- میجر ایچ-ای ڈریک بروکمین صاحب آئی-ایم-ایس ایجنسی سرجن- ریاستہائے مشرقی راجپوتانہ۔


۲- میجر آر-سی- میکواٹ صاحب آئی- ایم- ایس- ایجنسی سرجن ہراؤتی وٹونک انچارج کیمپ مع لیڈی صاحبہ۔

۳- میجر سی- ایچ- پریچرڈ صاحب پولیٹیکل ایجنٹ ہراؤتی وٹونک مع لیڈی صاحبہ۔

۴- میجر ڈبلیو- ایچ- سی- آر- سٹرین صاحب پولیٹیکل ایجنٹ مشرقی ریاستہائے راجپوتانہ۔



خان بہادر میرزا شجاعت علی بیگ صاحب
مدارالمہام جزو و کُل ہرہائینس
نواب بیگم صاحبہ مرشد آباد بنگال


شمال
نشانات کیمپ ہائے فوجی
فسٹ ڈیویژن
سیکنڈ ڈویژن
رسالہ
دستہ ہائے فوج
دوسرے کیمپ
توپ خانہ
رسالہ
افواج پیدل
سفرمینا
نہر نجف گڑھ

خان بہادر جناب میرزا شجاعت علی صاحب داماد و مدار المہام جنرل ہرہائینس بیگم صاحبہ مرشد آباد بنگال

میرزا صاحب موصوف بنگال کے ایک روشن خیال جوان عمر خوبصورت اور خوب سیرت رئیس ہیں۔ علوم انگریزی و فارسی و عربی میں کافی قابلیت اور حالاتِ زمانہ کا بخوبی تجربہ رکھتے ہیں۔ چونکہ آپ خاندانی اور مشاہیر سے ہیں اسلئے ہرہائینس بیگم صاحبہ نے آپکے ساتھ اپنی دُختر نیک اختر کی شادی فرمائی اور انتظامِ ریاست بھی آپ ہی کی سپرد ہے۔ جسمیں آپنے اپنی حسنِ تدبیر سے بہت کچھ اصلاح کردی ہے۔ آمد و خرچ بالکل جچا تُلا اور حساب ہر وقت صاف و بیباق رکھا جاتا ہے۔ شانِ رئیسانہ موجود ہے لیکن فضول نمائش سے زندگی کو تلخ نہیں کیا جاتا۔ رؤساء و حکّامِ کلکتہ سب آپکی لیاقت اور علوِ خاندان کے قایل و معترف ہیں اور آپکو اعزاز و وقار سے دیکھا جاتا ہے۔ گورنمنٹ انگلشیہ کی خدمات بھی آپ جس خلوص و ارادت سے ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ انکی معمولی تفصیل بھی طوالت طلب ہے۔ مختصر یہ کہ ہر ایک مفید ملک و گورنمنٹ کام میں آپکی صائب التدبیری سے ملک اور گورنمنٹ کو امدادیں ملی ہیں۔ چنانچہ خان بہادری کا خطاب اور کئی ایک دوسرے سارٹیفکٹ جو آپکو عطا ہو چکے ہیں۔ وہ انکے صلہ کا ابتدائی حصّہ سمجھنا چاہیے جو اُمید ہے کہ دِن بدن مترقی ہوں گے۔

مرزا صاحب میں جو بات خاص تذکرہ کے قابل ہے وہ اُنکی سخن فہمی اور قومی ضروریات سے واقفیت ہے علیگڈھ کالج کے لیئے جس قدر چندہ بنگال سے ہوا۔ اور محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کو جس قدر کلکتہ میں کامیابی ہوئی وہ صرف خان بہادر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ مجالسِ عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام بھی آپ جس اہتمام اور خلوص سے سال بسال بصرفِ کثیر مرشد آباد و کلکتہ و مٹیا برج میں منعقد فرماتے ہیں۔ وہ خاص طور پر لایقِ ذکر ہیں کہ انمیں قریباً ہندوستان کے مشہور پڑھنے والے سب موجود ہوتے ہیں۔ اور اِنہی جلسوں میں تمام رؤسا و اُمرا کلکتہ بھی انمیں نہایت شوق سے شامل ہوتے ہیں۔ غرضکہ پبلک ہردلعزیزی اور حکّام میں جو اعزاز و وقار آپکو حاصل ہے وہ بہت کچھ اُمیدیں آپکے مزید اعزازوں کی بندھاتا ہے۔ کلکتہ کے جشنِ تاجپوشی میں جو بصدارت حضور وائسرائے منعقد ہوا تھا۔ آپ بھی شریک تھے۔ بلکہ انتظام میں اور چندہ میں بھی بڑی تندہی اور فیاضی سے شامل تھے۔ آپکی تصویر دیر میں پہنچنے کے باعث رؤسائے بنگال کے ساتھ درج نہیں ہوسکی۔

خاتمہ

در شمار ارچہ نیاورد کسے حافظ را
شکر کیں محنت بے حد و شمار آخر شد

گورنمنٹ عالیہ نے جس اہتمام و سعی بلیغ سے یہ عظیم الشان دربار منعقد فرمایا۔ اور مہمان و وزیٹر صاحبان جس شوق و ذوق کے ساتھ اس میں شامل ہوئے تھے اس کے مطابق جیسی مفصّل اور مکمل تاریخ کی ضرورت تھی۔ اگرچہ اس کے لکھنے میں تو چنداں دقت نہ تھی۔ مگر چھپنے اور حالات کے جمع کرنے میں جو دیر ہوئی۔ اُس نے مولف کے دل پر بہت اثر کیا ہے۔ بالخصوص تصاویر کے بلاک بنوانے اور منگوانے الہ آباد۔ مدراس و کلکتہ سے چھپوانے میں جو وقت صرف ہوا۔ وہ بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ آخرالامر اسی کام کے لئے خود مولف کو گرانقدر اخراجات برداشت کرکے قریباً ایک مہینا خود کلکتہ میں رہنا پڑا۔ لیکن پھر بھی الحمد للہ کہ اردو زبان میں (جو ہندوستان کی متفقہ عالمگیر زبان ہے) یہی کتاب سب سے پہلے اس تفصیل اور اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ جو اُردو کتابوں میں اور بالخصوص پنجاب کی اُردو کتابوں میں پہلی نظیر ہے۔ اور اگرچہ اپنی طرف سے اس کے جامع و مانع بنانے میں کوئی دقیقہ اُٹھا نہیں رکھا گیا۔ مگر پھر بھی اگر کہیں کوئی فروگذاشت ہوگئی ہو تو ناظرین معاف فرمائیں۔ بہرحال اپنی طرف سے اس خادم الملک نے اس عالیشان دربار کی علمی یادگار قایم کرنے میں جو کوشش کی ہے۔ وہ اب تمام ہوگئی ہے۔ اور اب اس کی قدردانی ملک و گورنمنٹ کا کام ہے۔

قطعاتِ تاریخ

اگرچہ قطعاتِ تاریخ کا بعض کتابوں میں رواج چلا آتا ہے۔ مگر مولفِ کتاب ہٰذا نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ نہ کسی صاحب کو کتاب بھیجی نہ فرمایش کی۔ البتہ دونوں شاعرانِ شیریں مقال بوجہ آمدو شُد لاہور کے اس کتاب کے چھپنے سے واقف تھے۔ جنہوں نے صرف فہرست مضامین دیکھ کر اپنی دلی محبت سے اس کے واسطے تاریخیں کہی ہیں۔ تاریخیں چونکہ عمدہ ہیں۔ اسلئے دلی احسانمندی کے ساتھ درج ذیل کیجاتی ہیں۔

چکیدہ کلکِ جواہر سِلک ماسٹر صادق علیخان صاحب اکونٹنٹ سروے جموں رہاسی ریلوے

تاریخ فارسی

از ہاتفے رسیدہ بگوشے نہ تر کتابے
جُستیم سال طبعش گفتا زگرم جوشی

گوئی زرخ دریدہ باغِ ارم نقابے
زیبن است یادگارے دربارِ تاجپوشی
۱۹۰۴ء

ولہ اردو

جنابِ مولوی فیروزدین صاحب نے
شروع سال میں دہلی میں جو ہوا دربار
حضور قیصرِ ایڈورڈ بادشاہِ زماں
ہوا تھا تخت نشین اسمیں باشکوہ و جلال

کتاب ایک بنائی ہے بے نظیر و عدیل
یہ یادگار ہے اسکی یہ اسکی ہے تفصیل
وہ ظلِ مالکِ پروردگار ربِ جلیل
اور اسکے سر پہ ہوا ملک کا فدا اکلیل

اسی کی لکھی گئی ہے یہ یادگار عجب | کہ آسمان ہے شہرت کا جوکہ نے تاویل
یہ خوبیوں کا ہے صادق ذہ بسکہ مجموعہ | تو انطباع کی تاریخ بھی ہوئی "تفضیل"

۱۳۲۰ھ

ولہ اُردو

یہ کیسا نور ہے کیسی چمک ہے | کہ جس سے چشم نظارہ ہچک ہے
سجا ہے قیصر اعظم کا دربار | نگوں سر دیکھتا اس کو فلک ہے
ہوئے ہیں نامور وہ محفل آرا | کہ ہر یک یاں مہ و مہر و ملک ہے
شبیہ قیصر ایڈورڈ ہفتم | یہ تصویر ملک ہے یا ملک ہے
مرقع مولوی فیروز دیں کا | شراب تاجپوشی کی گزک ہے
کتاب ایسی پسندیدہ بنائی | کہ گویا خوان یغما پر نمک ہے
شبیہوں میں ہے گر کمال صفائی | عبارت میں روانی ہے لچک ہے
رہیگی اس سے یاد تاجپوشی | مہ و مہر آسماں پر جب تلک ہے
ستاروں کا ہے گویا جھمگھٹا ایک | کہ تصویروں کے البم کی دمک ہے
نہ ہو کیوں آئینہ عالم کا احوال | کہ جم کے جام کی اسمیں جھلک ہے
دکھا کر میں نے جب صادق سے پوچھا | کہ اب تاریخ کی دل میں کسک ہے
کہا اس نے زروے عیسوی سن[سلہ] | "یہ شہرت کے ستاروں کا فلک ہے"


۱۸۳۳ | ع ہ

ریختۂ قلم جادو رقم میر کرامت اللہ صاحب میر رئیس امرتسر

بحر مواج علوم مشرقی | مولوی فیروز دیں فرخ خصال
یادگار جلسۂ قیصر نوشت | بے عدیل و بے نظیر و بے مثال
مصرع تاریخ طبعش نذر رقم | در[سلہ] "سیزدہ صد بست و یک نیکوست سال"

۱۳۲۱ھ

سلہ الفاظ و اعداد دونوں سے تاریخ نکلتی ہے ۱۲


نقشہ
سنٹرل کیمپ
کارونیشن دربار دہلی
سنہ ۱۹۰۳ء
پیمانہ ۶-انچ ایک میل کے لئے
فرلانگ ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵۰۰
شمال
علامات
پرنسس روڈ
کرزن روڈ
دربار روڈ
جنرل مارکیٹ
نہر نجف گڈھ

نہایت عمدگی سے دکھائے گئے ہیں اور جسکو تمام انگریزی اردو اخبارات اہل الرائے
و حکام عالیمقام نے پسند فرما کر مدارس کی لائبریریوں میں رکھنے اور انعامات تعلیمی
میں تقسیم کرنے کی سفارش کی ہے۔ ساتھ ہی تصاویر بھی دی گئی ہیں سینکڑوں
لائق و دید مضامین درج کتاب ہیں جن کی فہرست کتاب کے ۸ صفحوں پر آئی ہے
کاغذ ڈمی لکھائی چھپائی عمدہ قیمت عام عہ امراء و رؤساء کے لئے خاص اعلےٰ
کاغذ تصاویر رنگین سنہری جلد والی کی قیمت صہ اردو میں سب سے پہلی ہی
کتاب ہے جو ملکہ متوفیہ کی لائف پر لکھی گئی ہے۔ علاوہ محصول ڈاک۔

دربار اسلام } اردو زبان میں اسلام کی مستند تاریخ کی ضرورت رفع کرنے
کو یہ کتاب طیار ہو رہی ہے جس میں وہ تاریخی حالات و خیالات جو ایک مسلمان کے
جاننے اور اسکو اپنے پیشوایان مذہب کے طریق زندگی سے واقف کرنے کے لئے
ضروری ہیں تفصیل اور اجمال بسط و اختصار کیساتھ مورخانہ و محققانہ انداز میں
درج ہو رہے ہیں۔ غرضکہ ڈھائی تین سو روپیہ کی کتب قدیمہ و
جدید کا خلاصہ ہوگا۔ صرف مقدمہ کتاب جسمیں پوری طرح اسلام کی
ضرورت دکھائی گئی ہے ایک سو صفحہ پر آیا ہے۔ لکھائی چھپائی نہایت عمدہ
تقطیع ۲۰×۲۶ کاغذ ڈمی قیمت جلد اول جسکا حجم قریباً پانچسو صفحہ ہوگا صرف عہ

مرقع اسلام } مسدس حالی نے جو مقبولیت ہندوستان کی تعلیم یافتہ پارٹی
پارٹی میں حاصل کی ہے۔ اور اس نے جو ولولہ نئی روشنی والوں کی طبیعتوں
میں پیدا کیا ہے وہ کسی بیان کا محتاج نہیں پس ایک اولڈ اسلام کے
پیرو نے مسدس حالی کی طرز پر یہ کتاب لکھی ہے جس کا پہلا اڈیشن ختم ہوکر
دوبارہ بھی چھپ چکا ہے اس میں زمانہ جاہلیت۔ ظہور اسلام۔ ترقی اسلامی
اور پھر اسکے انحطاط و زوال کی کیفیت دکھا کر موجودہ حالت کا فوٹو کھینچا

گیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسلامی احکام کی پابندی ہی موجب ترقی تھی اور
اب بھی وہی ذریعۂ کمال ہو سکتا ہے قیمت فی جلد بلا محصول ڈاک سہ ۱ر

اسبوع شریف } یہ اسبوع شریف جناب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف
اور حضرت کا اپنا وظیفہ ہے اور علاوہ ازیں قرآن مجید میں جسقدر دعائیں مذکور ہیں
سب کو ایک جگہ معہ ترجمہ و حوالہ جمع کیا ہے دیباچہ میں حضرت محبوب سبحانی
کے مناقب و چند کراماتوں کا بیان ہے۔ غرضکہ خیر و برکت دارین کا مخزن ہے
باایں ہمہ صفت موصوف قیمت صرف بلا محصول ڈاک ۱۲

کلید دیوناگری } ہندی لکھنے پڑھنے کا رواج راجپوتانہ کی تو قریباً تمام
دیسی ریاستوں میں تھا ہی مگر اب تو گورنمنٹ کے ممالک متحدہ آگرہ میں بھی
ہندی عرائض عدالتوں میں لیجا سکتی ہیں پس ہر ایک ملازمت پیشہ اور تاجر
کے لئے اسکے رسم خط اور طریق نوشت و خواند سے واقف ہونا ضروری ہے لیس
یہ کتاب اردو خوانوں کو بلا مدد استاد صرف چند دنوں میں ہندی دیوناگری
لکھنے پڑھنے کی بخوبی مہارت پیدا کرا سکتی ہے۔ قیمت فی جلد بلا محصول ڈاک ۱۲ر

دوستی } دوستی کے نام پر ایک دنیا ہے کہ مٹی ہوتی ہے کوئی دل نہ ہوگا
جو اسکے قدرتی اثر سے خالی ہو لیکن سچے دوست کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی صحبتوں
کے نتائج غمخواری۔ عیاری۔ خالی چرب زبانی۔ زبانی اُلفتیں۔ اصلی محبتیں اور
ان کے کارنامے ایسے عمدہ پیرایہ میں دکھائے ہیں کہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتے
ہیں۔ ساتھ ہی عشق و محبت کی بھی چاٹ ہے کہ ناول کا رنگ بگڑنے پائے
غرضکہ ناول کیا ہے دوستوں کے کیرکٹر کا خاکہ اور اُن کے حالات و خیالات
کا آئینہ ہے۔ عدالتی کارروائیوں اور پولیس کے ہتھکنڈوں کا مرقع ہے حتی الامکان
کوئی ضروری سین چھوڑا نہیں گیا حجم قریب ۳۰۰ صفحہ قیمت بلا محصول ڈاک عہ ۱ر

شاہنامہ ہند } امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک کی سچی تاریخ جس کو مہاراجہ رگھوبر جنگ بہادر نے شاہ ظفر کی نذر کے لئے لکھا تھا۔ فارسی کی قابل دید نظم ہے۔ قیمت ہر دو حصہ بلا محصول ڈاک۔ عه/

تاریخ دربار لاہور } ۱۸۹۴ء کے شاندار وائسریگل دربار کی مفصل تاریخ معہ حضور وائسرائے اور لفٹنٹ گورنر و دیگر حکام و والیانِ ریاست ہائے دیسی کی اصلی تصاویر کے قیمت علاوہ محصولڈاک صرف۔ ۸/

گلشن سخن } موجودہ زمانہ کے مشہور اُستادوں کے کلام کا عطر مجموعہ ایشیاء کی شاعری کا مایۂ ناز قیمت صرف علاوہ محصول ڈاک۔ ۶/

ناکام } میڈیکل کالج کے ایک ہونہار طالب علم کی عشقیہ اور تعلیمی ناکامیاں ایک نہایت ہی دلچسپ ناول ہے قیمت علاوہ محصول ڈاک صرف ۸/

رازِ نہاں } حسن و عشق رنج و راحت کی تصویر۔ ڈی ٹکٹو ناولوں کا روحِ رواں۔ قیمت علاوہ محصول ڈاک صرف۔ ۱۲/

جنٹلمین } تقلیدی جنٹلمینی کا سچا نقشہ۔ دیسی اور انگریزی سوسائیٹیوں کا اصلی خاکہ۔ ظریفانہ مذاق کا خزانہ۔ عبرت و حیرت کی تصویر قیمت ۸/

حرماں نصیب } درد۔ قلق۔ حسرت۔ تمنا۔ طمع لالچ عشق محبت کے سین۔ قیمت علاوہ محصول ڈاک صرف۔ ۸/

گردشِ ایام } سعادت۔ چاہت۔ دلرباؤں کی چالبازیاں۔ دوستوں اور بڑے لوگوں کی ناہمواریاں خاندانوں کی تباہیاں قیمت بلا محصول ۵/

گلاب کور } بیوہ پنے کی مشکلات۔ عشق و عاشقی کے کرشمے۔ ناکامی اور کامیابی کے دلچسپ نظارے۔ رونے اور ہنسنے کی پوٹ قیمت ۴/

حب الوطنی } ایک انگریزی موجد توپ کے سچے ایثار کا دلچسپ فسانہ ۲/

حیرت انگیز انگشتری } ایک میم صاحبہ کی انگشتری کا گم ہونا صاحب بہادر کا پولیس پر دباؤ ڈالنا - پولیس انسپکٹر نے اپنی گرہ سے انگشتری خرید کر ایک ناکردہ گناہ کو مجرم گرداننا - آخرکار اصلی انگشتری کے نکلنے پر راز افشا ہونا ۱ر

ایک بنگالی لڑکے کا قصّہ } جس کا دلی ولولوں سے تنگ ہوکر - ایک چوبی صندوق میں مقفل ہوکر انگلینڈ جانا - جہاز میں زادراہ کے ختم ہوجانے پر چوری کا مرتکب ہونا - آخرکار ایک میم کے کمرہ سے پکڑا جانا - لڑکے کا میم کو چشم پُر آب ہوکر کل حال سنانا - میم کا ترس کھانا - اور اُسے اپنے ساتھ انگلینڈ لیجاکر تعلیم بیرسٹری دلوانا - قیمت صرف ۱ر

آئینہ عصمت } ایک پاکدامن لڑکی کا دردناک اور حیرت انگیز قصہ خاوند کی بدسلوکی - گردشِ زمانہ سے مقابلہ - آخرکار ستارۂ زوال کا کمال پر پہونچنا جو واقعی انقلابِ زمانہ کا ایک مرقع ہے - ۲ر

بڑھاپے کی شادی } جوان بیوی اور بوڑھے خاوند کی چٹ پٹی خط و کتابت ا

تصویرِ عشق } عشق کی مجسم تصویر - نظم میں قیمت صرف - ۱ر

مولوی عبد الحلیم صاحب شرر کی تصنیفات سے چند ایک کتابیں

ایام عرب } وہ دلچسپ بامذاق اور تاریخی ناول جسمیں جاہلیت عرب کے رسم و رواج اور عجم کی دولتِ ساسانی کے حالات عجیب دلچسپی کیساتھ ایک سچے قصے میں منسلک کئے گئے ہیں اور جسکو پبلک نے قبولیت عام کا تاج پہنایا ہی حصہ اول عہ دوم عہ کل ۱۲ر

زیاد و حلاوہ } عیسائیت اور اسلامیت کی جداگانہ تصویریں - پوپ اعظم کی کارروائیاں - عیسائی معبدوں کا اندرونی خاکہ مذہبی رنگ میں جذباتِ نفسانی اور خیالات شہوانی کی کامرانی - غرضکہ دلچسپ اور تصنیف ناول ہے کہ جس نے لوہا منوا دیا - عمر

بقیّہ تاریخیں

کتاب چھپنے کے بعد جن صاحبوں کے قطعات تاریخ پہنچے ہیں۔ بطور یادگار اُن کو بشکرئی تمام درج کیا جاتا ہے۔

از حافظ جلیل احمد صاحب جلیل جانشین حضرت آمیر مینائی مرحوم و مغفور

واہ کیا تاریخ ہے دربار کی — شان ہر صفحے میں ہے گلزار کی
لطف سیرِ بوستاں کا ملگیا — دیکھنے سے غنچۂ دل کھل گیا
لکھے ہیں حالات اسمیں لاجواب — کیوں نہ ہو جامِ جہاں بیں کا جواب
دلربا معنی میں صورت میں پری — مٹ گئی بہزاد کی صورت گری
مرحبا صد مرحبا صد آفریں — آپ کو اے حضرتِ فیروز دیں
ملک پر احساں کیا ہے آپنے — ملک کو تحفہ دیا ہے آپ نے
آپ کی کوشش ہو مشکورِ جہاں — آپ کی تالیف مشہورِ جہاں
ہاتھ آئے دولتِ حسنِ قبول — سب سے پائے منفعت حسنِ قبل

ایک نکلا ہے یہ مصرع سال کا
تیصری دربار کا نقشہ کھنچا
۱۳۲۱ھ

از منشی لطیف احمد صاحب آختر مینائی خلف حضرت آمیر مینائی

زہے حسنِ تاریخِ دربارِ دہلی — عبارت بھی اچھی کتابت بھی اچھی
ہوئی فکرِ تاریخ جس وقت آختر — یہ تاریخ نکلی کہ تاریخ اچھی

از سید محمد منصور علی خرد ناظم عدالت سمستان امر چنتہ علاقہ حیدرآباد دکن

حبذا مجموعۂ کیفیتِ دربارِ شاہ
یادگار آمد ز کلکِ مولوی فیروز دین
مرحبا عکسِ جلوس و منظرِ جشنِ عظیم
جامِ جمشید ست یا آئینۂ اسکندری ست
عدل گسترِ شاہِ انگلش قیصرِ ہندوستاں
از زمینِ ہند تا انگلینڈ شد بر مہرباں

نیک آئین ایڈورڈ ہفتم سلیمان بارگاہ
۱۳۲۱ھ
جلوۂ اوج عدل گستر خسروِ عالم پناہ
۱۹۰۳ء
نقشۂ بزم و زہے آئینۂ دربارِ شاہ
۱۳۲۱ھ
ہر مضامین ہر مرقع از جہانِ بزمگاہ
۱۹۰۲ء
اڈ ورڈ عالی و جم صولت سلیمان بارگاہ
۱۳۲۱ھ
خسروِ اہلِ جہاں زینت دہِ تاج و کلاہ
۱۹۰۲ء

از سرِ اکرام تاریخش خسرو ہدیہ نمود
یادگارِ جشنِ دربارِ مکرم واہ واہ
۱۳۲۱ھ

از سید محمد ضامن صاحب کنتوری مؤلف ارمغانِ فرہنگ و مترجم عبرتکدۂ سندھ
خلف حضرت حبیب کنتوری

چھپ کے جب مطبع سے نکلی تاریخ
سالِ تاریخ ہم نے لکھا ضامن

دلشاد ہوا وہ جس نے دیکھی تاریخ
دربار کی یادگار اچھی تاریخ
۱۹۰۳ء

از جناب رائے دوارکا پرشاد صاحب وکیل
ہائی کورٹ حیدرآباد دکن

[illegible]
[illegible]

[illegible]
دربار کی یادگار [illegible]
[illegible]

ولہ

جب قالب طبع سے بر آئی — تصنیف یہ تازہ ماشاء اللہ
تاریخ کی مجھکو بھی ہوئی فکر — بولا یہ سروش غیب ناگاہ

کہہ یا سے لقا بڑھا کے تاریخ
دربار کی یادگار دلخواہ
۱۳۲۱ھ

از جناب لالہ موہن لال صاحب مطلب ریڈر سشن و ڈویژنل کورٹ لاہور

بحمد اللہ یہ نادر کتاب ایسی ہوئی شائع — حد تعریف کہتی ہے کہ ہے موقع خوشی کا
قلم نے کھینچ دی تصویر جو دربار شاہی کی — سماں کھینچا تصور میں ہے جشن تاجپوشی کا
تماشے آسماں کے نادرہ رنگیں تھے جو جو ہیں — بیاں عالم ہو گیا طبع رسا کی گرمجوشی کا
زمانہ مست ہے کیفیت سے ساغر کی — مزہ حاصل زباں کو ہو میسر بادہ نوشی کا
رقم ہے ساری کیفیت مفصل تاجپوشی کی — بیاں ہے دولت و اقبال کی حلقہ بگوشی کا
ڈھلی ہیں نیر کی سانچے میں تصویریں حسینوں کی — وفاداری کے سہرے پر ہے طرہ سرفروشی کا

جو تھا تاریخ سے مطلب تو بول اٹھا ہاتف
کہ گلدستہ یہ ہے گلزار جشن تاجپوشی کا

از شیخ عبد الحق بسمل لاہوری اہلکار مطبع صداے ہند لاہور

چھپے جب شائع ہوئی تاریخ یہ دربار کی — از تصانیف لطیف مولوی [illegible]
مصرعہ تاریخ بسمل خوب یہ موزوں ہوا — یادگار بے مثال عز و جاہ قیصری
۱۳۲۱ھ

اطلاع ضروری

چونکہ صفحات ہذا اور بعض دیگر ترمیمات کے باعث کتاب ہذا کی دوبارہ رجسٹری کرادی گئی ہے لہذا کوئی صاحب اسکے جزو یا کل مضمون یا تصاویر و حالات روساء وغیرہ کے چھپوانے کا قصد نہ فرماویں ورنہ بعوض نفع کے نقصان اٹھائیں گے۔

المشتہر

مؤلف کتاب ہذا